

لَا يَمْسُئُ إِلَّا الْأَمْطَرُونَ ۝

قرآن مجید

ترجمہ

حضرت میر محمد اسحاق
رضی

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۲ الرَّحْمَنِ

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں (جو) رب ہے تمام جہانوں کا رحمن ہے

الرَّحِيمِ ۳ مَلِكٍ يَوْمِ الدِّينِ ۴ إِيَّاكَ

رحیم ہے مالک ہے وقت جزائز کا تیری ہی

تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۵ اهْدِنَا

ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں دکھا ہمیں

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۶ صِرَاطَ الَّذِينَ

راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا کہ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۷ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

انعام کیا تو نے جن پر نہ ان کا کہ غضب کیا گیا جن پر

وَلَا الضَّالِّينَ ۸

اور نہ گمراہوں کا۔

منزل ۱

ع ۱

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْعَم ۲ ذَلِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۳

الف۔ لام۔ نون۔ یہ (کامل) کتاب ہے (نہیں کوئی شک رکی بات) جس میں

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۴ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

ہدایت ہے متقیوں کے لیے وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں

بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس سے جو

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۵ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

دیہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں اور وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں

بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۶

اس پر جو اتارا گیا تیری طرف اور جو اتارا گیا پہلے تجھ سے

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۷ أُولَئِكَ عَلَىٰ

اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یہ لوگ

هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ

ہدایت پر ہیں اپنے رب کی اور یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں یقیناً جن لوگوں نے

كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا

کفر کیا برابر ہے ان پر خواہ ڈرایا تو نے ان کو یا نہ ڈرایا تو نے ان کو نہیں

يُؤْمِنُونَ ﴿۷﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى

ایمان لاتے مڑ کردی اللہ نے دلوں پر ان کے اور کان پر ان کے اور

أَبْصَارِهِمْ عِشَاوَةً زَوْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۸﴾ وَمِنَ النَّاسِ

آنکھوں پر ان کی پیردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا اور بعض لوگ

مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۹﴾

ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخری دن پر حالانکہ نہیں ہیں وہ ہرگز مومن

يُخْرِعُونَ أَللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ

اور نہیں محسوس کرتے دلوں میں ان کے بیماری تھی پھر بڑھا دیا ان کو اللہ نے

مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۱۱﴾

بیماری میں اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک بسبب اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے اور

إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

جب کہا جاتا ہے ان کو کہ نہ فساد کرو زمین میں کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں کو ہم

مُضِلِحُونَ ﴿۱۲﴾ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا

اصلح کرنے والے ہیں آگاہ ہو جاؤ یقیناً یہ ہی مفسد ہیں و لیکن نہیں

يَشْعُرُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

محسوس کرتے اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ (تو)

قَالُوا إِنَّا نؤمن كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ

کہتے ہیں کیا ہم ایمان لادیں جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف آگاہ ہو جاؤ یہ ہی

کھتے ہیں کیا ہم ایمان لادیں جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف آگاہ ہو جاؤ یہ ہی

السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذَا الْقَوَالِيْنَ

بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں کو جو

أَمْنُوا قَالُوا أَمْ تَأْكِبُ وَإِذَا أَخْلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا

ایمان لائے کتے ہیں ایمان لائے ہم اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف کتے ہیں ہم

مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۴﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

ساتھ میں تمہارے سوائے اس کے نہیں کہ تم ہنسی کرنے والے ہیں اللہ ہنسی کی سزا دے گا انہیں

وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

اور صلت دیکھان کو اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے

اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَ

خریدی گمراہی بدلے ہدایت کے پس نہ نفع دیا تجارت نے ان کی اور

مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۶﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ

نہ ہوتے وہ ہدایت پانے والے حالت ان کی مانند حالت اس شخص کی ہے جس نے جلائی

نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ

آگ ، پھر جب روشن کیا اس راگ نے اسے جو ارد گرد تھا اسکے سے گیا اللہ نور ان کا اور

تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿۱۷﴾ ضَمُّكُمْ عَمِي فَمُمْ

چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ نہیں دیکھتے وہ برسے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ

لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ

نہیں رجوع کرتے یا مانند بارش کی بادل سے کہ اس میں اندھیرے ہیں

وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ

اور کڑک اور جھک ہے ڈالتے ہیں انگلیاں اپنی کانوں میں اپنے

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾

بجلیوں کے سبب ڈر سے موت کے اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ

قریب ہے چمک کہ اچکے آنکھیں ان کی جب کبھی وہ روشن ہوتی ہے ان کے لیے

مَسْئُوا فِيهِ ؕ وَإِذْ آذَنَّاكُمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

پہل پڑتے ہیں اس میں اور جب اندھیرا کرتی ہے ان پر ٹھہر جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ

لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

تو لے جاوے کان ان کے اور آنکھیں ان کی یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت

قَدِيرٌ ۙ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

رکھنے والا ہے۔ اے لوگو عبادت کرو رب اپنے کی وہ جس نے پیدا کیا تم کو

وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۲﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ

اور انہیں جو پہلے تھے تم سے تاکہ تم متقی بنو وہ جس نے بنایا تمہارے لیے

الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اتارا بادل سے پانی

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

پھر نکالے اس کے ذریعہ پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ بناؤ اللہ کے

أندَادًا ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۳﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا

شریک اور تم جانتے ہو اور اگر ہو تم کسی شک میں متعلق اس کے

نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا

جو اتارا ہم نے بندہ پر اپنے تو لاؤ کوئی سورۃ مانند اس کی اور بلاؤ

شُهَدَاءَ كُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۴﴾ فَإِنْ

موجودوں کو اپنے سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے پھر اگر

لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا

نہ کیا تم نے (ایسا) اور ہرگز نہیں ہو گئے تم (ایسا) تو ڈرو اس آگ سے ایندھن جس کا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۵﴾ وَبَشِّرِ

آدمی اور پتھر ہیں تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اور بشارت دے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیں انہوں نے نیکیاں کہ ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں

۱۰۰

مِنْ تَحْتِهَا أَلَا نَهْرٌ مُّكْتَمًا رُّزْقًا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ

نیچے جن کے نریں جب کبھی دیکھے جاویں گے ان (باغات) سے کوئی پھل بطور

رِزْقًا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ

رزق کے کہیں گے یہ وہ ہے جو دیا گیا ہمیں پہلے (بھی) اور ان کو دیا جاوے گا

مُتَشَابِهًا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا

وہ (رزق) مناجلتا، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاکیزہ اور وہ ان میں

خَالِدُونَ ﴿١٤٦﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا

رہ پرٹنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ نہیں رکتا کہ بیان کرے مثال کوئی سی

بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ

پہنچ کر (یا) پھر اسکی جو زیادہ ہوا اس سے پس جو لوگ ایمان لائے تو جانتے ہیں

أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو لوگ کافر ہوئے تو کہتے ہیں

مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا أَوْ يَهْدِي

کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کے ساتھ بطور مثال کے گمراہ کرتا ہے ساتھ اسکے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے

بِهِ كَثِيرًا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٧﴾ الَّذِينَ

ساتھ اسکے بہتوں کو اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو وہ جو کہ

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ

توڑتے ہیں عہد اللہ کا بعد اس کے پختہ کرنے کے اور کاٹتے ہیں اس

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

(تعلق) کو کہ حکم کیا اللہ نے جسے متعلق کہ وہ جوڑا جاوے اور فساد کرتے ہیں زمین میں

أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٤٨﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ

یہ لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کس طرح انکار کرتے ہو تم اللہ کا حالانکہ تھے تم

أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ

جے جان پھر اس نے زندہ کیا تم کو پھر موت دے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم پھر طرف اس کی

تُرْجَعُونَ ﴿۳۱﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

وہاٹے جاؤ گے تم وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَ

پھر تصدیک آسمان کا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا انہیں سات آسمان اور

هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي

وہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہیں

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

بنائے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ انہوں نے کہا کیا تو بناوے گا اس میں جو

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

فساد کرے گا اس میں اور بھائے گا خون اور ہم تسبیح کرتے ہیں

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

ساتھ تیری حمد کے اور ہم تقدیس کرتے ہیں تیرے لیے فرمایا یقیناً میں خوب جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب کے سب پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر

فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۲﴾

پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے اگر ہو تم سچے

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ

انہوں نے کہا پاک ہے تو نہیں کوئی علم ہم کو سوائے اس کے جو سکھایا تو نے ہیں یقیناً تو ہی

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۳﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۗ

خوب جاننے والا حکمت والا ہے فرمایا اے آدم بتا انہیں نام ان کے

فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي

پھر جب بتائے انہیں نام ان کے فرمایا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہیں

أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا اور میں جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو تم

جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا اور میں جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو تم

وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا

اور جو ہو تم پھپھاتے اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو

لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِیْسَ ؕ اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ

آدم کو پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۴﴾ وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ

کافروں میں سے اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو اور بیوی تیری

الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

اس باغ میں اور کھاؤ دونوں اہل میں سے با فراغت جہاں چاہو تم اور نہ قریب جانا

هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾ فَاَزَلَّهُمَا

اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں سے پھر پھسلایا ان کو

الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ؕ وَقُلْنَا

شیطان نے اس سے پھر نکالا ان کو اس سے کہتے وہ جس میں اور کہا ہم نے

اٰهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ؕ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

اُتْرُو بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا

وَمَتٰٓءٌ اِلٰی حِيْنٍ ﴿۳۶﴾ فَتَلَقٰٓ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ

اور قابضہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ پھر سیکھے آدم نے رب اپنے سے چند کلمات پھر نفل کے ساتھ

عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۳۷﴾ قُلْنَا اٰهْبِطُوْا

متوجہ ہوا وہ اہل پر یقیناً وہ ہی فضل کیساتھ متوجہ ہونا بہت رحم کرنے والا ہے کہا ہم نے اُترو

مِنْهَا جَمِيْعًا ؕ فَاَمَّا يٰۤاٰتِيْنٰكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

اس سے سب کے سب پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت سوجنوں نے پیروی کی

هٰذَا يَوْمَ لَا يَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۸﴾ اَلَّذِيْنَ

میری ہدایت کی تو نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے

كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ

کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو یہ لوگ آگ والے ہیں وہ

فِيهَا خَلِيدٌ ﴿۳۱﴾ اِسْرَائِيلَ اِسْرَائِيلَ اِذْ كُرُوا زَعَمْتِي

اس میں وہ پڑنے والے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت میری

الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِي اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ

وہ جو انعام کی میں نے تم پر اور پورا کرو میرے (ساتھ کئے ہوئے) عہد کو میں پورا کرو گا تمہارے (ساتھ کئے

وَاِيَّايَ فَاذْهَبُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا

ہوئے عہد کو اور مجھی سے پس ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر جو اتارا میں نے مصدق بنا کر

لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَاْفِرِيْنَ وَلَا تَشْتَرُوا

اس کا جو تمہارے پاس ہے اور نہ ہو جاؤ پہلے کافر اس کے اور نہ خریدو

بِاِيَّتِي ثُمَّ قَلِيْلًا زَوَايَايَ فَاتَّقُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَلَا تَلْبِسُوا

بدے میری آیتوں کے مول تھوڑا اور مجھی سے پس ڈرو اور نہ ملاؤ

الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾

حق کو ساتھ باطل کے اور نہ چھپاؤ حق اور تم جانتے ہو

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاذْكُرُوا مَا

اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور جھگو ساتھ

الرَّاكِعِيْنَ ﴿۳۵﴾ اَتَا مُرُوْنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ

جھکنے والوں کے کیا تم علم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو۔

اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۶﴾

اپنے آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب پھر بھی نہیں عقل کرتے تم

وَاَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ

اور مدد مانگو بذریعہ صبر اور نماز کے اور یقیناً یہ بات اللہ شاق ہے

اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۳۷﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنْهُمْ مُلْقٰوْا

مگر ڈرنے والوں پر (نہیں) جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں

رَبِّهِمْ وَاَنْتُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۳۸﴾ اِسْرَائِيلَ

اپنے رب سے اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں اے بنی اسرائیل

۲۰

۵

اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي

یاد کرو نعمت میری وہ جو انعام کی تھی میں نے تم پر اور یہ کہ

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ وَاَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي

فضیلت دی تھی میں نے تم کو تمام دُنیا پر اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا

کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی اور نہ قبول کی جائے گی اس سے سفارش اور نہ

يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ وَاِذْ نَجَّيْنَكُمْ

یا جاوے گا اس سے معاوضہ اور نہ وہ مدد دیتے جائیں گے اور جب نجات دی ہم نے تم کو

مِّنْ اِلٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ

فرعونوں سے (وہ) پہنچاتے تھے تم کو بُرا عذاب ذبح کرنے تھے

اِبْتِئَاءَكُمْ وَيَسْتَخِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ

بیٹوں کو تمہارے اور زندہ رکھتے تھے عورتوں کو تمہاری، اور اس میں ابتلاء تھا تمہارے

رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۴۰﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَكُمْ وَ

رب کی طرف سے بڑا اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھر نجات دی ہم نے تم کو اور

اَعْرَقْنَا اِلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۴۱﴾ وَاِذْ وَاَعَدْنَا

عزق کر دیا ہم نے فرعونوں کو اور تم دیکھ رہے تھے اور جب وعدہ کیا ہم نے

مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلَ مِنْ

موسیٰ سے چالیس رات کا پھر بنایا تم نے بھٹرا (مجبور)

بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُونَ ﴿۴۲﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ

پہچھے اس کے اور تم ظالم تھے پھر درگذر کیا ہم نے تم سے بعد

ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾ وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَ

اس کے تاکہ تم شکر کرو اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور

الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۴۴﴾ وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو

يَقْتُولُوا نَكْمَ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْوَجَدِ

اسے میری قوم یقیناً تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بسبب اپنے بنانے کے پتھر

فَتُؤَبِّئُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

پس توبہ کرو آگے اپنے خالق کے پھر قتل کرو اپنی جانوں کو یہ بہتر ہے تمہارے لیے

عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

نزدیک تمہارے خالق کے پھر اس نے فضل کیساتھ توبہ کی تم پر یقیناً وہ ہی بہت فضل سے توجہ بخونے والا بہت رحم کرنے والا ہے

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْؤُوسِي لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ

اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پر یہاں تک کہ دیکھیں ہم اللہ کو

جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ الصُّعْقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

آسنے سامنے تب پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے پھر

بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اٹھایا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر کرو اور سایہ کیا ہم نے

عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوى كَلُوا

تم پر بادل کا اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوی (اور کھا کھاؤ

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

پاکیزہ چیزوں سے جو دیں ہم نے تم کو اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر دیکھیں تھے وہ اپنی جانوں پر ہی

يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا

ظلم کرتے اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں پھر کھاؤ

مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ خَلُّوا الْبَابَ مُسَجِّدًا

اس سے جہاں چاہو تم بافراغت اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور

قُولُوا حِطَّةٌ نَخْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

کہو گناہ چھڑ جائیں ہم بخش دیں گے تمہارے لیے غلطیاں تمہاری اور ضرور زیادہ دیں گے محسنوں کو

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ

پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان کو

فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا

پس اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے بسبب اسکے کرتے وہ

يَفْسُقُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ

اطاعت سے نکلنے اور جب پانی مانگا موسیٰ نے واسطے اپنی قوم کے تو کہا ہم نے کہ مار

بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا،

اپنا سونٹا پتھر پر پس پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے -

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ

یقیناً جان لی سب آدمیوں نے اپنے (پانی) پینے کی جگہ تب انہیں کہا گیا، کھاؤ اور پیو رزق سے

اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۶۱﴾ وَإِذِ قُلْتُمْ

اللہ کے اور نہ فساد کرو زمین میں مفسد بن کر اور جب کہا تم نے

يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر سو دعا کر ہمارے لیے رب اپنے سے

يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَ

کہ نکالے وہ ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین یعنی سبزی اس کی اور گلڑیاں اس کی اور

فُؤْمِهَا وَعَدَسٍهَا وَبَصَلِهَا، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي

گندم اس کی اور مسور اس کے اور پیاز اس کے فرمایا کیا بدل میں لیتے ہو تم وہ چیز

هُوَ أَذْيَبُ بِاللَّذِي هُوَ خَيْرٌ، إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا

جو ادنیٰ ہے بجائے اس کے کہ جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو یقیناً تمہارے لیے

سَأَلْتُمْ ۖ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ، وَ

ہو گا جو مانگتا تم نے اور ماری گئی ان پر ذلت اور مسکنت اور

بَاءٌ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

لوتے وہ ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، یہ اس لیے (ہوا) کہ وہ تھے کفر کرتے

بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَٰلِكَ بِمَا

اللہ کی آیات کا اور (تھے) قتل کرتے نبیوں کو ناحق یہ اس لیے (ہوا) کہ

عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۶۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

نافرمانی کی انہوں نے اور تم سے وہ حد سے بڑھتے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو

هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور صابی غرض جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخری

الْآخِرِ وَعَمَلٌ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

دن پر اور اس نے کی نیکی تو ان کے لیے اجر ہے ان کا پاس ان کے رب کے اور نہیں

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۳﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

خوف ان پر اور وہ غمگین ہوں گے اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ

اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، (اور کہا) پکڑو جو دیا ہم نے تم کو ساتھ قوت کے اور

اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۴﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ

یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بنو پھر پھر گئے تم

بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ

بعد اس کے پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو ہوتے تم

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۵﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ

گھانا پانے والوں میں سے اور یقیناً یقیناً جان لیا تم نے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھے تم میں سے

فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۶۶﴾

سبت کے بارے میں کہا ہم نے ان کو ہو جاؤ بندر ذلیل

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَ

پس کر دیا ہم نے اس (سبتی) کو عبرت واسطے ان (سبتیوں) کے جو آگے تھیں اسکے اور جو پیچھے تھیں اس کے اور

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۷﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ

رہنایا نصیحت واسطے متقیوں کے اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو یقیناً

اللَّهُ يَا مَرْكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا

اللہ حکم دیتا ہے تم کو یہ کہ ذبح کرو تم ایک گائے انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہم کو

هُرُوا۟ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۸﴾

مذاق اس نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے

قَالُوۡا اِذْ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ اِنَّهٗ

انہوں نے کہا اذ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے واسطے کیا ہے وہ؟ کہا اس نے یقیناً

يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ ۙ لَا فَاْرِضٌ وَّلَا يَكْرُهٗ ۗ عَوَانٌ بَيْنَ

وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہیں بوڑھی اور نہ بچہ پلوری جوان ہے درمیان

ذٰلِكَ ۗ فَاَفْعَلُوۡا مَا تُوْمَرُوْنَ ﴿۱۹﴾ قَالُوۡا اِذْ لَنَا رَبُّكَ

اس کے پس کرو جو حکم دیشے جاتے ہو انہوں نے کہا دعا کر واسطے ہمارے اپنے رب سے کہ

يُبَيِّنُ لَنَا مَا كُوْنُهَا ۗ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ

کہو کر بیان کرے ہمارے واسطے کیا ہے رنگ اس کا؟ اس نے کہا یقیناً وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے زرد

فَاَقْرَعُوۡنَهَا تَسْرًا النَّظِيْرِيْنَ ﴿۲۰﴾ قَالُوۡا اِذْ لَنَا رَبُّكَ

گرا ہے رنگ اس کا اچھی گنتی ہے دیکھنے والوں کو انہوں نے کہا دعا کر واسطے ہمارے اپنے رب سے

يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ۗ اِنَّ الْبَقْرَ تَشْبَهٗ عَلَيْنَا ۗ وَاِنَّا اِنْ

کہ کھول کر بیان کرے واسطے ہمارے کو کسی ہے وہ؟ یقیناً گائیں مل جل گئی ہیں ہم پر اور ہم اگر

شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ

چاہا اللہ نے ضرور ہدایت پائیوے ہیں اس نے کہا یقیناً وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے

لَا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرٰثَ ۗ مُسْلَمَةٌ

نہیں جوٹے کے نیچے لائی گئی کھیڑے زمین اور نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو صحیح سلامت ہے

لَا شِيْءَ فِيْهَا ۗ قَالُوۡا اَلَنْ جِئْتْ بِالْحَقِّ ۗ فَذَبْحُوۡهَا

نہیں کوئی داغ اس میں انہوں نے کہا اب لایا ہے تو حق کو پس ذبح کیا انہوں نے

وَمَا كَادُوۡا يَفْعَلُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرٰۤءَ تُمْ

اسے حالانکہ قریب تھے کہ وہ کرتے اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو پھر اختلاف کیا تم نے

فِيْهَا ۗ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَقُلْنَا

اس میں حالانکہ اللہ نکالنے والا تھا جسے تم نے چھپاتے ہیں کہا تم نے

اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُخَيِّبُ اللّٰهُ الْمُوْتِي ۙ وَ

بارو اسے ساتھ اس کے بعض کے اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور

يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۙ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ

دکھاتا ہے تم کو آیات اپنی تاکہ تم عقل کرو پھر سخت ہو گئے دل تمہارے

مِّنۡۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسُوۡةً ۚ وَاِنَّ

بعد اس کے پس وہ مانند پتھروں کے ہیں یا زیادہ ہیں سختی میں اور یقیناً

مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ اِلَّا نَهْرٌ ۙ وَاِنَّ مِنْهَا

بعض پتھر البتہ ایسے ہیں کہ بہتی ہیں ان میں نہریں اور یقیناً بعض ان میں

لَمَا يَشْتَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا

سے البتہ ایسے ہیں کہ پھٹتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی اور یقیناً بعض ان میں سے البتہ

يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَ مَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا

ایسے ہیں کہ گرتے ہیں ڈر سے اللہ کے اور نہیں اللہ ہرگز بے خبر اس سے جو

تَعْمَلُوْنَ ۙ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا كُمْ وَاَقْدٰنَ

کرتے ہو تم کیا پھر بھی تم طمع رکھو گے کہ ایمان لاؤں گے وہ تم پر حلال کہ یقیناً ہے

فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلِمًا مِّنَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحَرِّفُوْنَہٗ

ایک فریق ان میں سے (جو) سنتے ہیں کلام اللہ کا پھر تحریف کرتے ہیں وہ اس میں

مِّنۡۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۙ وَاِذَا الْقُوَا

بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا اسے اور وہ جانتے ہیں اور جب وہ ملتے ہیں

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۙ وَاِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ اِلٰى

ان سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعض ان کے طرف

بَعْضٍ قَالُوْا اَتَّخَذْتُوْنَهُمْ مِّمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ

بعض کے تو کہتے ہیں بیان کرتے ہو تم ان سے وہ جو کھولا اللہ نے تم پر

لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۙ اَوْ لَا

تاکہ جھگڑاؤں وہ تم سے ساتھ اس کے پاس تمہارے رب کے کیا پس نہیں عقل کرتے تم کیا نہیں

يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۱۰۶﴾

جانتے وہ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور

مِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ

بعض ان میں سے اُن پڑھیں نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے اور نہیں وہ

إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۱۰۷﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ

مگر گمان کرتے ہیں پس ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا

پھر کہتے ہیں یہ (کتاب) اللہ کی طرف سے ہے تاکہ خریدیں بدلہ میں اس کے مول

قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ

تھوڑا، پس ہلاکت ہے واسطے انکے سبب اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے اور ہلاکت ہے واسطے انکے

مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا

سبب اس کے جو کاتے رہے وہ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوٹے گی ہم کو آگ مگر دن

مَعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ

گنتی کے تو کہہ دو کیا یا ہوا ہے تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد تب تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا

اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰۹﴾ بَلَىٰ

اللہ اپنے عہد کے یا کہتے ہو تم اللہ پر جو نہیں تم جانتے کیوں نہیں

مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ

(چھوٹیگی تم کو آگ کیونکہ جس نے کائی بُرائی اور گھڑیا اس کو اس کی خطاؤں نے سو یہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

آگ والے ہیں وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

انہوں نے کیں نیکیاں یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں

خَالِدُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا

رہ پڑنے والے ہیں اور جب آیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے کہ نہ

تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَدَّوِبًا لِّوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

عبادت کرو گے تم سوائے اللہ کے اور ماں باپ سے احسان رکھو گے اور رشتہ داروں

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا

اور یتیموں اور مسکینوں (سے بھی) اور کموں کو اچھی بات اور قائم کرو

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَ

نماز اور دو زکوٰۃ پھر پھر گئے تم مگر تھوڑے نہیں سے اور

أَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۸۳﴾ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَ تَسْفِكُونَ

تم اعراض کرینوالے تھے اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے کہ نہ بہاؤ گے

دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ

خون اپنے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو گھروں سے اپنے پھر اقرار کیا تم نے

وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۱۸۴﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ

اور تم گواہ ہو پھر تم وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو

وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ زَتَظْهَرُونَ

اور نکالتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے گھروں سے ان کے تم ایک دوسرے کی مدد

عَلَيْهِمْ بِالْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ

کرتے ہو خلاف انکے ساتھ گناہ اور زیادتی کے اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر

تُفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ

تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو انکو حالانکہ وہ حرام ہے تم پر نکالنا ان کا کیا پس ایمان لاتے ہو تم

بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ

ایک حصہ کتاب پر اور انکار کرتے ہو ایک حصہ کا پس نہیں بدل اس کا جس نے

يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

کیا ایسا تم میں سے سوائے ذلت کے ورل زندگی میں اور بروز

الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ

قیامت وہ لوٹائے جاویں گے ظن سخت ترین عذاب کے اور نہیں ہے اللہ ہرگز بے خبر

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۹﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ

اس سے جو تم کرتے ہو یہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی زندگی

الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا

دوری بدلے آخرت کے پس نہ ہلکا کیا جاوے گا ان سے عذاب اور نہ

هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۹۰﴾ ۞ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا

وہ مدد دیئے جاویں گے اور یقیناً یقیناً ہی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پیچھے بھیجا

مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

ہم نے بعد اس کے رسولوں کو اور دیئے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو

الْبَيِّنَاتِ ۚ وَإِنَّهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ

کھلے کھلے نشانات اور تائید کی ہم نے اس کی بذریعہ روح القدس کے کیا پس جب کبھی لا با تمہارے پاس

رَسُولٌ يَّمَأَلَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَشْتَكَبْتُمْ ۚ فَفَرِيقًا

کوئی رسول وہ جو نہیں چاہتے تھے نفس تمہارے تکبر کیا تم نے پھر ایک گروہ کو

كَذَّبْتُمْ ۚ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۹۱﴾ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ

جھٹلایا تم نے اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے تم - اور کہا انہوں نے کہ دل ہمارے غلافوں میں ہیں (ہنس)

بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۹۲﴾ ۞ وَلَمَّا

بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بسبب ان کے کفر کے پس کم ہی ایمان لاتے ہیں اور جب

جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَلَا

آئی ان کے پاس کتاب پاس سے اللہ کے تصدیق کرنے والی اس کی جو پاس ہے ان کے

كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا

حالانکہ وہ پہلے سے نفع مانگتے تھے خلاف ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا سو جب

جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۹۳﴾ ۞

آئی کتاب ان کے پاس جسے پہچان لیا انہوں نے تو انکار کر دیا اس کا پس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

کیا ہی برا ہے وہ کہ بیچا انہوں نے عوض میں جس کے جانوں اپنی کو یعنی یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اتارا اللہ نے

بَغِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝

بِسَببِ سرکشی کے اس بات پر کہ تم آتا ہے اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے

فَبَاءُ وَبِعْضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۝ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۱۱

پس لوٹے وہ ساتھ غضب کے غضب پر اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا نُوْمِنُ ۝

اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ اس پر جو تمہارا اللہ نے کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں

بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۝ وَهُوَ الْحَقُّ

اس پر جو تمہارا ہم پر اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو سوائے اس کے حالانکہ وہ حق ہے

مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۝ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ

تصدیق کرنے والا اس کا جو پاس ہے ان کے تو کہدے پھر کیوں قتل کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو

مِنْ قَبْلُ ۝ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۲ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ

پہلے سے اگر ہو تم مؤمن اور یقیناً یقیناً لایا تمہارے پاس موسیٰ

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ

کھلے کھلے نشان پھر (بھی) بنایا تم نے بچھڑے کو پیچھے اس کے (موجود) اور تم

ظَالِمُونَ ۝۱۳ ۝ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا قُوكُمْ

ظالم تھے اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے

الطُّورَ ۝ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۝ وَأَسْمَعُوا ۝ قَالُوا

طور کو (اور کہا کہ) پکڑو اسے جو دیا ہم نے تم کو ساتھ مضبوطی کے اور سنا انہوں نے کہا

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۝ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے اور پلایا ہم نے ان کے دلوں میں بچھڑا

بِكُفْرِهِمْ ۝ قُلْ بِسْمَائِيَا مُرْكُم بِهِ آيَمَا كُنْتُمْ

بِسَببِ ان کے کفر کے تو کہدے کیا ہی بڑا ہے وہ کہ حکم دیتا ہے تم کو جس کا تمہارا ایمان اگر ہو تم

مُؤْمِنِينَ ۝۱۴ ۝ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ

مؤمن تو کہدے اگر ہے تمہارے لیے ہی گھر آخرت کا

اللَّهُ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ

اللہ کے پاس خاص طور پر (تمہارے لیے) سوا اور لوگوں کے تو آرزو کرو موت کی اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۵﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ

ہو تم سچے اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے وہ اس کی کبھی بھی سبب اے جو آگے بھیجا

أَيْدِيَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۶﴾ وَلَتَجِدَنَّاهُمْ

ان کے ہاتھوں نے - اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو اور ضرور ہی تو پاٹے گا انکو

أَخْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَوٰةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ

زیادہ حریص تمام لوگوں سے زندگی پر اور ان لوگوں سے بھی زیادہ (جنہوں نے شرک کیا چاہتا

أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۗ وَمَا هُوَ بِمُرْحَرَ حٰرٍ ۖ وَمِنَ

ایک ان میں سے کہ کاش اُسے عمر دی جائے ہزار سال حالانکہ نہیں ہے ہرگز بچانے والا اپنے نہیں

الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ قُلْ مَنْ

عذاب سے (اس طرح) کہ عمر دیا جائے اسے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں تو کہہ دے جو

كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

شخص ہے دشمن جبرائیل کا پس یقیناً اس نے اتارا ہے اُس (قرآن) کو دل پر تیرے ساتھ اللہ کے حکم کے

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۸﴾

مصدق بنا کر اس (کتاب) کا جو پہلے ہے اس کے اور ہدایت اور بشارت بنا کر ایمانداروں کے لیے

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا اس کے اور رسولوں کا اس کے اور جبرائیل کا

وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۹﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا

اور میکائیل کا تو یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا اور یقیناً یقیناً اتاری ہم نے

إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۱۰۰﴾ أَوْ

تیری طرف آیتیں کھلی کھلی اور نہیں انکار کرتے ان کا سوائے ناسقوں کے کیا

كَلِمًا عَهْدًا وَعَهْدًا ۖ تَبَدَّلْنَا بَدَلًا فَرِيقًا مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

(پر درست نہیں) کہ جب کبھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد پھینک دیا اُسے ایک فرقہ نے ان میں سے بلکہ اکثر ان میں سے

لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۱۱ وَ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

نہیں ایمان لاتے اور جب آیا ان کے پاس رسول طرف سے اللہ کی

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

تصدیق کرنے والا اس کی جو پاس ہے انکے پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جو دیئے گئے

الْكِتَابَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ ذُرِّيَّةً وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا

کتاب کتاب اللہ کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے گویا کردہ

يَعْلَمُونَ ۝۱۱۲ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ

نہیں جانتے اور پیروی کی انہوں نے جسکی پیروی کرتے تھے شیطانیں برخلاف سلطنت

سُلَيْمَانَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرُوا

سلیمان کی حالانکہ نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے دیکھیں شیطانیں نے کفر کیا

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور جو آتا گیا دوفرشتوں پر

بِبَابِلَ ۚ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ

بابل میں ہاروت اور ماروت پر اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو

حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ

یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں پس نہ کفر کیجیو تو پس سیکھتے تھے وہ

مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا

ان دونوں سے وہ بات کہ جدائی دلاتے تھے اس کے ذریعہ درمیان مرد اور بیوی کے اس کی اور نہیں

هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ

تھے وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے اسکے ذریعہ کسی کو بھی سوائے اللہ کے حکم کے اور سیکھتے ہیں یہ لوگ

مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ

جو نقصان دے گی انہیں اور نہ نفع دے گی انہیں اور جان لیا انہوں نے کہ جس نے یا اُسے

مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ

نہیں ہے اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ اور کیا ہی بُرا ہے وہ کرایج دی ہیں انہوں نے عوض میں

أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا

اپنی جانیں کاش ہوں وہ جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور

اتَّقُوا لِمَنْ تَدْعُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرًا لَّوْ كَانُوا

تقویٰ اختیار کرتے تو بدلہ اللہ کے پاس سے بہتر ہو کاش ہوں وہ

يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا

جانتے اے لوگو جو ایمان لائے ہونہ کہو راغبنا اور

قُولُوا إِنظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۳۵﴾

کہو انظرنا (دیکھو ہمیں) اور سنا اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک -

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرک

أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

کہ اتاری جاوے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے حالانکہ اللہ خاص کرتا ہے ساتھ

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۶﴾ مَا

اپنی رحمت کے جسے چاہتا ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے جو بھی

نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَخَ نَاتٍ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں ہم اُسے تولا تے ہیں ہم بہتر اس سے یا مانند اس کی

أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳۷﴾ أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ

کیا نہیں جانتا تونے کہ اللہ ہر بات پر خوب قادر ہے کیا نہیں جانتا تونے کہ

اللَّهُ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

اللہ ہے کہ اس کے لیے سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور نہیں تمہارے لیے سوائے

اللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۳۸﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا

اللہ کے کوئی دوست اور نہ مددگار کیا چاہتے ہو تم کہ پوچھو اپنے

رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ

رسول سے جیسا کہ پوچھا گیا موسیٰ (اس سے) پہلے اور جو بدلہ میں لیتا ہے

۱۳۳

الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۰۹﴾ وَكَثِيرٌ

کفر بعض ایمان کے تو یقیناً وہ بھٹک گیا درست راستے سے جا بہت سول نے

مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

اہل کتاب میں سے کاش پھر کر دیں وہ تم کو بعد تمہارے ایمان لانے کے

كُفْرًا أَجْزَأَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

کافر بسبب حسد کے (جو) جانوں میں ہے ان کی بعد اس کے کہ خوب کھل گیا

لَهُمُ الْحَقُّ، فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ

ان کے لیے سچی پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لاوے اللہ اپنا حکم

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱۰﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

یقیناً اللہ ہر بات پر خوب قادر ہے اور قائم کرو نماز اور دو

الزَّكَاةَ، وَمَا تَقَدَّمُوا لَكُمْ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوا

زکوٰۃ اور جو آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے لیے کوئی نیکی تو پاؤ گے تم اس کو

عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۱﴾ وَقَالُوا

اللہ کے پاس، یقیناً اللہ اس کو جو کرتے ہو تم خوب دیکھنے والا ہے اور انہوں نے کہا

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا ۗ

ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو شخص ہوا یہودی یا عیسائی

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُمْ، إِنَّ كُنْتُمْ

یہ آرزو میں ہیں ان کی تو کہدے لاؤ دلیل اگر ہو تم

صَادِقِينَ ﴿۱۱۲﴾ بَلَىٰ ۗ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

سچے کیوں نہیں (جنت میں جاویگا) جس نے سوچ دی اپنی توجہ اللہ کے لیے اور وہ محسن ہو

فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

تو اس کے لیے ہے اجر اس کا اسکے رب کے پاس اور نہیں خوف ان پر اور نہ وہ

يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَاءُ عَلَىٰ

غمگین ہوں گے اور کہا یہود نے نہیں ہیں عیسائی

شَيْءٍ مِّنْهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ ۖ
کسی بات پر (مجی) اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہیں یہودی کسی بات پر (مجی)

وَهُمْ يَثَلُّونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا
اور وہ بڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں

يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
علم رکھتے تھے مانند انہی بات کے سوائے فیصلہ کریگا ان کے درمیان بروز

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ
قیامت اس بات میں کہ تھے وہ جس میں اختلاف کرتے اور کون زیادہ ظالم ہے

مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَخَى
اس شخص سے جس نے روکا مسجدوں سے اللہ کی یاد کیا جائے ان میں نام اس کا اور کوشش کی

فِي خَرَابِهَاءٍ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا
دوران گزرنے کی ان کو یہ لوگ وہ ہیں کہ نہیں مناسب تھا ان کے لیے کہ داخل ہوں ان میں مگر

خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
ڈرتے ہوئے ان کے لیے دُنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ۝۱۱۵ ۚ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا
عذاب ہے بڑا اور اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب پس جہر منہ

تَوَلَّوْا فَنَّمَّ وَجْهَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ ۝۱۱۶ ۚ وَقَالُوا
کردم تو ادھر ہی توجہ ہے اللہ کی یقیناً اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے اور کہا انہوں نے

اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ لَآ سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
بنایا ہے اللہ نے بیٹا پاک ہے وہ (نہیں) بلکہ اسی کا ہے جو (کچھ) آسمانوں اور

الْأَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ۗ ۝۱۱۷ ۚ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
زمین کا سب اسکے ہیں فرمانبردار موجد ہے آسمانوں اور زمین کا

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ۝۱۱۸ ۚ وَقَالَ
اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی معاملہ کا تو صرف کہتا ہے اُسے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے اور کہا

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةٌ

ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ یا رکیوں نہیں آتا ہمارے پاس کوئی نشان

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے مانند انہی بات کے

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

ایک جیسے ہو گئے ہیں دل ان کے یقیناً کھوکھرا بیان میں ہم نے آئیں ان لوگوں کے لیے

يُوقِنُونَ ﴿۱۳۱﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

جو یقین کرتے ہیں یقیناً ہم نے بھیجا تجھے ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا

وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۳۲﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ

اور نہیں پوچھا جاوے گا تو دوزخ والوں کے متعلق اور ہرگز نہیں راضی ہو گئے تجھ سے

الْيَهُودَ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ

یہودی اور عیسائی یہاں تک کہ پیروی کرے تو انکے مذہب کی تو کہہ سے یقیناً

هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

ہدایت اللہ کی ہی اصل ہدایت ہے اور یقیناً اگر پیروی کی تو نے ان کی خواہشات کی

بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ

بعد اس کے جو آپکا ہے تیرے پاس علم تو نہیں ہو گا تیرے لیے مقابل اللہ کے کوئی

وَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۳۱﴾ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَثْلُونَهُ

دوست اور نہ مددگار وہ لوگ کہ دی ہم نے انہیں کتاب پڑھتے ہیں اُسے

حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ

حق اس کے پڑھنے کا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اور جو کفر کرے گا اس کا

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۳۲﴾ يَبْنِي إِسْرَاءَ يَلِ إِذْ كُرُوا

تو ایسے لوگ ہی نقصان پانچواں ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو

نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَىٰ

نعمت میری جو انعام کی میں نے تم پر اور یہ کہ فضیلت دی تھی میں نے تم کو

الْعَلَمِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ

تمام دنیا پر اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کفایت کرے گا۔ کوئی نفس کسی نفس سے

شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا

کچھ بھی اور نہ قبول کیا جاوے گا اس سے معاوضہ اور نہ نفع دے گی اُسے سفارش اور نہ

هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

وہ مدد دینے جائیں گے اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے ساتھ چند باتوں کے

فَاتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاءُكَ لِلنَّاسِ إِيمَانًا، قَالَ وَ

پس پورا کیا اس نے انہیں فرمایا میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کا امام اس نے کہا اور

مِن دُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنْتَظِرُكَ الْعَدُوُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَإِذْ

میری اولاد میں سے (بھی) فرمایا نہیں پہنچے گا عداوتی ظالموں کو اور جب

جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَاتَّخِذُوا

بنایا ہم نے کعبہ کو جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن اور بناؤ

مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ

مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ اور تاکید کی ہم نے ابراہیم اور

إِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَ ابْنَتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَ

اسماعیل کو کہ صاف رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور

الرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۳۶﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا

رکوع کرنے والوں (اور) سجدہ کرنے والوں کے اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کو

بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ

شہر امن والا اور رزق دے اسکے باشندوں کو پھلوں میں سے (یعنی اُسے جو ایمان لائے ان میں سے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا

اللہ پر اور روزِ آخر پر فرمایا اور جس نے کفر کیا تو فائدہ پہنچاؤں گا اُسے بھی تھوڑا سا

ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۳۷﴾ وَ

پھر مجبور کر دے گا اُسے آگ کے عذاب کی طرف اور کیا ہی بُرا ہے وہ ٹھکانا اور

إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

جب اونچی کرتا تھا ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل (وہ کہتے جاتے تھے)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۸﴾

اے رب ہمارے قبول کر ہم سے یقیناً تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے رب ہمارے اور

اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً

بنانا ہم کو فرمانبردار اپنا اور (بنا) اولاد ہماری سے ایک امت فرمانبردار

لَكَ ۖ وَآرِنَا مَنَازِلَنَا وَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتِنَا

اپنی اور دکھا ہمیں عبادت کے راستے ہمارے اور فضل کیساتھ توجہ فرما ہم پر یقیناً تو ہی بہت فضل کیساتھ

التَّوَابِ الرَّحِيمِ ﴿۱۲۹﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

توجہ فرما انیوالا بہت رحم کرنیوالا ہے اے رب ہمارے اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ

پڑھے ان پر آیات تیری اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت اور

يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۳۰﴾ وَمَنْ يَرْغَبْ

پاک کرے ان کو یقیناً تو ہی بڑائی والا بہت حکمت والا ہے اور نہیں بے رغبتی کرتا

عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ مُّسْلِمًا ۚ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ

مذہب سے ابراہیم کے سوا اُس کے جس نے بیوقوف بنایا اپنے میں اور یقیناً یقیناً برگزیدہ کیا تھا ہم نے اسے

فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۱﴾ إِذْ قَالَ

دُنیا میں اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوں میں سے ہوگا جب کہا

لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمًا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۲﴾ وَوَصَّى

اسے اُس کے رب نے فرمانبردار ہو جا اس نے کہا فرمانبردار ہو میں تمام دُنیا کے رب کا اور تاکید کی

بِهَآءِ بِرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۚ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ

اس (فرمانبردار) کو ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے (بھی کہا) اے میرے بیٹو یقیناً اللہ نے چن لیا ہے

لَكُمْ الدِّينَ ۖ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

تمہارے لیے اس دین کو پس ہرگز نہ مرنا تم مگر ایسے حال میں کہ تم فرمانبردار ہو گیا

۱۲۸

كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ

تھے تم موجود جب آئی یعقوب کو موت جب کہا اس نے اپنے بیٹوں کو

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ؕ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ

کس کی عبادت کرو گے تم بعد میرے انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور معبود کی

أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلهًا وَاحِدًا ۖ وَ

تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق کے (جو کہ معبود ہے ایک ہی اور

نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۱﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا

ہم اسی کے فرمانبردار ہیں یہ جماعت یقیناً گزر چکی ہے اس کیلئے ہے جو

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

کلیا تھا اس نے اور تمہارے لیے جو کلیا تم نے اور نہ بلو چھے جاؤ گے تم اس سے کہو تھے وہ

يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ۗ

کیا کرتے اور کہا انہوں نے ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو ہدایت پاؤ گے تم

قَدْ بَدَّلَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ

تو کدے کر (نہیں) بلکہ اختیار کرو) مذہب ابراہیم موحد کا اور نہ تھا وہ

الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ۗ

مشرکوں میں سے تم کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس رجو اتارا گی ہماری طرف اور

مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِن قَبْلُ ۗ وَاسْمِعُوا بَنِيكَ وَأَطِيعُوا

جو اتارا گیا طرف ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب

وَأَطِيعُوا أُمَّةَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۴﴾ وَمَا أَوْتِي النَّبِيُّونَ

اور (راہی) اولاد اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دیش گئے (دیگر) نبی

مِن دَرَبِهِمْ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ

اپنے رب کی طرف سے نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی کے بھی ان میں سے اور ہم اس (خدا) کے

مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۵﴾ فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ

فرمانبردار ہیں پھر اگر ایمان لادیں وہ مانند اس کے کہ تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ

اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ

ہدایت پا گئے اور اگر پھر جاویں وہ تو سوائے اس کے نہیں وہ مخالفت میں ہیں

فَسَبِّحْهُمْ فِيكُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۸﴾ صِبْغَةً

بس کافی ہوگا تجھے ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (انتہی کر دو) طریق

اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ز وَنَحْنُ لَهُ عِبْدٌ ﴿۱۳۹﴾

اللہ کا اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے طریق میں اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں

قُلْ إِنَّمَا جُؤُنَّا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا

توکڑے کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے

أَعْمَالُنَا ۚ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۴۰﴾ آم

یہ ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم اسی کے مخلص ہیں کیا

تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب

وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ قُلْ إِنَّمَا

اور (اس کی) اولاد تھے یہودی یا عیسائی توکڑے کیا تم زیادہ

أَعْلَمُ أَمِ ابْنُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةَ

جاننے ہو یا اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے چھپائی گواہی (جو)

عِنْدَكَ مِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۴۱﴾

اے پاس ہے اللہ کی طرف سے اور نہیں اللہ ہرگز غافل اس سے جو تم کرتے ہو

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ

یہ ایک جماعت ہے یقیناً گزر چکی ہے اس کیلئے ہے جو کیا اس نے اور تمہارے لیے

مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۲﴾

جو کیا تم نے اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس کی نسبت جو تھے وہ کرتے



سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنَّا

فرد کہیں گے بیوقوف لوگ کس نے پیرا ان (مسلمانوں) کو

قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ

ان کے قبلے سے کہ تھے وہ جس پر تو کہے اللہ ہی کے ہیں شرق اور

الْمَغْرِبُ ۗ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۳﴾

مغرب وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف سیدمی راہ کے

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ

اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو ایک جماعت اعلیٰ درجہ کی تاکہ ہو جاؤ گواہان

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا

اوپر لوگوں کے اور ہو یہ رسول تم پر گواہ اور نہیں

جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلًا لِّنَعْلَمَ مَنْ

بنایا ہم نے وہ قبلہ کہ ہے تو جس پر مگر تاہم جان میں اسے جو

يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ

پیروی کرتا ہے اس رسول کی بمقابل اس کے جو پھر جاتا ہے اپنی دونوں اڑیوں پر اور یقیناً ہے یہ

لِكَبِيْرَةٍ اِلَّا عَلَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ

ضرور مشکل بات مگر ان لوگوں پر (نہیں) جنہیں ہدایت دی اللہ نے اور نہیں ہے اللہ (ایسا)

لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۴﴾

کو ضائع کرے ایمان کو تمہارے یقیناً اللہ لوگوں پر ضرور مہربان بہت رحم کرنے والا ہے

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۗ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

یقیناً دیکھتے ہیں ہم پھرنا تیرے رخ کا آسمان میں پس ضرور پھیریں گے ہم تجھے ایسے قبلے کی

تَرُضُهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ

کو پسند کرتا ہے اسے سو پھیر اپنا رخ طرف مسجد الحرام کی ، اور جہاں کہیں

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا

ہو تم پس پھرو چروں کو اپنے طرف اس کی اور یقیناً وہ لوگ جو دیئے گئے

الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَمَا اللَّهُ

کتاب یقیناً جانتے ہیں کہ وہ حق ہے طرف سے ان کے رب کی اور نہیں ہے اللہ

بِعَاقِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَلَئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا

ہرگز بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں اور یقیناً اگر لادے تو ان لوگوں کے پاس جو دیکھتے تھے

الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ

کتاب ہر قسم کے نشان (تو بھی) نہیں پیروی کریگے وہ قبلہ کی تیرے اور نہیں ہے تو ہرگز پیروی کرنے والا

قِبْلَتِهِمْ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وَلَئِن

قبلہ ان کے اور نہیں ہے بعض ان کا ہرگز پیروی کرنے والا قبلہ کی بعض کے اور یقیناً اگر

اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

پیروی کی تو نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس علم

إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۶﴾ الَّذِينَ اتَّيَمَنُوا الْكِتَابَ

یقیناً تو تب تو ظالموں میں سے ہوگا کہ وہ لوگ کہ دی ہم نے نہیں کتاب

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ

پہچانتے ہیں وہ اُسے جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو اور یقیناً ایک گروہ (کے لوگ) ان میں

لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۷﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا

سے ضرور چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں (یہ) حق ہے تیرے رب کی طرف سے پس نہ

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا

ہو تو شک کرنے والوں میں سے اور ہر ایک کے لیے توجہ ہے کہ وہ پھرتا ہے اُسے

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ

پس تم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو کیوں میں، جہاں کیس ہو گے تم لادے گا تم کو اللہ

جَمِيعًا، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳۹﴾ وَرَمِنْ حَيْثُ

سب کو یقیناً اللہ ہر بات پر خوب قادر ہے اور جہاں سے

خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِنَّهُ

نکلے تو تو پھر رخ اپنا طرف مسجد عزت والی کی اور یقیناً یہ

لَلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بَغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۰﴾

ضرور حق ہے طرف سے تیرے رب کی اور نہیں ہے اللہ ہرگز بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

اور جہاں سے نکلے تو تو پھیر رخ اپنا طرف مسجد

الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

عزت والی کی، اور جہاں کہیں ہو تم تو پھیرو رخ اپنے طرف اس کی

يَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت مگر جن لوگوں نے ظلم کیا

مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي

ان میں سے تو نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے تاکہ پوری کروں میں نعمت اپنی

عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۱﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا

تم پر اور تاکہ تم ہدایت پاؤ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول

مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

تم میں سے کہ پڑھتا ہے تم پر آیات ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۲﴾

اور حکمت اور سکھاتا ہے تم کو جو نہیں تھے تم جانتے

فَإِذْ كُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَعْفُرُونَ ﴿۱۵۳﴾

سو یاد کرو مجھے میں یاد کروں گا تم کو اور شکر کرو میرا اور نہ ناشکری کرو میری -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد مانگو بذریعہ صبر اور نماز کے

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۴﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي

یقیناً اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اور نہ کہو متعلق ان کے جو قتل کئے جائیں

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۵﴾

راہ میں اللہ کی کہ (وہ) مردے ہیں نہیں بلکہ (وہ) زندہ ہیں مگر نہیں محسوس کرتے تم

وَلَنَهْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ

اور اللہ تم ضرور آرائیں گے تم کو ساتھ کچھ خوف اور بھوک کے اور (ساتھ) کمی کے

الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۶﴾

مالوں اور جانوں اور پھولوں کی اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

وہ جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم

رَأَيْنَاهُ لِرَجْعُونَ ﴿۱۵۷﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ

اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ ان پر برکتیں ہیں انکے رب کی طرف سے

وَدَرَحْمَةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَهَدُونَ ﴿۱۵۸﴾ إِنَّ الصَّفَا وَ

اور رحمت ہے اور یہ لوگ ہی ہدایت پانے والے ہیں یقیناً صفا اور

الْمَرْوَةَ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ

مردہ نشانوں میں سے ہے اللہ کی بس جس نے حج کیا کعبہ کا یا عمرہ کیا

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

تو نہیں کوئی گناہ اس پر کہ طواف کرے ان دونوں کا اور جس نے دلی خوشی سے کی کوئی نیکی

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ

تو یقیناً اللہ قدر دان را اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں

مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ

اُسے جو آمارا ہم نے دلائل اور ہدایت میں سے بعد اس کے کھول کر بیان کر دیا ہم نے اُسے

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

لوگوں کے لیے (اس) کتاب میں یہ لوگ وہ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر

اللَّعْنُونَ ﴿۱۶۰﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ

لعنت کرنے والے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا

فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶۱﴾ إِنَّ

تو یہ لوگ وہ ہیں کہ میں فضل کیساتھ توجہ کروں گا ان پر اور میں فضل سے توجہ کروں گا بہت رحم کرنے والا ہوں یقیناً

الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَرَاءُ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے ایسے حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان لوگوں پر

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۲۶﴾ خَلِيدِينَ

لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی وہ پڑنے والے ہیں

فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۱۲۷﴾

اس (لعنت) میں نہیں ہلکا کیا جاوے گا ان سے عذاب اور نہ وہ ملت دینے جائیں گے۔

وَاللَّهُ كَمَلَهُ ذَٰلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾

اور معبود تمہارا معبود ہے ایک (یعنی اللہ) نہیں کوئی معبود مگر وہی رحمن اور رحیم ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

یقیناً پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی اور آگے پیچھے آنے میں رات اور دن کے

وَالْقُلُوبِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ

اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں ساتھ اس (مال) کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

اور (اس میں) جو اتارا اللہ نے بادل سے یعنی پانی پھر زندہ کیا اس کے ذریعہ زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَصْرِيفِ

بعد اس کی موت کے اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور اور چلانے میں

الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ

ہواؤں کے اور بادل میں جو کام میں لگایا ہوا ہے درمیان آسمان اور زمین کے یقیناً نشانات ہیں

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ

لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بناتے ہیں سوائے

اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا

اللہ کے ہمسرہ محبت کرتے ہیں وہ ان سے مانند اللہ کی محبت کے اور وہ لوگ جو ایمان لائے

أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ

زیادہ ہیں محبت میں اللہ کے اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا (اس حالت کو) جبکہ

الْعَذَابَ لَآ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ

وہ دیکھیں گے عذاب کو (تو جان میں) کہ قوت اللہ کے لیے ہے ساری اور یقیناً اللہ سخت

الْعَذَابِ ۝۱۳۹ اِذْ تَبَرَّآ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا مِنْ الَّذِيْنَ

عذاب دینے والا ہے جبکہ بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں

اتَّبَعُوْا وَاذْاٰ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ اَلْاَسْبَابُ ۝۱۴۰

نے پیروی کی اور دیکھیں گے عذاب کو اور کٹ جاویں گے ان سے تعلقات

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرْهًا فَنَتَّبِرَآ مِنْهُمْ

اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کاش ہمارے لیے لوٹنا ہوتا ہم بیزاری ظاہر کریں گے ان سے

كَمَا تَبَرَّيْۗءُ وَاِمْتًا ۗ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ

جیسا کہ بیزاری ظاہر ہی انہوں نے ہم سے، اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ اعمال ان کے

حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَاَمَّا بَخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ۝۱۴۱

حسرتیں بنا کر ان پر اور انہیں وہ ہرگز نکلتے والے آگ سے

يَاۤيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۗ وَلَا

اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال (اور) طیب اور نہ

تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝۱۴۲

پیروی کرو قدموں کی شیطان کے یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا

اِنَّمَا يٰۤاْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ

سوائے اس نہیں کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو بُرائی اور بے حیالی کا اور یہ کہ کہو تم اللہ پر

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۴۳ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

وہ جو نہیں جانتے تم اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ پیروی کرو اس کی جو اتارا اللہ نے

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَآءَنَا وَاَوْلٰوْكَانَ

وہ کہتے ہیں (نہیں) بلکہ پیروی کرتے ہیں اس کی کہ پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو کیا اگرچہ ہوں

اَبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝۱۴۴ وَ مَثَلُ

ان کے باپ دادا (جیسے) کہ نہ عقل رکھتے ہوں کچھ اور نہ ہدایت پاتے ہوں اور حالت ان

۱۴۱

الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْحِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا

لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مانند حالت اس شخص کی ہے جو پکارتا ہے اُسے جو نہیں سُنتا سوائے

دُعَاءِ وَزَيْدًا ۚ صَدُّبُكُمْ عَمِّي فَمَا لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۴۳﴾

بلانے اور پکارنے کے برسے میں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں سمجھتے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاک چیزوں سے جو دیں ہم نے تم کو اور

اشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ رِثَاءَهُ تَعْبُدُون ۚ إِنَّمَا حَرَّمَ

شکر کرو اللہ کا اگر ہو تم اس کی عبادت کرتے من حرام کیا ہے اس

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَالْحِمَا الْخَنزِيرُ وَمَا أُهْلِي بِهِ

(خدا) نے تم پر مُردار اور خون اور گوشت خنزیر کا اور وہ چیز کہ پکارا گیا ہو اس پر

لِغَيْرِ اللَّهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ

اللہ کے غیر کا (نام) پھر جو لاچار ہو اسوائے (دل سے) چاہنے والے اور سوائے (دے سے) فہنے والے کے تو نہیں کوئی

عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۴۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ

گناہ اس پر یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

اسے جو اتارا اللہ نے کتاب میں سے اور لیتے ہیں بدلہ میں اس کے مول تھوڑا

أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ

یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور نہیں کلام کہے گا ان سے

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ

اللہ بروز قیامت اور نہیں پاک ٹھہرائے گا ان کو اور ان کے لیے عذاب ہے

أَلِيمٌ ﴿۱۴۵﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى وَ

دردناک یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خریدنا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور

الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۴۶﴾ ذٰلِكَ

عذاب کو بدلے مغفرت کے پس کیسے ہی صابر ہیں وہ آگ پر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَ اللَّهُ لِكُلِّ قَوْمٍ خُلَفَاءً

اس سبب سے ہر لوگ کے لئے خلیفے اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا

فِي الْكِتَابِ لَكُمْ فِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ۗ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا

کتاب میں ضرور مخالفت میں ہیں دور کی نہیں ہے (اعلیٰ) نیکی یہ کہ پھیرو تم

وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

اپنے رخ طرف مشرق اور مغرب کی دیکھیں (اعلیٰ) نیکی اس شخص کی

آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور اس نے دیا مال باوجود محبت کے امکی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں

وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ

اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور (دیا) گردنوں کے چھڑانے میں اور قائم کی

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۗ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

نماز اور دی زکوٰۃ اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب

عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ

عہد کرتے ہیں وہ اور صبر کرنے والے سختی میں اور تنگی میں اور بوقت

الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

جگ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچ بولا (عہدیت کے وقت) اور یہ لوگ ہی

الْمُتَّقُونَ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

متقی ہیں اسے لوگو جو ایمان لائے ہو فرض کیا گیا ہے تم پر

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

برابر کا بدلہ لینا مقتولوں میں آزاد بدلے آزاد کے اور غلام بدلے غلام کے

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

اور عورت بدلے عورت کے پھر وہ شخص کو معاف کر دیا جائے اُسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ

فَاتَّبَعْنَا بِمَا كُنْتُمْ يُعْتَدُونَ وَأَدَّاءُ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُعْتَدُونَ ذَلِكُمْ

تو پیروی کرنا ہے مناسب طور پر اور ادا کرنا ہے (فدیہ) اس (رعاف) کرنا ہے کی طرف ساتھ احسان کے یہ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے پھر جس نے زیادتی کی بعد

ذَلِكُمْ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۹﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

اس کے تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک اور تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں زندگی ہے

يَأُوْبِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۹۰﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا

اے عقل مندو تاکہ تم بچو فرض کیا گیا ہے تم پر جب

حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ

آوے کسی کو تم میں سے موت اگر چھوڑے وہ مال وصیت کرنا

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَىٰ

داسطے مال باپ اور رشتہ داروں کے مناسب طور پر لازم ہے

الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۱﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا

متقیوں پر پھر جس نے بدل دیا اُسے بعد اس کے کہ سن یا اُسے تو سوائے ان کے نہیں

إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو بدلتے ہیں اُسے یقیناً اللہ خوب سننے والا

عَلِيمٌ ﴿۱۹۲﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَسٍ جَنَفًا أَوْ أَثِمًا فَلَا يَظْلِمُ

جاننے والا ہے پھر جو شخص ڈرے وصیت کرنا والے کے متعلق جھک جانے یا گناہ سے پھر اصلاح کرے

بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۳﴾ أَيَّامًا

درمیان ان کے تو نہیں کوئی گناہ اس پر یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنا والا ہے اُسے

الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ

لوگوں جو ایمان لائے ہو فرض کئے گئے ہیں تم پر روزے جیسا کہ فرض کئے گئے تھے

الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۹۴﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ

ان لوگوں پر جو پہلے تھے تم سے تاکہ تم متقی بنو دنوں میں گنتی کے

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِهِ

پھر جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر پر تو گنتی (پوری کرنی) ہے دنوں سے

أُخْرَدَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ

دوسرے اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے کھانا ایک مسکین کا

فَمَنْ تَطَوَّءَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرٌ

پس جس نے دلی خوشی سے کی کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اور یہ کہ روزے رکھو تم بہتر ہے

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۵﴾ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ

تہارے لیے اگر ہو تم جانتے مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ اتارا گیا

فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَ

اس میں قرآن ہدایت کیلئے واسطے لوگوں کے اور دلائل اس ہدایت کے اور

الْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ

فرقان کے پس جو موجود ہوا تم میں سے اس مہینہ میں تو چاہیے کہ روزے رکھے اور جو

كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِهِ أُخْرَدَ يُرِيدُ

ہو مریض یا سفر پر تو گنتی (پوری کرنی) ہے دنوں سے دوسرے ، چاہتا ہے

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ

اللہ تمہارے متعلق آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے متعلق تنگی اور

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

تاکہ پوری کرو تم گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ ہدایت دی اس نے تم کو

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۶﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي

اور تاکہ تم شکر کرو اور جب پوچھیں تجھے بندے میرے بارے میں

فَأِنِّي قَرِيبٌ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

تو میں قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب دعا کرتا ہے وہ مجھ سے

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۷﴾

چاہیے کہ بات مانیں وہ میری اور چاہیے کہ ایمان لائیں وہ مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پادیں -

أُحَدِّثُكُمْ لَيْلَةَ الْبَيْتِ الْمَقَامِ وَالرَّقَّتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ

ملاں کیا گیا ہے واسطے تمہارے رات کو روزوں کی اپنی عورتوں سے وہ

لَيْسَ لَكُمْ نِسَاءٌ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ

لباس ہیں تمہارا اور تم لباس ہو ان کا جان لیا ہے اللہ نے تم

كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ

تھے خیانت کرتے اپنے نفسوں کی پس فضل سے متوجہ ہوا وہ تم پر اور درگزر کیا اس نے تم سے

فَالَّذِينَ بَايَعُوا بِأَيْمَانِهِمْ فَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ لَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ

سوراب بیشک مباشرت کرو ان سے اور چاہو جو مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اور

كَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاری سفید بمقابل

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الْقِيَامَ إِلَىٰ

دھاری سیاہ کے یعنی فجر ، پھر پورے کرو روزے

الْيَوْمِ ۚ وَلَا تَبَايَعُوا شُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

رات تک اور نہ مباشرت کرو ان سے جیکہ تم محکف ہو مسجدوں میں

يَوْمَئِذٍ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ہدیں میں اللہ کی پس نہ قریب جاؤ ان کے اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ

آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۸﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

اپنی آیت لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی ہوں اور نہ کھاؤ اپنے مال

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

آپس میں ناجائز طور سے اور نہ لے جاؤ انہیں طرف حکام کی تاکہ کھاؤ تم

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۹﴾

ایک حصہ مالوں کا لوگوں کے ساتھ گناہ کے اور تم جانتے ہو

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَاةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ

پوچھتے ہیں تجھ سے پہلی راتوں کے چاند کے متعلق تو کہدے وہ مقررہ وقت (نہم نزدیک ذریعہ) ہیں لوگوں کیلئے

وَالْحَيَّةُ وَدَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

اور حج کے لیے اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں میں ان کے

ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتَىٰ الْبُيُوتَ مِنْ

پچھواڑوں سے دیکھیں نیکی اس شخص کی ہے جس نے تقویٰ کیا اور آؤ گھروں میں ان کے

أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۹۰﴾ وَقَاتِلُوا فِي

دروازوں سے اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور لڑو

سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ

راہ میں اللہ کی ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے اور نہ زیادتی کرو یقیناً

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹۱﴾ وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ

اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو اور قتل کرو انہیں جہاں

ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

پاؤ تم انہیں اور نکالو انہیں جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُواهُمْ عِنْدَ

اور فساد زیادہ سخت ہے قتل سے اور نہ لڑو ان سے پاس

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا كَمَا فِيهِ ۚ فَإِن قُتِلُوا

مسجد الحرام کے یہاں تک کہ لڑیں وہ تم سے اس میں پھر اگر لڑیں وہ تم سے

فَأَقْتُلُواهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۹۲﴾ فَإِن

تو قتل کرو ان کو ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کا پھر اگر

اٰتَمَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۳﴾ وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّىٰ لَا

باز آ جاویں وہ تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ

تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِن اٰتَمَّوْا فَلَا

رہے فساد اور ہو جاویں سب دین اللہ کے لیے پھر اگر باز آ جاویں وہ تو نہیں

عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۴﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ

گرفت مگر ظالموں پر مہینہ عزت والا برابر ہے (دوسرے) مہینے

الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتِ وَمَا حَصَّرْتُمْ عَلَيْكُمْ

عزت والے کے اور تمام واجب الحفظات یا تین برابر کا بدلہ رکھتی ہیں پھر جس نے زیادتی کی تم پر

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا

تو زیادتی کرو اس پر جیسی کہ زیادتی کی اس نے تم پر اور ڈرو

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۵﴾ وَأَنْفِقُوا فِي

اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے اور خرچ کرو

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ

راہ میں اللہ کی اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں اور

أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۶﴾ وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ

احسان کرو یقیناً اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے اور پورا کرو حج اور

الْحُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ

عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر روکے جاؤ تم تو (رو) جو سیر آئے قربانی

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ

اور نہ منڈواؤ اپنے سر یا تنک کہ پہنچ جاوے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ

پھر جو شخص ہو تم میں سے مریض یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں

فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَاهِ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ ۖ فَإِذَا

توفد ہے روزوں کا یا صدقہ کا یا قربانی کا پھر جب

أَمِنْتُمْ مِنْهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا

امن سے ہو تم تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ سے ساتھ حج کے تو (کرے) جو

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

آسانی سے مل کے قربانی پھر جس نے نہ پائی (قربانی) تو روزے (رکھنے) ہیں

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ

تین دن کے حج میں اور سات جب واپس ہو تم یہ

عَشْرَةَ كَامِلَةً ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي

دس پورے ہیں یہ (رج اور عمرہ کو ملا کر عبادت) اس شخص کیلئے ہے کہ نہیں ہیں گھروالے جسکے رہنے والے

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مسجد الحرام کے اور ڈرو اللہ سے اور جان لو یقیناً اللہ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۱۹۷ ۱۹۸ الْحَجَّ أَشْهُرَ مَعْلُومَاتٍ ، فَمَنْ

سخت سزا دینے والا ہے حج (کے) مہینے میں مقررہ پس جس نے

فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ

فرض کیا (اپنے پر) ان میں حج تو نہ شوہوانی باتیں اور نہ حکم عدولی اور نہ جھگڑا کرنا ہے

فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ، وَ

حج میں اور جو کرو گے تم کوئی نیکی جانے گا اُسے اللہ اور

تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

زاورہ لے لو کیونکہ یقیناً اچھی طرح زاورہ لینا تقویٰ ہے اور ڈرو مجھ سے اے

الْأَلْبَابِ ۱۹۹ ۲۰۰ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ

عقل مندو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ چاہو تم فضل اپنے

رَبِّكُمْ ، فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ

رب کا پھر جب لوٹو تم عرفات سے ذکر کرو اللہ کا

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

پاس مشعر الحرام کے اور ذکر کرو اس کا جیسا کہ ہدایت دی اس نے تمہیں

وَأِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۲۰۱ ثُمَّ

اور اگرچہ تھے تم پہلے اُس کے یقیناً گمراہوں سے پھر

أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ،

لوٹو تم جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ اور بخشش مانگو اللہ سے

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۲۰۲ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ سَكَكُمُ

یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے پھر جب پورے کر چکو تم اپنے عبادت (حج) کے طریقے

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَوْشَدَّ ذِكْرًا ۝

(ارکان) تو یاد کرو اللہ کو مانند یاد کرنے کے اپنے باپ دادا کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا

پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے ہمیں دُنیا میں اور نہیں

لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝۱۱۱ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ

اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ۝

اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور

فَنَاعَذَابِ النَّارِ ۝۱۱۲ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۝

بجا ہمیں عذاب سے الگ کے یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کیلئے حصہ ہے اس سے جو کمایا انہوں نے

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۱۳ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَاتِهِ

اور اللہ جلد سے حساب لینے میں اور یاد کرو اللہ کو دنوں میں

مَعْدُودَاتٍ ۝ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۝

گنتی کے پھر جس نے جلدی کی دو دنوں میں تو نہیں کوئی گناہ اس پر

وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اور جس نے تاخیر کی تو نہیں کوئی گناہ اس پر اس کیلئے جس نے تقویٰ کیا، اور ڈرو اللہ سے

وَأَعْلَمُوا أَنكُم لَيْسَ لَهُ تَحْشُرُونَ ۝۱۱۴ وَمِنَ النَّاسِ مَن

اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف اٹھے کئے جانے والے ہو اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ

يُحْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ

پسند آتی ہے تجھے گفتگو ان کی درلی زندگی کے متعلق اور گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو

عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۝ وَهُوَ الَّذِي الْخَصَّامِ ۝۱۱۵ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ

اس بات پر جو اسکے دل میں ہے حالانکہ وہ زیادہ جھگڑنے والا ہے تمام جھگڑنے والوں سے اور جب وہ حاکم ہوتا ہے کوشش کرتا ہے

فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۝

زمین میں کوفساد کرے اس میں اور ہلاک کرے کھیتی اور نسل

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ

حالانکہ اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو اور جب کہا جاتا ہے اُسے ڈر اللہ سے

أَخَذَتْهُ الْعُزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهَا جَهَنَّمُ وَلَيْسَ

تاکثر رکھتی ہے اُسے بڑائی گناہ پر پس کافی ہے اُسے جہنم اور ضرور کیا ہی بڑا

الْمِهَادُ ﴿۳۷﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ

ہے پچھونا اور بعض لوگ ایسے کہ بیچ دیتے ہیں اپنی جان چاہنے کے لیے

مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا

رضامندی اللہ کی اور اللہ بہت مہربان ہے (ایسے) بندوں پر اے

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خُلُوتَا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا

لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح اور نہ پیچھے چلو

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ فَإِن زَلَلْتُمْ

قدموں کے شیطان کے یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا پس اگر پھسل جاؤ تم

مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيمٌ

بعد اس کے کہ آئی ہیں تمہارے پاس کھلی کھلی باتیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ عزت والا

حَكِيمٌ ﴿۴۰﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ

حکمت والا ہے نہیں انتظار کرتے وہ مگر یہ کہ آوے ان کے پاس اللہ سایلوں میں

مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

بادل کے اور فرشتے اور فیصلہ کیا جاوے معاملہ کا اور اللہ کی طرف لوٹائیں جاہیں گے

الْأُمُورُ ﴿۴۱﴾ سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَدَكُم مَّا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ

سب معاملات پلوچھ لے بنی اسرائیل سے کتنے ہی دیتے ہم نے ان کو نشانات

بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ

کھلے کھلے اور جو بدل دے گا نعمت اللہ کی بعد اس کے کہ آئی وہ اس کے پاس

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۴۲﴾ ذُرِّيَّتَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيُوتُ

تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے مزین کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا زندگی

الذُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

دردی اور وہ ہنسی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے

اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ

تقویٰ کیا غالب ہوں گے ان پر روز قیامت اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۳۳ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ

بغیر حساب کے تھے لوگ گروہ ایک ہی پھر بھیجا

اللَّهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ

اللہ نے نبیوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اور اتاری ساتھ انکے

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا

کتاب ساتھ حق کے تاکہ وہ اللہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے اس بات میں کہ اختلاف کیا تھا انہوں

فِيهِ ۝ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا

نے جس میں اور نہیں اختلاف کیا تھا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیئے گئے وہ (کتاب) بعد اس کے کہ

جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۝ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ

آئیں ان کے پاس کھلی کھلی باتیں سرکشی کی وجہ سے آپس میں پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو

آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِرِذْوَانِهِ ۝ وَاللَّهُ

ایمان لائے اس (بات) کی کہ اختلاف کیا تھا انہوں نے جس میں حق سے ساتھ اپنے حکم کے اور اللہ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۳۴ أَمْ حَسِبْتُمْ

ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف راہ سیدھی کی کیا گمان کیا تم نے

أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا

کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں حالانکہ ابھی تک نہیں آئی تم پر حالت ان لوگوں کی جو گزرے ہیں

مِنْ قَبْلِكُمْ ۝ مَسَّثَهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزَلْزَلُوا

پلے تم سے پہنچی سختی انہیں سختی اور تنگی اور وہ ہلائے گئے

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى

یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ کہ کب ہوگی

نَصْرًا لِلَّهِ وَالْآيَاتِ نَصْرًا لِلَّهِ قَرِيبٌ ﴿۲۱۵﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا

مدد اللہ کی آگاہ ہو جاؤ یقیناً مدد اللہ کی قریب ہے پوچھتے ہیں تجھ سے کیا کچھ

يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ

خرچ کریں وہ تو کدے جو بھی خرچ کرو تم کوئی مال تو (کرو) واسطے ماں باپ اور

الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالرِّسَالَةِ وَالسَّبِيلِ ﴿۲۱۶﴾ وَمَا

رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور جو بھی

تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۱۷﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

کرو گے تم کوئی نیکی تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے فرض کیا گیا تم پر

الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ

لڑنا اور وہ ناپسند ہے تم کو حالانکہ ممکن ہے کہ ناپسند کرو تم کوئی بات اور وہ

خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ

بہتر ہو تمہارے لیے اور ممکن ہے کہ پسند کرو تم کوئی بات اور وہ بڑی ہو تمہارے لیے اور اللہ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۸﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

جانتا ہے اور تم نہیں جانتے پوچھتے ہیں تجھ سے متعلق مہینے عزت والے کے

قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ

یعنی لڑنے کے متعلق اس میں تو کدے لڑنا اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا راہ سے

اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ

اللہ کی اور کفر کرنا ہے اس کا اور مسجد الحرام کا اور نکالنا اہلے باشندوں کو اس سے

أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِئْسَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا

زیادہ بڑا گناہ ہے نزدیک اللہ کے اور فساد زیادہ بڑا ہے قتل سے اور وہ

يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن

رہیں گے لڑتے تم سے یہاں تک کہ پھردیں تمہیں دین سے تمہارے اگر

اشْتَبَطَا عَوَادَ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَثْ وَهُوَ

طاقت رکھیں وہ اور جو مُرتد ہو تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے اور وہ

۲۱۸

كَافِرًا وَلَيْكَ حَيْطَتُ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝

کافر ہو تو یہ لوگ وہ ہیں کہ ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۸﴾ إِنَّ

اور یہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں یقیناً

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاءَ هُدًى فِي

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا

سَبِيلِ اللَّهِ لَا أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ

راہ میں اللہ کی یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور اللہ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۹﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے پوچھتے ہیں تجھ سے متعلق شراب اور جوئے کے

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

تو کہدے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور منافع (بھی) ہیں لوگوں کے لیے اور گناہ ان دونوں کا زیادہ

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

بڑا ہے نفع سے ان کے اور پوچھتے ہیں تجھ سے کہ کیا خرچ کریں تو کہدے

الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

(خرچ کرو) نانا ضرورت۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے احکام تاکہ تم

تَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

غور کرو دنیا میں اور آخرت میں اور پوچھتے ہیں تجھ سے متعلق

الْيَتَمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا

یتیموں کے تو کہدے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے اور اگر بلا جلا تو تم اپنے ساتھ ان کو

فَأَخْوَانِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ

تو بھائی ہیں تمہارے اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بمقابلہ مصلح کے اور اگر

شَاءَ اللَّهُ لَا عَنَتَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا

چاہتا اللہ تو تکلیف میں دانا تم کو یقیناً اللہ عزت والا حکمت والا ہے اور نہ نکاح کرو

الْمُشْرِكِ حَتَّىٰ يَؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ

مشرك عورتوں سے یہاں تک کہ مسلمان ہو جاویں اور البتہ ایک لونڈی ایمان والی بہتر ہے

مُشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

مشرك عورت سے اور اگرچہ اچھی لگے وہ تم کو اور نہ نکاح میں دو (اپنی لوکیاں) مشرك مردوں کو

حَتَّىٰ يَؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَ

یہاں تک کہ مسلمان ہو جاویں وہ اور البتہ ایک غلام ایمان والا بہتر ہے ایک مشرك سے اور

لَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو

اگرچہ اچھا لگے وہ تم کو یہ لوگ بلا تے ہیں طرف آگ کی اور اللہ بلاتا ہے

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

طرف جنت اور بخشش کی ساتھ اپنے علم کے اور کھول کر بیان کرتا ہے آیتیں لوگوں کے لیے

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ

تاکہ وہ نصیحت پڑھیں اور پوچھتے ہیں تجھ سے متعلق حیض کے

قُلْ هُوَ آذَىٰ ۚ فَاَعْتَرِزُوا ۚ وَالنِّسَاءُ فِي الْمَحِيضِ ۚ وَلَا

تو کہہ دے وہ تکلیف دہ ہے پس جدا رہو عورتوں سے حیض میں اور نہ

تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ

قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ پاک ہو جاویں وہ پھر جب صفائی حاصل کریں تو آؤ ان کے پاس

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے یقیناً اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳۲﴾ نِسَاءُ كُمْ حَرَّتْ لَكُمْ ۚ فَأْتُوا

اور پسند کرتا ہے صفائی حاصل کرنے والوں کو بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری پس آؤ

حَرَّتْ لَكُمْ ۚ أَنِّي شِئْتُمْ زَوْجًا مَوْلَا نَفْسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اپنی کھیتی میں جب چاہو تم اور آگے بھیجو واسطے اپنے نفسوں کے اور ڈرو اللہ سے

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلْقَوْهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَا

اور جان لو کہ یقیناً تم ملنے والے ہو اس سے اور خوشخبری دے ایمان والوں کو اور نہ

۲۷

۱۱

تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
 بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے یہ کہ (نہ) نیکی کرو تم اور (نہ) تقویٰ کرو تم

وَتُضْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۵﴾
 اور (نہ) اصلاح کرو تم درمیان لوگوں کے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے نہیں

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
 مواخذہ کرتا تم سے اللہ بسبب لغو کے تمہاری قسموں میں لیکن مواخذہ کرتا ہے تم سے۔

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۳۶﴾ لَكِنَّ
 بسبب اس قسم کے جو کماں دلوں نے تمہارے اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے ان لوگوں کے لیے

يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
 جو ایلاء کرتے ہیں اپنی بیویوں سے انتظار کرنا ہے چار مہینے پھر اگر

فَاءَوْفَرَاتٍ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۷﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
 جوع کر لیں وہ تو یقیناً اللہ خوب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور اگر ارادہ کریں طلاق کا

فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
 تو یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور مطلقہ عورتیں انتظار میں رکھیں

بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 اپنے تئیں تین قروہ (حصص) اور نہیں جائز ان کے لیے کہ چھپادیں وہ

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي آرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَ
 جو پیدا کیا اللہ نے رحموں میں ان کے اگر ہیں وہ ایمان رکھتیں اللہ پر اور

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوكُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 دن آخری پر اور خاوند ان کے زیادہ حقدار ہیں واپس کر لینے کے ان کو اس عدت میں اگر

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 ارادہ کریں وہ اصلاح کا اور عورتوں کیلئے ویسا ہی حق ہے جو کہ ذمہ ہے انکے مناسب طور پر

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ الطَّلَاقُ
 اور مردوں کیلئے ان پر درجہ ہے اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے طلاق

مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٌ بِمَا حَسَانٌ ۚ وَ

دو دفعہ ہوتی ہے پھر روک لینا ہے (عورت کو) مناسب طور پر (یا اُسے) رخصت کرنا ہے ساتھ احسان کے اور

لَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا

نہیں جائز تمہارے لیے کہ لے لو تم اس سے جو دے چکے ہو تم ان کو کچھ بھی مگر

أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَتَّقِيمَا خُذُوا لِلَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُهُمَا إِلَّا يَتَّقِيمَا

یہ کہ وہ دونوں ڈریں یہ کہ نہیں قائم رکھیں گے وہ حدیں اللہ کی پس اگر ڈرو تم بھی کہ نہ قائم رکھیں گے وہ

خُذُوا لِلَّهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ

حدیں اللہ کی تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر اس (مال) میں کفر کے طور پر دیا اس عورت نے جسے۔ یہ

خُذُوا لِلَّهِ فَلَا تَحْتَدُوا مَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

حدیں ہیں اللہ کی پس نہ تجاوز کرو ان سے اور جو تجاوز کر گیا حدوں سے اللہ کی

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ

تو یہ لوگ ہی ظالم ہیں پھر اگر تیسری دفعہ (دید و طلاق) اسے تو نہیں جائزہ عورت اس مرد کیلئے

بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

بعد میں یہاں تک کہ وہ نکاح کرے ایک خاوند سے اس کے سوا پھر اگر وہ مرد طلاق دیدے اسے تو نہیں کوئی گناہ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ

ان (پہلے میاں بیوی) پر کہ لوٹ آویں ایک دوسرے کی طرف اگر خیال کریں وہ کہ وہ قائم کریں گے حدیں اللہ کی

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِذَا

اور یہ حدیں ہیں اللہ کی وہ کھول کر بیان کرتا ہے انہیں ان لوگوں کیلئے جو علم رکھتے ہیں اور جب

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

طلاق دیدو تم عورتوں کو پھر پہنچنے لگیں وہ اپنی میعاد کو تو روک لو ان کو مناسب طور پر

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَتَّعِدُوا ۚ

یا رخصت کرو ان کو مناسب طور پر اور نہ روکو ان کو نقصان پہنچانے کیلئے تاکہ زیادتی کرو تم

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ

اور جو کرے گا ایسا تو یقیناً ظلم کیا اس نے اپنے نفس پر اور نہ بناؤ احکام کو

اللَّهُ هُزُؤًا زَوَادًا كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
اللہ کے ہنسی اور یاد کرو نعمت اللہ کی اپنے پر اور جو آنا ہے

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
اس (اللہ) نے تم پر یعنی کتاب اور حکمت وہ وعظ کرتا ہے تم کو اسکے ذریعہ اور ڈرو اللہ سے اور

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
جان لو یقیناً اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے اور جب طلاق دو تم عورتوں کو

فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
پھر پہنچ جاویں وہ اپنی میعاد کو تو نہ روکو ان کو کہ نکاح کریں وہ اپنے خاندانوں سے

إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
جبکہ وہ راضی ہو جاویں آپس میں مناسب طور پر یہ وہ بات ہے کہ نصیحت کی جاتی ہے اسکی اس شخص کو جو

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
ہے تم میں سے ایمان لانا اللہ پر اور روزِ آخرت پر یہ بات برکت والی ہے تمہارے لیے

وَاطْهَرُهَا ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَالْوَالِدَاتُ
اور زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور مائیں

يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
دودھ پلاویں اپنی اولاد کو دو برس پہلے سے اس مرد کیلئے جو چاہتا ہے کہ پورا کرے

الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
دودھ پلانا اور ذمہ بچے والے کے کھانا ان عورتوں کا اور کپڑا ان کا

بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةً
مناسب طور پر نہیں ذمہ دار ٹھہرایا جانا کسی نفس کو مگر اسکی وسعت کی مطابق نہ نقصان پہنچایا جاوے مال کو

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
بسبب اس کے بچے کے اور نہ بچے والے کو بسبب اس کے بچے کے اور متعلق وارث کے (بھی حکم ہے) مانند

ذَٰلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
اسی کے پس اگر وہ دونوں (مال باپ) ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا اپنی رضامندی سے اور آپس کے مشورہ سے

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِذَا ارْتَدَا ثُمَّ آتَاكُمْ بِذُرِّيَةٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِذَا ارْتَدَا ثُمَّ آتَاكُمْ بِذُرِّيَةٍ

تو نہیں کوئی گناہ ان پر اور اگر ارادہ کر دوں کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَ

تو نہیں کوئی گناہ تم پر جب دے دو تم جو دینا کیا تم نے مناسب طور پر اور

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَوَّلُ ذِي

ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ یقیناً اللہ اُسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے اور وہ لوگ جو

يَتَوَقَّوْنَ مِثْلَهُ وَيَذُرُونَ آذًا جَائِئِرًا بَصْنًا بِأَنْفُسِهِنَّ

دقات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں وہ جوڑیں انتہا میں رکھیں اپنے تئیں

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَتِ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ

چار مہینہ اور دس دن) پھر جب پہنچ جاویں اپنی میعاد کو تو نہیں کوئی گناہ

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

تم پر اس بات میں جو کریں وہ متعلق اپنی جانوں کے مناسب طور پر اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم

اس کی جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس بات میں کہ اشارہ کے طور پر کہی تم

بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَيْهِ

نے جو متعلق نکاح کی درخواست کے ان (بیمہ) عورتوں سے یا پوشیدہ رکھا تم نے اپنے دلوں میں جان لیا

اللَّهُ أَنْتُمْ سَعَدُ كُرُوهْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا

اللہ نے کہ یقیناً تم ضرور ذکر کرو گے ان سے لیکن نہ سبھوتہ کر دو تم ان سے پوشیدگی میں

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ

یہ کہ کہو تم بات مناسب اور نہ پختہ کر دو تم رگہ

النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

نکاح کی یہاں تک کہ پہنچ جاوے میعاد اپنے وقت کو اور جان لو کہ یقیناً اللہ

يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

جاننا ہے جو دلوں میں ہے تمہارے پس ڈرو اس سے اور جان لو یقیناً اللہ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۳۸﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ

بست بخشے والا بردبار ہے نہیں کوئی گناہ تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو

مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَذْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا

جیکہ نہ چھوا ہو تم نے انہیں یا نہ مقرر کیا ہو تم نے ان کے لیے ہر اور

مَتَّعُوهُنَّ، عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ،

فائدہ پہنچاؤ ان کو وسعت والے پر مطابق ہے اس کے اور تنگی والے پر مطابق ہے ان کے

مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۳۹﴾ وَإِنْ

فائدہ پہنچانا ہے مناسب طور پر فرض ہے احسان کرنے والوں پر اور اگر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

طلاق دو تم انہیں پہلے اس کے کہ چھوؤ تم انہیں اور مقرر کر چکے ہو تم

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَكْفُونَ أَوْ

ان کے لیے ہر تو نصف ہے اس کا جو مقرر کیا تم نے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا

يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا

معاف کر دے وہ کہ جس کے ہاتھ میں گڑھ ہے نکاح کی اور یہ کہ معاف کر دو تم

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَإِنْ

زیادہ قریب ہے تقویٰ کے اور نہ بھولو فضیلت کو آپس میں کی یقیناً

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۴۰﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالْ

اللہ اُسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے نگہبانی کرو نمازوں پر اور

الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ﴿۲۴۱﴾ فَإِنْ

ناز درمیانی پر اور کھڑے ہو جاؤ واسطے اللہ کے فرمانبردار ہو کر پس اگر

خِفْتُمْ فَرِجًا لَا أَوْكِبَانًا، فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

خوف ہو تم کو تو (نماز پڑھو) پیادہ ہو کر یا سوار ہو کر پھر جب امن میں ہو تم تو یاد کرو اللہ کو

كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۴۲﴾ وَالَّذِينَ

جس طرح سکھایا اس نے تم کو جو نہیں تھے تم جانتے اور وہ لوگ جو

يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَذْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

دفات دیئے جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں وصیت کرتا ہے واسطے اپنی بیویوں کے

مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۲ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ

فائدہ پہنچانے کی ایک سال تک بغیر نکلانے کے پھر اگر خود نکل جاویں تو نہیں کوئی گناہ

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۲ وَاللَّهُ

تم پر اس بات میں جو کریں وہ متعلق اپنے مناسب طور پر اور اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۳۱ وَإِلَّمْ طَلَّقْتَ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۲ حَقًّا

عزت والا حکمت والا ہے اور طلاق عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے مناسب طور پر فرض ہے

عَلِ الْمُتَّقِينَ ۳۲ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

متقیوں پر اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم

تَعْقِلُونَ ۳۳ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ

عقل کرو کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور

هُمُ الْأُوفُ حَذَرًا الْمَوْتِ ۲ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ۲

وہ ہزاروں تھے ڈر سے موت کے پس فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ

ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ

پھر زندہ کیا ان کو یقیناً اللہ بہت فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن

أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۳۴ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اکثر لوگ نہیں شکر کرتے اور لڑو راہ میں اللہ کی

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۳۵ مَنْ ذَا الَّذِي يقرض

اور جان لو کہ یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جانتے والا ہے وہ شخص جو قرض دے

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۲

اللہ کو قرض اچھا تو وہ بڑھادے گا اسے اس شخص کے لیے گئے بہت سے

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۲ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۳۶ أَلَمْ تَرَ إِلَى

اور اللہ پکڑتا ہے اور بڑھاتا ہے اور طرف اس کی تم لوٹاؤ جاؤ گے کیا نہیں دیکھا تو نے طرف

الْمَلَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا
 سرداروں کی بنی اسرائیل کے بعد موسیٰ کے جبکہ کہا انہوں نے

لِنَبِيِّ لَهُمْ آيَاتٌ لَّنَا مِثْلَ آيَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ
 ایک نبی کو اپنے کے مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ کہ لڑیں ہم راہ میں اللہ کی اس نے کہا

هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا
 کیا ممکن ہے کہ اگر فرض کیا گیا تم پر لڑنا کہ نہ لڑو تم انہوں نے کہا

وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
 اور کیا وجہ ہے ہمارے لیے کہ نہ لڑیں ہم راہ میں اللہ کی حالانکہ یقیناً نکالے گئے ہیں ہم اپنے گھروں سے

وَأَبْنَاؤُنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا
 اور اپنے بیٹوں سے پھر جب فرض کیا گیا ان پر لڑنا پھر گئے وہ سوائے تھوڑوں کے

مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ
 ان میں سے اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو اور کہا ان کو نبی نے ان کے

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا آتِنَا
 یقیناً اللہ نے ضرور مقرر کیا ہے تمہارے لیے طاہر کو بادشاہ انہوں نے کہا کیونکر ہو سکتی ہے

لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
 اس کے لیے حکومت ہم پر حالانکہ ہم زیادہ مقدار میں حکومت کے بر نسبت اس کے اور نہیں دیا گیا وہ

سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
 وسعت مال کی اس نے کہا یقیناً اللہ نے برگزیدہ کیا ہے اُسے تم پر اور زیادہ کیا ہے

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ
 اُسے وسعت علم اور جسم میں اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جسے چاہتا ہے

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
 اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ یقیناً نشان حکومت کا اس کی

أَنَّ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنَ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ
 یہ ہے کہ اُسے گا تمہارے پاس تابوت جس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے اور بقیہ ہوگا

مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِيلُهُ ۗ أَلَمْ لِيكُمُ آيَاتٌ

اس کا جو چھوڑا خاندان موسیٰ اور خاندان ہارون نے اٹھائے ہوں گے اُسے فرستے یقیناً

فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّكُم مَّا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا قَصَدَ

اس میں البتہ نشان ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے پھر جب نکلا

طَاوُتُ بِالْجُنُودِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۗ فَمَن

طاوت ساتھ لشکروں کے کہا اس نے یقیناً اللہ آزمائے والا ہے تمہیں بذریعہ ایک نہر کے جس نے

شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۗ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

پیا اس سے تو نہیں ہے وہ مجھ سے اور جس نے نہ چکھا اُسے تو یقیناً وہ مجھ سے ہے

إِلَّا مَن أَغْرَقَ عُرْفَهُ بِإِذْنِ ۗ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا

سوائے اس کے جس نے ایک پلو بھرا اپنے ماتھے سے پھر پیا انہوں نے اس سے سوائے تھوڑوں کے

مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۗ قَالُوا

ان میں سے پھر جب وہ گذرا اس نہر سے وہ اور جو لوگ ایمان لائے تھے ساتھ اس کے کہا انہوں نے

لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ

نہیں طاقت ہمیں آج بمقابلہ جالوت اور اس کے لشکروں کے کہا ان لوگوں نے جو

يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلِقُوا اللَّهَ ۗ كَذَّبْتُمْ عَنْ أَصْفَائِهِ ۗ وَكُنتُمْ

یقین رکھتے تھے کہ ضرور وہ ملنے والے ہیں اللہ کو کہ کتنی ہیں جماعتیں تھوڑی سی غالب آئیں

فِيئَةً كَثِيرَةً بِأَذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَمَّا

جماعتوں بہت پر ساتھ حکم کے اللہ کے اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اور جب

بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا

وہ نکلے بمقابلہ جالوت اور اس کے لشکروں کے کہا انہوں نے اے ہمارے رب ڈال ہم پر

صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۳﴾

صبر اور مضبوط کر قدموں کو ہمارے اور مدد سے ہمیں بمقابلہ لوگوں کافروں کے

فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ ۗ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ

پس انہوں نے بھگا دیا انہیں اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور دی اُسے

۱۰۱

اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحَكِيمُ وَعَلِمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا

اللہ نے سلطنت اور حکمت اور سکھایا اُسے جو چاہا اور اگر نہ ہو

دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّتَفْسِدَ الْآرْضُ

دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بذریعہ بعض کے تو یقیناً بگڑ جاوے زمین

وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۱﴾ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ

و لیکن اللہ فضل کرنے والا ہے تمام دنیا پر یہ آیتیں اللہ کی

تَنْزِلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَلَا تَكَلِّمِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰۲﴾

ہم پڑھتے ہیں جنہیں تجھ پر ساتھ حق کے اور یقیناً تو اللہ رسولوں میں سے ہے



تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

رسول ہیں نصیحت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

بعض ان میں سے وہ ہیں کہ خوب کلام کیا (ان سے) اللہ نے اور بلند کیا ان کے بعض کو درجوں میں اور

آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ

دیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی باتیں اور تائید کی ہم نے اسکی

بِرُوحِ الْقُدُسِ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ

ساتھ روح القدس کے اور اگر چاہتا اللہ تو نہ آپس میں لڑتے وہ لوگ جو

مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ

بعد تھے ان (رسولوں) کے بعد اس کے کہ آئیں ان کے پاس کھلی کھلی باتیں و لیکن

اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ

انہوں نے اختلاف کیا پس بعض ان میں وہ ہیں جو ایمان لائے اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اگر

شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

چاہتا اللہ تو نہ آپس میں لڑتے و لیکن اللہ کرتا ہے جو

يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا

چاہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس سے جو

رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا

دیا ہم نے تم کو پہلے اس کے کہ آوے وہ دن کہ نہیں خرید و فروخت اس میں اور نہ

خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

دوستی اور نہ سفارشیں اور کافر ہی ظالم ہیں

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ

اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی خدا سوائے اس کے زندہ ہے قیوم ہے نہیں پھرتی اُسے

سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اونگھ اور نہ نیند اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا

کون ہے وہ جو سفارش کرے حضور میں اُس کے سوائے اجازت کے اس کی وہ جانتا ہے جو

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

آگے ہے ان کے اور جو پیچھے ہے ان کے اور نہیں احاطہ کرنے وہ کسی بات کا بھی

مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ

علم میں سے اس کے سوائے اُنکے جو چاہا اس نے چھائی ہوئی ہے حکومت اس کی آسمانوں

وَالْأَرْضِ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۵۱﴾

اور زمین پر اور نہیں تمکاتی اُسے حفاظت ان دونوں کی اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے

لَا يَأْكُرُهَا فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

نہیں زبردستی دین کے بارے میں (کیونکہ) یقیناً ظاہر ہو چکی ہے ہدایت بمقابل گمراہی کے

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

پس جو کفر کرے گا شیطان کا اور ایمان لائے گا اللہ پر تو یقیناً اس نے پکڑا

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

کڑا مضبوط کر نہیں ٹوٹتا جس کے لیے اور اللہ خوب سنے والا

عَلِيمٌ ﴿۲۵۲﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُخْرِجُهُم مِّنَ

خوب جاننے والا ہے اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے وہ نکالتا ہے انہیں

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ

انڈھیروں سے طرف نور کی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوست ان کے

الطَّاغُوتِ ۗ لَا يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ

شیطان ہیں وہ نکالتے ہیں انہیں نور سے طرف انڈھیروں کی

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵۳﴾ أَلَمْ

یہ لوگ ساتھی ہیں آگ کے وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں کیا نہیں

تَدْرَأِي الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ

دیکھا تو نے اس شخص کو جو جھگڑا ابراہیم سے بارے میں اپنے رب کے اس وجہ سے کہ دی اسے اللہ نے

ذقوا

الْمَلِكِ مَا ذُكِرَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ

سلطنت جبکہ کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے

قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي

اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں کہ ابراہیم نے پس یقیناً اللہ لاتا ہے

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ

سورج کو مشرق سے پس لا تو اُسے مغرب سے پس بہوت ہو گیا

الَّذِي كَفَرَءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۱﴾ ۗ

وہ جس نے کفر کیا اور اللہ نہیں ہدایت دیتا لوگوں ظالموں کو یا

كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۗ

مانند اس شخص کی جو گذرا ایک بستی پر جبکہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر

قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ ۗ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ۗ فَأَمَاتَهُ

اس نے کہا کب زندہ کرے گا اسے اللہ بعد موت کے اس کی پس موت دی اُسے

اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ قَالَ

اللہ نے سو سال پھر اُٹھایا اُسے فرمایا کتنا ٹھہراتو کہا

لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ

ٹھہرایا میں ایک دن یا حصہ دن کا فرمایا (میں) بلکہ ٹھہراتو سو

عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۗ

سال پس دیکھ طرف اپنے کھانے کی اور اپنے پینے کی نہیں سڑا وہ

وَأَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ

اور دیکھ طرف اپنے گدھے کی اور تاکہ بنا دیں ہم تجھے نشان واسطے لوگوں کے اور دیکھ

إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۗ فَلَمَّا

طرف ہڈیوں کی کہ کس طرح کھڑا کرتے ہیں ہم انہیں پھر ہم پہناتے ہیں اس پر گوشت پس جب

تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۲﴾ ۗ

کھل گیا اُس پر اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر بات پر خوب قادر ہے اور

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَدَأ

جب کہا ابراہیم نے اے رب میرے دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو فرمایا کیا

لَمْ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلٰ وَلٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ

نہیں ایمان لایا تو کہا کیوں نہیں دیکھیں تاکہ مطمئن ہو دل میرا فرمایا

فَخَذْنَا بَعْضَهُ مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ

پس لے چار پرندے پھر بلا لے انہیں اپنے ساتھ پھر رکھ

عَلٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُمُ جُزْءٌ ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَا تَيْنَكَ

ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک پھر بلا انہیں آویں گے تیرے پاس

سَعْيًا ۚ وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۱۱﴾ مَثَلُ الَّذِينَ

دوڑ کر اور جان لے کر یقیناً اللہ عزت والا حکمت والا ہے مثال ان لوگوں کی جو

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

خرچ کرتے ہیں مال اپنے راہ میں اللہ کی مانند مثال ایک دانہ کی ہے

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۚ

جس نے اگائے سات سے ہر سنبلیں سو دانہ ہے

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۱۲﴾

اور اللہ بڑھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا

وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال راہ میں اللہ کی پھر نہیں

يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۚ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

بعد میں کرتے اس کے جو خرچ کیا انہوں نے احسان جتنا اور نہ تکلیف دینا ان کے لیے اجر ہے ان کا

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۱۳﴾

پاس ان کے رب کے اور نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا

بات مناسب اور بخش دینا بہتر ہے اس صدقہ سے کہ بعد میں ہو جس کے

أَذَىٰ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تکلیف دینا اور اللہ بے پرواہ بردبار ہے۔ اسے لوگو جو ایمان لائے ہون

تُبْطَلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ

بزیاد کرو اپنے صدقے بسبب احسان جتانے اور تکلیف دینے کے مانند اس شخص کی جو خرچ کرتا ہے

مَالَهُ رِثَاءَ النَّكَاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

مال اپنا دکھانے کیلئے لوگوں کے اور نہیں ایمان لاتا اللہ پر اور روز

الْآخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ

آخر پر پھر مال اکی مانند شال کے ہے ایک پشان کی جس پر مٹی ہو پھر پیچھے اُسے

وَأَيْدٍ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا

بارش پس کر چھوڑے اُسے صاف کہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر بھی اس سے جو

كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَمَثَلُ

کائناتھی انہوں نے اور اللہ نہیں ہدایت دیتا لوگوں کافروں کو اور مثال

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ

ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال چاہنے کے لیے رضامندی اللہ کی اور

تَثْبِيثًا ۚ مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا

مضبوط کرنے کے لیے اپنے تئیں مانند شال کی ہے ایک باغ کے جو بندی پر ہو کہ پیچھے اُسے

وَأَيْدٍ فَآتَتْ أَكْطَمًا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَأَيْدٍ

بارش تو وہ سے اپنا پھل دگنا پھر اگر نہ پیچھے اُسے بارش

فَطَلَّ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۵﴾ أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ

تو شہنم ہی (سہی) اور اللہ اُسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے کیا چاہتا ہے کوئی تم میں سے

أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن تَخْيِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي

کہ ہو اس کے لیے باغ کھجوروں اور انگوروں کا بہتی ہوں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ

نیچے سے جن کے نہریں اس کیلئے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں

وَأَصَابَهُ الْخَبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا

اور پہنچے اُسے بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو کر اور پھر پہنچے اُسے

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

بجور جس میں آگ ہو پس جل جاوے اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

تمہارے لیے آیات تاکہ تم سوچ بچار کرو اے لوگو جو

آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

ایمان لائے ہو خرچ کرو پاک چیزیں جو کمائیں تم نے اور اس سے جو نکالا ہم نے

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

تمہارے لیے زمین سے اور نہ قصد کرو بڑی چیز کا اس میں سے کہ خرچ کرتے ہو تم

وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اور نہیں ہو تم ہرگز لینے والے اُسے سوائے اسکے کہ آنکھ بند کرو تم اس میں اور جان لو کہ یقیناً

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۲۱﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

اللہ بے پرواہ (اور) خوبوں والا ہے شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا اور حکم دیتا ہے تم کو

بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَ

بے حیائی کا اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا اور

اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ

اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے دیتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَ

اور جو دیا گیا دانائی تو یقیناً وہ دیا گیا خوبی بہت سی اور

مَا يَذُكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۲۳﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ

نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقلمندوں والے اور جو خرچ کر دو تم کوئی

تَفَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ مِّمَّنْ تَذَرِفَانِ اللَّهُ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا

خرچ یا نذر مانو تم کوئی نذر تو یقیناً اللہ جانتا ہے اُسے اور نہیں

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۳۵۱﴾ إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا

ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور ظاہر کرو تم صدقے تو کیا ہی اچھا ہے

هِيَ. وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

یہ اور اگر چھپاؤ تم انہیں اور دے دو وہ فقیروں کو تو یہ بہتر ہے

لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

تمہارے لیے اور وہ دُور کر دے گا تم سے برائیاں تمہاری اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو

خَيْرٌ ﴿۳۵۲﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

خوب آگاہ ہے نہیں ہے ذمہ تیرے ہدایت ان کی ویکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے

يَشَاءُ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفُسُكُمْ. وَمَا تُنْفِقُونَ

چاہتا ہے اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی مال تو تمہارے نفسوں کیلئے ہے اور نہ خرچ کرو گے تم

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ

مگر چاہنے کے لیے رضامندی اللہ کی اور جو خرچ کرو گے تم کوئی مال بڑا پورا دیا جائے گا

الْيَتَامَىٰ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۳۵۳﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ

تہیں اور تم نہیں ظلم کئے جاؤ گے (خرچ کرو) فقیروں کے لیے وہ جو

أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

روکے گئے راہ میں اللہ کی نہیں طاقت رکھتے سفر کی

الْأَرْضِ زِيحَسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءٌ مِنَ التَّعْقِيفِ.

زمین میں گمان کرتا ہے انہیں ناواقف دولت مند بسبب سوال نہ کرنے کے

تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا. وَمَا

تو پہچانتا ہے انہیں بذریعہ انکے نشان کے نہیں مانگتے وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کر اور جو

تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۳۵۴﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

خرچ کرو گے تم کوئی مال تو یقیناً اللہ اُسے خوب جاننے والا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں

أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. فَلَهُمْ

اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر تو ان کے لیے

تو پچھتا ہے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

اجر ہے ان کا پاس ان کے رب کے اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ

يَحْزَنُونَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُونَ

غمگین ہوں گے وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوتے

إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ کہ پاگل کر دیا ہو جسے شیطان نے چھو کر

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا سوائے اسکے نہیں کہ خرید و فروخت مانند سود کے ہے اور حلال کیا

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

اللہ نے خرید و فروخت اور حرام کیا سود کو پس جو شخص کہ آئی اسکے پاس نصیحت طرف سے اس

رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

کے رب کی پھر وہ باز آگیا تو اس کیلئے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا طرف ہے اللہ کی اور جس نے

عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۸﴾

دوبارہ کیا تو یہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو اور اللہ نہیں پسند کرتا

كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٍ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

کسی کفر کرنے والے گناہ گار کو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کماٹے نیک

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

اور قائم کی نماز اور دی زکوٰۃ ان کیلئے اجر ہے ان کا پاس

رَبِّهِمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۴۰﴾ يَا أَيُّهَا

انکے رب کے اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اے

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۸۹﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا

اگر ہو تم ایماندار ہیں اگر نہ کرو تم (ایسا) تو آگاہ ہو جاؤ

بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ دُؤَسٌ

لڑائی پر اللہ اور رسول سے اس کے اور اگر توبہ کرو تم تو تمہارے لیے اس المال ہیں

أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۳۹۰﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو

تمہارے نہ ظلم کرو تم اور نہ ظلم کئے جاؤ تم اور اگر ہو وہ (مقروض)

عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

تنگی والا تو صلت ہے آسانی تک اور یہ کہ خیرات کرو تم بہتر ہے تمہارے لیے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۹۱﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ

اگر ہو تم جانتے اور ڈرو ایسے دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے تم اس میں طرف

اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۹۲﴾

اللہ کی پھر لوٹا دیا جائیگا ہر نفس کو جو کمایا اس نے اور وہ نہیں ظلم کیے جاویں گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب میں دین کرو تم کسی قرض کا

أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

میعاد مقرر تک تو لکھ لیا کرو اسے اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے لکھنے والا

بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

ساتھ انصاف کے اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اُسے اللہ نے

فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

پس چاہیے کہ لکھے وہ اور چاہیے کہ لکھادے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے اور چاہیے کہ ڈرے اللہ

رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ

اپنے رب سے اور نہ کم کرے اس سے کچھ بھی پس اگر ہو وہ شخص جس کے ذمہ

الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ

حق ہے بے وقوف یا کرور یا نہ طاقت رکھتا ہو کہ لکھوائے وہ

۳۸۹

قَلِيْمًا وَّلِيْثُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاَسْتَشْهَدُ وَاَشْهَدِيْنَ

تو چاہتی کہ کھواتے مرہرست اس کا ساتھ عدل کے اور گواہ بنا لو دو گواہ

مِنْ رِّجَالِكُمْ ؕ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ

اپنے مردوں میں سے پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور

اِمْرَاَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اِنْ تَضَلَّ

دو عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے اس لیے کہ بھول جاتے

اِحْدَهُمَا فِتْنَةً يَّرٰحِدُ هُمَا الْاٰخِرٰى ؕ وَلَا يٰۤاَبَ

ایک ان میں سے تو یاد دلادے ایک ان میں دوسری کو اور نہ انکار کریں

الشُّهَدَاءِ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ

گواہ جبکہ بلائے جائیں اور نہ اکتاؤ اس سے کہ کھوتے اُسے

صَغِيْرًا وَّاَوْكَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ

تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو اس کی میعاد تک یہ زیادہ انصاف والی بات ہے نزدیک

اِلٰلٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَذْنٰى اَلَا تَدْرٰتَا بُوٰا اِلَّا

اللہ کے اور بہت قائم رکھنے والے گواہی اور زیادہ قریب ہے کہ نہ شک کرو تم سوائے

اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حٰضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ

اس کے کہ ہو تجارت ہاتھوں ہاتھ کہ پھرتے ہو تم اُسے آپس میں

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهَدُ وَاِذَا

تو نہیں تم پر کوئی گناہ کہ نہ کھوتے اُسے اور گواہ کر لیا کرو جب

تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَاِنْ

آپس میں خرید و فروخت کرو تم اور نہ نقصان پہنچایا جاوے کھنے والا اور نہ گواہ اور اگر

تَفَعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيَعْلَمُكُمْ

کرو گے تم (ایسا) تو یقیناً یہ گناہ ہے تمہارا اور ڈرو اللہ سے اور سکھاتا ہے تم کو

اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۱۰ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى

اللہ اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے اور اگر ہو تم

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

کمایا اس نے اور اس پر ہے جو کمایا اس نے اسے رب ہمارے نہ مؤاخزہ کر ہم سے

إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا

اگر بھول جاویں ہم یا غلطی کریں ہم اسے رب ہمارے اور نہ لاؤ ہم پر بوجھ

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا

جیسا کہ لا داتوںے ان لوگوں پر جو پہلے تھے ہم سے اسے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاعْفِرْ لَنَا، وَادْعُ

وہ کہ نہیں طاقت ہمیں جس کی اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہمیں اور

الرَّحْمَنَ، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٥٨﴾

رحم کر ہم پر تو آقا ہے ہمارا پس مدد کر ہماری بمقابل کافر قوم کے

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

الْمَلِكِ ﴿٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٣﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ

الف۔ لام۔ بی۔ اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی خدا مگر وہی زندہ (اور) قیوم ہے اتاری ہے اس نے تجھ پر

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ

کتاب ساتھ حق کے مصدق بنا کر اس کا جو پہلے اس کے ہے اور اتاری اس نے

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

تورات اور انجیل پہلے سے بطور ہدایت کے واسطے لوگوں کے اور

أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ

اتارا فرقان یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا ان کے لیے

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۰﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا

عذاب ہے سخت اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے یقیناً اللہ وہ ہے کہ نہیں

يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۱۱﴾ هُوَ الَّذِي

مخفی اس پر کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں وہاں ہے جو

يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

صورت بناتا ہے تمہاری رگوں میں جس طرح چاہتا ہے نہیں کوئی خدا مگر وہی عزت والا

الْحَكِيمُ ﴿۱۲﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ

حکمت والا ہے وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر وہ کتاب کہ بعض اس سے آیتیں ہیں

مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا

حکم کہ وہ اصل ہیں کتاب کی اور کچھ اور متشابہ ہیں پس

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذُرِّيَةُ فَتْيَةٍ فَيتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

وہ لوگ کہ دلوں میں جن کے کچی ہے تودہ پروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے اس کتاب

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ

سے چاہنے کے لیے فتنہ اور چاہنے کیلئے اصل مطلب اس کا حالانکہ نہیں جانتا اصل مطلب اس کا

إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۚ

مگر اللہ اور وہ جو پختہ ہیں علم میں کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر

كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۳﴾ رَبَّنَا

سب (حکم و متشابہ) پاس سے ہے ہمارے رب اور نہیں نصیحت بجز تھے مگر عقول والے (وہ کہتے ہیں) اے رب

لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ

ہمارے دل کو کبھیو دلوں کو ہمارے بعد اس کے کہ ہدایت دی تونے ہیں اور بخش ہمارے لیے جناب سے اپنی

رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۱۴﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ

رحمت یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا ہے اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کر نوا ہے تمام لوگوں کو

لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيثَاقَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ

ایک ایسے دن کہ نہیں کوئی شک اس میں یقیناً اللہ نہیں خلاف کرتا وعدہ کا ضرور

مؤلفہ علیہ السلام

وقف منزل

۱۰

الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آموالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے مال ان کے اور نہ اولاد ان کی

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝۱۱ كَذَابٍ

مقابلہ میں اللہ کے کچھ بھی اور یہ لوگ ہی ایندھن ہیں آگ کا مانند طریق

الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

فرعونوں کے اور ان لوگوں کے جو پہلے تھے ان سے جھٹلایا انہوں نے آیات کو ہماری

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۲

پس پکڑا انہیں اللہ نے سبب گناہوں کے انکے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغَلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ

تو کہہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ غفیر مغلوب کئے جاؤ گے تم اور اکٹھے کئے جاؤ گے جنم کی

وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝۱۳ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا

اور کیا ہی بُرا ہے وہ بچھونا یقیناً ہے تمہارے لئے نشان دو جماعتوں میں (جو) آپس میں ملیں

فِي تِلْكَ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَدُّنَهُم

ایک جماعت لڑتی تھی راہ میں اللہ کی اور دوسری کافر تھی وہ (مسلمان) دیکھتے تھے

مِثْلِهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ

ان (کافروں کو) دو گنا اپنے سے دیکھنا آنکھ کا اور اللہ تائید کرتا ہے ساتھ اپنی مدد کے جس کی چاہتا ہے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝۱۴ ذُرِّيَّةً لِّلنَّاسِ حُبٌّ

یقیناً اس میں ضرور عبرت ہے واسطے آنکھوں والوں کے خوبصورت کر کے دکھلائی گئی ہے لوگوں کیلئے محبت

الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

خواہشات کی یعنی عورتوں اور بیٹوں اور ڈھیروں ڈھیر

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

سونے اور چاندی کی اور گھوڑوں جو اعلیٰ قسم کے ہیں اور مویشیوں کی

وَالْحَرِثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

اور کھیتی کی یہ سامان ہے زندگی دنیوی کا اور اللہ وہ ہے پاس اس کے

حُسْنُ الْمَآبِ ۱۵ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ

اچھی لوٹنے کی جگہ ہے تو کھدے کیا آگاہ کروں میں تم کو بہتر بات پر اس سے بھی ان لوگوں کے لیے

اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

جنوں نے تقویٰ کیا پاس ان کے رب کے باغات ہیں کہ بہتی ہیں نیچے سے جن کے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ

وہ رہنے والے ہیں ان میں اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور رضامندی ہے طرف سے اللہ کی

وَاللَّهُ بِصِرَاتِ الْعِبَادِ ۱۶ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے

إِنَّا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۷

ضرور ہم ایمان لائے پس معاف کر دے ہیں گناہ ہمارے اور بچا ہیں عذاب سے آگ کے

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ

وہ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے اور فرما نہرواری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور

الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَادِ ۱۸ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

بخش مانگنے والے صبحوں کو گواہی دی اللہ نے کہ نہیں کوئی خدا مگر وہی

وَالْمَلٰئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اور فرشتوں نے اور اہل علم نے کہ قائم کرنیوالا ہے انصاف کو نہیں کوئی خدا سوائے اس کے

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۹ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَهُوَ

بڑائی والے حکمت والے کے یقیناً دین نزدیک اللہ کے اسلام ہے اور

مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیئے گئے کتاب مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

علم بسبب سرکشی کے آپس میں اور جو شخص کفر کرے گا اللہ کی آیات کا تو یقیناً اللہ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۲۰ فَإِن حَاجُّوكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ

جلد ہے حساب لینے میں پھر اگر وہ جھگڑیں تجھ سے تو کھدے میں نے سوچ دی اپنی توجہ

بَلِّغْهُ وَمَنْ اتَّبَعِنَا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
 اللہ کیلئے اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے پیروی کی میری اور نوکمرے ان لوگوں کو جو دیشے گئے کتاب اور کراہوں کو کہ

مَا أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
 کیا اسلام لائے ہو تم بھی پھر اگر مسلمان ہو جاؤ تو یقیناً ہدایت پا گئے اور اگر پھر جاؤ

فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيْرُ الْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ
 تو صرف ذمہ تیرے پہنچانا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو یقیناً وہ لوگ جو

يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ
 کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
 اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۲۲ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
 پس اطلاع دے انہیں عذاب دردناک کی یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے

أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۲۳
 اعمال جن کے دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں انکے لیے کوئی مددگار

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ
 کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کی جو دیشے گئے ایک حصہ کتاب میں سے کہ وہ بلا ہیں

إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
 طرف کتاب اللہ کے تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان انکے پھر پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے

وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۲۴ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا
 اور وہ اعراض کرنے والے ہیں یہ اسلئے ہے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں

النَّارُ إِلَّا آيَاتًا مَّا مَعْدُودَاتٍ مَّوَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ
 آگ سوائے دنوں کے گنتی کے اور دھوکہ دیا انہیں دین میں ان کے

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۲۵ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ
 اس نے جو تھے وہ افتراء کرتے پس کیا حال ہوگا جب جمع کر لیں گے ہم ان کو ایسے دن میں کہ نہیں کوئی شک

۲

فِيهِ دَرُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۹﴾

اس میں اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کیا اس نے اور وہ نہیں ظلم کئے جائیں گے

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ

تو کہے اے اللہ مالک ملک کے تو دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور

تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ

تو چھینتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تو ذلیل کرتا ہے جسے

تَشَاءُ بِرَبِّدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۰﴾

چاہتا ہے ہاتھ میں تیرے خیر ہے یقیناً تو ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو داخل کرتا

الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ

سے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور تو نکالتا ہے

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ

زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور رزق دیتا ہے

مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۱﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ

جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب نہ بناویں مومن کافروں کو

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ

دوست چھوڑ کر مومنوں کو اور جو کرے گا ایسا تو نہیں ہے وہ

مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ

اللہ کی طرف سے کسی بات (عذر) میں بھی مگر یہ کہ بچو تم ان سے بچنا اور ڈراتا ہے نہیں

اللَّهُ نَفْسَهُ دَرَالِي اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِنْ تَخَفُوا مَا

اللہ اپنے سے اور طرف اللہ کی ٹھکانا ہے تو کہے اگر بچھاؤ تم جو

فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي

سینوں میں ہے تمہارے یا ظاہر کرو تم اُسے جانتا ہے اُسے اللہ اور وہ جانتا ہے جو

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۰﴾

آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا
 جس دن پائے گا ہر نفس جو کی اس نے کوئی نیکی موجود اور جو

عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا
 کی اس نے کوئی بدی وہ چاہے گا کہ کاش ہو درمیان اس (نفس) کے اور درمیان اس (بدی) کے

بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۳۱﴾
 ناصد دور کا اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے سے اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ
 تو کہدے اگر ہو تم محبت کرنے اللہ سے تو پیروی کرو میری محبت کرے گا تم سے اللہ اور

يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۲﴾ قُلْ أَطِيعُوا
 بخش دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا تو کہدے اطاعت کرو

اللَّهِ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 اللہ کی اور رسول کی پس اگر پھر جاویں وہ تو یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا

الْكٰفِرِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ نُوْحًا وَإِبْرٰهِيْمَ
 کافروں کو یقیناً اللہ نے برگزیدہ کیا آدم کو اور نوح کو اور خاندانِ ابراہیم کو

وَالْعِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿۳۴﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ
 اور خاندانِ عمران کو تمام دنیا پر (یعنی برگزیدہ کیا اسی نسل کو کہ بعض اس کا

بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ
 بعض سے ہے اور اللہ خوب سنتے والا خوب جاننے والا ہے جب کہا بیوی نے عمران کی

رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ
 اے رب میرے یقیناً میں نے نذر کی ہے تیرے لیے جو پیٹ میں ہے میرے آزاد شدہ پس تو قبول فرما

مِنِّْي ۗ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا
 مجھ سے یقیناً تو ہی خوب سنتے والا خوب جاننے والا ہے پس جب جنائس نے اُسے

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ۗ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا
 کہا اے رب میرے تحقیق جنائس نے اسے عورت اور اللہ زیادہ جانتا ہے اے جو

وَضَعَتْهُ وَلَا تَيْسَ الذِّكْرُ كَالْأُنْثَىٰ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا

جناس نے اور نہیں ہے مرد مانند عورت کے اور یقیناً نام رکھائیں گے اس کا

مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ

مریم اور یقیناً میں پناہ دیتی ہوں اسے تیری اور اولاد کو اس کی شیطان

الرَّجِيمِ ﴿۳۷﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا

معاون سے پس قبول کیا اسے رب نے اچھے ساتھ قبولیت کے اچھی اور بڑھایا اسے بڑھانا

حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا

اچھا اور تکفل بنایا اس کا زکریا کو جب بھی داخل ہوتا اس پر زکریا

الْمِحْرَابَ وَوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرَأَتُ إِنِّي لَكِ

محراب میں پاتا یاں اس کے رزق کہتا امیریم کہاں سے ہے تیرے لیے

هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ

وہ کہتی یہ پاس سے ہے اللہ کے یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جسے

يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ

چاہتا ہے بغیر حساب کے وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ

اے رب میرے عطا کر مجھے اپنی جناب سے اولاد پاک یقیناً تو خوب سنتے والا

الدُّعَاءِ ﴿۳۹﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي

ہے دعا کا پس پکارا اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا

الْمِحْرَابِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْشُرُكَ بِبِخْيٍ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ

محراب میں کہ یقیناً اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے بیخچی کی (جو) تصدیق کو نبوالا ہے ایک کلمہ کی

مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا أَحْسَبُ وَأَوْنِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۰﴾ قَالَ

طرف سے اللہ کی اور سردار ہے اور بدلوں سے رکنے والا ہے اور نبی ہے (اور) نبیوں میں سے ہے کہا

رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي

اے رب میرے بچوں کو ہوگا میرے لڑکا جبکہ یقیناً پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا اور بیوی میری

عَاقِرَةٌ قَالَتْ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ رَبِّ

بانجھ سے فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس نے کہا اے رب میری

اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَتْ آيَتُكَ أَلا تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ

بنا میرے لیے کوئی نشان فرمایا نشان تیرا ہے کہ نہ بولے گا تو لوگوں سے تین

أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَاذْكُرَّ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ

دن مگر اشارہ سے اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام

وَاللَّيْلِ إِذَا يَحْكُرُ ﴿۳۲﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤَانِ اللَّهُ

اور صبح اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم یقیناً اللہ نے

اصْطَفَيْكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَيْكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾

چُن لیا ہے تجھے اور پاک کیا ہے تجھے اور برگزیدہ کیا ہے تجھے عورتوں پر تمام دنیا کی

يَمْرُؤًا قُنِّي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَادْكِعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۳۴﴾

اے مریم فرمانبردار ہو جا اپنے رب کے لیے اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ

یہ خبروں سے ہے غیب کی ہم وحی کرتے ہیں جسے طرف تیری اور نہیں تھا تو

لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

پاس ان کے جب ڈالتے تھے وہ تمہیں اپنی رکوع ان میں سے متکفل ہو مریم کا

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۵﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ

اور نہ تھا پاس ان کے جب جھگڑتے تھے وہ اور جب کہا فرشتوں نے

يَمْرُؤَانِ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ بِاسْمِ الْمَسِيحِ

اے مریم یقیناً اللہ بشارت دینے والا ہے تجھے ایک کلمہ کی اپنی طرف سے نام جس کا مسیح

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ

عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے وجاہت والا دنیا میں اور آخرت میں اور

الْمُقَرَّبِينَ ﴿۳۶﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمَنْ

مقربین میں سے ہے اور کلام کرے گا لوگوں سے پنجموڑے میں اور ادھیڑ ہو کر اور

الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ رَبِّ اَتَىٰ يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ

نیکیوں میں سے کہا اس نے اے رب میرے کیونکر ہوگا میرے لیے بچہ حالانکہ میں چھوٹی تھی

بَشْرًا قَالْ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰى

کسی انسان نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے

اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۲۶﴾ وَاَيُّعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ

کسی معاملہ کا تو صرف کہتا ہے اُسے ہو جائیں وہ ہو جاتا ہے اور کھائے گا اُسے کھنا

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰتَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿۲۷﴾ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِي

اور حکمت اور تورات اور انجیل اور رسول ہوگا طرف بنی

اِسْرٰءِيْلَ ؕ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ لَا اِنِّيْ

اسرائیل کی کہیقیناً میں ضرور لایا ہوں تمہارے پاس نشان طرف سے رب کے تمہارے کہ یقیناً

اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفَخْتُ فِيْهِ

میں بناتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے مانند شکل پرند کی پھر پھونکتا ہوں اس میں

فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاُبْرِيْ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَا

پھر ہو جاتا ہے اُڑنے والا ساتھ اذن کے اللہ کے اور تندرست کرتا ہوں نابینا کو اور برص والے کو اور جو

اٰحْيَا الْمَوْتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاَنْتُمْ كُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَاَمَّا

زندہ کرتا ہوں مردوں کو ساتھ حکم اللہ کے اور بتاتا ہوں تمہیں جو کھاتے ہو تم اور جو

تَدَّخِرُوْنَ لٰفِيْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰيَةً لِّكُمۡ اِنْ

ذخیرہ بناتے ہو تم اپنے گھروں میں یقیناً اس میں آیتہ نشان ہے تمہارے لیے اگر

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۸﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰتَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ

ہو تم مومن اور مصدق ہوں اس کا جو پہلے ہے میرے یعنی

التَّوْرٰتِ وَاَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ لَظٰلِمِيْنَ اَلَّذِيْنَ

تورات اور تاکہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کیا گیا تم پر اور

جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْٓا اٰمِرًا

لایا ہوں تمہارے پاس نشان طرف سے تمہارے رب کی پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری

مِّنْ اٰمِرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْٓا اٰمِرًا

میں سے ایک امیر سے تمہارے رب کی پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
 یقیناً اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا پس عبادت کرو اس کی راہ

مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۲﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ
 سیدھی ہے پس جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان کی کفر کہا کون ہیں

أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِجُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
 مددگار میرے طرف اللہ کی کہا خواریجوں نے ہم مددگار ہیں اللہ کے

أَمَنَّا بِاللَّهِ ، وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ﴿۵۳﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا
 ایمان لائے ہم اللہ پر اور تو گواہ رہ کر یقیناً ہم مسلمان ہیں اے رب ہمارے ایمان لائے ہم آپ پر

أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۴﴾ وَ
 جو اتار تو نے اور پیروی کی ہم نے رسول کی پس کھولے ہمیں ساتھ گواہی دینے والوں کے اور

مَكَرُوا وَمَكَدَ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ﴿۵۵﴾ إِذْ قَالَ
 تدبیر کی انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے اور اللہ بہتر ہے تدبیر کرنے والوں سے جب کہا

اللَّهُ يُعِيسِي إِيَّايَ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ
 اللہ نے اے عیسیٰ یقیناً میں وفات دینے والا ہوں تجھے اور مقرب کر نیوالا ہوں تجھ اپنی طرف اور پاک کر نیوالا ہوں تجھے

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
 ان لوگوں کے (ازموں) سے جنہوں نے کفر کیا اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری غالب

الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ لِيَّ مَرْجِعُكُمْ
 ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا روز قیامت پھر طرف میری لوٹتا ہے تمہارا

فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَمَّا
 پس فیصلہ کرونگا تمہارا درمیان تمہارے اس میں کہ تھے تم جس میں اختلاف کرتے پس وہ لوگ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا
 جنہوں نے کفر کیا تو عذاب دوں گا اسے عذاب سخت دنیا میں

وَالْآخِرَةِ زِمًا لَهُمْ مِنْ نَصْرَيْنَ ﴿۵۷﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 اور آخرت میں اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار اور وہ لوگ جو ایمان لائے

وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

اور کیں نیکیاں تو پورا دے گا انہیں اجر ان کا اور اللہ نہیں پسند کرتا

الظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾ ذَلِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ

ظالموں کو یہ وہ ہے کہ پڑھتے ہیں ہم جسے تجھ پر یعنی آیات اور نصیحت

الْحَكِيمِ ﴿۵۹﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ

حکمت وال یقیناً مثال عیسیٰ کی نزدیک اللہ کے مانند مثال آدم کے ہے پیدا کیا اُسے

مِّن تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۶۰﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ

مٹی سے پھر کہا اُسے ہو جا تو وہ ہو گیا (یہاں حق ہے طرف سے رب کی تیرے

فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُضْتَرِّينَ ﴿۶۱﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ

پس نہ ہو تو شک کرنے والوں سے پھر جو جھگڑے تجھ سے اس بارے میں بعد

مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ

اگے کو آیا تیرے پاس علم تو کہدے آؤ ہم بلاویں اپنے بیٹوں کو اور

أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ

تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے لوگوں اور تمہارے لوگوں کو پھر

نَبْتَهُمْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿۶۲﴾ إِنَّ هٰذَا

گرو گواہی پھر کریں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر ضرور یہ

لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِن إِلٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ

البتہ یہی بیان ہے سچا اور نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے اور یقیناً اللہ

لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۳﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

البتہ وہی بڑا ہی والا حکمت والا ہے پس اگر پھر جاویں تو یقیناً اللہ خوب جاننے والا

بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۶۴﴾ قُلْ يَا هٰدِیْٓ اِلٰی کَلِمَةٍ

ہے مفسدوں کو تو کہدے اے اہل کتاب آؤ طرف ایک بات کی

سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ

جو برابر ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے یہ کہ نہ عبارت کریں ہم مگر اللہ کی اور نہ شریک بناویں ہم

بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
 ساتھ اس کے کسی کو اور نہ بناے بعض ہمارا بعض کو رب سوائے

اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۵﴾
 اللہ کے پس اگر وہ پھر جاویں تو کہو کہ گواہ رہو کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتْ
 اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم بارے میں ابراہیم کے حالاکہ نہیں اتاری گئی

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۶﴾
 تورات اور انجیل مگر بعد اس کے کیا پھر بھی نہیں عقل کرتے تم

هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ
 دیکھو تم ایسے لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو تم اس بات میں کہ تمہیں اس کا علم ہے پس کیوں

تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؕ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 جھگڑتے ہو تم اس بات میں کہ نہیں ہے تمہیں اس کا علم اور اللہ جانتا ہے اور

أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۷﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا
 تم نہیں جانتے نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ

نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ
 عیسائی ولیکن تھا موحد فرمانبردار اور نہ تھا وہ

الْمُشْرِكِينَ ﴿۶۸﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ
 مشرکوں میں سے یقیناً سب سے قریب لوگوں میں سے ابراہیم کے بتو وہ لوگ ہیں جنہوں

اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ؕ وَاللَّهُ وَرِيُّ
 نے پیروی کی اس کی اور یہ نبی ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ دوست ہے

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۹﴾ وَذَاتِ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
 مومنوں کا چاہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہ کاش

يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۷۰﴾
 گمراہ کردیں تجھے حالانکہ نہیں گمراہ کرتے وہ مگر اپنے تئیں محسوس کرتے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ

اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم آیات کا اللہ کی اور تم

تَشْهَدُونَ ﴿۴۱﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ

گو اہی دیتے ہو اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو تم حق کو

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَقَالَتْ

ساتھ باطل کے اور چھپاتے ہو تم حق کو حالانکہ تم جانتے ہو اور کہا

طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ

ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ان

الَّذِينَ آمَنُوا وَاجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا بآخِرَهُ لَعَلَّهُمْ

لوگوں پر جو ایمان لائے شروع میں دن کے اور انکار کر دے آخر میں اس کے تاکہ وہ

يَرْجِعُونَ ﴿۴۳﴾ وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ

(مسلمان بھی) لوٹ آویں اور نہ ایمان لانا مگر اس پر جس نے پیروی کی دین کی تمہارے تو کہہ دے

إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ۚ إِنَّ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا

یقیناً ہدایت تو ہدایت اللہ کی ہے یہ کہ دیا جائے کسی کو جیسا کہ

أَوْ تَبِعْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ

دیئے گئے تم یا جھگڑیں وہ تم سے پاس رب کے تمہارے تو کہہ دے یقیناً فضل ہاتھ میں ہے

اللَّهِ ۚ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۴۴﴾ اِيخْتَصَّ

اللہ کے وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے خاص کرتا ہے

بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۴۵﴾ وَ

ساتھ رحمت کے اپنی جسے چاہتا ہے اور اللہ فضل والا ہے بڑے اور

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ ۚ

بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس بہت سامان وہ ادا کر دے گا اُسے تیری طرف

وَمِنْهُمْ مَّن إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا

اور بعض ان کے ایسے ہیں کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ایک دینار نہیں ادا کرے گا وہ اُسے تیری طرف مگر

مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ

جبکہ رہے تو اس کے سر پر کھڑا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے

عَلَيْنَا فِي الْأَمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

ہم پر کہ والوں (عربوں) کے بارے میں کوئی الزام اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۶۷﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ

اور وہ جانتے ہیں ہاں کیوں نہیں جس نے پورا کیا عہد اپنا اور تقویٰ کیا تو یقیناً

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۶۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ

اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو یقیناً وہ لوگ جو خریدتے ہیں بدلے عہد کے

اللَّهُ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ

اللہ کے اور اپنی قسموں کے مول تھوڑا یہ لوگ وہ ہیں کہ نہیں کوئی حصہ ان کے لیے

فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

آخرت میں اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ اور نہ دیکھے گا طرف ان کی

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۹﴾

بروز قیامت اور نہ پاک ٹھہرائے گا انہیں اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَسْنَتَهُمْ بِالْأَيْدِي

اور یقیناً ان میں سے ایک فریق ہے وہ موڑتے ہیں زبانیں اپنی ساتھ کتاب کے

لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۚ

تاکہ گمان کرو تم اُسے کتاب میں سے حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب میں سے اور

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ

وہ کہتے ہیں کہ وہ پاس سے ہے اللہ کے حالانکہ نہیں ہے وہ پاس سے اللہ کے

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾ مَا

اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں نہیں

كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

ہے کسی انسان کیلئے کہ دے اُسے اللہ کتاب اور حکم اور

النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ

نبوت پھر وہ کہے لوگوں کو کہ ہو جاؤ میرے بندے سوائے

اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ

اللہ کے (وہ کہیں گے) ہو جاؤ رب والے اس لیے کہ ہو تم سکھاتے

الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَا يَا مُرَكَّمُ

کتاب اور اس لیے کہ ہو تم پڑھتے اور نہیں حکم دیتا وہ تم کو

أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ

کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب کیا وہ حکم دے سکتا ہے

بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۶﴾ وَإِذْ أَخَذَ

تم کو کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو اور جب یا

اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ

اللہ نے وعدہ نبیوں سے اللہ وہ جو دی ہے میں نے تم کو کتاب اور

حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ

حکمت پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو پاس ہے تمہارے

لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَاتَّقُوا رَبَّ لَقَدْ أَقْرَبْتُمْ وَأَخَذْتُمْ

اللہ ضرور ایمان لاؤ گے تم اس پر اور اللہ ضرور مدد کر دے تم فرمایا کیا اقرار کیا تم نے اور یا تم نے

عَلَىٰ ذَلِكُمْ أَصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَبْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا

اس پر عہد میرا کہا انہوں نے اقرار کیا ہم نے فرمایا پس گواہ رہو

وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۷﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ

اور میں ساتھ تمہارے گواہوں میں سے ہوں پس جو پھر گیا بعد

ذَلِكَ فَادْرِئْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۸۸﴾ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ

اس کے تو یہ لوگ ہی فاسق ہیں کیا پھر اللہ کے دین کے غیر کو

يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا

وہ چاہتے ہیں حالانکہ اسی کے فرمانبردار ہوئے وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں خوشی سے

وَكَذَرْنَا قُلُوبَهُمْ لِيُزْجِعُونَ ﴿۸۴﴾ قُلْ أَمَّا بِلَهِ وَمَا

اور مجبوراً اور ظن اسکی وہ لوٹائے جائیں گے تو کدے ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر

أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ

جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابراہیم پر اور اسمعیل پر اور

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ

اسحق پر اور یعقوب پر اور (اسکی) اولاد پر اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور

عِيسَىٰ وَالنَّبِيِّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُنْفِركُ بَيْنَ أَحَدٍ

عیسیٰ کو اور نبیوں کو طرف سے انکے رب کی نہیں ہم فرق کرتے ہیں درمیان کسی کے

مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۵﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ

ان میں سے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں اور جو چاہے سوائے

الْإِسْلَامِ كَ الَّذِي نَفَسْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

اسلام کے کوئی دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ آخرت میں

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۸۶﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا

ناکاموں میں سے ہوگا کیوں کر ہدایت دے گا اللہ کسی قوم کو (جنہوں نے) کفر کیا

بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ

بعد اپنے ایمان کے اور گواہی دی تھی انہوں نے کہ یقیناً رسول سچا ہے اور

جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾

آئے ان کے پاس دلائل اور اللہ نہیں ہدایت دیتا لوگوں ظلم کرنے والوں کو

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمَ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

یہ لوگ وہ ہیں کہ بدلہ ان کا یہ ہے کہ یقیناً ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۸۸﴾ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ

اور لوگوں سب کی رہ پڑنے والے ہیں اس میں نہیں ہلکا کیا جائے گا

عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۸۹﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

ان سے عذاب اور نہ وہ ہلکتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۰﴾

بعد اس کے اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ إِذَا دُؤُوا

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے پھر بڑھ گئے

كُفْرًا لَّن تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُونَ ﴿۹۱﴾

کفر میں ہرگز نہیں قبول کی جاوے گی توبہ ان کی اور یہ لوگ ہی گمراہ ہیں

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دَمَاءُ مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفْرًا قَلَن يُقْبَلَ

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے ایسے حال میں کہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہیں قبول کیا جائیگا

مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ

کسی سے ان میں سے برابر زمین کے سونا اور اگرچہ وہ فدیہ میں دے اسے

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصْرِيحٍ ﴿۹۲﴾

یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور نہیں ان کیلئے کوئی مددگار

لن تنالوا

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ
 ہرگز نہیں پاؤ گے تم نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو تم اس سے جو تم پسند کرتے ہو

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾
 اور جو خرچ کرو تم کوئی چیز تو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا
 ہر کھانا تھا حلال واسطے بنی اسرائیل کے سوائے اُس کے جو

حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ
 حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس پر پہلے اس کے کہ اتاری جائے

التَّوْرَةِ ۚ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ
 تورات تو کہدے پس لاؤ تورات پھر پڑھو اسے اگر ہو تم

صَادِقِينَ ﴿۱۳﴾ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكِبْرَ مِنْ بَعْدِ
 سچے پس جس نے بانڈھا اللہ پر جھوٹ بعد

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۴﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ
 اس کے تو یہ لوگ ہی ظالم ہیں تو کہدے سچ کا اللہ نے

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
 پس پیروی کرو مذہب کی ابراہیم موحد کی اور نہ تھا وہ

المُشْرِكِينَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 مشرکوں میں سے یقیناً پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کیلئے البتہ وہ ہے جو

بِبَعَّةِ مَبْرَكًا وَهُدًى ۚ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
 مکہ میں ہے برکت والا اور ہدایت ہے واسطے تمام دنیا کے اس میں نشان ہیں کھلے کھلے

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَرَبُّهُ عَلَى
 (نشان) مقام ابراہیم ہے اور جو داخل ہوا اس میں ہوا امن والا اور واسطے اللہ کے ہے

النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ مِمَّنْ اسْتِطَاعَ ۗ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ
 لوگوں کے حج کرنا خانہ کعبہ کا جسے طاقت ہو طرف اس کی راہ کی اور جس نے

بیت المقدس

كَفَرَفَاتٍ اللَّهُ عَنِّي عَنِ الْخَلْمِينَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ

کفر کیا تو یقیناً اللہ بے پرواہ ہے تمام دنیا سے تو کدے اہل

الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ

کتاب کیوں کفر کرتے ہو آیات کا اللہ کی اور اللہ دیکھنے والا ہے اُسے جو

مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَن

تم کرتے ہو تو کدے اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو

سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ تَبَغُّوهَا عَوْجًا ۖ وَأَنْتُمْ

راہ سے اللہ کی اُسے جو ایمان لایا تم چاہتے ہو اس (راہ) کو ٹیڑھا اور تم

شُهَدَاءُ ۖ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا

جانتے ہو اور نہیں ہے اللہ ہرگز غافل اس سے جو تم کرتے ہو اے

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيضًا مِّنَ الَّذِينَ أَدُّوا

لوگو جو ایمان لائے ہو اگر اطاعت کر دو تم کسی فریق کی ان لوگوں میں سے جو دیئے گئے

الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۰۱﴾ وَكَيْفَ

کتاب پھر کروں گے تم کو بعد ایمان لانے کے تمہارے کافر اور کیونکر

تَكْفُرُونَ ۖ وَأَنْتُمْ تُثَلِّىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ

تم کفر کرتے ہو اور جبکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ کی اور تم میں

رَسُولُهُ ۖ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدِ هَدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ

رسول ہے اس کا اور جو مضبوط پکڑے اللہ کو تو یقیناً اُسے ہدایت دی گئی طرف راہ

مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

سیدھی اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے حق اُسکے ڈرنے کا

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَاعْتَصِمُوا

اور نہ مرنا تم مگر جبکہ تم مسلمان ہو اور مضبوط پکڑو

بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ

رسی اللہ کی سب کے سب اور نہ تفرق ڈالو اور یاد کرو نعمت

تاریخ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

اللہ کی اپنے پر جبکہ تھے تم دشمن پھر اُلفت ڈال درمیان دلوں کے تمہارے

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ

پھر ہو گئے تم بسبب نعمت کے اس کی بھائی بھائی اور تھے تم کنارہ پر گڑھے کے

مِنَ النَّارِ فَإِنَّكَ كُمْ مِّنْهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

آگ کے پھر اس نے بچایا تم کو اس سے اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَ لَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

جو بلاویں طرف بھلائی کے اور حکم کریں مناسب بات کا اور روکیں

عَنِ الْمُنْكَرِ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَا تَكُونُوا

نامناسب بات سے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں اور نہ ہو جاؤ

كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

مانند ان لوگوں کے جنہوں نے تفرق کیا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ آئیں ان کے پاس

الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۵﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ

کھلی کھلی باتیں اور یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے بڑا جس دن سفید ہوں گے

وُجُوهُهُمُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُهُ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ

کچھ چہرے اور سیاہ ہونگے کچھ چہرے پس وہ لوگ کہ سیاہ ہوتے

وُجُوهُهُمُ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا

چہرے جن کے رانہیں کہا جاویگا کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان لانے کے پس چھو

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۰۶﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ

عذاب اس لیے کہ تھے تم کفر کرتے اور وہ لوگ کہ سفید ہوتے

وُجُوهُهُمُ فَبِئْسَ رَحْمَةً اللَّهُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰۷﴾ تِلْكَ

چہرے جن کے تو رحمت میں ہوں گے اللہ کی وہ اس رحمت میں رہ پڑنے والے ہیں

آيَةُ اللَّهِ نَعَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

آیت میں اللہ کی بڑھتی ہیں ہم نہیں تجھ پر ساتھ حق کے اور نہیں اللہ چاہتا ظلم کرنا

لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۱﴾ وَرَبُّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَىٰ

واسطے دنیا کے اور اللہ کیسے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور طرف

اللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۹۲﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

اللہ کی لوٹائے جاویں گے معاملات ہو تم بہترین امت جو نکالی گئی لوگوں کے لیے

تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

محکم کرتے ہو تم مناسب بات کا اور روکتے ہو نامناسب بات سے اور ایمان لاتے ہو

بِاللَّهِ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مِنْهُمْ

اللہ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ضرور ہوتا بہتر ان کے لیے بعض ان میں سے

الْمُؤْمِنُونَ، وَكَثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۹۳﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ

مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکیں گے تم

إِلَّا أَذَىٰ، وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمْ، أَلَا تَذَكَّرُونَ

مگر تکلیف دہ بات نہ کی اور اگر لڑیں گے تم سے تو پھیر دیں گے طرف تمہاری پیٹھیں پھر نہیں

يُنصَرُونَ ﴿۹۴﴾ ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا

وہ مرد دیئے جاویں گے ماری گئی ان پر ذلت جہاں کہیں یاٹے جاویں گے وہ

إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبِيلٍ مِنَ النَّاسِ، وَبَاءَ وَبَعَضٍ

مگر ساتھ رسی کے اللہ کی اور رسی کے لوگوں کی اور لوٹے ساتھ غضب کے

مِّنَ اللَّهِ، وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

اللہ کے اور ماری گئی ان پر مسکنت یہ اس لیے ہے کہ

كَانُوا يَكْفُرُونَ، بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ

وہ تھے کفر کرتے آیت کا اللہ کی اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر

حَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۹۵﴾ لَيْسُوا

حق کے یہ اس لیے ہے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور تھے وہ حد سے بڑھتے نہیں ہیں وہ

سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ

برابر رکھیں گے اہل کتاب میں سے ایک گروہ قائم ہے پڑھتے ہیں آیات

اللَّهِ أَنْتَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ

اللہ کی قدرت میں رات کے اور وہ سجدہ کرتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور

الْيَوْمِ وَالْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

روز آخر پر اور حکم دیتے ہیں مناسب بات کا اور روکتے ہیں

الْمُنْكَرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ

نامناسب بات سے اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں اور یہ لوگ

الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ

نیکیوں میں سے ہیں اور جو بھی کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز نہیں انکار کیا جاوے گا ان کے ہر کام

اللَّهُ عَالِمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي

اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقیوں کا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے

عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ

ان سے مال ان کے اور نہ اولاد ان کی بمقابل اللہ کے کچھ بھی اور

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۶﴾ مَثَلُ

یہ لوگ ہیں آگ والے وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں مثال اسکی

مَا يَنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ

جو وہ خرچ کرتے ہیں اس زندگی درلی میں مانند شمال ہوا کی ہے

فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

جس میں بگولا ہو جو پہنچا کھیتی کو ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر

فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ

پس اس نے ہلک کر دیا اسے اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ اپنی جانوں پر

يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً

خود ظلم کرتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ دلی دوست

مَنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُو نَكُمْ حَبَالًا وَذَوَا مَا عَنِتُّمْ قَدْ

اپنے غیروں کو نہیں وہ کمی کرتے خرابی میں وہ چاہتے ہیں تو تکلیف میں ڈالے تمہیں یقیناً

بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ

ظاہر ہو چکی ہے دشمنی منوں سے ان کے اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے ان کے

أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۸۱﴾

بہت بڑا ہے یقیناً ہم نے کھوکھریاں کر دیں تمہارے لیے آیات اگر ہو تم عقل کرتے

هَآئِنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ

دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم محبت کرتے ہو ان سے اور نہیں محبت کرتے وہ تم سے اور تم ایمان لاتے ہو

بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذْ الْقُوكُمُ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا

مب کتابوں پر اور جب وہ ملتے ہیں تم سے کہتے ہیں ایمان لائے ہم اور جب اکیلے ہوتے ہیں

عَضُوا عَلَيْكُمْ لَا تَأْمَلُ مِنَ الْعَظِيمِ قُلْ مُؤْتُوا

کاتتے ہیں تم پر پورے عرصے سے تو کہہ مر جاؤ

بِعَظِيمِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۸۲﴾

اپنے عرصے میں یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو اگر

تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ

پہنچے تم کو بھلائی بُری لگتی ہے انہیں اور اگر پہنچے نہیں بُرائی (دُکھ)

يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبرُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ

خوش ہوتے ہیں اس پر اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو نہیں نقصان پہنچا دے گی تم کو

كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۸۳﴾

تدبیر ان کی کچھ بھی یقیناً اللہ اُسے جو دہ کرتے ہیں گھرنے والا ہے اور جب

عَدُوَّتَ مَنْ أَهْلِكَ تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ

صبح کو نکلا تو اپنے گھر والوں سے جگہ بتاتا تھا مومنوں کو بیٹھنے کی جگہیں

لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۴﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتٌ

لڑائی کی اور اللہ خوب سنتے والا خوب جاننے والا ہے جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے

مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ

تمہیں سے کردہ پھسل جاویں اور اللہ دوست تھا ان کا اور اللہ پر

فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۴۳﴾ ۙ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ

پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن اور یقیناً یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں

وَ اَنْتُمْ اَخْلَاۗءُ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۴۴﴾ اِذْ

جب تم ذلیل تھے پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر کرو جب

تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمَدِّدَ بِكُمْ

تو کہتا تھا مومنوں کو کیا ہرگز نہیں کافی ہوگا تمہیں کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا

بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿۱۴۵﴾ ۙ بَلٰۤى اِنَّ

ساتھ تین ہزار فرشتوں اتارے ہوؤں کے کیوں نہیں اگر

تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا ۙ اَيَّا تُوْكُّم مِّنْ قُوْرِهِمْ هٰذَا

تم صبر کرو اور تقویٰ کرو اور (کافر) آدمی تمہارے پاس اپنے اسی جوش سے تو

يُمَدِّدْكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا ساتھ پانچ ہزار فرشتوں

مُسَوِّمِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ ۙ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ ۗ

نشان لگانے والوں کے اور نہیں بنایا اس فرشتوں کی مدد کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے اور

لَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ

تاکہ مطمئن ہو جاویں دل تمہارے اس پر اور نہیں مدد مگر پاس سے

اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱۴۷﴾ ۙ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ

اللہ عزت والے حکمت والے کے تاکہ کاٹ دے وہ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے

كَفَرُوْا ۙ اَوْ يَكْبِتُوْهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خٰٓئِبِيْنَ ﴿۱۴۸﴾ ۙ لَيْسَ

کفر کیا یا ہلاک کر دے انہیں پس لوٹ جاویں وہ ناکام نہیں ہے

لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ۗ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ

تیرے لیے اس معاملہ میں سے کچھ بھی خواہ فضل سے تو جو فرمائے وہ ان پر خواہ عذاب دے انہیں

۴۱

فَاتَّهُمْ ظَلِيمُونَ ﴿۳۱﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

اس لیے برحقاً وہ ظالم ہیں اور اللہ کیلئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو

الْاَرْضِ ، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ، وَاللّٰهُ

زمین میں ہے وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ

خَفِوۡدٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا

بیت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اسے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ

الرِّبَاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

سُودُ دُغَى دُغَى دُغَى اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم

تُفْلِحُونَ ﴿۳۳﴾ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾

کامیاب ہو اور ڈرو آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے

وَ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَ

اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم رحم کئے جاؤ اور

سَارِعُوۡا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا

جلدی کرو طرف بخشش کی اپنے رب سے اور جنت کی طرف کہ چوڑائی اس کی

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا يُعَدُّتْ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۶﴾ الَّذِيْنَ

آسمان اور زمین ہیں وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے وہ جو کہ

يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكُظُمِيْنَ الْغَيْظِ وَ

خرچ کرتے ہیں فراخی میں اور تنگی میں اور پی جانے والے ہیں غصہ اور

الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ، وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۷﴾

درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے اور اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوۡا اَفْحٰشَةً اَوْ ظَلَمُوۡا اَنْفُسَهُمْ

اور وہ جو کہ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی بے حیائی یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر

ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاَسْتَغْفَرُوۡا لِذُنُوْبِهِمْ ، وَ مَن يَغْفِرْ

تو یاد کرتے ہیں اللہ کو پس بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اور کوئی نہیں بخشتا

الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ تَدَّ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا ۗ

گناہوں کو سوائے اللہ کے اور نہیں اڑھاتے وہ اس پر جو کیا انہوں نے اور

مُمْيَعَلَمُونَ ﴿۱۳۶﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ

وہ جانتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ بدلہ ان کا بخشش ہے طرف سے

رَبِّهِمْ وَجَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

رب کے انکے اور باغات ہیں کہ بہتی ہیں نیچے سے ان کے نہریں رہ پڑنے والے ہیں۔

فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۱۳۷﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

ان میں اور کیا ہی اچھا ہے اجر کام کرنے والوں کا یقیناً گزر چکے ہیں پہلے تم سے

سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

طریقے پس چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کیا ہوا

عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۳۸﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى

انجام جھٹلانے والوں کا یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَلَا تَهْنُؤُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۗ

اور وعظ ہے متقیوں کے لیے اور نہ سست ہو تم اور نہ غمگین ہو اور

أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۰﴾ إِنْ يَمَسُّكُمْ

تم غالب آنے والے ہو اگر ہو تم مومن اگر پہنچے ہیں تم کو

قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ

زخم تو یقیناً پہنچتے ہیں دشمن لوگوں کو زخم ویسے ہی اور یہ دن وہ ہیں کہ

نُذِرُوا لَهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

باری باری سے لاتے ہیں ہم انہیں درمیان لوگوں کے اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۱﴾ ۗ

اور تاکہ بنا دے تم میں سے شہید اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو اور

لِيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۴۲﴾ ۗ

تاکہ خاص کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو کیا

حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

گان کیا تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو

جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ

جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور نہیں جانا صبر کرنے والوں کو اور یقیناً تھے تم

تَمَتُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدَرْنَا يَوْمَهُ

تتم کرتے موت کی پہلے اس کے کہ ملو تم اُسے پھر یقیناً دیکھو یہ تم نے اُسے

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ

اور تم دیکھ رہے تھے اور نہیں محمد مگر رسول ضرور گذر چکے ہیں

مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

پہلے اس کے سب رسول کیا پھر اگر مر جائے وہ یا مارا جائے تو پھر جاؤ گے تم

أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ

اپڑیوں پر اپنی اور جو پھرے گا اپڑیوں پر اپنی تو ہرگز نہیں نقصان دیگا

اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَمَا كَانَ

اللہ کو کچھ بھی اور عنقریب بدلے گا اللہ شکر کرنے والوں کو اور نہیں ہے

لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ كَتَبْنَا مُوَدَّتَهُ ۚ وَمَنْ

واسطے کسی نفس کے کہ مر جائے بغیر اجازت کے اللہ کی نوشت ہے میعاد اور جو

يُرِدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ

چاہے گا بدلہ دُنیا کا ہم دیں گے اسے اس سے اور جو چاہے گا بدلہ

الْآخِرَةِ ۚ كَمَا نَسَخْنَا مَا كَانَ مِنَ الْبَيْتِ لِنَبِيِّ قَتَلَ

آخرت کا ہم دینگے اسے اس سے اور عنقریب ہم بدل دیں گے شکر کرنے والوں کو اور کتنے

مَنْ تَبَى قَتَلَ ۚ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا

ہی نبی تھے لڑائی کی ساتھ دل کر، اسکے اللہ والوں بہتوں نے پھرتے گزور ہوئے وہ بسبب اس

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَ

مضببیت کے جو پہنچے انہیں راہ میں اللہ کی اور نہ ضعیف ہوئے اور نہ عاجز ہوئے اور

۱۳۳

اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۶﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا

اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو اور نہ تھی بات ان کی مگر یہ کہ کہا انہوں نے

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ

اے رب ہمارے معاف فرما ہمیں گناہ ہمارے اور زیادتی ہماری اپنے معاملے میں اور ثابت رکھ

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۴۷﴾ فَأَثَمَهُمُ اللَّهُ

تدم ہمارے اور مدد دے ہمیں بمقابل لوگوں کفر کرنے والوں کے پس دیا انہیں اللہ نے

ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ

بدل دنیا کا اور اچھا بدل آخرت کا اور اللہ پسند کرتا ہے

الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا

محسنوں کو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر اطاعت کرو تم

الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُدْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں ایڑیوں پر تمہاری پھر ہو جاؤ گے تم

خَسِرِينَ ﴿۱۴۹﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۵۰﴾

ناکام بلکہ اللہ آقا ہے تمہارا اور وہ بہتر ہے تمام مددگاروں سے

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا

عزیز ڈالیں گے ہم دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا رعب اس لیے کہ

أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَا ذُهُمُ

شریک کیا انہوں نے ساتھ اللہ کے اسے کہ نہیں اتاری (اللہ نے) اس پر کوئی دلیل اور ٹھکانا ان کا

التَّارُودِ وَيَسَسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ

اگ ہو گا اور کیا ہی بُرا ہے ٹھکانا ظالموں کا اور یقیناً یقیناً سچا کر دیا تم سے اللہ نے

وَعَدَا إِذْ تَحْسَبُونَهُمْ بِأَذْنِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَ

وعدا اپنا جبکہ قتل کرتے تھے تم ان کو ساتھ حکم کے اس کے یہاں تک کہ جب پھسل گئے تم اور

تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ

آپس میں جھگڑا کیا تم نے اور معاملے میں اور نافرمانی کی تم نے

بعد اس کے کہ دکھایا تمہیں

۱۴۶

مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ

جو تم پسند کرتے تھے بعض تم میں سے وہ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں دنیا کا اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو

يُرِيدُ الْآخِرَةَ، ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، وَ

ارادہ کرتے ہیں آخرت کا پھر اس نے پھیر دیا نہیں ان سے تاکہ آزما دے تم کو اور

لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۳﴾

یقیناً اس نے درگزر کیا تم سے اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ

جب دُور جاتے تھے تم اور نہ ملتے تھے کسی پر اور رسول

يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا

پکارتا تھا تم کو پچھلی طرف تمہاری پس اس نے بدل میں دیا تم کو غم بوجھ غم کے تاکہ نہ

تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

غمگین ہو تم اس پر جو جاتا رہا تم سے اور نہ جو پہنچا تم کو اور اللہ خوب خبر رکھنے

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۴﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ

والا ہے اسکی جو تم کرتے ہو پھر اس نے اتارا تم پر بعد غم کے

أَمْنَةً نَعَّاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ

امن اونکھ ڈھا بھتی تھی ایک گروہ کو تم میں سے اور ایک گروہ وہ تھا کہ یقیناً

أَهْمَّتَهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ

نکریں ڈالا ہوا تھا انہیں جانوں نے ان کی وہ گمان کرتے متعلق اللہ کے ناحق گمان

الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ

جاہلیت کا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے واسطے ہمارے اس معاملہ میں کچھ بھی

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا

تو کہہ سے یقیناً یہ معاملہ سب کا سب واسطے اللہ کے ہے وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو نہیں

يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

ظاہر کرتے تیرے لیے وہ کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے اس معاملہ میں کچھ بھی

مَا قُتِلْنَا هُنَا قُل لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ
 تُوڑ قتل کئے جاتے ہم یہاں تو کدے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو ضرور نکلتے

الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ
 وہ لوگ کہ لکھا گیا تھا ان پر قتل ہونا طرف اپنے لیٹنے کی جگہوں کے

وَلِيُبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي
 اور تاکہ آزماوے اللہ جو سینوں میں ہے تمہارے اور تاکہ خالص کرے جو

قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۵۵﴾ إِنَّ
 دلوں میں ہے تمہارے اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو یقیناً

الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُ ۚ إِنَّ
 وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے جس دن کہ ملے دو لشکر آپس میں) سوائے اے

اسْتَرَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ
 نہیں کہ پھسلا یا تھا انہیں شیطان نے بسبب بعض ان اعمال کے جو کماٹے انہوں نے اور یقیناً یقیناً درگزر کیا اللہ نے

عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۵۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 ان سے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُكِّرُوا لَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْكُمْ إِذَا
 نہ ہو جاؤ مانند ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور کہا متعلق اپنے بھائیوں کے جب

صَدَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَّوْ كَانُوا عِنْدَنَا
 سفر کو گئے زمین میں یا ہوئے غازی اگر ہوتے وہ پاس ہمارے

مَا مَا تُوَادُّوهُمَا قَاتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي
 توڑ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ بنا دے اللہ اس بات کو حسرت

قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 دلوں میں ان کے اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب

بَصِيرٌ ﴿۱۵۷﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ
 دیکھنے والا ہے اور البتہ اگر قتل کئے جاؤ تم راہ میں اللہ کی یا مر جاؤ تم یقیناً بخش

۱۴
 ع ۲

مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۱۵۸﴾ وَلَئِن

اللہ کی اور رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں اور البتہ اگر

مُتُّمًا أَوْ قُتِلْتُمْ كَلَّا إِنَّ اللَّهَ تُحْشِرُونَ ﴿۱۵۹﴾ فِيمَا رَحِمَهُ

مراؤ تم یا قتل کئے جاؤ تم تو ضرور ظن اللہ کی اکٹھے کئے جاو گے پس بسبب رحمت کے

مِّنَ اللَّهِ لَئِن تَلَّهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

اللہ کی نرم ہوا تو ان کے لیے اور اگر ہوتا تو بد مزاج سخت دل

لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ؕ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

البتہ بھاگ جاتے وہ پاس سے تیرے پس درگزر کر ان سے اور بخشش مانگ ان کے لیے

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ؕ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ؕ

اور مشورہ کر ان سے معاملہ میں پھر جب عزم کرے تو تو بھروسہ کر اللہ پر

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۶۰﴾ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا

یقیناً اللہ پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی

غَالِبٌ لَّكُمْ ؕ وَإِن يَّخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ

غالب تم پر اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری

مِّنْ بَعْدِهِ ؕ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۱﴾ وَمَا

بعد اس کے اور اللہ پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن اور نہیں

كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَّغْلَبَ ؕ وَمَنْ يَّغْلُبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ

ہے (مکن) واسطے کسی نبی کے کہ خیانت کرے اور جو شخص خیانت کرے گا وہ جو خیانت کی اس نے روز

الْقِيَامَةِ ؕ ثُمَّ تَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

قیامت پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کیا اس نے اور وہ نہیں

يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۲﴾ أَمْ مِّنْ أَتْبَعِ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطِ

ظلم کئے جاویں گے کیا پھر جس نے پیروی کی رضامندی کی اللہ کی مانند اس شخص کے ہے جو لوٹا ساتھ ناراضگی

مِّنَ اللَّهِ وَمَا دَأْبُ جَهَنَّمَ ؕ وَيَبُئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶۳﴾ هُمْ

کے اللہ کی اور ٹھکانا اس کا جہنم ہے اور کیا ہی بُرا ہے وہ ٹھکانا وہ

دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وَاللَّهُ بِصِيرِكُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۳﴾ لَقَدْ

درجے رکھتے ہیں پاس اللہ کے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اُسے جو کرتے ہیں یقیناً یقیناً

مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

احسان کیا اللہ نے ان میں بھیجا اس نے ان میں ایک رسول

مَنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر آیات الہی اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۱۴۴﴾

کتاب اور حکمت اور اگرچہ تھے وہ پہلے البتہ گمراہی کھلی میں

أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ

کیا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت کہ یقیناً پہنچی چکے تھے تم دوگنی اس سے کہہ دیا تم نے کہ

أَنِّي هَذَا، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

کہاں سے ہے یہ؟ تو کہدے یہ پاس سے ہے نفسوں کے تمہارے یقیناً اللہ ہر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۴۵﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعِ

بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جو (مصیبت) پہنچی تم کو جس دن کولے دو لشکر

فِي آذَانِ اللَّهِ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۶﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ

تو ساتھ حکم کے تھا اللہ کے اور تاکہ جان لے وہ مومنوں کو اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے

نَافَقُوا بِهِ دَقِيلٌ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

نفاق کیا اور کہا گیا انہیں کہ آؤ لڑو راہ میں اللہ کی

إِذَا فَعُوءَ، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ

یا مدافعت کرو تو کہا انہوں نے اگر جانتے ہم لڑنا ضرور پیروی کرتے ہم تمہاری وہ

لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلدَّيْمَانِ، يَقُولُونَ

طرف کفر کے اس روز زیادہ قریب تھے بہ نسبت اپنے قریب ہونیکے طرف ایمان کی وہ کہتے ہیں

بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

مومنوں سے اپنے جو نہیں ہے دلوں میں ان کے اور اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو

المنافقون

يَعْتُمُونَ ﴿۱۶۸﴾ الَّذِينَ قَالُوا لَّا خَوَانِيهِمْ وَقَعَدُوا

وہ چھپاتے ہیں (یہ) وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا متعلق اپنے بھائیوں کے اور (خود) بیچھے بیچھے ہیں

لَوَاطِعُونَ مَا قَاتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَن ANFISِكُمْ

کہا اگر اطاعت کرتے ہماری نہ قتل کئے جاتے تو کدے پس دور کرو اپنے نفسوں سے

الْمَوْتِ اِنَّ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۹﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

موت کو اگر ہو تم سچے اور نہ گمان کر ان لوگوں کو جو

قَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا يَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

قتل کئے گئے راہ میں اللہ کی مرے ہوئے بلکہ (وہ) زندہ ہیں پاس اپنے رب کے

يُزَادُ قُوْنٌ ﴿۱۷۰﴾ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَ

رزق دینے جاتے ہیں خوش ہیں اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۗ

وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں متعلق ان لوگوں کے نہیں ملے ان سے پیچھے سے

اَلْاَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۱﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ

کہ نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوشخبری حاصل کرتے ہیں

بِنِعْمَةِ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ

ساتھ نعمت کے طرف سے اللہ کی اور فضل کے اور یقیناً اللہ نہیں ضائع کرے گا اجر

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۲﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

مومنوں کا وہ لوگ جنہوں نے بات مانی اللہ کی اور رسول کی

مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا

بعد اسکے کہ پہنچا ان کو زخم واسطے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے احسان کیا

مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اَجْرَ عَظِيْمٍ ﴿۱۷۳﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ

ان میں سے اور تقویٰ کیا اجر ہے بڑا وہ لوگ کہ کہا جن کو

النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا اِلَيْكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

لوگوں نے کہ تحقیق دشمن لوگ یقیناً جمع ہوئے ہیں تمہارے لیے پس ڈرو ان سے

ترغیلائے

مآج

معاذتہ

فَرَادَهُمْ أَيَّمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَرِزْقَهُ

تو بڑھا دیا اس بات نے ہمیں ایمان میں اور کہا انہوں نے کافی ہے ہمیں اللہ اور کیا ہی اچھا ہے

الْوَكِيلُ ۚ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ لِيُرْضَوْا لَهُمْ ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ

وہ کارساز پس لوٹے وہ ساتھ نعمت کے طرف سے اللہ کی اور فضل کے کہ نہیں

يَمْسَسُهُمْ سَوْءٌ مِّمَّا كَانُوا يَمْسَسُونَ وَاللَّهُ ذُو

چٹوا ان کو کسی تکلیف نے اور بیروی کی انہوں نے رضامندی اللہ کی اور اللہ

فَضْلٍ عَظِيمٍ ۚ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۚ

فضل والا ہے بہت سوائے اس کے تیس کہ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے

فَلَا تَخَافُوهُمْ خَافُونَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا

پس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تم مومن اور نہ

يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ

غم میں ڈالیں تجھے وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں یقیناً وہ ہرگز نہیں

يَضُرُّوهُ شَيْئًا مَّا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا لِيَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي

نقصان پہنچا دیں گے اللہ کو کچھ بھی چاہتا ہے اللہ کہ نہ بنا دے ان کے لیے حصہ

الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا

آخرت میں اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا یقیناً وہ جنہوں نے خریدا

الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوهُ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ

کفر بدلے ایمان کے ہرگز نہیں نقصان پہنچا دیں گے اللہ کو کچھ بھی اور ان کیلئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ

عذاب ہے دردناک اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جو

نُفْسٍ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِّي لَهُمْ لِيُذَادُوا

ملت دیتے ہیں ہم ان کو (وہ بہتر ہے واسطے انکے نفسوں کے سوائے انکے نہیں کہ ہم ملت دیتے ہیں ان کو تاکہ بڑھ جاویں وہ

إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ مَا كَانَ لِلَّهِ لِيُذَرَ

گناہ میں اور ان کیلئے عذاب ہے ذلیل کرنے والا نہیں ہے اللہ کچھ چھوڑ دے

الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ

مؤمنوں کو اسی حالت پر کہ تم جس پر ہو یہاں تک کہ علیحدہ کرے ناپاک کو

مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ

پاک سے اور نہیں ہے اللہ کو آگاہ کرے تم کو غیب پر اور لیکن

اللَّهُ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۚ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَ

اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور

رُسُلِهِ ۚ وَإِن تَوَمَّنُوا ۖ فَتَقْوُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۸۰ وَلَا

رسولوں پر اس کے اور اگر ایمان لاؤ تم اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے اجر ہے بڑا اور نہ

يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس (مال) پر جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے

هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا

کو وہ (بخل) بہتر ہے واسطے انکے بلکہ وہ برا ہے واسطے انکے ضرور طوق پینائے جاویں گے اس کا کہ

يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَرَبُّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ

بخل کیا تھا انہوں نے جس کا روز قیامت اور اللہ ہی کا ہے ورثہ آسمانوں اور

الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۸۱ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ

زمین کا اور اللہ اس کی جو کرنے ہو تم خوب خبر رکھنے والا ہے یقیناً یقیناً سن لی اللہ نے

قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۚ

بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں

سَنَحْتَبُ مَا قَالُوا ۖ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ وَ

ضرور ہم لکھیں گے جو کہا انہوں نے اور لکھیں گے قتل کرنا ان کا نبیوں کو بغیر حق کے اور

نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۱۸۲ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ

ہم کہیں گے پکھو عذاب جلنے کا یہ سبب اس کے ہے جو آگے بھیجا

أَيْدِيكُمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۱۸۳ الَّذِينَ

ہاتھوں نے ان کے اور یقیناً اللہ نہیں ہے ہرگز ظلم کرنے والا بندوں پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا إِلَّا نُونًا لِرَسُولٍ حَتَّىٰ

کہا یقیناً اللہ نے تمہارے پاس قرآنی کوکھا جائے اسے آگ تو کہہ دے یقیناً لائے تمہارے پاس رسول

يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

پہلے تم سے رسول آگ سے کھا جائے اور وہ بات جو کہی تم نے پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو

مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالذِّكْرِ الَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ

ان کو پہلے تم سے پہلے رسول آگ سے کھا جائے اور وہ بات جو کہی تم نے پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸۴﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ

اگر ہو تم سے پہلے رسول آگ سے کھا جائے اور وہ بات جو کہی تم نے پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو

رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ

رسول پہلے تم سے وہ لائے دلائل اور چھوٹی چھوٹی کتابیں اور کتاب

الْمُنِيرِ ﴿۱۸۵﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ

روشن ہر نفس چکھنے والا ہے موت اور سوائے ان کے نہیں کہ تم پورے دئے جاؤ گے

أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ

اجرا اپنے بروز قیامت پس جو شخص بچا یا گیا آگ سے اور

أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَعَةٌ

داخل کیا گیا جنت میں تو یقیناً کامیاب ہو گیا اور نہیں زندگی دنی مگر اسباب

الْخُرُورِ ﴿۱۸۶﴾ لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ وَلَتَسْمَعُنَّ

دھوکا کا البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں اور البتہ ضرور سونو گے تم

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ

ان لوگوں سے جو دیئے گئے کتاب پہلے تم سے اور ان لوگوں کی طرف سے (جی)

أَشْرَكُوا ۚ أَدَّىٰ كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ

جنہوں نے شرک کیا دل آزاری بہت اور اگر صبر کرو اور تقویٰ کرو تو یقیناً یہ

مِن عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۸۷﴾ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ

پختہ بات ہے اور جب یا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے

أَوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

جو دینے لگے کتاب کو ضرور رکھوں کر بیان کر دو گے تم واسطے لوگوں کے اور نہ چھپاؤ گے تم اسے

فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

پھر پھینک دیا انہوں نے اسے پیچھے اپنی پیٹھوں کے اور لیا انہوں نے بدل میں اس کے مول ٹھوڑا

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۸﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ

پس کیا ہی بُرا ہے وہ جو بیٹے ہیں وہ دکان کرتے ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان (کاموں)

بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا

پر جو کچھ انہوں نے اور وہ پسند کرتے ہیں کہ تعریف کی جائے انہی اس پر جو نہیں کیا انہوں نے

فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ ، وَلَهُمْ

پس نہ گمان کر ان کو بچاؤ میں ہیں عذاب سے اور ان کیلئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۹﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ

عذاب ہے دردناک اور اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۹۰﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یقیناً پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۱۹۱﴾

اور آگے پیچھے آنے میں رات اور دن کے البتہ نشانات ہیں عقل والوں کے لیے

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

وہ جو کہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اور

يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

غور کرتے ہیں پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی اسے رب ہمارے نہیں پیدا کیا تو نے

هَذَا بَاطِلًا ، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ

تو (کارخانہ) باطل پاک ہے تو پس بچاؤ میں عذاب سے آگ کے اسے رب ہمارے یقیناً تو

مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

جسے داخل کرے گا آگ میں تو یقیناً ذلیل کیا تو نے اسے اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی

۱۹۰

أَنْصَارٍ ﴿۱۴۳﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ

مددگار اے رب ہمارے یقیناً سنا ہم نے ایک پکارنے والے کو کہ پکارتا ہے طرف ایمان کی

أَنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا رَبُّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ

کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر پس ایمان لائے ہم اے رب ہمارے معاف فرما ہمیں گناہ ہمارے اور

كَفَّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْآبْرَارِ ﴿۱۴۴﴾ رَبَّنَا وَآتِنَا

دُور کر ہم سے بدیاں اور وفات دے (کر رکھ) ہمیں ساتھ نیکوں کے اے رب ہمارے اور دے ہمیں

مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

جو وعدہ کیا تو نے ہم سے معرفت اپنے رسولوں کی اور نہ ذلیل کیجیو ہمیں بروز قیامت

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۱۴۵﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ

یقیناً تو نہیں خلاف کرتا وعدہ کا پس قبول کر لی (یہ دعا) ان کیلئے رب نے ان کے

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ

یقیناً میں نہیں ضائع کروں گا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے خواہ مرد ہو خواہ عورت

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ

بعض تمہارا بعض سے ہے پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے

دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قُتِلُوا لَا كُفْرَانَ

گھروں سے اور دکھ دیئے گئے میری راہ میں اور لڑے اور قتل کئے گئے ضرور میں دُور کروں گا

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ

ان سے برائیاں ان کی اور ضرور داخل کروں گا میں انہیں باغات میں بہتی ہوں کی

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

نیچے جن کے نہریں بدل کے طور پر اللہ کی طرف سے اور اللہ وہ ہے کہ پاس اس کے

حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۴۶﴾ لَا يَغْدَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

اچھا بدل ہے نہ دھوکے میں ڈالے تجھے پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا

الْبِلَادِ ﴿۱۴۷﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ مَذْهَبًا ۗ

شہروں میں (ان کیلئے) سامان ہے تھوڑا پھر ٹھکانا ان کا جہنم ہے اور کیا ہی بُرا ہے

الثقة

۱۱

الْمَهَادُ ۱۹۸ لَكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ

وہ بچھونا لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے ان کیلئے باغات ہیں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ

بہتی ہیں نیچے جن کے نہریں رہ پڑنے والے ہیں اس میں بطور سہانگی کے

عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّا بُرَّادٍ ۱۹۹ وَإِنَّ مِنْ

اللہ کی طرف سے اور وہ جو پاس ہے اللہ کے بہتر ہے واسطے نیکیوں کے اور یقیناً بعض

أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ

اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو اُتارا گیا طرف تیری اور

مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ بِاللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

جو اُتارا گیا طرف ان کی ڈرنے والے ہیں اللہ سے نہیں بیٹے بدر آیات کا اللہ کی

ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ

مول تمہارا اور یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کیلئے اجر ہے ان کا پاس رب سے انکے یقیناً اللہ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۲۰۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ

جلد بیٹے والا ہے حساب اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور

صَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۲۰۱

ایک دوسرے کو صبر دلاؤ اور دشمن کی سرحد پر قائم رہو اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو

سُورَةُ النَّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے جو رحمن (اور) رحیم ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

اے لوگو اپنے رب سے وہ جس نے پیدا کیا تم کو نفس

وَأَحَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

واحد سے اور پیدا کروا کر جن میں سے بیوی اس کی اور پھیلائے ان دونوں سے مرد بہت سے

وَرِئَسَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

اور عورتیں اور ڈرو اللہ سے وہ جو کہ تم آپس میں سوال کرتے ہو واسطے اسکے اور ڈرو (رحموں دکا خون غلٹی ہے)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ذَقِيبًا ۚ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

یقیناً اللہ ہے تم پر نگران اور دو یتیموں کو مال ان کے

وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

اور نہ بد سے میں دو بڑی چیز عوض میں ابھی چیز کے اور نہ کھاؤ مال ان کے

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

(ملا کر) ساتھ اپنے مالوں کے یقیناً ہے گناہ بڑا اور اگر ڈرو تم کو نہ

تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَمَا نُنَكِّحُكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

انصاف کرو گے تم یتیم بڑکیوں میں تو نکاح کرو جو پسند ہوں نہیں عورتوں میں سے

مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

دو دو اور تین تین اور چار چار پھر اگر ڈرو تم کو نہ عدل کرو گے تو ایک ہی (کرد)

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ وَآتُوا

یا وہ (کرد) کر مالک ہوئے (جسکے) دانے ہاتھ تمہارے (یعنی نوڈیوں سے) بی بات زیادہ قریب ہے کہ نہ بے انصافی کرو تم اور دو

النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

عورتوں کو ہر ان کے دل خوشی سے پھر اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے کچھ

مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّفَهَاءَ

اس میں سے دل سے تو کھاؤ اُسے رچتا پیچتا اور نہ دو کم سمجھوں کو

أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

مال اپنے کر جنہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ اور کھلاؤ ان کو

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَابْتَلُوا

اس میں سے اور پہناؤ ان کو اور کہو ان کو بات مناسب اور آزماتے رہو

الْيَتْمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ . فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِّنْهُمْ

یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاویں نکاح کی عمر کو پھر اگر دیکھو تم انکی طرف سے

رُشْدًا فَإِذَا فَعُوا إِلَيْهِمَا مَوَالِيَهُمْ . وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

درستی تو سو نہ دو طرف ان کی مال ان کے اور نہ کھاؤ وہ (مال) فضول خرچی کے طور پر

وَرِيْدًا إِنْ يَخْبَرُوا . وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ . وَ

اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو جاویں گے اور جو ہو دولت مند تو چاہیے کہ بچے (مال کھلنے سے) اور

مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . فَإِذَا دَفَعْتُمْ

جو ہو ضرورت مند تو چاہیے کہ کھاوے مناسب طور پر پھر جب سو نہ دو تم

إِلَيْهِمَا مَوَالِيَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ . وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝۱۰۰

طرف ان کی مال ان کے تو گواہ کر لو اس پر اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ .

مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ

اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ . نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝۱۰۱ وَإِذَا حَضَرَ

اس سے جو کم ہوا یا زیادہ حصہ ہے مقررہ . اور جب حاضر ہوں

الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتْمَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ

تقسیم میں رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تو کھلاؤ ان کو

مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝۱۰۲ وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ

اس (ترک) سے اور کہو ان کو بات مناسب اور چاہیے کہ دریں (تقسیم کو نواسے) لوگ کہ اگر

تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ .

چھوڑ جاویں وہ پیچھے اپنے اولاد کمزور تو ان کو خوف ہو ان کے متعلق

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝۱۰۳ إِنَّ الَّذِينَ

پس چاہیے کہ دریں اللہ سے اور چاہیے کہ کس بات مضبوط یقیناً جو ہو

يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

کھاتے ہیں مال یتیموں کے ناحق سوائے انکے نہیں کردہ کھاتے ہیں

يُطْوَئِنَهُمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۗ يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ

اپنے پیٹوں میں آگ اور ضرور جلیں گے وہ آگ میں وصیت کرتا ہے تم کو اللہ

فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ

تمہاری اولاد کے بارہ میں کومرد کے لیے برابر ہے حصہ دو عورتوں کے پھر اگر ہوں وہ

نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ

(اولاد) عورتیں زیادہ دو سے تو ان کے لیے دو تہائی ہے اس سے جو چھوڑا اس (مال باپ نے اور اگر ہودہ) بیٹی)

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا يُوْصِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ایک تو اس کے لیے نصف ہے اور واسطے اس (ریت) کے مال باپ کے (یعنی واسطے ہر ایک کے ان میں سے

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

چھٹا حصہ ہے اس کا جو چھوڑا اس (ریت) نے اگر ہو واسطے اس (ریت) کے اولاد پس اگر نہ ہو واسطے

لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ

اس کے اولاد اور وارث ہوں اسکے مال باپ اسکے تو اس کی والدہ کیلئے میرا حصہ ہے پھر اگر ہوں اس (ریت) کے

إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

بھائی تو اس کی والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے بعد وصیت کے کہ وصیت کرے (ریت) اس کی

أَوْ دَيِّنٍ، أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

(اور) قرض کے باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے نہیں جانتے تم کون ان میں سے

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں (یہ تقسیم) فرض ہے اللہ کی طرف سے یقیناً اللہ ہے

عَلَيْمًا حَكِيمًا ۗ ۙ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ

خوب جاننے والا حکمت والا اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر

لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ

نہ ہو واسطے ان کے اولاد پس اگر ہو واسطے ان کے اولاد تو واسطے تمہارے جو تھا حصہ ہے

ع ۱۱۳

مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْلَادَيْنِ ۚ

اس کا جو چھوڑا انہوں نے بعد وصیت کے کہ وصیت کریں وہ جس کی یا قرض کے اور

لَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ

داستے ان (تہاری بیویوں) کے چوتھا حصہ ہے اس کا جو چھوڑا تم نے اگر نہ ہو واسطے تمہارے اولاد پس

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ

اگر ہو واسطے تمہارے اولاد تو داستے ان کے اٹھواں حصہ ہے اس کا جو چھوڑا تم نے بعد

وَصِيَّةٍ تُوَصِّونَ بِهَا أَوْلَادَيْنِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ

وصیت کے کہ تم وصیت کرو جس کی یا قرض کے اور اگر ہو کوئی مرد جس کا کسی نے وارث ہونا

كَلَلَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

ہو کلالہ یا عورت ہو کلالہ اور واسطے اس (کلالہ) کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے

السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ

چھٹا حصہ ہے پس اگر ہوں وہ (بھائی بہن) زیادہ اس سے تو وہ شریک ہوں گے

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْلَادَيْنِ ۚ

تیسرے حصہ میں بعد وصیت کے کہ وصیت کیجاوے جس کی یا قرض کے

غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

بغیر نقصان پہنچانے کے یہ احکام بطور وصیت کے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ خوب جاننے والا ہے بردبار ہے

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

یہ حدیں ہیں اللہ کی اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اُسے

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ

باغات میں کہ بہتی ہیں نیچے جن کے نہریں رہ پڑنے والے ہیں ان (باغات) میں اور یہ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۴﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

کامیابی ہے بڑی اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا

حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۵﴾

حدود سے اسکی تو داخل کرے گا اُسے آگ میں رہ پڑنے والا ہوگا (وہ شخص) اس میں اور واسطے اسکے عذاب ہے ذلیل کرنے والا

۱۳

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا

اور وہ عورتیں جو کہیں بے حیائی

تمہاری بیویوں میں سے تو گواہ بنا لو

عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي

ان پر چار کو اپنے لوگوں میں سے پس اگر وہ گواہی دیں تو روک رکھو ان بیویوں کو

الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

گھروں میں یہاں تک کہ رُوح قبض کرے ان کی موت یا بناوے اللہ ان کے لیے

سَبِيلًا ۱۶ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّهُمَا، فَإِنْ

کوئی راستہ اور وہ دومرد جو مرتکب ہوں اس زنجبیلی کے تم میں سے تو تکلیف دینا (سزا) دو ان کو پھر اگر وہ

تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا

توبہ کریں اور اصلاح کریں تو اعراض کرو ان سے یقیناً اللہ ہے بہت فضل سے توبہ قبول والا

رَّحِيمًا ۱۷ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

بہت رحم کرنے والا سوائے اس کے نہیں کہ توبہ کی اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں

السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ

بدی جہالت سے پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی تو یہ لوگ وہ ہیں

يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۸ وَ

کہ فضل سے توبہ ہوتا ہے اللہ ان پر اور ہے اللہ خوب جاننے والا حکمت والا اور

لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا

نہیں ہے (توبہ) توبہ واسطے ان لوگوں کے جو کرتے ہیں بدیاں یہاں تک کہ جب

حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِنِّ وَلَا الَّذِينَ

حاضر ہوتا ہے ان میں سے کسی کو موت تو کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی اب اور نہ واسطے ان لوگوں کے

يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا

ہے جو مر جاتے ہیں ایسے حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب

أَلِيمًا ۱۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا

دردناک اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہیں جائز تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ تم

النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ

عورتوں کے زبردستی اور نہ روک رکھو تم ان کو تاکہ بے جاؤ تم بعض وہ (مال)

مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ، وَ

جو دیا تم نے ان کو سوائے اس (صورت) کے کہ وہ کریں بے حیائی کھلی کھلی اور

عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى

زندگی بسر کرو ان کے ساتھ مناسب طور سے پھر اگر ناپسند کرو تم ان کو تو ہو سکتا ہے

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۲۰ وَ

کہ ناپسند کرو تم کوئی بات اور بنا دے اللہ اس میں بہتری بہت اور

إِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، وَأَنْتُمْ

اگر ارادہ کرو تم بدل لینے کا ایک بیوی کو بجائے کسی بیوی کے اور دے چکے ہو تم

إِخْدَافَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذْ بِأَمْنِهِ شَيْئًا

ایک کو ان میں سے بہت سامان توڑ لو تم اس سے کچھ بھی

أَتَأْخُذُونَ بِهِ تَنَاوُثًا مُمِيتًا ۝۲۱ وَ كَيْفَ

کیا لوگ تم اسے بہتان کے طور پر اور گناہ کے طور پر (جو) گھلا گھلا رہے اور کس طرح

تَأْخُذُونَ بِهِ وَقَدْ أَقْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ

لوگ تم اسے جبکہ یقیناً مل چکا ہے بعض تمہارا ساتھ بعض کے اور وہ تمہاری بیویاں)

مِنْكُمْ مِيثًا قَاطِلِيظًا ۝۲۲ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

بے چلی تم سے عہد بختہ اور نہ نکاح کرو ان سے کہ نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے

مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ

عورتوں سے سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا یقیناً یہ ہے بے حیائی اور

مَقْتًا، وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۲۳ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ

ناراضگی کا سبب اور بُرا ہے راستہ حرام کی گئیں تم پر مائیں تمہاری اور

بَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

بیٹیاں تمہاری اور بہنیں تمہاری اور پھوپھیاں تمہاری اور خالائیں تمہاری اور بیٹیاں بھائی کی

۱۱۶

وَبِنْتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُتُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ

اور بیٹیاں بہن کی اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا تم کو اور بہنیں تمہاری

مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَاءُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي

دودھ کی اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری وہ ربیبہ (بھیلیاں) جو کہ

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ رِفَاثًا

تمہاری گودوں میں ہیں تمہاری ان بیویوں میں سے کہ داخل ہو چکے تم جن پر پس اگر

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ زَوْجًا مِّثْلَ

نہیں ہو چکے تم داخل ان پر تو نہیں کوئی گناہ تم پر اور بیویاں

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

تمہارے بیٹوں کی وہ جو پشت سے ہیں تمہاری اور یہ کہ اکٹھا کرو تم

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۲۳

دو بہنوں کو سوائے اس کے جو ہو چکا یقیناً اللہ ہے بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا



وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور (حرام کی گئیں تم پر) خاوند والی عورتیں سوائے انکے کہ مالک ہوئے (جسکے) دایں ہاتھ تمہارے

كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا

لازم پڑو (تافون کو اللہ کے اوپر اپنے اور جائز کیا گیا واسطے تمہارے جو علاوہ ہے اس کے اس طرح پر کہ

تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

چاہو تم (عورتوں سے تعلق کرنا) اپنے مالوں کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نہ شہوت مٹاتے ہوئے

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

پھر جو (عورت کے) فائدہ اٹھایا تم نے اس سے ان (عورتوں) میں سے تو دو ان کو (مہر ان کے

فَرِيضَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ

مقرر شدہ اور نہیں کوئی ٹنگاہ تم پر اس بات میں کہ آپس میں راضی ہوئے تم جس (بات) پر

مِّنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

بعد مقررہ (مہر) کے یقیناً اللہ ہے خوب جاننے والا حکمت والا

مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

اور جو نہ طاقت رکھے تم میں سے دولت کے لحاظ سے کہ نکاح کرے آزاد

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمْ

مومن عورتوں سے تو ان میں سے (نکاح کرو) کہ مالک ہوئے (جن) کے دایں ہاتھ تمہارے اپنی لونڈیوں سے

الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ، بَعْضُكُمْ

جو مومن ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو بعض تمہارے

بَعْضٌ، فَإِنْ كُحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

بعض سے ہیں پس نکاح کرو ان (لونڈیوں) سے بااجازت انکے مالکوں کے اور دو ان کو (مہر ان کے

بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ

مناسب طریق سے بیکر وہ نکاح کرنے والیاں ہوں نہ شہوت مٹانے والیاں اور نہ بنانے والیاں

أَخْدَانٍ، فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَأَحْشَةَ فَعَلَيْهِنَّ

چھپے دوست پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کریں کوئی بے حیائی تو ان پر

نُصِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ

نصف اس (سزا) کا ہے جو آزاد عورتوں پر سزا ہے یہ (لوٹنوں سے نکاح کی اجازت) اس

خَشِي الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ

کھینٹے ہے جسے خوف ہو بدکاری کا تم میں سے اور یہ کہ صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے اور اللہ بہت

عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۸﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ

بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان کرے واسطے تمہارے اور ہدایت دے تم کو

سُنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ

طریقوں کی ان لوگوں کے جو پہلے تھے تم سے اور فضل سے متوجہ ہو تم پر اور اللہ

عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۹﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ

خوب جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ فضل سے متوجہ ہو تم پر اور

يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا

چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی کہ جھک جاؤ تم جھک جانا

عَظِيمًا ﴿۳۰﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ

بہت چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کرے (بوجھ) تم سے اور پیدا کیا گیا ہے

الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿۳۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا

انسان ضعیف اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

مال اپنے آپس میں ناجائز طور پر سوائے اس کے جو تجارت

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

رضامندی سے تمہاری اور نہ قتل کرو اپنے آپس میں یقیناً اللہ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿۳۲﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَ

ہے تم پر بہت رحم کرنے والا اور جو شخص کرے گا ایسا زیادتی سے اور

ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

ظلم سے تو ضرور ہم داخل کریں گے اُسے آگ میں اور ہے یہ اللہ پر

۲۴

يَسِيرًا ۱۳۱ اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرًا مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ

آسان اگر بچو تم بڑے گناہوں سے کہ روکا جاتا ہے تم کو جن سے

نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ۱۳۲

ہم دُور کریں گے تم سے بدیاں تمہاری اور ہم داخل کریں گے تم کو گھر عزت والے میں

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۱۳۳

اور نہ آرزو کرو تم اسکی کہ فضیلت دی اللہ نے اس کے ذریعہ تمہارے بعض کو بعض پر

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ

مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو کیا انہوں نے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے

مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۱۳۴ اِنَّ اللَّهَ

اس سے جو کیا انہوں نے اور مانگو اللہ سے فضل اس کا یقیناً اللہ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۱۳۵ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا

ہے ہر بات کو خوب جاننے والا اور ہر ایک کے لیے ہیں جائے ہم نے وارث اس مال کے

تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۱۳۶ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے اور وہ جن سے تعلق قائم کیا

أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۱۳۷ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

تمہاری قسموں نے تو وہ ان کو حصہ ان کا یقیناً اللہ ہے

بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۱۳۸ وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا

ہر بات پر بھران بھران ہیں مرد عورتوں پر اس لیے کہ

فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۱۳۹ وَبِمَا نَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر اور اس لیے کہ خرچ کئے انہوں نے اپنے مال

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۱۴۰ وَ

پس نیک عورتیں فرمانبردار ہیں حفاظت کرنے والی ہیں پوشیدہ رہیٹ کے بچہ چیز کی اس لیے کہ حفاظت کی اللہ نے اور

الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

وہ عورتیں کہ ڈرتے ہو تم نامرمانی سے ان کی تو نصیحت کرو ان کو اور جدا رہو ان سے

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

سوئے کی جگہوں میں اور مارو ان کو پھر اگر اطاعت کریں تمہاری تو نہ تلاش کرو

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۲۸﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ

ان کے ذمہ کوئی الزام یقیناً اللہ ہے بہت بلند بہت بڑا اور اگر ڈرو تم

شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاْبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

مخالفت سے درمیان ان دونوں کے تو مقرر کرو ایک منصف اور ایک منصف

أَهْلِمَاءَ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ

خاندان سے اس عورت کے اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح موافقت پیدا کرے گا اللہ درمیان ان دونوں کے یقیناً

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۲۹﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ

اللہ ہے خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے

شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ

کسی کو اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرو اور ساتھ رشتہ داروں کے اور یتیموں کے اور

الْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

تمسکینوں کے اور رشتہ دار ہمسایہ کے اور اپنی ہمسایہ کے اور ہم نشین

بِالْجُنُبِ وَالْبَنِينَ وَالسَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ

پہلو والے کے اور مسافروں کے اور ساتھ انکے کہ مالک ہوئے رکھے (اپنے ہاتھ تمہارا یقیناً اللہ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا ﴿۳۰﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ

نہیں پسند کرتا اُسے جو ہو بکھر کرنے والا فخر کرنے والا وہ جو کہ بخل کرتے ہیں اور

يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے

فَضْلِهِ ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۳۱﴾ وَالَّذِينَ

فضل سے اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا اور وہ لوگ جو

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا

خرچ کرتے ہیں اپنے مال دکھانے کے لیے لوگوں کو اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ

بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ

روزِ قیامت پر اور جو شخص کہ ہوا شیطان اس کا ساتھی تو یہی بُرا ہے

قَرِينًا ۳۱ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وہ ساتھی اور کیا تھا ان پر (مضائق) اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور روزِ آخر پر اور

أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۳۲ إِنْ

خرچ کرنے اس سے جو دیا ان کو اللہ نے اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا یقیناً

اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضْعَفْهَا

اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ذرہ کے اور اگر ہو نیکی بڑھاتا ہے اُسے

وَيُؤْتِي مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۳۳ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ

اور دیتا ہے اپنی جناب سے اجر بڑا پس کیا حال ہو گا جب لاویں گے ہم

كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۳۴

ہر ایک امت سے ایک گواہ اور لاویں گے ہم تجھے خلاف ان لوگوں کے گواہ

يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ

اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کاش

تَسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا ۳۵

ہموار کر دی جاوے ان پر زمین اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم

سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا

مدرہوش ہو یہاں تک کہ جان لو تم جو کہتے ہو تم اور نہ (قریب جاؤ) جنہی ہونیک حالت میں

عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

سوائے راہ گیر ہونے کے یہاں تک کہ نہالو اور اگر ہو تم بیمار

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ

یا سفر پر یا آوے کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے یا

لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا

یا چھوڑ تم عورتوں کو پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو

طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

پاک سے پھر مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر یقیناً اللہ ہے

عَفُوًّا غَفُورًا ﴿۴۳﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوتُوْا نَصِيْبًا مِّنْ

بہت معاف کرنیوالا بہت بخشنے والا کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو دیئے گئے ایک حصہ

الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضَلُّوْا

کتاب کا خریدتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ تم

السَّبِيْلِ ﴿۴۴﴾ وَاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ

راستہ سے اور اللہ خوب جانتا ہے دشمنوں کو تمہارے اور کافی ہے اللہ

وَلِيًّاۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۴۵﴾ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا

دوست اور کافی ہے اللہ مددگار (یہ دشمن ان لوگوں میں سے ہیں جو یہودی ہوئے

يُخَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوٰضِعِهَا وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا

وہ بدلاتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے اور کہتے ہیں سنا ہم نے

وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَّذَاعِنًا لِّيَّاۗ بِالسِّنَتِمْ

اور نافرمانی کی ہم نے اور تو سن نہ سنا یا جاوے تو اور دیکھتے ہیں) راہنا موڑ کر اپنی زبانوں کو

وَطَعْنَا فِي الدِّيْنِ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

اور طعن کے طور پر دین میں اور اگر وہ کہتے کہ سنا ہم نے اور

اَطَعْنَا وَاَسْمَعُ وَاَنْظُرْنَا لَكَ اَنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقُوْمَهُ

اطاعت کی ہم نے اور تو سن اور تو دیکھ ہم کو تو ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ درست

وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۶﴾

لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے بسبب انکے کفر کے ہیں نہ ایمان لادیں گے مگر تھوڑے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوتُوْا الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا

اے لوگو جو دیئے گئے کتاب ایمان لاؤ اس پر جو آتا رہا ہے مصدق بنا کر

لَمَّا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمَسَ وُجُوهًُا فَتَرَدَّهَا عَلٰی

اس کتاب کا جو تمہارے پاس ہے پہلے اس کے کہ تم ٹھانڈیں چہرے پھر پھر دس انہیں

أَدْبَارَهَا أَوْ تَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ؕ وَ

انہی پٹیوں پر یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ لعنت کی ہم نے سبت والوں پر اور

كَانَ أَمْرًا لِلَّهِ مَفْعُولًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا یقیناً اللہ نہیں معاف کرتا کہ شریک بنایا جاوے

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ؕ وَمَنْ يُشْرِكْ

اس کے ساتھ اور معاف کرتا ہے وہ (گناہ) جو کم اس سے ہے جس کے لیے چاہے اور جو شریک بناتا ہے

بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

اللہ کیساتھ تو یقیناً کیا اس نے گناہ عظیم کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی

يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يظْلَمُونَ

جو پاک بھرتے ہیں اپنے آپ کو حالانکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور نہیں ظلم کئے جاویں گے وہ

فَتِيلًا ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ؕ وَكُفِّي

ایک تہی کے برابر بھی دیکھ کس طرح گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے یہ

بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا

راہ فرما کر (بظور کھلے گناہ کے کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو دینے گئے ایک حصہ

مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ

کتاب کا (پھر) وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر اور کہتے ہیں ان

لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۗ

لوگوں کی نسبت جو کافر ہوئے کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں بنسبت مسلمانوں کے راہ کے لحاظ سے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ؕ وَ مَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن

یہ لوگ وہ ہیں کہ لعنت کی ان پر اللہ نے اور جس پر لعنت کرے اللہ تو ہرگز نہیں

تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۗ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا

پسے گا تو اس کا کوئی مددگار کیا ان کے لیے حصہ ہے حکومت سے پس تب تو نہیں

يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝۳۱ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا

دیں گے وہ لوگوں کو مجبور کی گھنٹی کے ٹکان کے برابر ہی کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا

أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ

ان (لوگوں) کو اللہ نے اپنے فضل سے پس یقیناً دی ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب

وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مَلَكًا عَظِيمًا ۝۳۲ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ

اور حکمت اور دیا ہم نے انکو ملک عظیم پس بعض ان میں سے جو ایمان لائے

بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۳۳ إِنَّ

اس (قرآن) پر اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو روکنے میں اس سے اور کافی ہے جہنم جلانے میں یقیناً

الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلِمًا

جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا عنقریب داخل کریں گے ہم ان کو آگ میں جب کبھی

نَضَبَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ لِيَذُوقُوا

پک جاویں گی کھائیں ان کی بدل دیں گے ہم ان کی کھائیں سوائے ان (پہلی) کے تاکہ چکھیں وہ

الْعَذَابَ ۝۳۴ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۳۵ وَالَّذِينَ

عذاب یقیناً اللہ ہے غالب حکمت والا اور وہ لوگ جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

ایمان لائے اور انہوں نے کیں نیکیاں ضرور ہم داخل کریں گے انکو باغات میں بہتی ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا

نیچے جن کے نہریں رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ان کیلئے ان (باغات) میں

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَوَجَدُوا فِيهَا غُلَامًا مُّذَبِّحًا ۝۳۶ إِنَّ اللَّهَ

بیویاں ہیں پاکیزہ اور ہم داخل کریں گے ان کو ساتھے گئے میں یقیناً اللہ

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

حکم دیتے تم کو کہ ادا کرو امانتیں ان امانت والوں کو اور جب فیصلہ کرو تم

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

درمیان لوگوں کے تو فیصلہ کرو ساتھ انصاف کے یقیناً اللہ کیا ہی اچھی بات کا

يَعُظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۶۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

وعظ کرتا ہے تم کو یقیناً اللہ ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا اسے لوگو جو

أَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

ایمان لائے جو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حکومت والوں کی اپنے میں سے

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

پھر اگر جھگڑاؤ تم آپس میں کسی بات کے بارے میں تو لوٹناؤ اسے اللہ اور رسول کی طرف اگر

كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

ہو تم ایمان لاتے اللہ پر اور آخری دن پر یہ بہتر ہے اور

أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۷۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ

زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ وہ

أَمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ

ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا طرف تیری اور جو اتارا گیا پہلے تجھ سے وہ چاہتے ہیں

أَنْ يَتَّخِذَكُمُ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا

کہ فیصلے جاویں طرف شیطان کے حالانکہ یقیناً انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ انکار کریں

بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۷۱﴾

اس کا اور چاہتا ہے شیطان کہ گمراہ کرے ان کو گمراہی دور کی اور

إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

جب کہا جاتا ہے انکو کہ آؤ طرف اس کی جو اتارا اللہ نے اور طرف رسول کی

رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿۷۲﴾ فَكَيْفَ إِذَا

دیکھتا ہے تو منافقوں کو کہ رکتے ہیں تجھ سے رکن پس کیا حال ہو جب

أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ

پہنچی ان کو مصیبت بسبب اس کے جو بھیجا آگے انکے ہاتھوں نے پھر آئے تیرے پاس

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿۷۳﴾

تسلیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر احسان اور موافقت کا

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ

یہ لوگ وہ ہیں کہ جانتا ہے اللہ جو دلوں میں ہے ان کے پس اعراض کر

عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿۱۳۳﴾

ان سے اور وعظ کر ان کو اور تو کہہ ان کے لیے ان کے دلوں میں بات اثر کرنیوالی

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ

اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اکی اللہ کے حکم سے اور اگر

أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

وہ جبکہ ظلم کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں پر آتے تیرے پاس پھر وہ بخشش مانگتے

اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

اللہ سے اور بخشش مانگتا ان کے لیے رسول (مجی) تو پاتے وہ اللہ کو بہت فضل سے متوجہ ہونے والا

رَّحِيمًا ﴿۱۳۴﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ

بہت رحم کرنیوالا پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی کہ نہیں مومن ہوں گے وہ یہاں تک کہ وہ منصف بنا دیں تجھے

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ وَا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا

اس میں جو جھگڑا ہو درمیان ان کے پھر نہ پا دیں وہ اپنے دلوں میں کوئی انقباض

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۱۳۵﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا

اس سے جو فیصلہ کیا تو نے اور تسلیم کریں اچھی طرح تسلیم کرنا اور اگر ہم فرض کرتے

عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا

ان پر کہ قتل کرو اپنے تئیں یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے تو نہ

فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ

کرتے اُسے مگر تھوڑے سے ان میں سے اور اگر وہ کریں وہ کہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے

بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿۱۳۶﴾ وَإِذَا آلَتْنَهُمْ

جس کی تو ہو زیادہ بہتر ان کے لیے اور بہت زیادہ مضبوط کرنے کے لحاظ سے اور اس وقت ضرور دیں ہم ان کو

مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۷﴾ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا

اپنی جناب سے اجر عظیم اور ضرور ہدایت دیں ہم ان کو راستے

مُسْتَقِيمًا ﴿٦٩﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ

سیدھے کی اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

کر انعام کیا اللہ نے جن پر یعنی نبی اور صدیق اور شہید

وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ

اور صلحاء اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفیق یہ فضل ہے

اللَّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا

اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اختیار کرو

حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧٢﴾ وَإِن مِّنكُمْ

بچاؤ اپنا پس کوچ کرو گڑھ گڑھ ہو کر یا کوچ کرو سب کے سب اور یقیناً بعض تم میں سے

لَمَنْ لَّيْبَطُنَّ، فَإِن أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنعَمَ

البتہ ایسے ہیں جو پیچھے رہتے ہیں پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں یقیناً انعام کیا

اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَّا كُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٣﴾ وَلَٰئِن أَصَابَكُمْ

اللہ نے مجھ پر جب کوڑ تھا میں ساتھ ان کے موجود اور اگر پہنچے تم کو

فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ

فضل اللہ کی طرف سے تو کہتا ہے اس طرح پر گویا نہیں ہے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے

مَوَدَّةٌ يُّلَيِّتُنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

محبت اے کاش میں ہوتا ساتھ ان کے تو کامیاب ہوتا کامیابی بڑی

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں زندگی دنیوی

بِالْآخِرَةِ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

بدل آخرت کے اور جو لڑائی کرے گا اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے گا یا غالب آجے گا

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٥﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ

عنقریب ضرور ہم دیں گے اُسے اجر عظیم اور کیا ہو تم کو کہ نہ لڑو تم

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

اللہ کی راہ میں جبکہ بے بس مرد اور عورتیں

وَالْوَالِدَاتِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ

اور بچے جو کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے نکال ہم کو اس

الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَيَّتًا

بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے رہنے والے اور بنا ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی دوست

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۗ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ

اور بنا ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

اللہ کی راہ میں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ لڑتے ہیں راہ میں

الطَّاغُوتِ فَفَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ

شیطان کی پس لڑو تم دوستوں سے شیطان کے یقیناً جنگ شیطان کی

كَانَ ضَعِيفًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا

ہے کمزور کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کی کہ کہا گیا ان کو روکے رکھو

أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَلَمَّا كُتِبَ

ہاتھ اپنے اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ پھر جب فرض کیا گیا

عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ

ان پر لڑنا اچانک ایک فریق ان میں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے

كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ

مانند ڈرنے اللہ کے بلکہ زیادہ ڈر اور کہا انہوں نے اے رب ہمارے کیوں فرض کیا تو نے

عَلَيْنَا الْقِتَالَ، لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ

ہم پر لڑنا کیوں نہیں ڈھیل دی تو نے ہم کو ميعاد قریب تک تو کہدے

مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا

سامان دنیا کا ٹھوہرا ہے اور آخرت بہتر ہے اسکے لیے جس نے تقویٰ کیا اور نہ

تُظَلَمُونَ فِتْيَانًا ۝ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ

ظلم کئے جاؤ گے تم ایک بچی برابر بھی جہاں کہیں تم ہو گے پائے گی تم کو موت

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ

اور اگرچہ ہو تم قلعوں پختہ میں اور اگر پہنچے ان کو

حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ

بھلائی (آرام) کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اگر پہنچے ان کو

سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

برائی (تکلیف) کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے تو کہہ دے سب اللہ کی طرف سے ہے

فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝۹۰

پس کیا ہوا ان لوگوں کو کہ نہیں قریب ہوتے کہ سمجھیں بات

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ

جو پہنچے تجھے کوئی بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے اور جو پہنچے تجھے کوئی

سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَ

برائی تو تیرے نفس کی طرف سے ہے اور بھیجا ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر اور

كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۹۱ ۚ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ

کافی ہے اللہ گواہ جو اطاعت کرے رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی

وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝۹۲ ۚ وَيَقُولُونَ

اور جو پھر گیا تو نہیں بھیجا ہم نے تجھے ان پر محافظ اور وہ کہتے ہیں کہ رہا کام)

طَاعَةٌ ۚ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

اطاعت ہے پھر جب باہر جاتے ہیں تیرے پاس سے منسوب باندھتا ہے رات کو ایک گروہ ان میں سے

غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۚ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ

خلاف اس کے جو تو کہتا ہے (انہیں) اور اللہ لکھتا ہے جو وہ رات کو منسوب باندھتے ہیں پس اعراض کر

عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۹۳ ۚ أَفَلَا

ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور کافی ہے اللہ کارساز کیا پھر

يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

نہیں غور کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا اللہ کے غیر کی طرف سے

لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّن

تو ضرور پاتے اس میں اختلاف بہت اور جب آتا ہے انکے پاس کوئی امر از قلم

الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ

امن یا خوف پھیلاتے ہیں اُسے اور اگر لے جاویں اسے رسول کی طرف

وَأِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ

اور حکومت والوں کی طرف اپنے میں سے تو ضرور جان لیں اُسے وہ لوگ جو حقیقت اخذ کر سکتے ہیں اس کی

مِنْهُمْ ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ

ان میں سے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو پیرو ہو جاتے تم

الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَا تُكْفِرُ

شیطان کے سوائے تھوڑوں کے پس تو لڑ راہ میں اللہ کی نہیں ذمہ دار بنا یا جاتا تو

إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِكَ

مگر اپنے نفس کا اور ترغیب دے مومنوں کو قریب ہے اللہ کہ روک دے جنگ

الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسَاؤِكُمْ تَنْكِيلًا ۝ مَنْ

ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ سخت ہے جنگ میں اور سخت ہے نزا دینے میں جو

يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ،

سفارش کرے گویا سفارش اچھی ہوگا اس کیلئے حصہ اس سے

وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ،

اور جو سفارش کرے گویا سفارش بُری ہوگا اس کیلئے حصہ اس سے

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ۝ وَإِذَا أَحْبَبْتُمْ

اور ہے اللہ ہر بات پر محافظ اور جب سلام کیا جاتے تم کو

بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِمَّا أَوْدَدُوا وَهَادِرَاتِ اللَّهِ كَانَ

کوئی سلام تو سلام کرو زیادہ بہتر اس سے یا دُہراد وہی یقیناً اللہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۸۸﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ

ہر بات کا حساب لینے والا ہے اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی خدا سوائے اس کے ضرور اکٹھا کرے گا تم کو

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ؕ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ

بروز قیامت میں کوئی شک اس میں اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے

حَدِيثًا ﴿۸۹﴾ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمُ

بات میں پس کیوں ہیں تمہارے منافقوں کے بارے میں دو گروہ جبکہ اللہ نے انہیں منکر کیا ان

بِمَا كَسَبُوا ؕ أَلَا تُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ؕ وَمَنْ

(منافقوں) کو سبب اس کے جو کیا انہوں نے کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو تم جسے گمراہ کیا اللہ نے اور جسے

يُضِلُّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۹۰﴾ وَذُوالْوَكْفُرُونَ

گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہیں پاوے گا تو اس کیلئے کوئی راہ انہوں نے چاہا کہ کاش کافر ہو جاؤ تم

كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ؕ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ

جس طرح کافر ہوئے وہ پھر ہو جاؤ تم ایک جیسے پس نہ بناؤ تم ان (منافقوں میں) سے

أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؕ فَإِن تَوَلَّوْا

دوست یہاں تک کہ ہجرت کریں وہ راہ میں اللہ کی پھر اگر وہ پھر جاویں

فَخِذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ؕ وَلَا

تو پھڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو اور نہ

تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۹۱﴾ إِلَّا الَّذِينَ

بناؤ ان میں سے دوست اور نہ مددگار سوائے ان لوگوں کے جو

يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ

مل جاتے ہیں ایسی قوم کیساتھ کہ درمیان تمہارے اور درمیان ان کے معاہدہ ہو یا

جَاءَ وَاكُمْ حَصْرَتٌ صُدُّوا عَنْهُم أَن يُقَاتِلُوا كَمَا أَوْ

آویں تمہارے پاس ایسے حال میں کہ منقبض ہوں ان کے سینے کہ وہ لڑیں تم سے یا

يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ

لڑیں اپنی قوم سے اور اگر چاہتا اللہ تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر

فَلَقَاتِلُوكُمْ، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا

پھر ضرور لڑتے وہ تم سے پس اگر کنارہ کریں تم سے پھر نہ لڑیں تم سے اور کریں

إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝۱۱

تم سے صلح تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ (پہلو) کا

سَتَجِدُونَ أَخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا

ضرور پاؤ گے تم کچھ اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں

قَوْمَهُمْ، كُلَّمَا رُزِّقُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا، فَإِنْ

اپنی قوم سے جب کبھی لڑنا ہے جاتے ہیں طرف فساد کی اور صدمہ مٹا کر آتے ہیں اس میں پس اگر

لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيَدِيَهُمْ

نہ کنارہ کش ہوں تم سے اور نہ کریں تم سے صلح اور نہ روکیں اپنے ہاتھ

فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ

تو پھرد ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو اور یہ لوگ ہیں کہ

جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝۱۲ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ

بنایا ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ کھلا اور نہیں ہے شان کسی مومن کی

أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لَّا خَطَا، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً

کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

تو آزاد کرنا ہے ایک گروہن مسلمان کا اور خون ہمارے جو دیا جائے والا ہے اس (مقتول) کے خاندان کو

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ

سوائے اسکے کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر ہو وہ (مقتول) ایسی قوم سے جو دشمن ہو تمہاری اور خود (مقتول)

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

مومن ہو تو آزاد کرنا ہے ایک گروہن مسلمان کا اور اگر ہو (مقتول) ایسی قوم سے کہ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

درمیان تمہارے اور درمیان ان کے معاہدہ ہو تو خون ہمارے (جو) دیا جائے والا ہے اس (مقتول) کے خاندان کو

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا

اور آزاد کرنا ہے ایک گرجان کا مسلمان کی پھر جو نہ پادے (گرجان) تو روزے ہیں

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

دو مہینوں کے متواتر بطور توبہ کے اللہ کی طرف سے اور ہے اللہ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۲﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

خوب جاننے والا حکمت والا اور جو قتل کرے کسی مومن کو عمداً

فَجَزَاءُهَا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

تو بدلہ اس کا جہنم ہے رہ پڑنے والا ہے اس میں اور غضب کیا اللہ نے اس پر

وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور لعنت کی اس پر اور تیار کیا اس کے لیے عذاب عظیم اے لوگو جو

آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا

ایمان لائے ہو جب سفر کو تم راہ میں اللہ کی تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ

تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ

کہو اسے جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے تو مسلمان

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ فَعِنْدَ اللَّهِ

تم چاہتے ہو سامان زندگی دہلی کا پس پاس اللہ کے

مَغَانِمُ كَثِيرَةً ۚ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ ۚ فَمَنَّ اللَّهُ

غنیمتیں ہیں بہت اسی طرح تھے تم پہلے پھر احسان کیا اللہ نے

عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

تم پر پس تحقیق کر لیا کرو یقیناً اللہ ہے اس کی جو تم کرتے ہو

خَيْرًا ﴿۹۵﴾ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ

خوب خبر رکھنے والا نہیں برابر ہوتے (جہاد سے) بیٹھے رہنے والے مومن سوائے

أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

غذروالوں کے اور جہاد کرنے والے راہ میں اللہ کی ساتھ اپنے مالوں کے

وَأَنْفُسِهِمْ فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور اپنی جانوں کے فضیلت دی اللہ نے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کیساتھ

عَلَى الْقَعِيدِينَ دَرَجَةً ۚ وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنَ ۚ وَفَضَّلَ

بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور فضیلت دی

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعِيدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۱۶﴾ دَرَجَاتٍ

اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں (اور) درجوں میں

مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۱۷﴾

اپنی طرف سے اور مغفرت میں اور رحمت میں اور ہے اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا

یقیناً وہ لوگ کہ وفات دیتے ہیں ان کو فرشتے جبکہ وہ ظالم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر تو کہتے ہیں

فِيمَ كُنْتُمْ ۚ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ

کس حالت میں تھے تم وہ کہتے ہیں تھے ہم کمزور زمین میں

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ

(وہ فرشتے) کہتے ہیں کیا نہ تھی زمین اللہ کی وسیع کو تم ہجرت کر جاتے اس میں

فَأُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۱۱۸﴾ إِلَّا

یہ لوگ وہ ہیں کہ ٹھکانا ان کا جہنم ہے اور کیا ہی بُرا ہے وہ ٹھکانا سوائے

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿۱۱۹﴾ فَأُولَٰئِكَ

جو نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی اور نہیں راہ پاتے کسی راستہ کی ہیں یہ لوگ

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۲۰﴾

قریب ہے اللہ کہ درگزر کرے ان سے اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ

اور جو ہجرت کرے گا راہ میں اللہ کی وہ پائے گا زمین میں

مُرْعَمًا كَثِيرًا أَوْ سَعَةً ۖ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ

پناہ کی جگہ بہت سی اور گنجائش اور جو نکلے گا اپنے گھر سے

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَدَسُؤِلِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ

ہجرت کرتا ہوا فوتِ اللہ کی اور اس کے رسول کی پھر پالیوے اُسے موت

فَقَدْ وَقَعَتْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۱

تو یقیناً پڑ گیا اجر اس کا ذمہ اللہ کے اور ہے اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کون گناہ کہ

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ

تقصیر کرو نماز اگر ڈرو تم کہ فتنہ میں ڈالیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں

كَفَرُوا ۖ إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا الْكُفْرَ عَدُوًّا مُبِينًا ۝۱۰۲

نے کفر کیا یقیناً کافر ہیں تمہارے دشمن کھلے کھلے

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ

اور جب ہو تم ان میں پھر کھڑی کرے تو ان کے لیے نماز تو چاہیے کھڑی ہو

طَائِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ ۖ فَإِذَا

ایک جماعت ان میں سے ساتھ تیرے اور چاہیے کہ یوں وہ ہتھیار اپنے پھر جب

سَجَدُوا فَالْيَكُوفُوا مِنْ دَرَائِكُمْ ۖ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ

سجدہ کر چکیں وہ تو چاہیے کہ ہو جاویں وہ پیچھے تمہارے اور چاہیے کہ آوے گروہ

أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا

دوسرا نہیں پڑھی نماز جنہوں نے پس وہ نماز پڑھیں ساتھ تیرے اور چاہیے کہ یوں وہ

حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۖ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ

بچاؤ اپنا اور ہتھیار اپنے چاہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کاش

تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

غافل ہوتے اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے تو وہ لوٹ پڑیں

عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ وَاحِدَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ

تم پر ٹوٹ پڑنا یکدم اور میں کوئی ٹکناہ تم پر اگر ہو

بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا

تہیں تکلیف بارش کی یا ہو تم بیمار کہ رکھو

أَسْلِحَتَكُمْ، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

ہتھیار اپنے اور اختیار رکھو بچاؤ اپنا یقیناً اللہ نے تیار کیا ہے

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۳۶﴾ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ

کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنیوالا پھر جب ادا کر چکو تم نماز

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ،

تو یاد کرو تم اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر اپنے

فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ

پھر جب مطمئن ہو جاؤ تم تو قائم کرو نماز کو یقیناً نماز ہے

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿۱۳۷﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ

مومنوں پر فرض باوقت اور نہ سست ہو بیچھا کرنے میں ان

الْقَوْمِ، إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

دشمن لوگوں کا اگر ہو تم تکلیف اٹھاتے تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ

تَأْلَمُونَ، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وَكَانَ

تکلیف اٹھاتے تم اور امید رکھتے ہو تم اللہ سے جس کی نہیں وہ امید رکھتے اور ہے

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۳۸﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

اللہ خوب جاننے والا حکمت والا یقیناً اتاری ہم نے تیری طرف یہ کتاب

بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وَلَا

ساتھ حق کے تاکہ تو فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے مطابق انکے جو سمجھاوے تجھے اللہ اور نہ

تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿۱۳۹﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ مِنْكَ اللَّهُ

ہو تو خائنوں کی طرف سے حمایت اور بخشش مانگ اللہ سے یقیناً اللہ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ

ہے بہت بخشنے والا بہت رحم کرنیوالا اور نہ تو جھگڑا کر ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں

أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝

اپنے آپ کی یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اُسے جو ہو بہت خیانت کرنیوالا گناہ گار ہے

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ

یہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے

وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۚ

اور وہ تو ساتھ ہوتا ہے انکے جب کہ وہ منصوبہ کرتے ہیں رات کو اس کا کہ نہیں پسند کرتا وہ (اللہ) جس بات کو

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

اور ہے اللہ اس پر جو وہ کرتے ہیں احاطہ کئے ہوئے دیکھو تم وہ لوگ ہو کر

جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلْ

جھگڑا کیا تم نے ان لوگوں کی طرف سے زندگی دنی میں پس کون جھگڑے گا

اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ

اللہ سے ان کی طرف سے بروز قیامت یا کون ہوگا ان کا

وَكَيْلًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ

کار ساز اور جو شخص کرے کوئی بُرائی یا ظلم کرے اپنے پر پھر

يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

بخشش مانگے اللہ سے پاوے گا اللہ کو بہت بخشنے والا بہت رحم کرنیوالا اور جو شخص

يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ

کرے کوئی گناہ تو سوائے اس کے نہیں کر وہ کرتا ہے اسے خلاف اپنے نفس کے اور ہے

اللَّهُ عَلَيْهِمَ حَكِيمًا ۝ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ

اللہ خوب جاننے والا حکمت والا اور جو کرے کوئی غلطی یا

إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا

کوئی گناہ پھر الزام لگا دے اس کا کسی بے گناہ پر تو یقیناً اس نے اٹھایا یا اپنے کندھے پر بھجھوٹا الزام

وَأَثْمًا مُّبِينًا ۝۱۳۳ وَلَا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ

اور گناہ کھلا کھلا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تجھ پر اور رحمت اس کی

لَهُمْ تَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُّضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ

تو ارادہ کر لیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے کہ بے راہ کر دیں تجھے حالانکہ نہیں بے راہ کرتے وہ

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ

مگر اپنے آپ کو اور نہیں یہ نقصان پہنچا سکیں گے تجھ کو کچھ بھی اور اتاری ہے اللہ نے

عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ

تجھ پر یہ کتاب اور حکمت اور سکھایا ہے تجھے وہ جو نہیں تھا تو جانتا

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝۱۳۴ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ

اور ہے فضل اللہ کا تجھ پر بڑا نہیں بھلائی بہت سے

تَجْوَاهِرٍ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ

شوروں میں ان کے سوائے اس کے جس نے حکم دیا صدقہ کا یا مناسب بات کا یا اصلاح کا

بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

درمیان لوگوں کے اور جس نے کیا یہ کام چاہنے کے لیے رضامندی

اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۳۵ وَمَنْ يُشَاقِقِ

اللہ کی تو ضرور ہم دیں گے اُسے اجر بڑا اور جو مخالفت کرے گا

الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

رسول کی بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی اس کے لیے ہدایت اور پیروی کرے گا

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ

سوائے راستہ مومنوں کے ہم پھیریں گے اُسے جس کی طرف وہ (خود) پھرا اور ہم داخل کریں گے

جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝۱۳۶ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ

اُسے جہنم میں اور کیا ہی بڑا ہے ٹھکانا یقیناً اللہ نہیں معاف کرتا کہ

يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝۱۳۷ وَمَنْ

شریک بنایا جاوے ساتھ اُس کے اور معاف کرتا ہے سوائے اس کے جس کے لیے چاہے اور جو

يُشْرِكُ بِإِلَهِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۱۱۹ إِنْ يَدْعُونَ

شریک بنا ہے ساتھ اللہ کے تو یقیناً وہ گمراہ ہے گمراہی دور کی میں نہیں وہ بیکارتے

مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَنْتَ ۝ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝۱۲۰

سوائے اس (اللہ) کے مگر عورتوں کو اور نہیں بیکارتے مگر شیطان سرکش کو

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكِ نَصِيبًا

لعنت کی ان پر اتدنے اور کہا اس نے فرور لوں گا میں تیرے بندوں سے حصہ

مَفْرُوضًا ۝۱۲۱ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ

مقررہ اور البتہ میں ضرور گمراہ کو ڈنگا اور البتہ ضرور میں آرزو میں دلاؤنگا اور البتہ ضرور حکم دول گا میں

فَلْيَبْتَكَنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ

ان کو پھر البتہ ضرور کامیں گے وہ کان مویشیوں کے اور البتہ ضرور حکم دول گا میں انکو پھر ضرور وہ بدلا دیں گے

خَلَقَ اللَّهُ دَوْمَانَ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ

پیدا نش اللہ کی اور جو بناوے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا تَابِيئًا ۝۱۲۰ يَعِدُهُمْ وَيَمَنِّيهِمْ دَوْمَانًا

تو یقیناً گھانا پائیگا گھانا گھلا گھلا وہ (شیطان) وعدہ دیتا ہے انکو اور آرزو دلاتا ہے انکو اور

مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝۱۲۱ أُولَئِكَ مَا أَوْهَمُ

نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان سوائے فریب کے بیولوگ وہ ہیں کہ ٹھکانا ان کا

جَهَنَّمَ زَوْجًا وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝۱۲۲ وَالَّذِينَ آمَنُوا

جسم ہے اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بھاگنے کی جگہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اور کیں انہوں نے نیکیاں ضرور ہم داخل کریں گے انکو باغات میں کہ بہتی ہیں نیچے انکے

الأنهار خالدين فيها أبدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقَّاهُ وَمَنْ

نہیں رہ پڑنے والے ہیں اس میں ہمیشہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور کون ہے

أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝۱۲۳ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي

زیادہ سچا اللہ سے قول میں نہیں ہے رشتہ میں جانا وابستہ تمہاری آرزو سے اور نہ آرزوؤں سے

وفاذ

أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ ۖ وَلَا يَجِدْ

اہل کتاب کی جو بھی کرمے گا برائے اسے بلا دیا جائیگا اسکا اور نہ پاویگا وہ

لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۳۳﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ

اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ مددگار اور جو کرمے گا

الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

نیکیاں خواہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ ایماندار ہو تو یہ لوگ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿۱۳۴﴾ وَمَنْ

داخل ہوں گے جنت میں اور نہ ظلم کئے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے سوارخ کے برابر بھی اور کون

أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

زیادہ اچھا ہے دین میں اس شخص سے جس نے سوئے دی توجہ اپنی اللہ کو جبکہ وہ احسان کرنے والا ہو

وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

اور پیروی کرے مذہب ابراہیم موحّد کی اور بنایا اللہ نے ابراہیم کو

خَلِيلًا ﴿۱۳۵﴾ وَبَلَّغَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ

خاص دوست اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور ہے

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۳۶﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ

اللہ ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے اور فتویٰ پوچھتے ہیں تجھ سے عورتوں کے بارہ میں

قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ

تو کہے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارہ میں اور (فتویٰ دیتا ہے) اس کا جو پڑھا جاتا ہے تم پر اس کتاب میں

فِي يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ

تیم عورتوں کے بارہ میں حالانکہ نہیں دیتے تم ان کو جو مقرر کیا گیا ان کے لیے

وَتَرَعِبُونَ ۗ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۗ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

اور درغبت کرتے ہو کہ نکاح کرو تم ان سے اور (فتویٰ دیتا ہے تم کو) کزور

الْوَالِدَانِ ۗ وَأَنْ تَقُوْا مَوَالِيَكُمْ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا

بچوں کے متعلق اور یہ کہ کھڑے ہو جاؤ تیموں کے لیے ساتھ انصاف کے اور جو

تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۳۸﴾ وَاِنْ

بھی کر دے تم کوئی نیکی تو یقیناً اللہ ہے اس کو خوب جاننے والا اور اگر

امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کی طرف سے ظلم یا بے توجہی سے تو نہیں کوئی گناہ

عَلَيْهِنَّ اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ

ان دونوں پر کہ وہ صلح کریں آپس میں کوئی صلح اور صلح بہتر ہے

وَاٰخُزِرَتْ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تَحْسَبُوْا وَتَتَّقُوْا

اور موجد کیا گیا ہے طبیعتوں میں بغل اور اگر احسان کرو تم اور تقویٰ کرو تم

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۳۹﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا

تو یقیناً اللہ ہے اس کی جو کرتے ہو تم خوب خبر رکھنے والا اور ہرگز نہیں طاقت رکھتے تم

اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا

کہ عدل کرو درمیان بیویوں کے اور اگرچہ بہت خواہش کرو تم پس نہ جھکو تم

كُلَّ الْمِيْلِ فَتَذَرُوْهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تَصْلِحُوْا

بالکل جھک جانا کہ چھوڑ دو اسے مانند کھڑی پر لٹکانی ہوئی (دیزیز) کے اور اگر اصلاح کرو تم اور

تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۴۰﴾ وَاِنْ يَتَفَرَّقَا

تقویٰ کرو تو یقیناً اللہ ہے بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا اور اگر دونوں جدا ہو جاویں

يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاَسْعًا

تو بے پروا کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی کثرت سے اور ہے اللہ وسعت والا

حَكِيْمًا ﴿۱۴۱﴾ وِلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ

حکمت والا اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور یقیناً یقیناً

وَصَيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاَيَّاكُمْ اَنْ

ساکیدی حکم دیا ہم نے ان لوگوں کو جو دینے گئے کتاب پہلے تم سے اور تم کو بھی کہ

اَتَّقُوْا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَّقُوْا

ڈرو اللہ سے اور اگر کفر کرو تم تو یقیناً اللہ کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور

مَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿۱۳۲﴾ وَبِهِ مَا

جو زمین میں ہے اور ہے اللہ بے پروا بہت خوبوں والا اور اللہ ہی کا ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَجِيلاً ﴿۱۳۳﴾ إِنَّ

آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کارساز اگر وہ

يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْآخِرِينَ ۚ وَكَانَ

چاہے لے جاوے تم کو اے لوگو اور لاوے دوسروں کو اور ہے

اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿۱۳۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے والا جو ہو چاہتا بدلہ دینا کا

فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

تو پاس اللہ کے بدلہ ہے دنیا کا اور آخرت کا اور ہے اللہ خوب سننے والا

بَصِيرًا ﴿۱۳۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

خوب دیکھنے والا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ہو جاؤ خوب قائم

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَ

انصاف پر جبکہ تم گواہ ہو اللہ کی خاطر اور اگرچہ تمہاری گواہی خلاف تمہارے اپنے ہو یا ماں باپ اور

الْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ

رشتہ داروں کے ہو اگر ہے وہ جسکے خلاف گواہی ہے (دو تہند یا فقیر تو اللہ زیادہ حامی ہے ان دونوں کا۔

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا

پس نہ پیچھے گنا (اس) خواہش کے کہ عدل نہ کرو تم اور اگر بیچیدار بات کرو تم یا رُک جاؤ تم

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۳۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

تو یقیناً اللہ ہے اس کی جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا اے لوگو جو

آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ

ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول کے پر اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری

عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ

اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری ہوئی ہے پہلے سے اور جو

يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز

الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۱۳۶ اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا

آخر کا تو یقیناً وہ گمراہ ہوا گمراہی دور کی یقیناً جو لوگ ایمان لائے

ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اٰذًا وَاكْفُرًا

پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر بڑھ گئے کفر میں

لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۱۳۷

نہیں ہے اللہ کہ معاف کرے ان کو اور نہ یہ کہ راہ نمائی کرے ان کو راہ سیدھی کی

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بَانَ لَهُمْ عَذَابُ الْاِيْمَانِ ۱۳۸ اِنَّ الَّذِينَ

تو بشارت دے منافقوں کو کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک وہ جو

يَتَّخِذُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ

بناتے ہیں کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے

اَيْتَمِنُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۱۳۹

کیا یہ (منافق) چاہتے ہیں ان (کافروں) کے پاس عزت تو اس کو یقیناً عزت ہے اللہ کی سب کی سب

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ

اور یقیناً اتارا ہم نے تم پر اس کتاب میں کہ جب سنو تم اللہ کی

اللّٰهِ يُكْفِرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ

آیت کو کفر کیا جاتا ہے ان کا اور استہزاء کیا جاتا ہے ساتھ ان کے تو نہ بیٹھو ساتھ ان کے

حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ ۗ اِنَّكُمْ اِذَا اٰمَنْتُمْ

یہاں تک کروہ لگ جاویں کسی بات میں اس کے سوا یقیناً تم اس وقت مانند ہو گے ان کی

اِنَّ اللّٰهَ جٰمِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ

یقیناً اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو جسم میں

جَمِيْعًا ۱۴۰ اِنَّ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ؕ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ

سب کے سب کو وہ جو کہ انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے متعلق پھر اگر ہو تمہارے لیے فتح

مَنْ اللَّهُ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ

اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ اور اگر ہو کافروں کے لیے

نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ

کچھ حصہ کہتے ہیں (کافروں کو) کیا نہ غالب آئے تھے ہم تم پر اور نہ روکا تھا تم کو

الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَالَ لَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَ

مسلمانوں سے پس اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے بروز قیامت اور

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

ہرگز نہیں بناویگا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی حجت

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا

یقیناً منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو اور وہ دھوکا کی سزا دینے والا ہے انکو اور جب

قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا

کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر دکھاتے ہیں لوگوں کو اور نہیں

يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ مَذْذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ

باد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا سا مژرد ہیں درمیان اس کے

لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ

نہ ان (مسلمان) لوگوں کی طرف میں اور نہ ان (کافر) لوگوں کی طرف میں اور جسے گمراہ ٹھہرائے اللہ تو ہرگز نہ پائے گا تو

لَهُ سَبِيلًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ

اس کیلئے کوئی راہ اسے لوگو جو ایمان لائے ہونے بناؤ کافروں کو

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَاتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا

دوست چھوڑ کر مومنوں کو کیا تم چاہتے ہو کہ بناؤ تم

بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۚ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ

اللہ کے لیے اپنے پر حجت کھلی کھلی یقیناً منافق سب سے نچلے درجہ میں

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ إِلَّا الَّذِينَ

ہوں گے آگ کے اور ہرگز نہیں پائے گا تو ان کیلئے کوئی مددگار سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ

توبہ کی اور اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص کیا اپنے دین کو

بِاللهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللهُ

اللہ کے لیے یہ لوگ ساتھ ہوں گے مومنوں کے اور عنقریب دے گا اللہ

الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۱۴۶ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ

مومنوں کو اجر عظیم کیا کرے گا اللہ عذاب دے کر تم کو

إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۱۴۷

اگر شکر گزار بنو تم اور ایمان لاؤ تم اور ہے اللہ قدر دان خوب جاننے والا



لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا

نہیں پسند کرتا اللہ ظاہر کرنا بُری بات کو سوائے

مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿۱۴۶﴾

جس پر ظلم کیا گیا اور ہے اللہ خوب سنتے والا اور خوب جاننے والا اگر ظاہر کرو تم

خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اسے یا درگزر کرو تم کسی بدی سے تو یقیناً اللہ ہے بہت

عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿۱۴۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا

وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ

اور چاہتے ہیں کہ تفرقہ کریں درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے وہ

يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لَا يُرِيدُونَ

کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں ہم بعض پر اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا اور وہ چاہتے ہیں

أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿۱۴۸﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ

کہ بناویں درمیان اس کے راہ یہ لوگ ہی کافر ہیں

حَقًّا ۚ وَاعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۱۴۹﴾ وَالَّذِينَ

سچ پچ اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا اور وہ لوگ جو

أٰمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہیں تفرقہ کیا انہوں نے درمیان کسی کے ان میں سے

أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا

یہ لوگ وہ ہیں کہ عقیب دیکھا (اللہ) ان کو اجر ان کے اور ہے اللہ بہت بخشنے والا

رَحِيمًا ﴿۱۵۰﴾ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا

بہت رحم کرنے والا درخواست کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ تو آتا سے ان پر کوئی کتاب

مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا

آسمان سے پس یقیناً مانگی انہوں نے موسیٰ سے زیادہ بڑی بات اس سے ہیں کہا انہوں نے

أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ

دکھا ہیں اللہ کھلم کھلا پس پکڑا انہیں بجلی نے بسبب ظلم کے ان کے

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

پھر بنایا انہوں نے بھڑا (معبود) بعد اس کے کہ آئیں ان کے پاس دہلیں

فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطٰنًا مَّبِيٓثًا ﴿۱۵۳﴾

پھر گذر کر دیا ہم نے اس (جزم) سے اور دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ کھلا

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَا قِهْمِ وَقُلْنَا لَهُمْ

اور اٹھایا ہم نے اوپر ان کے طور وقت وعدہ لینے کے ان سے اور کہا ہم نے ان کو

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي

داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہا ہم نے ان کو نہ حد سے بڑھو بارہ

السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْقَا غُلْيِظًا ﴿۱۵۵﴾ فِيمَا

میں سبت کے اور لیا ہم نے ان سے عمد پختہ پس بسبب

نَقَضْتَهُمْ مِثْقَا قِهْمِ وَكُفِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ

ان کے توڑنے کے اپنا عمد اور انکے کفر کرنے کے ساتھ آیات اللہ کی کے اور بسبب انکے قتل کرنے

الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ

کے نبیوں کو بغیر حق کے اور بسبب ان کے کہنے کے کہ دل ہمارے غلافوں میں ہیں (نہیں) بلکہ

طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۵۶﴾

مڑ کر دی ہے اللہ نے ان کے (دلوں) پر بسبب انکے کفر کے پس نہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿۱۵۷﴾ وَ

اور بسبب ان کے کفر کے اور بسبب انکے کہنے کے مریم پر بہتان عظیم اور

قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ

(بسبب) ان کے کہنے کے یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول کو

اللَّهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَ

اللہ کے حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اور نہیں صلیب پر مارا اسے ولکن وہ (یعنی مسیح) مشابہ کیا گیا (صلیب کے) واسطے انکے

إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ

اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں البتہ شک میں ہی اس واقعہ کے نہیں انہیں متعلق کے

مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۗ بَلْ

کوئی علم سوائے پیروی کرنے کے ظن کی اور نہیں قتل کیا انہوں نے اُسے یقیناً بلکہ

رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۗ وَإِنَّ مَنِ

قرب بخشا اسے اللہ نے اپنی طرف سے اور ہے اللہ عزت والا حکمت والا اور نہیں کوئی

أَهْلَ الْحَبْتِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ

اہل کتاب مگر البتہ ضرور ایمان لادینگا اس واقعہ قتل پر پہلے موت اپنی کے اور بروز

الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۗ فَيُظَلِّمُونَ الَّذِينَ

قیامت وہ (سبح) ہوگا خلاف ان کے گواہ پس سبب ظلم کے طرف سے ان لوگوں کی جو

هَادُوا وَآخَرْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ

یہودی ہوئے حرام کر دیں ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں واسطے ان کے اور سبب انکے روکنے کے

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخْذُهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا

راہ سے اللہ کے بہت اور (سبب) انکے لینے کے سود حالانکہ یقیناً روکے گئے تھے

عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

وہ اس سے اور (سبب) انکے کھانے کے مال لوگوں کے باطل طور پر اور تیار کیا ہم نے

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ لَكِنَّ الدَّاسِخُونَ فِي

کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک لیکن پختہ لوگ

الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

علم میں ان (یہود) میں سے اور مسلمان ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا طرف تیری

وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ

اور جو اتارا گیا پہلے تجھ سے اور قائم کرنے والے ہیں نماز اور دینے والے ہیں

الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ

زکوٰۃ اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور دن آخر پر یہ لوگ وہ ہیں کہ

سَنُؤْتِيَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۷۳﴾ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا

عقرب دیں گے ہم انہیں اجر عظیم یقیناً وحی کی ہم نے طرف تیری جس طرح

أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّيِّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى

وحی کی ہم نے طرف نوح کی اور نبیوں کی بعد اس کے اور وحی کی ہم نے طرف

إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ ۚ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ وَالْأَسْبَاطَ ۚ

ابراہیم کی اور اسمعیل کی اور اسحاق کی اور یعقوب کی اور اس کی اولاد کی اور

عِيسَىٰ وَآيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ ۚ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا

عیسیٰ کی اور ایوب کی اور یونس کی اور ہارون کی اور سلیمان کی اور دی ہم نے

دَاوُدَ ذَبُورًا ﴿۱۷۴﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ

داؤد کو زبور اور بھیجے ہم نے کئی رسول کو یقیناً بیان کیا ہم نے ان کا تجھ پر

قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ

پہلے سے اور بھیجے کئی رسول کو نہیں بیان کیا ہم نے ان کا تجھ پر اور کلام کیا اللہ نے

مُوسَىٰ تَكْوِيمًا ﴿۱۷۵﴾ رُسُلًا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلَّا

موسیٰ سے خوب کلام کرنا (بھیجے) رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ

يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ

رہے لوگوں کے لیے اللہ پر الزام بعد رسولوں کے اور ہے

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۱۷۶﴾ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ

اللہ عزت والا حکمت والا لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اتارا

إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَ

طرف تیری کہ اتارا ہے اسے ساتھ اپنے علم کے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور

كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۱۷۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ

کافی ہے اللہ گواہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا (دوسروں کو بھی)

سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴿۱۷۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ

راہ سے اللہ کی یقیناً وہ گمراہ ہوئے گمراہی دور کی یقیناً جن لوگوں نے

كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا

کفر کیا اور ظلم کیا نہیں ہے اللہ کہ بخشدے ان کو اور نہ یہ کہ

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ

ہدایت دے انہیں مگر راہ کی جسٹم کے رہ پڑنے والے ہیں

فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

اس میں ہمیشہ اور ہے یہ اللہ پر آسان اے لوگو

قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا

یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسول ساتھ حق کے طرف سے رب تمہارے کی پس ایمان لاؤ بہتر ہے

لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ

تمہارے لیے اور اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ کا ہے جو آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۰۱﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا

زمین میں ہے اور ہے اللہ خوب جاننے والا حکمت والا اے اہل کتاب

تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ

غلو کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ

سوائے اس کے نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول تھا اللہ کا اور

كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَدُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ

کلمہ تھا اس کا کہ ڈالا اس (اللہ) نے وہ کلمہ طرف مریم کی اور روح تھا طرف سے اس (اللہ) کے پس ایمان لاؤ اللہ پر

وَدُسِّلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۗ إِنَّهَا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

اور رسولوں پر اس کے اور نہ کہو (خدا) تین ہیں باز آجاؤ (یہ) بہتر ہے تمہارے لیے

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ

موت اللہ خدا ہے ایلا پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا

وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكُفِيَ بِاللَّهِ

کوئی بچہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ

وَكَيْلًا ۱۴۶ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا

کارساز ہرگز نہیں بُرا مانوے گا مسیح کہ ہو وہ بندہ

بَلِّغْهُ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۱۴۷ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ

اللہ کا اور نہ فرشتے مقرب اور جو بُرا مانوے گا

عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ

عبادت سے اس کی اور تکبر کرے گا تو ضرور اکٹھا کرے گا (اللہ انکو اپنی طرف

جَمِيعًا ۱۴۸) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

سب کو پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں

فَيُوقِئِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۱۴۹ وَأَمَّا

پس پورے دیگا ان کو اجر ان کے اور بڑھائے گا انہیں اپنے فضل سے اور وہ

الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

لوگ جنہوں نے بُرا مانیا اور تکبر کیا تو عذاب دیگا انہیں عذاب

الْأَلِيمَ ۱۵۰ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا

دردناک اور نہ پادیں گے وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے دوست اور نہ

نَصِيرًا ۱۵۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ

مددگار اے لوگو یقیناً آئی تمہارے پاس دلیل طرف سے

رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۱۵۲) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

رب کے تمہارے اور آتا رہم نے طرف تمہاری نور کھلا کھلا پس وہ لوگ جو ایمان لائے

بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ

اللہ پر اور مضبوط پکڑا انہوں نے اسے پس داخل کرے گا وہ انہیں رحمت میں طرف سے اپنی

وَفَضْلٍ ۱۵۳) وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ۱۵۴)

اور فضل میں اور ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف راہ سیدھی

يَسْتَفْتُونَكَ ۱۵۵) قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ ۱۵۶) إِنَّ

فتویٰ پوچھتے ہیں تجھ سے تو کہہ دے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو بارہ میں کلامہ کے امر

امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ

کوئی آدمی مرتے نہ ہو اس کا کوئی بچہ اور اس کی کوئی بہن ہو تو اس (بہن) کیلئے نصف ہے

مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ

جو چھوڑا اس (کلام) نے اور وہ (بھائی) وارث ہو گا اس (بہن) کا اور اگر نہ ہو اس (بہن) کا کوئی بچہ پھر اگر

كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ

ہوں وہ (بہنیں) دو تو ان دونوں کے لیے دو تہائی ہے اس کا جو چھوڑا اس (کلام) نے اور اگر

كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ

وہ ہوں بھائی بہن کئی مرد اور کئی عورتیں تو مرد کے لیے مانند حصے کے

الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

ہے دو عورتوں کے کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ نہ گمراہ ہو تم اور اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾

ہر بات کو خوب جاننے والا ہے

سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو وعدوں کو حلال کئے گئے تمہارے لیے

بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ

چوپائے مویشی سوائے انکے جو پڑھے جاتے ہیں تم پر نہ حلال جانتے ہوئے شکار کو

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مِّمَّنْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور تم حالت احرام میں ہو یقیناً اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اے لوگو جو

أَمْثُولًا تُحَلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا

ایمان لائے ہونے سے جہنمی کرو نشانات کی اللہ کے اور نہ مہینہ عزت والے کی اور نہ

الْهَدْيِ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

قریبانی کی اور نہ گائنیوں کی اور نہ قصد کرنے والوں کی بیت الحرام کا

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

کروہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضامندی اور جب احرام کھول دو تم

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمَانِ صَدُّوْكُمْ

شکار کر سکتے ہو اور نہ آوازہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ لوکا تمہارا انہوں نے

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ تَعْتَدُوا مَرَاتٍ مُّوَعَدَ نُوَاعِلِ

تمہیں مسجد الحرام سے کہ تم زیادتی کرو اور آپس میں مدد کرو

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

نیکی اور تقویٰ پر اور نہ مدد کرو آپس میں گناہ پر اور زیادتی پر

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ حُرِّمَتْ

اور ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ سخت ہے سزا دینے میں حرام کیا گیا

عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَالْحَمُ الْخَنزِيرِ وَمَا هَلَ لِغَيْرِ

تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا اور وہ کہ بچا گیا (نام) غیر

اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ

اللہ کا جس پر اور گلا گھسی ہوئی اور چوٹ لگی ہوئی اور اوپر سے گری ہوئی

وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

اور سیگ لگی ہوئی اور جسے کھا لیا ہو درندہ نے سوائے اُسکے جسے ذبح کر لو تم اور جو ذبح کیا گیا

عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقُطٌ

استخوانوں پر اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم بذریعہ جوڑے کے تیروں کے یہ گناہ ہے

أَيُّومٍ مَّيْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دین سے تمہارے پس نہ ڈرو ان سے

وَقَالَ

وَإِخْشَوْنَ ۝ الْيَوْمَ مَا كَفَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآتَمَمْتُمْ

اور ڈرو مجھ سے آج کمال کیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا اور پوری کی میں نے

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ

تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پس جو

اضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ

مجبور ہو جاوے بھوک میں نہ جھکنے والا طرف گناہ کی تو یقیناً اللہ بہت

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ

بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں تم سے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے انکے لیے تو کہو کہ حلال کی گئی

لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

میں تمہارے لیے پاک چیزیں اور وہ جنہیں سکھایا تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار کا طریق سکھاتے ہوئے،

تُعَلِّمُونَهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ

سکھاتے ہو تم انہیں اس سے جو سکھایا تمہیں اللہ نے پس کھاؤ اس سے جو روک رکھیں وہ شکاری

عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ

جانور تم پر اور ذکر کرو نام اللہ کا اس شکار پر اور ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۝ وَ

جلد لینے والا ہے حساب آج حلال کی گئیں واسطے تمہارے پاک چیزیں اور

طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْالًا لَّكُمْ ، وَطَعَامُكُمْ حَلْالًا

کھانا ان لوگوں کا جو دیئے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے اور کھانا تمہارا حلال ہے

لَهُمْ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

انکے لیے اور حلال کی گئیں، پاکدامن عورتیں مسلمان عورتوں میں سے اور پاکدامن عورتیں ان

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

لوگوں میں سے جو دیئے گئے کتاب پہلے تم سے جبکہ دے دو تم ان عورتوں کو

أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي

مہراں کے قید کج میں لاتے ہوئے نہ شہوت ملاتے ہوئے اور نہ بناتے ہوئے

۱۰

أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

پوشیدہ یار اور جو انکار کرے ایمان کا تو یقیناً حبط ہوگئے اس کے عمل اور

وہ آخرت میں ناکاموں میں سے ہے اے لوگو جو ایمان لائے

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

جب کھڑے ہو تم طرف نماز کی تو دھویا کرو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

کھینوں تک اور مسح کرو اپنے سروں کا اور (دھویا کرو) اپنے پیروں کو

الكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ

مُحْنَجِبِينَ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ

مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

بیمار یا سفر پر یا آئے کوئی تم میں سے جاتے ضرور سے

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

اور چھو یا تم نے عورتوں کو پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو

صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

مٹی پاک کا پھر مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس

مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

(مٹی) سے نہیں چاہتا اللہ کہ کرے تم پر کوئی تنگی

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَليُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

د لیکن وہ چاہتا ہے کہ پاک کرے تم کو اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸﴾ وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ

تاکہ تم شکر کرو اور یاد کرو نعمت اللہ کی اپنے پر اور

مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ

عہد اس کا جو کہ کیا اس نے تم سے جب کہ کہا تم نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا

اور ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے (بات) سینوں والی کو

الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

لوگو جو ایمان لائے ہو ہو جاؤ درست اور سیدھے اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آَلَاءِ اللَّهِ وَإِعْدِلُوا

اور نہ آداهہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی اس پر کہ نہ عدل کرو تم (بلکہ) عدل کرو اور عدل

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

کرنا قریب تر ہے تقویٰ کے اور ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اسکی

تَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو تم کرتے ہو وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کیں انہوں نے نیکیاں

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۱﴾ يَا أَيُّهَا

جھٹلایا آیات کو ہماری یہ لوگ ہیں دوزخ والے اسے

الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ

لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو نعمت اللہ کی اپنے پر جبکہ ارادہ کیا تھا

قَوْمٍ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ

ایک قوم نے کہ دراز کریں طرف تمہاری اپنے ہاتھ پس روکا اس نے ہاتھوں کو انکے

عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾

تم سے اور ڈرو اللہ سے اور اللہ پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا

اور یقیناً یقیناً لیا اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل سے اور مقرر کئے

مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ

ان میں بارہ نقیب (مردار) اور کہا اللہ نے کہ یقیناً میں ساتھ ہوں تمہارے بشرطیکہ

أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي

قائم کی تم نے نماز اور ہی تم نے زکوٰۃ اور ایمان لائے تم رسولوں پر میرے

وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا

اور مدد کی تم نے ان کی اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض اچھا

لَا تُكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

ضرور ضرور دور کروں گا تم سے بُرائیاں تمہاری اور ضرور ضرور داخل کروں گا تم کو باغات میں کہ بہتی ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ

نیچے جن کے نہریں پھر جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے تو یقیناً

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۱۳۰ فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ

گمراہ ہوا وہ درست راہ سے ہیں بسبب ان کے توڑنے کے اپنا عہد

لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ

لعنت کی ہم نے ان پر اور بنایا ہم نے دلوں کو ان کے سخت وہ بدلا دیتے ہیں باتوں کو

عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وَلَا تَزَالُ

جگہوں سے ان کی اور بھول گئے وہ ایک حصہ اس سے کہ وہ نصیحت کئے گئے تھے جس کے ذریعہ اور تو رہے گا

تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ

ہمیشہ مطلع ہوتا خیانت پر ان کی طرف سے سوائے تھوڑوں کے ان میں سے پس درگزر کر

عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۱۳۱ وَمِنَ

ان سے اور معاف کر یقیناً اللہ پسند کرتا ہے محسنوں کو اور ان

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَضْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں لیا تھا ہم نے وعدہ ان سے پس وہ بھول گئے

حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

ایک حصہ اس سے کہ وہ نصیحت کئے گئے تھے جس کے ذریعہ پس ڈال دی ہم نے درمیان ان کے دشمنی

وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا

اور بغض تا روز قیامت اور عنقریب آگاہ کرے گا ان کو اللہ اس سے

كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝۵ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

جو تھے وہ کرتے اے اہل کتاب یقیناً آیا تمہارے پاس رسول ہمارا

يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

کھول کر بیان کرنا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس سے جو تھے تم چھپاتے کتاب میں سے

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

اور درگزر کرتا ہے بہت سے یقیناً آیا تمہارے پاس طرف سے اللہ کی نور اور کتاب

مُبِينٌ ۝۱۶ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ

کھلی کھلی ہدایت دیتا ہے بذریعہ اللہ اسے جس نے پیروی کی راضی کرتے ہوئے آل (اللہ) کو راستوں

السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ

کی سلامتی کے اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے طرف نور کی ساتھ اپنے حکم کے

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۷ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ

اور ہدایت دیتا ہے انہیں طرف راہ سیدھی کی یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ

جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے تو کہہ دے پس کون

يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ

ملک ہے بمقابلہ اللہ کے کسی بات کا اگر وہ ارادہ کرے یہ کہ ہلاک کرے مسیح ابن

مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَبِاللَّهِ مُلْكُ

مریم کو اور ماں کو اسکی اور ان کو جو زمین میں ہیں سب کو اور اللہ کی ہی ہے بادشاہی

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ

آسمانوں کی اور زمین کی اور جو درمیان ہے ان دونوں کے وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۸ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ

اللہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے کہ ہم

أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَاجْتَبَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ

بیٹے ہیں اللہ کے اور چاہے ہیں اسکے تو کہہ دے پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں بسبب گناہوں کے تمہارے

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ

(نہیں) بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جو پیدا کئے اس نے وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ

عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور

مَا بَيْنَهُمَا ۚ وَآلِيهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۹﴾ يَا هَلْ اَلْكِتٰبِ قَدْ

جو درمیان ہے ان دونوں کے اور طرف اس کی ٹھکانا ہے اے اہل کتاب یقیناً

جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنْ

آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے وقفہ پر

الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا

رسولوں کے یہ کہ کہہ دو تم نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ

نَذِيْرٍ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

ڈرانے والا یقیناً آیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ ہر بات پر

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يَقُوْمُوْا ذِكْرًا

خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے قوم میری یاد کرو

نِعْمَةً اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاً وَجَعَلَ لَكُمْ

نعمت اللہ کی اپنے پر جبکہ بنا ئے اس نے تم میں نبی اور بنایا تم کو

مُلُوْكَا ۗ وَاَنْتُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنْ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۱﴾

بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں دیا کسی کو تمام دنیا میں سے

يَقُوْمُوْا اَدْخُلُوْا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ

اے قوم میری داخل ہو ارض مقدس میں وہ جو کہ کھدی اللہ نے

لَكُمْ وَّلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۲۲﴾

تیرے لیے اور نہ پھرو اپنی پیٹھوں پر پس ہو جاؤ گے تم ناکام

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ ۗ وَاِنَّا لَن

انہوں نے کہا اے موسیٰ یقیناً اس میں ہے قوم سرکش اور ہم ہرگز نہیں

۱۶۰

تَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا

داخل ہونگے اس میں یہاں تک کہ نکل جائیں وہ اس سے پس اگر نکل جائیں گے وہ اس سے

فَاتَادَ اِخْلُؤْنَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنعَمَ

تو ہم داخل ہوئیو اے ہیں کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے انعام کیا تھا

اللَّهُ عَلَيْهِمَا اِذْ خَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ

اللہ نے ان دونوں پر داخل ہوجاؤ ان پر دروازہ میں پس جب داخل ہوجاؤ گے تم اس (دروازہ)

فَاِنَّكُمْ غٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴﴾

میں تو یقیناً تم غالب ہو گے اور اللہ پر پس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو

قَالُوا اَيُّ مَوْسٰى اَتَا لَنْ تَدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوا فِيْهَا

انہوں نے کہا اے موسیٰ یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہونگے اس میں کبھی بھی جب تک وہ رہیں اس میں

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعٌ دُونَ ﴿۲۵﴾ قَالَ

پس جا تو اور رب تیرا دونوں لڑو یقیناً ہم یہاں پر بیٹھنے والے ہیں کہا اس نے

رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاٰخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

اے رب میرے یقیناً میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر پس امتیاز کرو درمیان ہمارے اور درمیان

الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ

قوم فاسق کے فرمایا پس یقیناً وہ (زمین) حرام کی گئی ہے ان پر چالیس

سَنَةً ۚ يَتِيهُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

سال سرگرداں پھریں گے زمین میں پس نہ غم کھا تو قوم

الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۷﴾ وَاْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اٰدَمَ بِالْحَقِّ مٰرَاذُ

فاسق پر اور پڑھ ان پر خبر دو بیٹوں کی آدم کے ساتھ حق کے جبکہ

قَرَّبَا قُرْبٰنًا فَتَقَبَّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ

قریبانی کی ان دونوں نے کوئی قریبانی پس قبول کی گئی طرف سے ایک کی ان دونوں میں سے اور نہ قبول کی گئی

مِنَ الْاٰخِرِ ۗ قَالَ لَا قِتْلَتَكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ

طرف سے دوسرے کی اس نے کہا البتہ ضرور میں قتل کروں گا تجھے اس نے کہا صرف قبول کرتا ہے اللہ

مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۸﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي

متقیوں سے یقیناً اگر دراز کیا تو نے طرف میری اپنا ہاتھ تاکہ قتل کرے تو مجھے

مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لَا قُتِلَكَ، إِنِّي أَخَافُ

میں نہیں ہوں دراز کرنے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ قتل کروں میں تجھے یقیناً میں ڈرتا ہوں

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۹﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ، وَذَلِكَ جَزَاءُ

اللہ رب عالمین سے یقیناً میں چاہتا ہوں کہ تو ٹھٹھائے گناہ میرا اور

الظَّالِمِينَ ﴿۳۰﴾ قَطَّوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ

گناہ اپنا پس تو ہو جاوے آگ والوں سے اور یہ بدلہ ہے

ظالموں کا پس رعیت دلائی اس کو نفس نے اس کے قتل کی اپنے بھائی کے پس اس نے قتل کر دیا

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۱﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ

اسے پس وہ ہو گیا خسارہ پانہوالوں میں سے پھر بھیجا اللہ نے ایک کورا کرینا تھا

فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ، قَالَ

زمین میں تاکہ دکھا دے اُسے کس طرح ڈھانکے وہ لاش اپنے بھائی کی اس نے کہا

يُوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي

لے انہوں مجھ پر کیا عاجز ہو گیا میں کہ ہو جاؤں میں مانند اس کورے کی کہ ڈھانکوں میں

سَوْأَةَ أَخِي، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿۳۲﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

لاش اپنے بھائی کی پس ہو گیا وہ پشیمان ہونہوالوں میں سے بسبب اس کے

كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ

کھا، ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کوئی نفس بغیر

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا،

نفس کے یا فساد کرنے کے زمین میں تو گویا کہ قتل کر دیا اس نے لوگوں کو سب کو

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وَلَقَدْ

اور جس نے زندہ کیا اس کو تو گویا کہ زندہ کیا اس نے لوگوں کو سب کو اور یقیناً یقیناً

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ زُتْمًا إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ

آئے ان کے پاس رسول ہمارے ساتھ دلائل کے پھر یقیناً بہت سے ان میں سے بعد

ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسِرْفُونَ ۳۲ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

اس کے زمین میں ضرور حد سے بڑھنے والے ہیں سوائے ان کے نہیں کہ بدلہ ان لوگوں کا جو

يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

لڑتے ہیں اللہ اور رسول اس کے سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی

أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يَصَلَبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَجْزُلُهُمْ

یہ ہے کہ قتل کئے جاویں یا صلیب دیئے جاویں یا کاٹے جاویں ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے

مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي

مخالف طرف سے یا جلا وطن کئے جاویں زمین سے یہ ان کے لیے ذلت ہے

الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۳۳ إِلَّا الَّذِينَ

دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا سوائے ان لوگوں کے جنہوں

تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

نے توبہ کی پہلے اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر پس جان لو کر یقیناً اللہ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ۳۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور

ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ

چاہو طرف اس کی قرب اور جہاد کرو راہ میں اس کی تاکہ تم

تُفْلِحُونَ ۳۵ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَتَا فِي الْأَرْضِ

کامیاب ہو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ہو واسطے ان کے جو کچھ زمین میں ہے

جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ

سب کا سب اور اتنا ہی ساتھ ہو اسکے تاکہ فدیہ دیں بذریعہ اس کے عذاب سے روز

الْقِيَامَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۳۶ يُرِيدُونَ

قیامت کے نہیں قبول کیا جانے گا انکی طرف سے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک وہ ارادہ کریں گے

أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَ

کہ نکل جاویں آگ سے حالانکہ نہیں وہ ہرگز نکلنے والے اس سے اور

لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۳۸ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

ان کیلئے عذاب ہے قائم رہنے والا اور چور مرد اور چور عورت پس کاٹ دو

أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ہاتھ ان کے بدلے کے طور پر اس کے جو کما یا انہوں نے سزا کے طور پر طرف سے اللہ کی اور اللہ عزت والا

حَكِيمٌ ۳۹ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ

حکمت والا ہے پس جس نے توبہ کی بعد اپنے ظلم کے اور اصلاح کر لی پس یقیناً اللہ

يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۴۰ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

نفل سے متوجہ ہو گا اس پر یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے کیا نہیں جانتے تھے کہ یقیناً

اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

اللہ وہ ہے کہ اس کی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے

وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۴۱ يَا أَيُّهَا

اور بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اے

الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

رسول زغم میں ڈالیں تجھے وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِفَوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ

ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ایمان لائے ہم اپنے مونہوں سے اور نہیں ایمان لائے

قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَ سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ

دل ان کے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو

سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَأَمَّا تُؤْكُطُ يَحْرَفُونَ

خوب سننے والے ہیں واسطے دوسرے لوگوں کے جو نہیں آئے تیرے پاس بدل دیتے ہیں

الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا ضَعَفَهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيتُمْ

باتوں کو بعد جگہوں کے ان کی وہ کہتے ہیں اگر دیئے جاؤ تم

هَذَا فَخَذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدْ

یہ (مخرف شدہ کتاب) تو لے لو اسے اور اگر نہ دینے جاؤ تم یہ تو بچو اور جو شخص کما ارادہ

اللَّهُ فُتِنَتْهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ

کے اللہ اس کے ابتلاء کا تو ہرگز نہیں اختیار رکھتا تو ان کیلئے بمقابل اللہ کے کسی چیز کا یہ لوگ

الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرِ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

وہ ہیں کہ نہیں ارادہ کیا اللہ نے کہ پاک کرے دلوں کو ان کے لیے

الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۲﴾

دُنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ

خوب سننے والے ہیں جھوٹ خوب کھانے والے ہیں حرام پس اگر آویں وہ تیرے پاس

فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرَضْ

تو فیصلہ کر درمیان ان کے یا اعراض کر ان سے اور اگر اعراض کرے تو

عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ

ان سے تو ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے تجھے کچھ بھی اور اگر فیصلہ کرے تو فیصلہ کر

بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۳۳﴾ وَكَيْفَ

درمیان ان کے ساتھ انصاف کے یقیناً اللہ پسند کرتا ہے انصاف کو نبوالوں کو اور کس طرح

يُحْكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ

وہ فیصلہ لاسکتے ہیں تیرے پاس جبکہ پاس انکے تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ کا پھر

يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

پھر جاتے ہیں بعد اس کے اور نہیں یہ لوگ ہرگز مومن

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا

یقیناً اتاری تھی ہم نے تورات جس میں ہدایت اور نور تھا فیصلہ کرتے تھے مطابق

النَّبِيِّونَ الَّذِينَ آسَلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ

اس کے نبی وہ جنہوں نے کہ فرمانبرداری کی (تورات کی) ان لوگوں کیلئے جو یہودی ہوئے اور اللہ والے لوگ

وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ

اور عالم لوگ بسبب اسکے کہ محافظ بنائے گئے تھے کتاب کے اللہ کی اور تھے وہ اس پر

شُهَدَاءَ، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا

گواہ پس نہ ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے اور نہ بدلہ میں لو

بِأَيْتِي تَمَنَّا قَلِيلًا، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ

آیات کے میری مول تمھوڑا اور جو نہ فیصلہ کرے اس پر جو آتا اللہ نے تو یہ لوگ

هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۳۵﴾ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فَأَتَى النَّفْسَ

ہی کافر ہیں اور فرض کیا تھا ہم نے ان پر اس ذورات میں سے کہ جان

بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ

بدلہ جان کے ہے اور آنکھ بدلہ آنکھ کے اور ناک بدلہ ناک کے اور کان

بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَنْ

بدلہ کان کے اور دانت بدلہ دانت کے اور زخموں کا بدلہ ہے پس جو

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا

بخشے اُسے تو وہ کفارہ ہے اس کیلئے اور جو نہ فیصلہ کرے اس پر جو

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى

آتا اللہ نے تو یہ لوگ ہی ظالم ہیں اور پیچھے بھیجا ہم نے

أَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

قدم بقدم ان کے عیسیٰ ابن مریم کو مصدق بنا کر اس کا جو

يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ، وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى

پہلے تھا تورات میں سے اور دی ہم نے اُسے انجیل جس میں ہدایت

وَنُورًا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

اور نور تھا اور مصدق بنا یا اس کا جو پہلے تھا تورات میں سے

وَهَدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ

اور ہدایت اور وعظ متقیوں کے لیے اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

مطابق اس کے جو آتارا اللہ نے اس میں اور جو نہ فیصلہ کرے مطابق اس کے جو آتارا اللہ نے

فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۸﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

تو یہ لوگ ہی فاسق ہیں اور آتاری ہم نے تیری طرف یہ کتاب

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ

ساتھ حق کے مصدق بنا کر اس کا جو پہلے ہے اس کے کتاب میں سے اور

مُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

نگران بنا کر اس پر پس فیصلہ کر درمیان ان کے مطابق اس کے جو آتارا اللہ نے

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ

اور نہ پیروی کر خواہشات کی ان کی جھوڑ کر اسے جو آیا تیرے پاس حق میں سے ہر ایک کیلئے

جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

بنائی ہم نے تم میں سے شریعت اور راستہ اور اگر چاہتا اللہ

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا

تو ضرور بناتا تم کو امت ایک ہی (لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ آزمائے تم کو اس میں جو

آتاكم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

دیا اس نے تم کو پس سبقت لے جاؤ نیکیوں میں طرف اللہ کی لوٹتا ہے تمہارا سب کا

فِي نَبِيِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ أَحْكَمُ

پھر وہ آگاہ کرے گا تم کو اس پر کہ تمہیں تم میں اختلاف کرتے اور یہ کہ فیصلہ کر تو

بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَ

درمیان ان کے مطابق اس کے جو آتارا اللہ نے اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی اور

احذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

بچ ان سے یہ کہ فتنہ میں ڈال دیں گے تجھے متعلق بعض کے جو آتارا اللہ نے

إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

طرف تیری پس اگر پھر جاویں وہ تو جان لے کہ چاہتا ہے اللہ کہ

يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

سزا دے انہیں بسبب بعض انکے گناہوں کے اور یقیناً بہت سے لوگ

لَفَسِقُونَ ﴿۵۱﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاہِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ

فاسق ہیں کیا پس فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں اور کون زیادہ بہتر ہے

مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۵۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اللہ سے فیصلہ میں ان لوگوں کیلئے (جو) یقین رکھتے ہیں اے لوگو جو

آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ مَبَعْضُهُمْ

ایمان لائے ہو نہ بناؤ یہود اور نصاریٰ کو دوست بعض ان کے

أَوْلِيَاءَ بَعْضٌ مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ

دوست ہیں بعض کے اور جو دوست بنا لیں گے انہیں تم میں سے پس یقیناً وہ انہی میں سے ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۳﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي

یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیتا لوگوں ظالموں کو پس تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن

دلوں میں جن کے بیماری ہے جلدی کرتے ہیں (تعلقات ناکم کرنے میں) ان (کفار) میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ

تُصِيبَنَا ذَاتُ بَرَّةٍ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ

پہنچے ہمیں گردش پس قریب ہے اللہ کہ لاوے فتح یا

أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ

کوئی اور امر اپنے پاس سے پس ہو جاویں وہ (منافق) اس بات پر جو چھپائی انہوں نے اپنے دلوں میں

نَدِيمِينَ ﴿۵۴﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ

پشیمان اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے کیا یہی لوگ ہیں جو

أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ

قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پختہ قسمیں اپنی کہ یقیناً وہ ضرور ساتھ ہیں تمہارے کھر گئے

أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ﴿۵۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اعمال ان کے پس ہو گئے وہ ناکام اے لوگو جو

صحیح

وقف غفران

الثبتة

أَمْنُوا مَنْ يَزِيدُ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ

ایمان لائے جو مُرتد ہوگا تم میں سے اپنے دین سے تو عنقریب لاوے گا اللہ

بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ایسی قوم کو وہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کرے گا اس سے فروتنی کرنیوالے ہونگے مومنوں پر

أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

غالب ہوں گے کافروں پر جہاد کریں گے راہ میں اللہ کی اور نہ

يَخَافُونَ لَوْمَةً لَّآئِمَةً ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ

ڈریں گے ملامت سے ملامت کرنیوالے کی یہ فضل ہے اللہ کا وہ دیتا ہے جسے

يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۱۰۰ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ

چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا ہے جانتے والا ہے سوائے اس کے نہیں کہ دوست تمہارا ہے اللہ اور

رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ

رسول ہے اس کا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز اور

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝۱۰۱ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ

دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ رکوع کرنیوالے ہیں اور جو دوستی کرے اللہ سے اور

رَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝۱۰۲

اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو یقیناً گروہ اللہ کا ہی غالب ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہونے بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دین کو تمہارے

هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ

ہنسی اور کھیل یعنی وہ لوگ جو دیئے گئے کتاب پہلے تم سے اور

الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۰۳ وَإِذَا

غیر اہل کتاب کافروں کو دوست اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم مومن اور جب

تَنَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَٰذَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذٰلِكَ

بلاتے ہو تم طرف نماز کی وہ بناتے ہیں اُسے ہنسی اور کھیل یہ اس لیے ہے

يَا تَهُم قَوْمًا لَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۹﴾ قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابِ هَلْ

کہو ایسے لوگ ہیں کہ نہیں عقل کرتے تو کہہ دے اے اہل کتاب نہیں

تَنْقِمُونَ مِثْلًا لَّا آتَاكُمْ مِنْ بَارِئِ اللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا

بُرہانانے تم ہم سے سوائے اسکے کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو آتا گیا طرف ہماری اور

مَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَلَا آتَاكُمْ فَسِقُونَ ﴿۷۰﴾ قُلْ هَلْ

جو آتا گیا پہلے سے اور یقیناً اکثر تمہارے نافرمان ہیں تو کہہ دے کیا

أَنْبِئَكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ

آگاہ کروں میں تم کو زیادہ بری بات پر اس سے بھی بدلہ میں نزدیک اللہ کے جو شخص کہ

لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْ

لعنت کی اس پر اللہ نے اور غضب کیا ان پر اور بناٹے ان میں سے بندر اور

الْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ وَأُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا

سوز اور پلوجا انہوں نے شیطان کو یہ لوگ بدترین ہیں درج میں

وَأَضَلُّ عَنِ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۷۱﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا

اور زیادہ گمراہ ہیں درست راہ سے اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں

أَمَّا وَقَدْ خَلَوْنَا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ

ایمان لائے ہم حلال کہ یقیناً داخل ہوئے ساتھ کفر کے اور وہ یقیناً نکلے تیرے پاس سے) ساتھ اسی کے

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿۷۲﴾ وَتَرَى كَثِيرًا

اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ہیں وہ چھپاتے اور تو دیکھے گا بہتوں کو

مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ

ان میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں اور اپنے کھانے میں

السُّحْتِ ۖ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۳﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ

حرام اللہ کیا برا ہے جو ہیں وہ کرتے کیوں نہیں روکتے ان کو

الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَثْمَ وَأَكْلِهِمْ

اللہ والے لوگ اور عالم کفر سے ان کے گناہ رک باتیں) اور کھانے سے ان کے

السُّحْتِ ۶۳ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۶۴ وَقَالَتِ

حرام البتہ کیا ہی بُرا ہے جو ہیں وہ کرتے اور کہا

الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ ۶۵ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا

یہودیوں نے ہاتھ اللہ کا بند ہے بند کئے کئے ہاتھ ان کے اور لعنت کئے گئے

بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَتٌ ۶۶ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۶۷

سبب اے جو کہا انہوں نے بلکہ دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے

وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

اور البتہ ضرور بڑھائے گا بہتوں کو ان میں سے وہ جو اُتارا گیا طرف تیری طرف سے تیرے رب کی

طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۶۸ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ

سرکشی میں اور کفر میں اور ڈالی ہم نے درمیان ان کے عداوت اور

الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۶۹ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ

بعض تا روز قیامت جب کبھی جلاؤں گے آگ لڑائی کی

أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۷۰ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۷۱ وَاللَّهُ لَا

بچھادے گا اسے اللہ اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی اور اللہ نہیں

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۷۲ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا

پسند کرتا فساد کرنے والوں کو اور اگر یقیناً اہل کتاب ایمان لاتے

وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَا لَهُمْ جَنَّتِ

اور تقویٰ کرتے البتہ دُور کرتے ہم ان سے بُرائیاں ان کی اور داخل کرتے ہم ان کو باغات میں

النَّجِيمِ ۷۳ وَلَوْ أَنَّ هُمُ اقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

نعمت کے اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ

اور جو اُتارا گیا طرف ان کی طرف سے ان کے رب کی البتہ کھاتے وہ اپنے اوپر سے اور

مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۷۴ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۷۵ وَكَثِيرٌ

نیچے سے اپنے پیروں کے ان میں سے ایک گروہ میان رو ہے اور بہت سے

مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ ﴿۶۸﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا

ان میں سے ایسے ہیں کہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں اے رسول پہنچا دے جو

أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

اتارا گیا تیری طرف، طرف سے تیرے رب کے اور اگر نہ کیا تو نے تو نہیں پہنچائے تو نے

رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

پیغامات کے اور اللہ بچاوے گا تجھے لوگوں سے یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیتا

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۶۹﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ

لوگوں کافروں کو تو کہو اے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی شے پر

حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

یہاں تک کہ قائم کر دو تم تورات اور انجیل اور جو اتارا گیا طرف تمہاری

مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ وَلِيُزِيدَنَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

طرف سے تمہارے رب کی اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہتوں کو ان میں سے وہ جو اتارا گیا طرف تیری

مِّنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

طرف سے تیرے رب کی سرکشی میں اور کفر میں پس نہ غم کھاؤ لوگوں

الْكَافِرِينَ ﴿۷۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

کافروں پر یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے

وَالصَّابِغُونَ وَالتَّضَرِّيُّ مَنَ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور صابی اور عیسائی جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۷۱﴾

اور کی اس نے نیکی پس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ

یقیناً یقیناً لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجے ہم نے طرف ان کے

رُسُلًا ۚ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ ۚ

رسول جب بھی لایا ان کے پاس کوئی رسول جسے ناپسند کرتے تھے نفس ان کے

فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿١٤٦﴾ وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُوا

تو ایک فریق کو جھٹلایا انہوں نے اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے اور گمان کیا انہوں نے کہ نہ ہوگا

فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ

فساد پس وہ اندھے ہو گئے اور برے ہو گئے پھر نفل سے منوج ہوا اللہ ان پر پھر

عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

اندھے ہو گئے اور برے ہو گئے بہت سے ان میں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسکو جو وہ کرتے ہیں

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ

یقیناً یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن

مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبَادُوا

مریم ہے اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو

اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ

اللہ رب میرے اور رب اپنے کی یقیناً جو شریک بنا دیگا ساتھ اللہ کے تو یقیناً حرام کر دی

اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا فِيهَا النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

اللہ نے اس پر جنت اور ٹھکانا اس کا آگ ہے اور نہیں واسطے ظالموں کے

مِنَ انْتَصَارٍ ﴿١٤٨﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ

کوئی مددگار یقیناً یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تیسرا ہے

ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا

تین کا حالانکہ نہیں کوئی خدا سوائے خدا کے واحد کے اور اگر نہ باز آئے وہ

عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ

اس سے جو وہ کہتے ہیں البتہ ضرور چھوٹے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب

إِلَيْهِمْ ﴿١٤٩﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ

دردناک کیا پس نہیں توبہ کرنے وہ حضور اللہ کے اور بخشش مانگتے اس سے اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٠﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول یقیناً

خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، كَأَنَّا بِأَكْلِنِ

گزر چکے ہیں پہلے اس کے رسول اور والدہ اس کی صدیقہ تھی وہ دونوں کھایا کرتے تھے

الطَّعَامِ، أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنِي

کھانا دیکھو کس طرح ہم کھوکھو بیان کرتے ہیں ان کیلئے آیات پھر دیکھو کس طرح وہ

يُؤْفَكُونَ ﴿١٧٤﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ

اٹنے پھیرے جانتے ہیں تو کہہ دے کیا تم پوجتے ہو سوائے اللہ کے اسے جو نہیں مالک ہوتا تمہارے

ضَرًا وَلَا نَفْعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٧٥﴾ قُلْ يَا هَلْ

بے ضرر کا اور نہ نفع کا اور اللہ وہ ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے تو کہہ دے اے اہل

الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ

کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں ناحق اور نہ پیروی کرو خواہشات کی

قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ

ان لوگوں کی کہ گمراہ ہوئے پہلے سے اور گمراہ کیا انہوں نے بہتوں کو اور گمراہ ہو گئے

سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿١٧٦﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

درست راہ سے لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے

عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ

زبان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی یہ سبب اسکے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور

كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٧٧﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ

تھے وہ حد سے بڑھتے وہ تھے کہ نہیں ایک دوسرے کو روکتے تھے بُری بات سے کہہ کرتے تھے جسے

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٧٨﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ

البتہ کیا ہی بُرا ہے جو تھے وہ کہتے تھے تو دیکھو گا بہتوں کو ان میں سے دوستی کرتے ہیں

الَّذِينَ كَفَرُوا، لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ

ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا البتہ کیا ہی بُرا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے جانوں نے ان کی بیکہ

سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلَوْ

ناراض ہوا اللہ ان پر اور عذاب میں وہ رہنے والے ہیں اور اگر

كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا نُنزِلُ إِلَيْهِ مَا

وہ ہوتے ایمان لاتے اللہ اور نبی پر اور اس پر جو آثار الہی طرف اس کی تو

اتَّخَذُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۸۲

ناتے انہیں دوست وکین بہت سے ان میں سے فاسق ہیں

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ

البتہ ضرور پائے گا تو زیادہ سخت تمام لوگوں سے دشمنی میں ان لوگوں کی جو ایمان لائے یہودیوں کو

وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً

اور ان لوگوں کو جو مشرک ہوئے اور البتہ ضرور پائے گا تو قریب ان سے محبت میں

لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بِأَن

ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا یقیناً ہم عیسائی ہیں یہ اس سبب سے ہے

مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۸۳

کو ان میں سے پادری ہیں اور درویش ہیں اور کہ وہ نہیں تکبر کرتے



وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ

اور جب وہ سنتے ہیں اسے جو اُنار کیا طرف رسول کی تو دیکھے گا

أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

آنکھوں کو ان کی بہتی ہیں آنسوؤں سے بسبب اسکے جو پہچان لیا انہوں نے حق میں سے

يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاخْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۴﴾ وَمَا لَنَا

وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ایمان لائے ہم سو کھلے ہمیں ساتھ لگو اہوں کے اور کیا ہوا ہمیں

لَا نُؤْمِنُ بِإِلَهِهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَطْمَعُ أَنْ

کہن ایمان لائیں ہم اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس آیا ہے حق سے اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ

يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۵﴾ فَأَتَا بِهِمُ اللَّهُ

داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے پس بدل میں دیئے انہیں اللہ نے

بِمَا قَالُوا اجْنَبْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

بسبب اس کے جو کہا انہوں نے باغات کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں وہ رہ بڑنے والے ہیں

فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

ان میں اور یہ بدل ہے احسان کرنے والوں کا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۸۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

کذیب کی آیات کی ہماری یہ لوگ دوزخ والے ہیں اے لوگو جو

آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ

ایمان لائے ہو نہ حرام ٹھہراؤ پاک چیزیں جو حلال کیں اللہ نے تمہارے لیے اور نہ زیادتی کرو

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۸﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے

حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۹﴾

حلال طیب اور ڈرو اللہ سے وہ کہ تم جس پر ایمان لانے والے ہو نہیں

يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُوفِ ۚ أَيَّمَانِكُمْ لَكِن يُوَاخِذُكُمْ

مواخذہ کرتا تم سے اللہ بسبب لغو کے قسموں میں تمہاری ویکن مواخذہ کرتا ہے تم سے

بِمَا عَقَدْتُمْ بِالْأَيْمَانِ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ

بِسَبَبِ اس کے جو ارادہ سے کھائیں تم نے تمہیں پس کفارہ اس کا کھانا کھلانا ہے دس مسکینوں کو

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيدُ

یعنی درمیانی (معیار کا کھانا) جو کھلاتے ہو تم گھر والوں کو اپنے یا کپڑے ان کے یا آزاد کرنا

رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ

ایک گردن کا پس جو نہ پاوے تو روزے ہیں تین دن کے یہ کفارہ ہے

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، كَذَلِكَ

قسموں کا تمہاری جبکہ حلف اٹھاؤ تم اور حفاظت کرو قسموں کی اپنی اسی طرح

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیت اپنی تاکہ تم شکر کرو اے لوگو جو

أَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذْلَامُ رَجَسٌ

ایمان لائے ہو سوائے ان کے نہیں کہ شراب اور جوڑا اور بت اور جوڑے کے تیر ناپاک ہیں

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا

یعنی کام ہیں شیطان کے پس بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو سوائے ان کے نہیں کہ

يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

چاہتا ہے شیطان کہ ڈالے درمیان تمہارے دشمنی اور بغض برید

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

شراب اور جوڑے کے اور رو کے تمہیں یاد سے اللہ کی اور نماز سے

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

پس کیا تم باز آنے والے ہو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی

وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَي رَسُولُنَا الْبَلَاغُ

اور ڈرو پس اگر پھر گئے تم پس جان لو کہ صرف رسول پر ہمارے پہنچا دینا ہے

الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

کھلا کھلا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں

جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا

کوئی گناہ اس چیز میں جو کھائی انہوں نے جبکہ تقویٰ کیا انہوں نے اور ایمان لائے اور کیں

الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ

نیکیاں پھر تقویٰ کیا اور ایمان لائے پھر تقویٰ کیا اور احسان کیا اور اللہ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَبْلُوتُكُمْ

پسند کرتا ہے محسنوں کو اے لوگو جو ایمان لائے ہو البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں

اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمٌ لِّيَعْلَمَ

اللہ بذریعہ کسی شکار کے کہ پکڑیں گے جسے ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے تاکہ جان لے

اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ

اللہ اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے غائبانہ پس جس نے زیادتی کی بعد اس کے

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا

تو اس کیلئے عذاب ہے دردناک اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ قتل کرو

الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ

شکار کو جبکہ تم حُرْم ہو اور جو قتل کرے گا اسے تم میں سے عمدتاً تو بدلہ ہے

مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

مانند اس کی جو قتل کیا اس نے چار پاروں میں سے فیصد کریں متعلق اسکے دو عدل والے تم میں سے

هَدًىٰ بِلَبَةٍ أَوْ نَضِيحَةٍ أَوْ مَقْتَرَةٍ أَوْ عَذْلٍ أَدْعَىٰ

بطور قربانی کے پہنچنے والی کعبہ تک یا کفارہ ہے کھانا مساکین کا یا برابر

ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ

اس کے روزے ہیں تاکہ وہ چکھے وبال کر توت کا اپنی درگزر کیا اللہ نے اس سے جو پہلے ہو چکا

وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمْنَا اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۴۶﴾

اور جو دوبارہ کرے گا اللہ اس سے اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا ہے

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ ۗ

حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار بحری اور کھانا اس کا فائدہ کیلئے واسطے تمہارے اور واسطے مسافروں کے

وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک رہو تم محرم اور ڈرو اللہ سے

الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۗ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ

وہ جو کہ طرف اس کی اکٹھے کئے جانے والے ہو بنایا اللہ نے کعبہ یعنی اس گھر

الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ

عزت والے کو قیام کا سبب لوگوں کے لیے اور (بنایا ہے) شہر الحرام کو اور قربانی کو اور گائیوں کو

ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

یہ اس لیے تاکہ جان لو تم کہ قیقیناً اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو

الْأَرْضِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

زمین میں ہے اور یقیناً اللہ ہر بات کو خوب جانتے والا ہے جان لو کہ یقیناً اللہ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ مَا عَلَي

سخت ہے سزائیں اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے نہیں

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا

رسول پر مگر پہنچا دینا اور اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو تم اور جو

تَكْتُمُونَ ۗ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ

پھپھاتے ہو تم تو کھدے نہیں برابر ہوتا خبیث اور پاک اور اگرچہ

أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

اجھی لگے تجھے کثرت خبیث کی پس ڈرو اللہ سے اے عقول والو

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن

تاکہ تم کامیاب ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ پوچھو متعلق

أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ ۚ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ

(ان) باتوں کے کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے بُری لگیں تم کو اور اگر پوچھو تم متعلق انکے جبکہ

يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ

اتارا جا رہا ہے قرآن ظاہر کی جائیں گی تمہارے لیے درگزر کیا اللہ نے متعلق انکے اور اللہ بہت بخشنے والا

حَلِيمٌ ۱۲۳ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا

بُردبار ہے تحقیق پوچھیں تھیں وہ (باتیں) لوگوں نے پہلے تم سے پھر ہو گئے وہ

بِهَا كَافِرِينَ ۱۲۴ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةَ وَلَا سَائِبَةَ

ان کے منکر نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ سائبہ

وَلَا وَصِيلَةَ وَلَا حَامِرًا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ

اور نہ وصیلہ اور نہ حامر لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں گھڑ بیٹے ہیں

عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ ۱۲۵ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۱۲۶ وَإِذَا قِيلَ

اللہ پر جھوٹ اور اکثر ان کے نہیں عقل کرتے اور جب کہا جاتا ہے

لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

ان کو آؤ طرف اس کی جو اُنارا اللہ نے اور طرف رسول کی کہتے ہیں کافی ہے ہمیں

مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا

وہ جو کہ پایا ہم نے جس پر باپ دادا کو اپنے کہا اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے کہ نہ

يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۱۲۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

علم رکھتے ہوں کچھ اور نہ ہدایت پاتے ہوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّىٰ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَىٰ

لازم پیرود جانوں کو اپنی نہ نقصان پہنچائے گا تم کو وہ جو گمراہ ہوا جبکہ ہدایت پا جاؤ تم طرف

اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِيمَنِّيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۲۸

اللہ کی لوٹنا ہے تمہارا سب کا پھر آگاہ کرے گا تم کو اس سے جو تھے تم عمل کرتے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو گواہی درمیان تمہارے جبکہ آمو جو ہو کسی کو تم میں سے

الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ

موت بوقت وصیت دو ہوں عدل والے تم میں سے یا

آخَرِينَ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

یا (کوئی) اور دو غیر سے تمہارے اگر تم سفر کرو زمین میں

فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ أَلَمْتُمْ ، تَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ

پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی روکو تم ان کو بعد

الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ

نماز کے پھر وہ دونوں قسمیں کھا دیں اللہ کی اگر شک کرو تم کہ نہیں میں گے ہم بدلہ اس کا

شَيْئًا وَلَوْ كَانُوا قُرْبَىٰ ، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا

ہوں اور اگرچہ ہو رشتہ دار اور نہیں ہم چھپائیں گے گواہی اللہ کی یقیناً ہم تب تو

لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْنَا شَتَّىٰ شَيْءًا

مذکور گنہگاروں میں سے ہونگے پھر اگر اطلاع پائی جاوے اس پر کہ وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے

فَأَخْرَجَ يَوْمَئِذٍ مَنَاقِبَهُمْ ، الَّذِينَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمْ

تو دو اور کھڑے ہوں جگہ پر ان کی ان لوگوں میں سے کہ مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے اخلاف جگہ

الْأُولَىٰ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ

پہلے دو قریب تر (میت کے) پس وہ قسم کھائیں اللہ کی کہ البتہ گواہی ہماری زیادہ سچی ہے

شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَدَّيْنَاهُ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۹﴾

گواہی سے ان دونوں کی اور نہیں زیادتی کی ہم نے یقیناً ہم تب تو اللہ ظالموں میں سے ہوں گے

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِنَا أَوْ يَخَافُوا

یہ زیادہ قریب ہے کہ لائیں وہ گواہی اصلی حالت پر اس کی یا ڈریں اس سے

أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا

کہ رد کی جائیں گی قسمیں پیچھے قسموں کے ان (پہلوں) کی اور ڈرو اللہ سے اور سنو

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ

اور اللہ نہیں ہدایت دیتا لوگوں ظالموں کو جس روز جمع کرے گا اللہ رسولوں کو

فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ

پھر وہ فرمائے گا کس طرح قبول کیا گیا نہیں کہیں گے نہیں کوئی علم ہمیں یقیناً تو ہی بہت جاننے والا

الْغُيُوبِ ﴿۱۱۱﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي

غیبوں کا جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو نعمت میری

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اپنے پر اور والدہ پر اپنی جبکہ تائید کی میں نے تیری بذریعہ روح القدس کے

تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ

تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گھوارے میں اور ادھیڑ بوک اور جبکہ سکھایا میں نے تجھے کھنا

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ

اور حکمت اور تورات اور انجیل اور جبکہ تو بناتا تھا کیچڑ سے

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

مانند شکل پرندہ کی ساتھ حکم کے میرے پھر پھونکتا تھا اس میں پس ہوجاتا تھا وہ اڑنے والا

بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَعْمَىٰ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ

ساتھ حکم کے میرے اور تندرست کرتا تھا نابینا کو اور برص والے کو ساتھ حکم کے میرے اور جبکہ تو نکالتا تھا

الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ

مردے ساتھ حکم کے میرے اور جبکہ روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جبکہ

جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ إِنْ هَذَا

لایا تو انکے پاس دلائل پس کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے ان میں سے نہیں ہے یہ

إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَإِذْ أَوحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا

مگر جادو کھلا کھلا اور جب وحی کی میں نے طرف حواریوں کے کہ ایمان لاؤ

بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ وَإِذْ

مجھ پر اور رسول پر میرے انہوں نے کہا ایمان لائے ہم اور گواہ رہ کہ یقیناً ہم فرمانبردار ہیں جب

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسِي ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا

أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ

کہ اتارے ہم پر کھانا آسمان سے کہا ڈرو اللہ سے

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ

اگر ہو تم مومن کہا انہوں نے ہم چاہتے ہیں کہ کھا لیں اس سے اور مطمئن ہوں

قُلُوبِنَا وَتَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيٰهَا مِنْ

دل ہمارے اور تاکر جان لیں کہ یقیناً سچ کہا تو نے ہم سے اور جو ہمیں ہم اس پر

الشَّهِيدِ ۱۱۳ ۱۱۳ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَسِّنَا اَنْزِلْ

گو اہوں میں سے کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ رب ہمارے اُتار

عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا وَّرٰٓءِنَا

ہم پر کھانا آسمان سے ہو واسطے ہمارے عید واسطے پہلوں کے ہم میں سے

وَآخِرِنَا وَاٰیةٌ مِّنْكَ ؕ وَاذْرُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ۱۱۵

اور پھیلوں کے ہم میں سے اور نشان ہو طرف سے تیری اور رزق دے ہمیں اور تو بہتر ہے تمام رزق دینے والوں سے

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ؕ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ

کہا اللہ نے یقیناً میں اتارنے والا ہوں اُس (کھانے) کو تم پر پس جو ناشکری کر گیا بعد کو تم میں سے

فَاِنِّيْ اُعْذِبُہٗ عَذَابًا اَلَّا اَعْذِبُہٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۱۱۶

یقیناً میں عذاب دوں گا اُسے ایسا عذاب کہ نہ عذاب دوں گا وہ (عذاب) کسی کو تمام دُنیا سے

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ

اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا لوگوں کو کہ

اتَّخِذُوْنِيْ وَاٰمِي الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ

بناؤ مجھے اور میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے کہا پاک ہے تو

مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ ۗ اِنْ كُنْتُ

نہیں ہو سکتا میرے لیے کہ کہوں میں جو نہیں ہے میرے لیے حق اگر ہوتا

قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ

کہا ہوں میں نے یہ تو یقیناً جان بیا ہوتا تو نے اُسے تو جانتا ہے جو دل میں ہے میرے اور نہیں جانتا میں جو

نَفْسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ ۱۱۷ ۱۱۷ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا

دل میں ہے تیرے یقیناً تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا نہیں کہ میں نے انہیں سوائے

مَا اَمْرَتَنِيْ بِهٖ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ وَكُنْتُ

اسکے کہ حکم دیا تو نے مجھے جس کا یعنی یہ کہ عبادت کرو اللہ کی رب میرے اور رب اپنے کی اور تمہا میں

عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي

ان پر نگران جب تک رہا میں ان میں پھر جب وفات دیدی تو نے مجھے

كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

کرتھا تو ہی نگہبان ان پر اور تو ہر چیز پر

شَهِيدٌ ۱۱۸ إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ

نگران ہے اگر تو عذاب دے انہیں تو یقیناً وہ بندے ہیں تیرے اور اگر بخش دے تو

لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۱۹ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ

ان کو تو یقیناً تو ہی عزت والا حکمت والا ہے فرمایا اللہ نے اس روز

يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

نفع دیگا سچوں کو سچ ان کا ان کے لیے باغات ہیں کہ بہتی ہیں

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ

نیچے ان کے نہریں رہ پڑنے والے ہیں اس میں ہمیشہ راضی ہوا اللہ ان سے اور

رَضُوا عَنْهُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۲۰ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

وہ راضی ہوئے اس سے یہ ہے کامیابی بڑی اللہ کے لیے حکومت ہے آسمانوں کی

وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۲۱

اور زمین کی اور جو ان کے اندر ہے اور وہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔

سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین اور بنائے

الظُّلْمِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

اندر ہیے اور نور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ رب اپنے کے

يَعْدِلُونَ ﴿۱۲﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ

برابر ٹھہراتے ہیں وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کھجڑے سے پھر مقرر کی ایک میعاد

وَأَجَلَ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي

اور میعاد مقررہ پاس ہے اس کے پھر تم شک کرتے ہو اور وہی ہے اللہ

السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۚ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَوَجْهَكُمْ وَيَعْلَمُ

آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے باطن تمہارا اور ظاہر تمہارا اور جانتا ہے

مَا تَكْسِبُونَ ﴿۱۴﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا

جو کاتے ہو تم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانوں میں سے رب کی ان کے مگر

كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۱۵﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ

ہیں اس سے اعراض کرنے والے سو یقیناً تکذیب کی انہوں نے حق کی جبکہ وہ آیا انکے پاس

فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۶﴾

پس عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس کی کہ تھے جس پر ہنسی کرتے

الْمَيْدُوا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي

کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہی ہلاک کیں ہم نے پہلے ان سے انہیں طاقت دی تھی ہم نے انہیں

الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ دَارَ سَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا

زمین میں جو کہ نہیں طاقت دی ہم نے تم کو اور بھیجا ہم نے بادل ان پر بہت برسے والا

وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

اور بنائی تھیں ہم نے نہریں کو چلتی تھیں نیچے ان کے پھر ہلاک کیا ہم نے انہیں

بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۱۷﴾ وَلَوْ

سبب انکے گناہوں کے اور پیدا کی ہم نے بعد ان کے توہیں دوسری اور اگر

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

آتارتے ہم تجھ پر کوئی کتاب کاغذ میں پھر وہ چھوتے اسے ساتھ ہاتھوں کے اپنے

لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۸﴾ وَقَالُوا لَوْ

مُفْرَد كَنتَ وَه لَو كِجُو كَافِر هَوْنُ نَهِي هِي يَر مَكْر جَادُو كَهْلَا كَهْلَا اَوْر كَهَا اَنُو نِي كِيُو

لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقُضِيِّ الْأَمْرُ ثُمَّ

نَهِي اُنَا لَكِي اَس پَر فَرَشْتَه اَوْر اَكْر اُنَا رَتَه هِي فَرَشْتَه مُفْرُو فَيَصِد كِيَا جَا مَعَا طَه كَا پَهْر

لَا يُنظَرُونَ ﴿۹﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ

نَه صِلَت دِيئَه جَا تَه وَه اَوْر اَكْر بَا تَه هِي اَس فَرَشْتَه تُو مُفْرُو بَا تَه هِي اَس مُرُو اَوْر

لَلْبَسْتَا عَلَيْهِمَا مَا يَلْبَسُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلِ

اَلْبَتَشَه اُتَا لَتَه هِي اِن پَر جُو شَبَه وَه (اَب) كَر پَه يِي اَوْر لَيَقِيْنَا لَيَقِيْنَا هِنَسِي كِي كَهِي رَسُو لُو نِي سَه

مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

پَه تَجَه سَه پَهْر كِهِي رِيَا اِن لُو كُو ن كُو جَنُو نِي نَه هِنَسِي كِي تَقِي اِن يِي سَه اِن (عَذَاب) نِي كَر تَه جِي نِي پَر

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ

هِنَسِي كَر تَه تُو كَدَه سَفَر كَرُو زِي نِي مِي پَهْر دِي كِيُو كِيُو نِي كَر

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۲﴾ قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ

هِيَا اِن جَام مَجْهَلَا نِي اَلُو نِي كَا تُو كَدَه كَس كَه يِي هِي جُو اَسَا نُو نِي يِي هِي

وَآلَا اَرْضٌ ۚ قُلْ لِلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰٓ نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ ۚ

اَوْر زِي نِي مِي هِي تُو كَدَه اَلَلّٰه كَه يِي فَرَض كِي هِي اَس نِي نَفْس پَر اِپَنِي رَحْمَت

لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ وَالَّذِينَ

اَلْبَتَرَج كَر تَا رَهِي كَا تَم كُو تَا رُو زِي قِيَا مَت نَهِي كُو نِي شَك جِي نِي وَه لُو كُو جَنُو نِي نَه

خَسِرُوا۟ اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۳﴾ ذٰلِكَ مَآ سَكَنَ فِي

كَهَا تَه مِي اُتَا جَا نُو ن كُو اِپَنِي يِي وَه نَهِي اِيَا ن لَا تَه اَوْر اَس كِي لَه هِي جُو مَهْرَا

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۴﴾ قُلْ اَغْيَرَا اللّٰه

رَا ت اَوْر دِن مِي اَوْر وَه خُو ب سُنْفَه وَالا تُو ب جَا نَه وَالا هِي تُو كَدَه كِيَا سُو اَنِي اَلَلّٰه كَه

اَتَّخِذْ دَلِيْلًا فَاَطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا

بِنَا اُو ن مِي دُو سَت جُو پِيَا كَر نِي اَلَا هِي اَسَا نُو ن كَا اَوْر زِي نِي كَا اَوْر وَهِي كَهَا نَا دِيَا هِي اَوْر نَهِي

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

يُطْعَمُهُ قُلُوبِي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا

کمانا دیا جاتا تو کدے یقیناً میں حکم دیا گیا ہوں کہ ہوجاؤں پہلا وہ جو مسلمان ہوا اور کدے

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۱۵ قُلُوبِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

ہوتو ہرگز شرکوں میں سے تو کدے یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۱۶ مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ

رب اپنے کی عذاب سے دن بڑے کی جو شخص کہ پھیر جاوے اس سے (عذاب) اس دن

فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۱۷ وَإِنْ يَمَسُّكَ

تو یقیناً اس نے رحم کیا اور یہ ہے کامیابی کھلی کھلی اور اگر پہنچاوے تجھے

اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ

اللہ نقصان تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے سوائے اس کے اور اگر پہنچاوے تجھے اللہ کوئی بھلائی

فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۸ وَهُوَ الْفَاكِهَ رُفُوقَ عِبَادِهِ ۙ

تو وہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور وہ غالب ہے اوپر بندوں کے اپنے

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۱۹ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۙ قُلْ

اور وہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے تو کدے کون سی چیز ہے بڑی گواہی میں تو کدے

اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ

اللہ گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور وحی کیا گیا طرف میری یہ قرآن

لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۙ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ

تاکہ ڈراؤں میں تم کو ساتھ اسکے اور انہیں جنہیں پہنچے کیا یقیناً تم گواہی دیتے ہو کہ ساتھ

اللَّهُ إِلَهَةٌ أُخْرَى ۙ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۙ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ

اللہ کے معبود ہیں دوسرے تو کدے نہیں گواہی دیتا میں تو کدے سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہے

وَإِحْدَ قُرْآنِي بَرِيءٌ ۙ وَمِمَّا تُشْرِكُونَ ۚ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ

خدا کے واحد اور یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو وہ لوگ کہ دی ہم نے جنہیں

الْكِتَابَ يَعْرفُونَ ۙ كَمَا يَعْرفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۚ الَّذِينَ

کتاب پہنچاتے ہیں اُسے جیسا کہ پہنچاتے ہیں بیٹوں کو اپنے وہ لوگ جنہوں نے

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

گھائے میں ڈالا جانوں کو اپنی پس وہ نہیں ایمان لاتے اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے

افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

گھوڑیا اللہ پر جھوٹ یا تکذیب کی آیات کی اس کی تحقیق بات یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے

الظَّالِمُونَ ﴿۲۲﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

ظالم اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے انہیں سب کو پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے

أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِهِمْ أَتَىٰ الشُّرَكَاءُ يَوْمَ قِيَامِ يَوْمَئِذٍ

شریک بنائے تھے کہاں ہیں شریک تمہارے وہ جو کہ تھے تم بیان کرتے پھر

لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا

نہ ہوگا بہانہ ان کا مگر یہ کہ کہیں گے وہ قسم ہے اللہ رب ہمارے کی کہ نہ تھے ہم

مُشْرِكِينَ ﴿۲۳﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمُ

مشرک دیکھ کس طرح جھوٹ بولا انہوں نے جانوں پر اپنی اور جاتا رہا ان سے

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا

وہ جو کہ تھے وہ افتراء کرتے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کان رکھتے ہیں طرف تیری حالانکہ ڈال دیتے

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

ہم نے دلوں پر ان کے پردے کر سمجھیں اُسے اور کانوں میں ان کے ہراپن ہے

وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا إِلَيْهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ

اور اگر دیکھیں وہ ہر ایک نشان نہ ایمان لائیں گے اس پر یہاں تک کہ جب آتے ہیں تو ترسے ہوں

يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ

جھگڑتے ہیں تجھ سے کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ (قرآن) مگر کہانیاں

الْأُولَٰئِينَ ﴿۲۵﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ

پہلوں کی اور وہ روکتے ہیں اس سے اور روکتے ہیں اس سے اور نہیں

يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ

ہلاک کرتے مگر جانوں کو اپنی اور نہیں محسوس کرتے اور اگر تو دیکھے جبکہ

وَقِفُّوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ

وہ کھڑے کئے جائیگی آگ پر پس کہیں گے اے کاش ہم لوٹتے جاتیں اور نہ تکذیب کریں ہم آیات کی

رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۸﴾ بَلْ بَدَّ لَهُم مَّا

رب اپنے کی اور ہو جاتیں ہم مومنوں میں سے بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو

كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۚ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا

تھے چھپاتے تھے پہلے سے اور اگر لوٹتے جاتیں وہ البتہ دوبارہ اسے کہہ دے گئے تھے

عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۹﴾ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

جن سے اور یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری

الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۰﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ دُقُّوا

دری اور نہیں ہیں ہم دوبارہ زندہ کئے جانے والے اور اگر تو دیکھے جبکہ کھڑے کئے

عَلَى رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ

جائیں گے رب پر اپنے فرمائے گا کیا نہیں ہے یہ سچ کہیں گے کیوں نہیں قسم ہے رب ہمارے

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۱﴾ قَدْ خَسِرَ

کی فرمایا ہیں بیکھو عذاب اس لیے کہ تھے تم کفر کرتے یقیناً گھانا پایا

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ

ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی طے کی اللہ کے بیان تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت

بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ

اچانک تو کہیں گے اے افسوس ہم پر اس پر کہ کوتاہی کی ہم نے بارہ میں اس (قیامت) کے اور وہ

يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿۳۲﴾ وَ

اٹھائیں گے بوجھ اپنے بیٹھوں پر اپنی آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے اور

مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلِلَّذِينَ آرَأُوا الْآخِرَةَ خَيْرٌ

نہیں ہے زندگی دری مگر کیل اور مشغلہ اور البتہ گھر پچھلا بہتر ہے

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزَنَكَ

ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں کیا پس نہیں عقل کرو گے تم یقیناً جانتے ہیں ہم کہ ضرور غم میں ڈالتا ہے تجھے

الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ

جو وہ کہتے ہیں سوتیلیا وہ نہیں جھٹلاتے تھے لیکن ظالم

بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ

آیات کا اللہ کی انکار کرتے ہیں اور یقیناً یقیناً تمکذیب کی گئی رسولوں کی پہلے تھے سے

فَصَبْرٌ وَعَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

پس صبر کیا انہوں نے اس پر کہ وہ جھٹلاتے گئے اور دکھ دیشے گئے یہاں تک کہ آئی ان کے پاس مدد ہماری

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ، وَلَقَدْ جَاءَتْكَ مِنْ تَبَايِ

اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا باتوں کو اللہ کی اور یقیناً یقیناً آئیں تیرے پاس خبریں

الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۴﴾ وَإِنْ كَانَ كِبُرًا عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ

رسولوں کی اور اگر ہوا ہے گراں تجھ پر منہ پھینا ان کا پس اگر

اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ

ہو سکے تجھ سے کہ ڈھونڈے کوئی سڑگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں

فَتَأْتِيهِمْ بَأْيَةٌ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ

کولائے تو ان کے پاس کوئی نشان اور اگر چاہتا اللہ تو جمع کرتا انہیں ہدایت پر

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۵﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ

پس نہ ہوتو ہرگز نادانوں سے سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو

يَسْمَعُونَ ، وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾

سننے ہیں اور مردے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ پھر طرف اس کی وہ لوٹائے جائیں گے

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ، قُلْ إِنَّ اللَّهَ

اور کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر نشان طرف سے رب کے اس کی تو کہے یقیناً اللہ

قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

توادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشان لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ

اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں اور نہ کوئی اڑنے والا (جو) اڑتا ہو دوپروں سے اپنے

إِلَّا أَمْثَلَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ

مگر جماعتیں ہیں تمہاری طرح نہیں کم کی ہم نے کتاب میں کوئی چیز پھر

إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۲۹﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صَمُّوۥ

ظن رب اپنے کی اکٹھے کئے جائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی آیات کی ہماری برسے اور

بُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۚ وَمَنْ يَشَأِ

گوئے ہیں اندھروں میں ہیں جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے

يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۰﴾ قُلْ أَدْعُوۥكُمْ إِلَىٰ

کر دیتا ہے اُسے راستے سیدھے پر تو کہدے تاؤ تو سہی کہ اگر آجائے تم پر

عَذَابِ اللَّهِ ۚ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ ۚ أَعْبِرُوا لِلَّذِينَ تَدْعُونَ ۚ

عذاب اللہ کا یا آئے تم پر (مقررہ) گھڑی کیا غیر کو اللہ کے تم پکارو گے اگر

كُنْتُمْ ضَالِّينَ ﴿۳۱﴾ بَلْ آيَاتُكَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ

ہو تم سچے (نہیں) بلکہ اسی کو تم پکارو گے پس وہ دور کرے گا اس سے (عذاب) کو کہ تم پکارو گے

إِلَيْهِ ۚ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

(اللہ کو) طرف جس کی اگر چاہے اور تم بھول جاؤ گے جسے تم شریک بناتے ہو اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے نبیوں کو

إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُم بِالْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

ظن قوموں کی پہلے تجھ سے پس پکڑا ہم نے اسے ساتھ غربت اور دکھ کے

لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿۳۳﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا

تاکہ وہ زاری کریں پس کیوں نہ جبکہ آیا تھا ان کے پاس عذاب ہمارا عاجزی کی انہوں نے

وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

دیکھن سخت ہو گئے دل ان کے اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے وہ (کا) جو تھے

يَعْمَلُونَ ﴿۳۴﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم

وہ کرتے پس جب وہ بھول گئے وہ (نصیحت) کہ نصیحت کئے گئے جیکے ذریعہ کھول دیتے ہم نے ان پر

أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا مِنْهُم

دروازے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس چیز پر جو دیتے گئے پکڑا ہم نے انہیں

بَعَثَهُ فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۳۵﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

بے اطلاع سمعاً وہ ناامید تھے پھر کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے

ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۶﴾ قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ

ظلم کیا تھا اور سب تعریفیں واسطے اللہ رب العالمین کے ہیں تو کہہ بے تباؤ تو سہی اگر

اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰۤى قُلُوْبِكُمْ مِّنْ

لے لے اللہ کان تمہارے اور آنکھیں تمہاری اور مہر کر دے دلوں پر تمہارے کو نسا

اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْاٰيٰتِ

خدا ہے سوائے اللہ کے لایک تمہارے پاس وہ کان اور آنکھ دیکھ کس طرح بار بار لاتے ہیں ہم آیات

ثُمَّ هُمْ يَصُدُّوْنَ ﴿۳۷﴾ قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰذَابُ اللّٰهِ

پھر وہ پھر جاتے ہیں تو کہہ بے تباؤ تو سہی اگر آوے تمہارے پاس عذاب اللہ کا

بَعَثَهُ اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَمَا

بے اطلاع یا واضح نہیں ہلاک کئے جائیں گے مگر ظالم لوگ اور نہیں

نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ، فَمَنْ اٰمَنَ

بھیجتے ہم رسولوں کو مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پس جو ایمان لایا

وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِيْنَ

اور اصلاح کی تو نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں

كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۴۰﴾

نے کذب کیا آیات کی ہماری پہنچے گا انہیں عذاب اس لیے کہتے وہ نافرمانی کرتے

قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۤئِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ

تو کہہ نہیں کہتا میں نہیں کہ پاس میرے خزانے ہیں اللہ کے اور نہ جانتا ہوں غیب کو

وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ ؕ قُلْ

اور نہ کہتا ہوں میں نہیں کہ میں فرشتہ ہوں نہیں پیروی کرتا میں سوائے اُسے جو وحی کی جاتی ہے طرف میری تو کہہ

هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۴۱﴾ ۝

کیا برابر ہے اندھا اور بینا؟ کیا پھر نہیں تم سوچتے اور

أَنْذِرِيهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ

ڈرا اس (قرآن) کے ذریعہ سے انہیں جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اکٹھے کئے جاویں گے طرف رب کے اپنے نہیں ہے

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۲﴾ وَلَا

ان کے لیے سوائے اس کے کوئی دوست اور نہ سفارش کرنے والا تاکہ وہ ڈریں اور نہ

تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

دھتکار انہیں جو پکارتے ہیں رب اپنے کو صبح اور شام وہ چاہتے ہیں

وَجَهَّهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ

تو جس کی نہیں تیرے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ بھی اور نہیں ہے حساب میں سے تیرے

عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۳﴾ وَ

ان کے ذمہ کچھ بھی سودھتکارے گا تو انہیں تو ہو جائے گا ظالموں میں سے اور

كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ

اسی طرح آزمایا ہم نے بعض کو ان کے ذریعہ بعض کے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے

عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا

ان پر ہم میں سے کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر گزاروں کو اور جب

جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ

آپس تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آیات پر ہماری تو کہدے سلام ہو تم پر فرض کیا ہے

رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِكُمْ سُوءٌ

رب تمہارے نے ذات پر اپنی رحمت کہ جو شخص کوے گا تم میں سے بُرائی

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۵﴾

جہالت سے پھر توبہ کر گیا بعد اس کے اور اصلاح کر گیا تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۶﴾

اور اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیات اور تاکہ ظاہر ہو جاوے راہ مجرموں کی

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تو کہدے یقیناً میں روکا گیا ہوں کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے

قُلْ لَا آتِيَهُ أَهْوَاءُكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا دَمَا تَأْمِنَ

تو کہدے نہیں پیروی کرتا ہوں میں خواہشات کی تمہاری یقیناً گمراہ ہوا میں تب تو اور نہ ہوا

الْمُهْتَدِينَ ﴿۵۸﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ

ہدایت پانے والوں میں سے تو کہدے یقیناً میں کھلی دلیل پر ہوں طرف سے رب کے اپنے اور تکذیب کی ہے تم نے اسکی

مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ

نہیں ہے پاس میرے وہ کہ جلدی کرتے ہو تم جس کی نہیں ہے حکم مگر اللہ کا وہ بیان کرتا ہے حق

وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۹﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ

اور وہ بہتر ہے تمام فیصلہ کرنے والوں سے تو کہدے اگر ہوتا پاس میرے وہ جلدی کرتے ہو تم

بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۶۰﴾

جس کی البتہ فیصلہ کیا جاتا معاملہ کا درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي

اور پاس اس کے کنجیاں غیب کی ہیں نہیں جانتا انہیں مگر وہی اور وہ جانتا ہے جو

الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ دَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا

خشکی اور تری میں ہے اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ جانتا ہے اُسے اور نہ

حَبَّةٍ فِي ظُلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي

کوئی دانہ اندھروں میں زمین کے اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر

كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۶۱﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا

کتاب بیان کرنے والی میں ہے اور وہی ہے جو روح قبض کرتا ہے تمہاری رات کو اور جانتا ہے جو

جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى

کرتے ہو تم دن کو پھر اُٹھاتا ہے تم کو اس (دن) میں تاکہ پوری کی جائے میناد مقررہ

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۲﴾ وَهُوَ

پھر طرف اسکی لوٹتا ہے تمہارا پھر آگاہ کرے گا تم کو اس پر جو تھے تم کرتے اور وہ

الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا

غالب ہے اوپر بندوں کے اپنے اور بھیجتا ہے تم پر محافظ یہاں تک کہ جب

جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْقِرُونَ ﴿٦٢﴾

آئے گی کسی ایک کے پاس تم میں سے موت وفات دینگے اُسے بھیجے ہوئے ہمارے وہ نہیں کوتاہی کریں گے

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ

پھر لوٹائے جائینگے وہ طرف اللہ اپنے آقا حقیقی کی آگاہ ہو جاؤ گا اس کیلئے حکم ہے اور وہ

أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلْمِ الْبَرِّ

زیادہ جلد ہے حساب لینے والوں سے تو کہدے کون نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں سے خشکی

وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ لَّيْنًا أَنجِنَا مِّنْ

اور تری کے پکارتے ہو تم اُسے گڑگڑا کر اور چپکے چپکے کہ ضرور اگر وہ نجات دے ہیں

هَذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا

اس سے البتہ ضرور ہونگے ہم شکر گزاروں میں سے تو کہدے اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے

وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ

اور ہر ایک گھبراہٹ سے پھر تم شرک کرتے ہو تو کہدے وہ قادر ہے

أَن يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے تمہارے یا نیچے سے

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِيَسْكُمُ شَيْعًا أَوْ يَذِيقْ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ

پاؤں کے تمہارے یا ملا دے تم کو کئی گروہ بنا کر اور چکھائے بعض تمہارے کو جنگ بعض کے

أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَكَذَّبَ

دیکھ کس طرح بار بار لاتے ہیں ہم آیات تاکہ وہ سمجھیں اور تکذیب کی

بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٧﴾ لِكُلِّ

اسکی قوم نے تیری حالانکہ وہ حق ہے تو کہدے نہیں ہوں میں تم پر ہرگز داروغہ ہر ایک واقعہ

نَبِيًّا مُّسْتَقَرًّا وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ

کے لیے مقرر میعاد ہے اور عنقریب تم جان لو گے اور جب دیکھے تو ان لوگوں کو جو

يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي

فضول بحث کرتے ہیں آیات میں ہماری تو اعراض کر اُن سے یہاں تک کہ لگ جائیں

حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ

کسی بات میں سوائے اس کے اور اگر بھلاوے تجھے شیطان تو نہ بیٹھو

بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۹﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ

بعد یاد آنے کے ساتھ ظالم لوگوں کے اور نہیں ہے ذمہ ان لوگوں کے جو

يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذَكَرُوا لَعَلَّهُمْ

تقویٰ کرتے ہیں حساب میں سے ان (جھگڑنے والوں) کے کچھ بھی لیکن یہ (نصیحت) ہے تاکہ وہ

يَتَّقُونَ ﴿۷۰﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا

(بھی) بیکس اور جھوٹے دے ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دین کو اپنے کھیل اور

لَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرْبَهُ أَن تَبْسَلَ

مشغلہ اور دھوکا میں ڈالا انہیں زندگی دنی نے اور نصیحت کرنا تھا اس (قرآن) کے کہ نہ محروم کیا جائے

نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا

کوئی نفس بسبب اس کے جو کمایا اس نے نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ

شَفِيعٌ ۗ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ

سفارشی اور اگر معاوضہ دے ہر قسم کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا اس سے یہ لوگ

الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۗ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ

وہ ہیں جو محروم کئے گئے ہیں بسبب ان کے جو کمایا انہوں نے واسطے ان کے پینا ہے گرم پانی اور

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۷۱﴾ قُلْ أَتَدْعُونَ

عذاب ہے دردناک بسبب اس کے کہ تھے وہ کفر کرتے تو کہہ دے کیا پکاریں تم

دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا

سوائے اللہ کے اُسے جو نہیں نفع دیتا ہمیں اور نہیں نقصان پہنچاتا ہمیں اور (کیا) ہم لوٹاٹے جائیں ایڑیوں پر اپنی

بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي

بعد اس کے کہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے مانند اس شخص کی عقل ماری ہو جس کی شیطانوں نے

الْأَرْضِ حَيْرَانَ ۗ مَالَهُ أَصْحَابٌ يَّدْعُوْنَهُ إِلَىٰ الْهُدَىٰ

زمین میں سرسیم (حیران) بنا کر اس کیلئے ساتھی ہیں جو پکارتے ہیں اُسے طرف ہدایت کی کہ

اٰتَيْنَاكَ قَدْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاٰمَرْنَا لِنُسَلِّمَ

آہماری طرف تو کہہ سے یقیناً ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے اور حکم کیا گیا ہے کہ فرمانبردار ہوں ہم

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتَقُوْهُ ؕ وَهُوَ

داسطے رب العالمین کے اور یہ کہ قائم کرو نماز اور ڈرو اس سے اور وہی ہے

الَّذِيْ رَاٰهُ تَحْشَرُوْنَ ۙ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ

جس کی طرف تم اٹھے کئے جانے والے ہو اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور

الْاَرْضِ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ هُوَ الْحَقُّ ؕ

زمین کو ساتھ حق کے اور جس روز کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا بات اس کی سچی ہے

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عَلِيْمُ الْغَيْبِ وَ

اور اس کیلئے حکومت ہے اس روز کو پھونکا جائے گا راجل جاننے والا ہے پوشیدہ اور

الشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۙ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ

ظاہر کا اور وہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے اور جب کہا ابراہیم نے

لِاٰبِيْهِ اِذْ رَاْتَنِّيْ خٰذِلًا صٰنًا مَّا اِلٰهَةٌ ؕ اِنِّيْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ

اپنے باپ آزر کو کیا بناتا ہے تو بتوں کو خدا یقیناً میں دیکھتا ہوں تجھے اور قوم کو تیری

فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ

گمراہی کھلی کھلی میں اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو بادشاہی آسمانوں کی

وَالْاَرْضِ وَلِيْكُوْنَ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ ۙ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ

اور زمین کی اور تاکہ ہو وہ یقین کرنے والوں میں سے پس جب چھٹ گئی اس پر

الْيَتُّ رَا كَوْكَبًا ؕ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ؕ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا

رات اس نے دیکھا ستارہ کہا یہ رب ہے میرا پھر جب غروب ہو گیا کہا نہیں

اِحْبُ الْاَفْلٰقِيْنَ ۙ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا

میں پسند کرتا غروب ہونے والوں کو پھر جب دیکھا اس نے چاند کو روشن کہا یہ

رَبِّيْ ؕ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لِيْن لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَا كُوْنَنَّ

رب ہے میرا پھر جب وہ غروب ہو گیا کہا البتہ اگر نہ ہدایت دی ہوتی مجھے رب میرے نے البتہ ہو جاتا میں مفرد

مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۸۵﴾ فَلَمَّا رَأَى السَّمْسُ بِأَزْعَمَةً قَالَ

گراہ لوگوں سے پھر جب دیکھا اس نے سورج کو چلتے ہوئے کہا

هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ

یہ رب ہے میرا یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا کہا اے قوم میری یقیناً میں بیزار ہوں

مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۸۶﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ

اس سے جسے تم شریک بناتے ہو۔ کر لیا میں نے رخ اپنا واسطے اس کے جس نے پیدا کیا آسمان

وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾ وَحَاجَّهُ

اور زمین موحّد ہو کر اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے اور جھگڑا کیا اس سے

قَوْمُهُ، قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، وَلَا

قوم نے اس کی کہا اس نے کیا جھگڑتے ہو تم مجھ سے بارہ میں اللہ کے حلال کر یقیناً راہنمائی کی اس نے میری اور نہیں

أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ

ڈرتا میں اس سے کہ تم شریک بناتے ہو جسے مگر یہ کہ چاہے رب میرا کچھ احاطہ کر لیا ہے

رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۸﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ

رب میرے نے ہر چیز کو علم کی رُو سے کیا پھر نہیں نصیحت پکڑ دے گئے تم اور کیونکر ڈروں میں

مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ

اس سے جسے شریک بنایا تم نے حلال کر نہیں ڈرتے تم کہ تم نے شریک بنایا ساتھ اللہ کے اسے کہ نہیں

يُنزَّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ،

اُتاری اس (اللہ) جس کی تم پر کوئی دلیل پس کون دونوں میں سے زیادہ حقار ہے امن کا

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ

اگر ہو تم جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں طایا انہوں نے ایمان اپنا

بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۹۰﴾ وَتِلْكَ

ساتھ ظلم کے یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانچواں ہے اور یہ ہے

حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ

ہماری دلیل دی تھی ہم نے جو ابراہیم کو برخلاف قوم کے اس کی ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں

مَنْ نَشَاءُ إِنْ رَزَيْتَكَ حَكِيمًا عَلِيمًا ﴿۸۴﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

جسے ہم چاہتے ہیں یقیناً رب تیرا حکمت والا خوب جاننے والا ہے اور بخشا ہم نے اسے اسحق

وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَ

اور یعقوب (ان) سب کو ہدایت دی ہم نے اور نوح کو ہدایت دی ہم نے پہلے سے اور

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ ۚ وَ

اولاد میں سے اس کی داؤد اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور

مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَ

موسیٰ اور ہارون کو اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو اور

ذَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۶﴾

ذکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو (یہ) سب نیکوں میں سے تھے

وَأِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ

اور اسمعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور (ان) سب کو فضیلت دی ہم نے

الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ وَ

تمام دنیا پر اور (ہدایت دی ہم نے) باپ دادا کو ان کے اور اولاد کو ان کی اور بھائیوں کو ان کے اور

اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۸۸﴾ ذَلِكَ

چن لیا ہم نے انہیں اور ہدایت دی ہم نے انہیں طرف راستے سیدھے کی

هُدًى ۚ اللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمِنْ عَبَادِهِ ۚ وَلَوْ

ہدایت ہے اللہ کی کہ ہدایت دیتا ہے جسے ذریعے سے جسے چاہتا ہے بندوں میں سے اپنے اور اگر وہ

أَشْرَكُوا الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَآكِنًا تَوَاعَىٰ عَمَلُونَ ﴿۸۹﴾ أُولَٰئِكَ

(مذکورہ بالانہی) اشراک کرتے تو حبط ہو جاتے ان سے جو تھے وہ عمل کرتے (یہ لوگ) (مذکورہ بالانہی)

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ

وہ ہیں کہ دی تھی ہم نے انہیں کتاب اور حکم اور نبوت پس اگر

يَخْفُرْ بِهَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا

بے قدری کریں اس کی یہ لوگ تو یقیناً مقرر کئے ہیں اس پر ایسے لوگ کہ جو نہیں ہیں اس کی ہرگز

بِكْفِرِينَ ﴿۹۰﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَادِهِمْ

بے قدری کرنے والے یہ لوگ وہ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے پس ہدایت کی ان کی

اِقْتِدَاءَهُ قُلَّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

پیروی کرتو تو کدے نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں ہے یہ مگر نصیحت

لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۱﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا

تمام دنیا کے لیے اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی (حسن طرح) حق (تھا) اس کی قدر کا جبکہ کہا انہوں نے

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرًا مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ

نہیں اتارا اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی تو کدے کس نے اتاری کتاب

الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ

وہ کہ لایا جسے موسیٰ نور اور ہدایت لوگوں کے لیے بناتے ہو تم اُسے

قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعِلْمُكُمْ مَّا لَمْ

ورق ورق ظاہر کرتے ہو تم ان (کاغذوں) کو اور چھپاتے ہو بہت کچھ اور سکھائے گئے تم جو نہیں

تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي

جانتے تھے تم اور نہ باپ دادا تمہارے تو کدے اللہ نے (تماری ہے تورات) پھر چھوڑ دے انہیں

خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۲﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ

فضول بحث میں اپنی کھیلتے رہیں اور یہ کتاب کہ اتارا ہے ہم نے جسے مبارک ہے

مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَ

مصدق ہے اس کی جو پہلے ہے اس سے اور تاکہ تو ڈرائے بسنیوں کی ماں (مکہ) کو اور

مَنْ حَوْلَهَا ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ

انہیں جو اردگرد ہیں اسکے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس

بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹۳﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

(قرآن) پر اور وہ نماز کی اپنی حفاظت کرتے ہیں اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے

افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ

گھڑیا اللہ پر جھوٹ یا کہا کہ وحی کی گئی طرف میری حالانکہ نہیں وحی کی گئی طرف اس کی

شَيْءٌ رَّمَّنَ قَالًا سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ

کچھ بھی اور جس نے کہا کہ ضرور میں اناروں کا مثال اس کی جو اتارا اللہ نے اور کاش اگر دیکھتے تو

إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو

جگہ ظالم سختیوں میں ہونگے موت کی اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہونگے

أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ وَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

ہاتھ اپنے نکالو جانیں اپنی آج تم بدل میں دیئے جاؤ گے عذاب

الْمُؤْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ

ذلت کا بسبب اس کہ کہتے تھے تم کہتے اللہ پر ناحق اور تھے تم

عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٦٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا

آیات سے اس کی تکبر کرتے اور یقیناً یقیناً آئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسا کہ

خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۗ

پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی دفعہ اور چھوڑ آئے ہو تم جو دیا تھا ہم نے تم کو پیچھے پیٹھوں کے اپنی

وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ

اور نہیں دیکھتے ہم ساتھ تمہارے سفارشی تمہارے وہ کہ بیان کیا تھا تم نے کہ وہ (بیدارش و رزق) کے بارہ میں

شُرَكَوٓاۗءَ ۗ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ

تمہارے شریک ہیں (اللہ کے) البتہ یقیناً کٹ گیا باہمی تعلق تمہارا اور جاندار تم سے جو تھے تم

تَزْعُمُونَ ﴿١٦٥﴾ إِنَّ اللَّهَ فُلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ

بیان کرتے یقیناً اللہ پھاڑنے والا ہے دانوں کا اور گٹھیوں کا وہ نکالتا ہے جاندار کو

مِنَ الْمَيِّتِ ۗ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَآتَىٰ

بے جان سے اور نکالنے والا ہے بے جان کو جاندار سے یہ اللہ ہے پس کہاں

تُؤَفِّكُونَ ﴿١٦٦﴾ فَالِقُ الْأَصْبَاحِ ۗ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۗ وَالشَّمْسَ

پھیرے جاتے ہو پھاڑنے والا ہے صبح کا اور اس نے بنائی رات آرام کے لیے اور سورج

وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٦٧﴾ وَهُوَ

اور چاند حساب کے لیے یہ اندازہ ہے غالب بہت علم والے کا اور وہی ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ التُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ

جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ راہ معلوم کرو ذریعے سے انکے انہیروں میں

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۸﴾

خشکی اور تری کے مفصل بیان کی ہیں ہم نے آیات ان لوگوں کیلئے جو علم رکھتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا

اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو جنس واحد سے پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے اور

مُسْتَوْدَعًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۹۹﴾ وَهُوَ

سوچنے جانے کی جگہ ہے مفصل بیان کی ہیں ہم نے آیات ان لوگوں کیلئے جو سمجھتے ہیں اور وہی ہے

الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ

جس نے اتارا بادل سے پانی پھر نکالی ہم نے اس کے ذریعے اُگنے والی ہر

شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ۚ

چیز پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ کو نکالتے ہیں ہم اس سے دانے تہ بہ تہ

وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ

اور کھجوروں میں سے یعنی ان کے گاجھوں میں سے خوشے ہیں جھکے ہوئے اور (ہم نکالتے ہیں بادش سے) بانگات

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ

انگوروں کے اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے

أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِذَا رَأَىٰ فِي ذُلِكُمْ

دیکھو پھل کو اس کے جبکہ پھل لائے اور پکھنے کو اس کے یقیناً اس میں

لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ

الجنہ نشانہات ہیں ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں اور بنایا انہوں نے اللہ کیلئے شریک جنوں کو

وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ

حالا کہ اس نے پیدا کیا انہیں اور تجویز کئے انہوں نے اس کیلئے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۰۱﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا

أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَاذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً، وَخَلَقَ حُلَّ

کیونکہ جو اس کے لیے اولاد حلال نہ ہے اس کی کوئی بیوی اور پیدا کی اس نے ہر

شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَا إِلَهَ إِلَّا

چیز اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ ہے اللہ رب تمہارا نہیں ہے کوئی معبود سوائے

هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوهُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۰۳﴾

اس کے پیدا کرنے والا ہر چیز کا سوعبادت کرو اسکی اور وہ ہر بات کا کارساز ہے

لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ

نہیں پاکتیں اُسے نظریں اور وہ پاتا ہے سب نظروں کو اور وہ لطافت والا

الْخَبِيرُ ﴿۱۰۴﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنْ أَبْصَرَ

بہت خبر رکھنے والا ہے آئی ہیں تمہارے پاس دلیلیں طرف سے رب کے تمہارے سوجس نے دیکھا

فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۱۰۵﴾

اپنے نفس ہی کیلئے ہے اور جو اندھا ہوا تو رو بال، اسی پر ہے اور نہیں ہیں تم پر ہرگز محافظ

وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا أَدْرَسَتْ وَلِنَبَيِّنَهُ

اور اسی طرح بار بار لاتے ہیں ہم آیات اور تاکہ وہ کہیں کہ بڑھ چکا ہے اور تاکہ کوہر بیان کریں ہم

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۶﴾ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، لَا

واسطے لوگوں کے جو علم رکھتے ہیں پیروی کرو اسکی جو وحی کی گئی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نہیں ہے

إِلَهُ إِلَّا هُوَ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۷﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

کوئی معبود سوائے اس کے اور اعراض کر مشرکوں سے اور اگر چاہتا اللہ نہ

أَشْرَكُوا، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

شُرک کرتے وہ اور نہیں بنایا ہم نے تجھے ان پر محافظ اور نہیں ہے تو ان پر

بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۸﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ہرگز داروغہ اور نہ بُرا بھلا کہو ان کو کہ جن کو یہ (مشرک) پکارتے ہیں سوائے اللہ کے

فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ

ورنہ وہ بُرا بھلا کہیں گے اللہ کو زیادتی سے بغیر علم اسی طرح مزین کیا ہم نے ہر ایک اُمت کیلئے

عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا

کام ان کا پھر طرف رب کے اپنے لوٹنا ہے ان کا پھر وہ آگاہ کریگا انہیں اس سے جو تھے

يَعْمَلُونَ ﴿۱۹۱﴾ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن

وہ کرتے اور قسم کھائی انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اپنی کہ البتہ اگر

جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدَ

آیا ان کے پاس کوئی نشان تو ضرور ہی ایمان لائیں گے وہ اس (نشان) پر تو کدے سوائے اسکے نہیں کہ نشانات پاس ہیں

اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۹۲﴾

اللہ کے اور کون آگاہ کریگا تم (مسلمانوں) کو کہ جب آئے گی وہ (نشانی) نہیں ایمان لائیں گے اور

نُقَلِّبُ أَقْبَادَهُمْ فَهُمْ لَا يَصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ

بدل دیں گے ہم دل ان کے اور آنکھیں ان کی جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے تھے اس پر

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۹۳﴾

پہلی مرتبہ اور چھوڑ دیں گے ہم انہیں سرکشی میں اپنی بھٹکیں گے۔



وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَ

اور اگر ہم اُنارے طرف انکی فرشتے اور بات کرتے ان سے مُردے اور

حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

اچھی کرتے ہم ان پر ہر چیز سامنے تو نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَ

بجز اُنکے کہ چاہے اللہ ویکن اکثر ان میں سے جہالت کرتے ہیں اور

كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطٰنِ الْاِنْسِ

اسی طرح بنایا ہم نے ہر ایک نبی کے لیے دشمن شیطانوں کو آدمیوں

وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ

اور جنوں میں سے دل میں ڈالتا ہے بعض ان کا طرف بعض کے طمع سازی کی بات

غُرُوْدًا وَّلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرَهُمْ

دھوکہ دینے کیلئے اور اگر چاہتا رب تیرا تو نہ وہ کرنے یہ کام پس چھوڑ انہیں

وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ وَ لِيَتَصَدَّقَ اِلَيْهِ الْفٰئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا

اور اسے جو وہ افترا کرتے ہیں اور تاکہ جھک جائیں طرف اسکی (طمع سازی کی ہدل ان لوگوں کے جو نہیں

يُؤْمِنُوْنَ يَا اٰخِرَةَ وَّلِيْرِضْوَةٌ وَّلِيْقَتَرَفُوْا مَا

ایمان لاتے آخرت پر اور تاکہ وہ پسند کریں اُسے اور تاکہ وہ کریں جو

هُم مَّقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ اَفْغٰیْرَ اللّٰهِ اَبْتٰغِيْ حَكْمًا وَّهُوَ

وہ کرتے ہیں کیسا پس غیر کو اللہ کے میں چاہتا ہوں فیصلہ کرنیوالا حاکم وہی ہے

الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفْصَلًا وَّ الَّذِيْنَ

جس نے اُناری طرف تماری یہ کتاب مفصل بنا کر اور وہ لوگ کہ

اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ

دی ہم نے انہیں یہ کتاب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ اُناری گئی ہے طرف سے رب کے تیرے

بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۳۵﴾ وَ تَمَّتْ

ساتھ حق کے تو نہ ہو تو ہرگز شک کرنیوالوں میں سے اور پوری ہو گئی

كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَ

بات رب کی تیرے راستی اور انصاف سے نہیں کوئی تبدیل کر سکتا یا توں کو اس کی اور

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۶﴾ وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ

وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور اگر اطاعت کرے تو اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں

يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ

گمراہ کر دیں گے تجھے راہ سے اللہ کی نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کے اور

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۷﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ

نہیں وہ مگر اٹکل کرتے یقیناً رب تیرا وہ خوب جانتا ہے اُسے جو گمراہ ہوتا ہے

عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۱۸﴾ فَكُلُوا مِمَّا

راہ سے اس کی اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو پس کھاؤ اس سے کہ

ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَ

بیگیا نام اللہ کا جس پر اگر ہو تم آیت پر اس کی ایمان لانے والے اور

مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ

کہا ہوا نہیں کہ نہ کھاؤ تم اس سے کہ بیگیا نام اللہ کا جس پر حالاً کہ یقیناً

فَصَلِّ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ

مفصل بیان یہ تھا کہ تمہارے لیے جو حرام کیا اس نے تم پر بجز اسکے کہ مجبور ہو جاؤ تم طرف اس (حرام شدہ شئی) کی

وَإِنْ كَثِيرًا يَضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِخَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ

اور یقیناً بہت سے البتہ گمراہ کرتے ہیں ماتحت خواہشات کے اپنی بغیر علم کے یقیناً

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۲۰﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَثْمِ وَ

تیرا رب ہی خوب جانتا ہے جسے بڑھنے والوں کو اور چھوڑ دو ظاہر گناہ اور

بَاطِنَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثْمَ سَيَجْزُونَ بِمَا

پوشیدہ اس کے تحقیق وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ ضرور بدلہ دیئے جائیں گے اس کا

كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ

جو تجھے وہ کرتے اور نہ کھاؤ اس سے کہ نہیں بیگیا نام

اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُؤْحَوْنَ

اللہ کا جس پر اور یقیناً یہ البتہ نافرمانی ہے اور یقیناً شیطان البتہ دل میں ڈالتے ہیں

إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

طرف دوستوں کے اپنے تاکہ وہ جھگڑیں تم سے اور اگر اطاعت کرو تم ان کی یقیناً تم

لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۲۱﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ

ضرور مشرک ہو گئے کیا جو تھا مُردہ پھر زندہ کیا ہم نے اُسے اور بنایا ہم نے اس کیلئے

نُورًا أَيْمَشِي بِهِ فِي التَّأْسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ

نور کہ وہ چمٹا ہے ساتھ اس کے لوگوں میں مانند اس شخص کی کہ حالت اس کی یہ ہے کہ اندھیروں میں ہے

لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا

نہیں ہے وہ ہرگز نکلنے والا اس سے اسی طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے جو

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ

تھے وہ کرتے اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں

أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا

بڑوں کو مجرم اس بستی کا تاکہ تدبیر کریں اس میں اور نہیں تدبیر کرتے مگر

بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ

اپنی جانوں سے اور نہیں وہ محسوس کرتے اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی نشان

قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ

کہتے ہیں ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم یہاں تک کہ دیئے جائیں ہم مانند اس کی جو دیئے گئے رسول

اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ

اللہ کے اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں رکھے رسالت اپنی ضرور پہنچے گی

الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ

ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت طرف سے اللہ کی اور عذاب سخت

بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۴﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ

اس سے کہ تھے وہ تدبیر کرتے پس جو شخص کہ ارادہ کرے اللہ کہ ہدایت دے اُسے

يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِإِلَادِ سَلَامٍ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يُجْعَلْ

تو کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے اور جو شخص کراہدہ کرے کہ گمراہ کرے اسے کر دیتا ہے

صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَتَمَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، كَذَلِكَ

سینہ اس کا تنگ گھٹنا ہوا گویا کہ چڑھتا ہے آسمان میں اسی طرح

يُجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۶﴾

کر دیتا ہے اللہ ناپاکی ان لوگوں پر جو نہیں ایمان لاتے

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ

اور یہ راستہ ہے رب تیرے کا سیدھا یقیناً مفصل بیان کی ہیں ہم نے آیات

لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۳۷﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ

ان لوگوں کیلئے جو نصیحت پکڑتے ہیں ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا پاس رب کے ان کے اور

هُوَ دَوْلَتُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

وہ دوست ہے ان کا بسبب ان عملوں کے کرتے وہ کرتے اور جس روز اکٹھا کرے گا انہیں

جَمِيعًا، يَمْعَشِرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مَنْ

سب کو (فرمائے گا) اے گروہ جنوں کے یقیناً بہت سے نے لئے تم نے

الْأَنسِ، وَقَالَ أَوْلِيَهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ

انسانوں میں سے اور کہیں گے دوست ان کے انسانوں میں سے اے رب ہمارے فائدہ حاصل کیا

بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا،

بعض ہمارے نے ساتھ بعض کے اور پہنچے ہم ميعاد کو اپنی جو مقررہ کی تھی تو نے ہمارے لیے

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ

فرمایا آگ ہے ٹھکانا تمہارا رہ پڑنے والے ہو اس میں مگر جو چاہے

اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾ وَكَذَلِكَ نُورِي

اللہ یقیناً رب تیرا حکمت والا خوب جاننے والا ہے اور اسی طرح ہم مستطو کر دیتے ہیں

بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴۰﴾

بعض ظالموں کو بعض پر بسبب اس کے کرتے وہ کرتے

يَمَعَشَرَاتِ الْجِبِّ وَالْأَلْسِ الْأَمْيَا تَكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

اے گروہ جنوں اور انسانوں کے کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے

يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ

کہ بیان کرتے تم پر آیات میری اور ڈراتے تھے تمہیں سننے سے تمہارے اس دن

هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ

سے وہ کہیں گے گواہی دی ہم نے خلافت اپنی جانوں کے اور دھوکہ دیا تھا انہیں زندگی

الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۳۱﴾

دنیائی نے اور گواہی دی انہوں نے خلافت اپنی جانوں کے کہ وہ تھے کافر

ذَلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۗ

یہ اس لیے ہے کہ نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنیوالا بسنیوں کا بسبب ظلم کے اور

أَهْلُهَا غَفُلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَرِكِّدْ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ

باشد سے انکے بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو عمل کئے انہوں نے اور

مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ

نہیں ہے رب تیرا ہرگز غافل اس سے جو وہ کرتے ہیں اور رب تیرا بے پروا

ذُو الرَّحْمَةِ ۗ إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ

رحمت والا ہے اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں اور جانشین بنائے

بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ ۗ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ

بعد تمہارے جسے چاہے جیسا کہ پیدا کیا تم کو اولاد سے اور لوگوں

آخِرِينَ ﴿۱۳۴﴾ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ كَلِمَاتٌ لَّا يَمُرُّ

کی یقیناً جس کا تم وعدہ دے بیٹھے جاتے ہو ضرور آئیوا لایا ہے اور نہیں ہو تم

بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۳۵﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي

ہرگز عاجز کرنیوالے تو کہو اے قوم میری کام کرو اپنی جگہ پر یقیناً میں رہی

عَامِلَةٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ لَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ

کام کرنیوالا ہوں پس ضرور جان لو گے تم کہ کون ہے وہ کہ ہو گا جس کے لیے انجام اس را آخری گھر کا

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۸﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنْ

یقیناً بات یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوں گے ظالم اور مقرر کیا انہوں نے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا کیا اس نے

الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ

کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ پس کہا انہوں نے کہ یہ اللہ کیلئے ہے مطابق اپنے گمان کے

وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى

اور یہ شرکاء کے لیے ہے ہمارے پس جو ہوتا ہے ان کے شرکاء کے لیے تو نہیں پہنچتا طرف

اللَّهِ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا

اللہ کی اور جو ہوتا ہے اللہ کیلئے تو وہ پہنچ جاتا ہے طرف شرکاء کی ان کے برا ہے وہ جو

يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَكَذَلِكَ ذَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

فیصلہ کرتے ہیں اور اسی طرح خوبصورت کر کے دکھلایا بہت سے مشرکوں کو

قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُؤُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَيَلْبِسُوا

مار ڈالنا اپنی اولاد کا ان کے شریکوں نے تاکہ ہلاک کریں وہ انہیں اور تاکہ مشتبہ کر دیں

عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ

ان پر دین ان کا اور اگر چاہتا اللہ نہ کرتے وہ یہ کام) پس چھوڑ انہیں

وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۴۰﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ

اور اسے جو وہ افترا کرتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں

لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ

نہیں کھائیں گے اسے سوائے اس کے جسے ہم چاہیں مطابق اپنے گمان کے اور لکھ (مویشی کو حرام کی گئی ہیں) صوابی

ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ

(سے) پیٹھیں انکی اور لکھ (مویشی کو نہیں ذکر کرتے نام اللہ کا ان پر جھوٹ بانڈھ کر

عَلَيْهِمْ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۴۱﴾ وَقَالُوا

اس (اللہ) پر ضرور وہ بدلہ دے گا انہیں اس کا جو حق وہ افتراء کرتے اور کہا انہوں نے

مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا

کہ وہ جو بیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور

مُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۚ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ

حرام ہے ہمارے بیویوں پر اور اگر وہ (پہٹ کا بچہ) مُردہ ہو تو وہ اس میں

شُرَكَاءٌ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴۰﴾

شریک ہیں ضرور وہ سزا دیکھا نہیں (اس) بیان کی ان کے یقیناً وہ حکمت والا خوب جاننے والا ہے

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

یقیناً گھانا پایا جن لوگوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بیوقوفی سے بغیر علم کے

وَحَرَّمَوَا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوْا

اور حرام کر لیا اپنے پر جو دیا تھا انھیں اللہ نے افتراء کرتے ہوئے اللہ پر یقیناً گمراہ ہوئے وہ

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ

اور نہ ہوئے ہدایت پانے والے اور وہی ہے جس نے بنائے باغات

مَعْرُوشٍ ۚ وَغَيْرِ مَعْرُوشٍ ۚ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

ٹیپوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے اور کھجوریں اور کھیتی کے

مُخْتَلِفًا ۚ كُلُّهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ ۚ مُتَشَابِهًا ۚ

مختلف ہے پھل جن کا اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور

غَيْرِ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُّوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ

نہ ملتے جلتے کھاؤ پھل اس کا جب پھل دے وہ اور دو حق اس کا

يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۱۴۲﴾

بروز کٹائی کے اس کی اور نہ اسراف کرو یقیناً وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ ۚ وَفَرَشَاءٌ ۚ كُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

اور پیدا کئے اس نے چار بیویوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے کھاؤ اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۴۳﴾

اور نہ پیروی کرو قدموں کی شیطان کے یقیناً وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا کھلا

ثَمْنِيَّةٌ ۚ أَزْوَاجٌ ۚ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْمَعْزِ

آٹھ جوڑے دنبہ میں سے دو اور بکری میں سے

اٰثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اِمَّا لَانُثْيَيْنِ اِمَّا

دو تو کدے کیا دونوں نر حرام کئے ہیں اس نے یا دونوں مادہ یا

اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامًا لَانُثْيَيْنِ ۚ نَبِّئُوْنِي بِعِلْمٍ

وہ جو مشتمل ہیں جن پر رحم دونوں مادینوں کے آگاہ کرو مجھے ساتھ علم کے

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۗ ﴿۱۳۳﴾ وَاَمَّا الْاِبْرٰٓءِيْلُ الَّذِيٓ اٰثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ

اگر ہو تم سچے اور اوثینوں میں سے دو اور گناہوں میں سے

اٰثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اِمَّا لَانُثْيَيْنِ اِمَّا

دو تو کدے کیا دونوں نر حرام کئے ہیں یا دونوں مادہ یا وہ کہ

اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامًا لَانُثْيَيْنِ ۚ اَمْ كُنْتُمْ شٰهِدًا

مشتمل ہوئے ہیں جس پر رحم دونوں مادینوں کے کیا تم تھے حاضر

اِذْ وَاٰذَنَّاكَ لَهٗ ۚ فَمَنْ اٰظَلَمُ مِمَّنْ اٰفْتَرٰى عَلٰى

جب وصیت کی تھی تمہیں اللہ نے اس کی پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے گھڑ لیا

اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي

اللہ پر جھوٹ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیتا

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۗ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مَحْرَمًا

ظالم لوگوں کو تو کدے نہیں پاتا میں اس (کلام) میں جو وحی کی گئی طرف میری کوئی حرام شدہ

عَلٰى طٰٓءِ اِمْرٍ يَّطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِثْمًا ۙ اَوْ دَمًا

(چیز) کسی کھانے والے پر جو کھاٹے اُسے سوائے اسکے کہ ہو وہ مردار یا خون

مَسْفُوْحًا ۙ اَوْ لَحْمَ خِنزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا ۙ اٰهْلًا

بھایا ہوا یا گوشت سور کا پس یقیناً وہ ناپاک ہے یا نافرمانی کے طور پر ہو کہ بکارا گیا ہو

بِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنْ اِضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ

رنام) غیر اللہ کا اس پر پس جو لاچار ہوا سوائے چاہنے والے کے اور سوائے حد سے بڑھنے والے کے تو

رَبِّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۗ ﴿۱۳۵﴾ وَاَعْلٰى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَمًا كَعُلِّ

یقیناً رب تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرام کیا تھا ہم نے ہر

ذِي ظُفْرِ، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا

ناخن والا جانور اور گائیتوں میں سے اور بکریوں میں سے حرام کہیں ہم نے ان پر چربیوں ان کی

إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ

سوائے اس (چربی) کے جو اٹھائی پیٹھوں نے ان کی یا انتڑیوں نے یا جو (چربی) مل جل گئی

بِعَظْمٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿۱۳۸﴾

ساتھ بڑی کے یہ سزا دی ہم نے انہیں بسبب سریشی کے انکی اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَ

پس اگر وہ جھٹلا میں تجھے تو کہدے رب تمہارا رحمت وسیع والا ہے اور

لَا يُرَدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۳۹﴾ سَيَقُولُ

نہیں روکا جاتا عذاب اس کا مجرم لوگوں سے ضرور کہیں گے وہ

الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا

لوگ جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ نہ شرک کرتے ہم اور نہ باپ دادا ہمارے

وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن

اور نہ حرام کرتے ہم کوئی چیز اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو

قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ

پہلے تھے ان سے جیانتک کہ چکھا انہوں نے عذاب ہمارا تو کہدے کیا ہے پاس تمہارے کوئی

عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن

علم؟ کو نکالو تم اُسے ہمارے لیے نہیں پیروی کرتے تم مگر ظن کی اور نہیں

أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۴۰﴾ قُلْ فِىلِى الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ

تم مگر اٹکل کرتے تو کہدے پس اللہ کے لیے ہے حجت پوری

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۱﴾ قُلْ هَلْ مَشْهَدَاءَ كُمْ

پس اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دیتا تم کو سب کو تو کہدے لاؤ گواہ اپنے

الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هَذَا، فَإِن شَهِدُوا

وہ جو کہ گواہی دیں کو یقیناً اللہ نے حرام کیا ہے اُسے پس اگر گواہی دیں

فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ، وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا

تو نہ گواہی دیجو ساتھ ان کے اور نہ پیروی کیجیو خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی

بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيَّهُمْ

ہماری آیات کی اور نہ ان لوگوں کی جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کیساتھ

يَعْدِلُونَ ﴿۱۵۱﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ

شریک ٹھہرتے ہیں تو کہہ دے آؤ میں پڑھوں جو حرام کیا رب تمہارے نے تم پر

أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَلَا

یہ کہ نہ شریک بناؤ ساتھ اسکے کسی کو اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرو اور نہ

تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

قتل کرو اولاد اپنی کو بوجہ عزت کے ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ، وَلَا

اور نہ قریب جاؤ بُرائیوں کے جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں اور نہ

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ

قتل کرو اس نفس کو کہ جسے حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے یہ وہ بات ہے کہ اس (اللہ) نے

بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵۲﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا

تاکید کی ہے تمکو اسکی تاکہ تم عقل سے کام لو اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے مگر

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ

ساتھ اس طریق کے کہ جو بہت اچھا ہو بیان تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی مضبوطی کو اور پورا کرو ماپ

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا لَوْ كَانُوا قُرْبَىٰ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ

اور تول ساتھ انصاف کے نہیں ذمہ دار قرار دیتے ہم کسی نفس کو مگر مطابق طاقت کے اسکی اور

إِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا لَوْ كَانُوا قُرْبَىٰ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ

جب بات کرو تم تو انصاف کرو اور اگرچہ ہو رشتہ دار اور عہد اللہ کا

أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۳﴾ وَإِن

پورا کرو یہ وہ بات ہے کہ اس نے تاکید کی تم کو جس کی تاکہ تم نصیحت پکڑو اور یقیناً

اور یقیناً

هُدًى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

یہ راہ میری سیدھی ہے پس پیروی کرو اس کی اور نہ پیروی کرو مختلف راستوں کی

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

درنہ جدا کر دیں گے وہ تم کو راہ سے اس کی یہ وہ بات ہے کہ اس نے تاکید کی تم کو جب تک تاکہ تم

تَتَّقُونَ ﴿۱۰۳﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي

متقی بنو پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب مکمل اس شخص پر

أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ

جس نے احسان کیا اور تفصیل ہر بات کی اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ

يَلْقَاءَ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَا يَمْنُونَ ﴿۱۰۴﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ

ملنے پر رب اپنے کے ایان لائیں اور یہ کتاب (قرآن) اُتارا ہم نے اسے

مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ

مبارک ہے پس پیروی کرو اس کی اور تقویٰ کرو تاکہ تم رحم کئے جاؤ ایسا ہو

تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا،

کہہ دو تم کہ صرف اتاری گئی کتاب دو جماعتوں پر پہلے ہم سے

وَأَنَّ كُنَّا عَنْ دَرَأَسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿۱۰۶﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا

اور یقیناً میں ہم پڑھنے سے ان (اہل کتاب) کے البتہ غافل یا کہہ دو تم کہ اگر

أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ، فَقَدْ جَاءَكُمْ

اُتاری جاتی ہم پر کتاب البتہ ہوتے ہم زیادہ ہدایت والے ان سے پس یقیناً آیا تمہارے پاس

بَيِّنَةٌ مِنَ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

لکھن ثبوت طرف سے تمہارے رب کی اور ہدایت اور رحمت پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے

كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، سَنَجْزِي الَّذِينَ

تکذیب کی اللہ کی آیات کی اور اعراض کیا ان سے ضرور بدل میں دینگے ہم ان لوگوں کو جو

يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا

اعراض کرتے ہیں آیات سے ہماری بُرا عذاب بسبب اس کے کہ تھے

يَصِدُّونَ ﴿۱۵۸﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ

وہ اعراض کرتے نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آپیں ان کے پاس فرشتے یا

يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ

آوے رب تیرا یا آپیں بعض نشان تیرے رب کے جس دن آپیں گے بعض

آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا مَا كُنَّ آمَنَتْ مِنْ

نشان تیرے رب کے نہیں نفع دیکھا کسی نفس کو ایمان اس کا کہ نہیں تھا ایمان لایا

قَبْلَ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا

پہلے سے یا نہیں کی تھی اپنے ایمان میں کوئی نیکی تو کہ انتظار کرو یقیناً ہم

مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۵۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا

انتظار کر رہے ہیں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے

شِيْعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ

کئی فرقے نہیں ہے میرا تعلق ان سے کچھ بھی سوائے اس کے نہیں کہ معاملہ ان کا طرف اللہ کے ہے

ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۶۰﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

پھر وہ آگاہ کرے گا انہیں اس پر جو تھے وہ کرتے جو شخص لائے گا نیکی

فَلَهُ عَشْرًا مِثْلِهَا ۗ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى

تو اس کیلئے دس اس جیسی ہیں اور جو لائے گا بدی تو نہ بدلہ دیا جائیگا

إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ قُلِ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي

مگر اس جیسا اور وہ نہیں ظلم کئے جائیں گے تو کہدے یقیناً ہدایت دی مجھے میرے رب

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

نظرن راہ سیدھی کی (جو) دین ہے مضبوط مذہب ابراہیم

حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۲﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَ

موجد کا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے تو کہدے یقیناً نماز میری اور

نُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِاللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۳﴾ لَا شَرِيكَ

تربانی میری اور زندگی میری اور موت میری اللہ رب العالمین کے لیے ہے نہیں ہے کوئی شریک

لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۳۳﴾ قُلْ أَعْيُرُ

اس کا اور اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں میں اور سب سے پہلا مسلمان ہوں تو کہہ دے کیا غیر کو

اللَّهُ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ

اللہ کے میں چاہتا ہوں رب حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا اور نہیں کماتا کوئی

نَفْسٍ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسٍ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ

نفس مگر اپنے پر ہی اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی کا پھر طرف

رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ

اپنے رب کی لوٹتا ہے تمہارا پھر وہ آگاہ کرے گا تم کو اس سے کہ تھے تم جس میں

تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْفَ الْأَرْضِ

اختلاف کرتے اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو جانشین (پہلوں کا) زمین میں

وَدَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا

اور بلند کیا بعض تمہارے کو اوپر بعض کے درجوں میں تاکہ آزما دے تم کو اس میں

اتَّكُمُ طَرَاتٍ رَبِّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳۶﴾

جو اس نے دیا تم کو یقیناً رب تیرا جلد دینے والا ہے سزا اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْمَصِّ ﴿۲﴾ كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ

الف۔ لام۔ ہم۔ صاد (یہ) کتاب ہے اتاری گئی طرف تیری پس نہ ہو سینہ میں تیرے

حَرْجٍ مِّنْهُ لِيُنذِرَ بِهِ ۖ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳﴾ لِاتَّبِعُوا

تنگی اس سے تاکہ ڈرائے تو اسکے ذریعہ اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے پیروی کرو اسکی

مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ

جو اتارا گیا طرف تمہاری طرف سے تمہارے رب کی اور نہ پیروی کرو سوائے اس کے (اور)

أَوْيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۴﴾ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ

دوستوں کی کم ہی نصیحت کرتے ہو تم اور کتنی ہی بستیاں ہیں

أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَأَهُمْ قَائِلُونَ ﴿۵﴾

ہلاک کیا ہم نے جنہیں چنانچہ آیا ان کے پاس عذاب ہمارا رات کو سوتے میں یا جبکہ وہ سو رہے تھے

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا

پس نہ تھی پکار ان کی جبکہ آیا ان کے پاس عذاب ہمارا سوائے اسکے کہ کہا انہوں نے

إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۶﴾ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ

یقیناً تھے ہم ظالم پس ضرور پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے کہ بھیجا گیا (نبیوں کو) طرف انہی

وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۷﴾ فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ

اور البتہ ضرور پوچھیں گے ہم رسولوں سے پھر البتہ ضرور بیان کریں گے ہم ان پر ساتھ علم کے اور

مَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿۸﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ؕ فَمَنْ

نہیں ہیں ہم غیر حاضر اور تول اس دن سچ سچ ہے پس خوشخص

ثَقُلْتَ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۹﴾

کہ بھاری ہوئے تول اس کے تو یہ لوگ ہی کامیاب ہیں اور

مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

جو خوشخص کہ ہلکے ہوئے تول اس کے تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے گھٹے میں ڈالا

أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَقَدْ

اپنی جانوں کو بسبب اس کے کہ تھے آیات ہماری سے ظلم کرتے اور یقیناً یقیناً

مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا

طاقت دی ہم نے تم کو زمین میں اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان کم ہی

مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا

تم شکر کرتے ہو اور یقیناً یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو پھر صورت دی ہم نے تم کو پھر کہا ہم نے

لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ وَإِلَادًا مِمَّنْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ

فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے نہ

يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۱۲﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ

ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے فرمایا کس نے روکا تجھے کہ نہ سجدہ کیا تو نے جبکہ

أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ

کلم دیا تمہا میں نے تجھے، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا تو نے اسے

مِنْ طِينٍ ﴿۱۳﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ

کیمچڑ سے فرمایا پس نکل جا اس (مقام) سے پس نہیں ہے مناسب تیرے لیے کہ تکبر کرے تو

فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۱۴﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ

اس (مقام) میں پس نکل جا یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے اس نے کہا مہلت دے مجھے اس

يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۱۵﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۱۶﴾ قَالَ فِيمَا

دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے فرمایا یقیناً تو مہلت دینے والوں میں سے ہے اس نے کہا پس اس لیے کہ

أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ

گمراہ ٹھہرایا تو نے مجھے ضرور بیٹھوں گا میں ان کے لیے راہ تیری سیدھی پلہ پھر

لَا تَيَسَّرُ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ

ضرور آؤں گا میں ان کے پاس آگے سے ان کے اور پیچھے سے ان کے اور

أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۸﴾

دائیں سے ان کے اور بائیں سے ان کے اور نہ پائے گا تو اکثر ان کے شکر گزار

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ

فرمایا نکل جا اس (مقام) سے مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا البتہ جنہوں نے پیروی کی تیری ان میں سے

لَا مَلَأَتْ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۹﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

البتہ ضرور بھروں گا جہنم کو تم سب سے اور اے آدم رہ تو

وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

اور بیوی تیری جنت میں پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو تم اور نہ قریب جانا اس

الشَّجَرَةَ فَتَكُونُ تَاْمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۰﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ

درخت کے درمں ہوا جو گئے تم دونوں ظالموں میں سے پھر وسوسہ ڈالا انہیں شیطان نے

لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِيمَا وَقَالَ مَا

تا کہ ظاہر کرے ان کے لیے جو چھپایا گیا تھا ان سے یعنی شرم گاہیں ان کی اور اس نے کہا کہ نہیں

نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ

روکا تمہیں رب نے تمہارے اس درخت سے سوائے اکلے ہو جاؤ گے تم فرشتے

أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۳۱﴾ وَقَاَسَمَهُمَا رَبِّي لَكُمَا لَمِنَ

یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے اور قسم کھا کر کہا انہیں کہ یقیناً میں تم دونوں کے لیے ضرور

النَّاصِحِينَ ﴿۳۲﴾ فَذَلَّلَهُمَا يَخْرُورًا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ

نیبر خواہوں میں سے ہوں پس مائل کیا ان دونوں کو دھوکہ سے پس جب چکھا دونوں نے وہ درخت

بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِيمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ

ظاہر ہو گئیں ان کے لیے شرم گاہیں ان کی اور گئے دونوں چپکانے اپنے پر

ذَرَقِ الْجَنَّةِ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا

پتے اس باغ کے اور بیکارا انہیں رب نے ان کے کیا نہیں روکا تھا میں نے تم کو

الشَّجَرَةَ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۳۳﴾

اس درخت سے اور کہا تھا میں نے تمہیں کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلا کھلا

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

کہا ان دونوں نے اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر اور اگر نہ بخشتا تو نے ہمیں اور نہ رحم کیا تو نے ہم پر

لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۴﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

تو ضرور ہو جاؤ گے ہم گھانا پانے والوں میں سے فرمایا اتر جاؤ بعض تمہارا بعض کے لیے

عَدُوٌّ، وَلِكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۵﴾ قَالَ

دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک فرمایا

فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿۳۶﴾

اسی (زمین) میں زندہ رہو گے تم اور اسی میں مرو گے تم اور اسی سے نکالے جاؤ گے تم

يَبْنِيٰ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي

اسے اولاد آدم یقیناً اُنارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانکتا ہے

سَوَاتِكُمْ وَرِيْشَاءُ وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

تمہاری شرمگاہوں کو اور زینت کا موجب ہے اور لباس تقویٰ کا ہی بہتر ہے

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾ يَبْنِيٰ اٰدَمَ

یہ آیات سے ہے اللہ کی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اسے اولاد آدم

لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ

نہ فتنیں ڈالے تم کو شیطان جیسا کہ نکالا اس نے ماں باپ تمہارے کو جنت سے

يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّیُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا اِنَّهٗ

اُنارہا تھا ان سے لباس ان کا تاکہ دکھائے انہیں شرمگاہیں ان کی یقیناً

یُرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا

دیکھتا ہے نہیں وہ اور قبیلہ اس کا جہاں سے نہیں دیکھتے تم انہیں یقیناً

جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَاِذَا

بنایا ہم نے شیطانوں کو دوست ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے اور جب

فَعَلُوْا فَاجْشَعُوْا قَالُوْا اَجَدْنَا عَلٰیهَا اَبَاءَنَا وَاَللّٰهُ اَمْرًا

وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کہتے ہیں بلیا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو اور اللہ نے حکم دیا ہے میں

بِمَا قُلْنَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اَتَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ

اس کا تو کہہ رہے یقیناً اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا کیا تم کہتے ہو اللہ پر

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۷﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوا

جو نہیں جانتے تم تو کہہ رہے حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا اور (یکہ) سیدھا رکھو

وَجُوْكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّاذْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

اپنے مومنوں کو نزدیک ہر مسجد کے اور پکارو اسے خالص کرتے ہوئے اس کیلئے

الدِّيْنَ هٰذَا كَمَا بَدَاۤ اَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۸﴾ فَرِيْقًا هٰدٰی وَا

اطاعت کو جس طرح پہلی دفعہ پیدا کیا تم کو پھر لوٹو گے تم ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور

فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ

ایک گروہ ثابت ہوگئی ان پر گمراہی یقیناً انہوں نے بنایا شیطانوں کو

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾

دوست چھوڑ کر اللہ کو اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں

يَبْنِي أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا

اسے اولاد آدم اختیار کرو اپنی زینت وقت ہر نماز کے اور کھاؤ

وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۲﴾

اور پیو اور نہ اسراف کرو یقیناً وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ

تو کہے کس نے حرام کی ہے زینت اللہ کی جو نکالی ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے اور

الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ

پاکیزہ چیزیں رزق میں سے تو کہے یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں زندگی

الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ

دنیوی میں خالص ہیں بروز قیامت اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا

ان لوگوں کیلئے جو علم رکھتے ہیں تو کہے سوائے ان کے نہیں کہ حرام ہیں رب نے میرے بے حیائیاں جو

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ذَا الْإِثْمِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ

ظاہر ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں اور گناہ اور بغاوت بغیر حق کے اور یہ کہ

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى

شریک ٹھہراؤ ساتھ اللہ کے اُسے کہ نہیں اتاری اس نے اس کی کوئی دلیل اور یہ کہ کہو تم

اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ وَلكلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ

اللہ پر جو نہیں تم جانتے اور ہر ایک امت کیلئے ایک ميعاد ہے پس جب آجاتی ہے ميعاد انکی

لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۵﴾ يَبْنِي أَدَمَ مَا

نہیں وہ پیچھے ہوتے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوتے ہیں اے بنی آدم

يَا تَيْبَنَكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي لَافَمِنَ اتَّقَى

اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے بیان کرتے ہیں تم پر آیات میری پس جس نے تقویٰ کیا

وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۶﴾ وَالَّذِينَ

اور اصلاح کی تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

تکذیب کی ہماری آیات کی اور تکبر کیا ان سے یہ لوگ آگ والے ہیں

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ

وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں پس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑ لیا

اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمُ

اللہ پر جھوٹ یا تکذیب کی اسکی آیات کی یہ لوگ وہ ہیں کہ پہنچے گا انہیں حصہ ان کا

مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ وَلَا

کھے ہیں سے یہاں تک کہ جب آئیں گے (رفشتے) ان کے پاس بھیجے ہوئے ہمارے نبی روح کرے ان کی

قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا

کہیں گے کہاں ہیں جنہیں تھے تم پکارتے سوائے اللہ کے وہ کہیں گے

ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلٰٓىٰ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿۲۸﴾

وہ جاتے رہے ہم سے اور گواہی دیں گے خلاف اپنی جانوں کے کہ وہ تھے کافر

قَالَ اَدْخُلُوْا فِيْ اَمْوَقَدْ خَلْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ

فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان قوموں میں جو گذر چکیں پہلے تم سے جنوں اور

الَّذِيْنَ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعْنَتْ اُخْتَهَا حَتَّىٰ

انسانوں میں سے آگ میں جب کبھی داخل ہوگی کوئی امت وہ لعنت کرے گی اپنے ساتھ والی کو، یہاں تک کہ

اِذَا اَرٰكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لَا قَالَتْ اٰخِرُهُمْ لَا وَّلَهُمْ رَبُّنَا

جب اکٹھے ہو جائیں گے اس میں سب کے سب کہے گی پچھلی قوم ان کی متعلق پہلے کے اپنی لے رہے ہمارے

هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْا فَاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَبْضَعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ

ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں پس دے انہیں عذاب دوگنا آگ کا فرمائے گا

يُكَلِّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖمْ لَا خُرٰٓسَهُمْ

ہر ایک کیلئے دوگنا ہے لیکن نہیں تم جانتے اور کہے گی پہلی (قوم) ان کی اپنی بچھلی (قوم) کو

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَاذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

کو نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت پس پکھو عذاب بسبب اس کے جو تھے تم

تَكْسِبُونَ ﴿۳۲﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاَسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا

کھاتے یقیناً جن لوگوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور تکبر کیا اس سے

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى

نہیں کھولے جائیں گے ان کیلئے دروازے آسمان کے اور نہ وہ داخل کئے جائیں گے جنت میں یہاں تک کہ

يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۳﴾

داخل ہو اونٹ ناکہ میں سوئی کے اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم مجرموں کو

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِّنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۗ وَكَذٰلِكَ

ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور اوپر ان کے پردے ہونگے (جہنم کے) اور اسی طرح

نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۴﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ہم بدل دیں گے ظالموں کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیں انہوں نے نیکیاں

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ هُمْ

نہیں ہم ذمہ دار قرار دیتے کسی نفس کو مگر مطابق وسعت کے اسکی، یہ لوگ جنت والے ہیں وہ

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِّنْ

اس میں رہ پڑنے والے ہیں اور نکال دیں گے ہم جو سینوں میں تھا ان کے

عِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ اِلَّا نَهْرٌ ۗ وَقَالُوا الْحَمْدُ

کینہ بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں اور وہ کہیں گے سب تعریفیں

لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا

اللہ کیلئے ہیں جس نے راہنمائی کی ہمیں اس کی طرف اور نہ تھے ہم کہ ہدایت پائیں اگر نہ ہوتی

اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ۗ لَقَدْ جَاۗءَتْ رُسُلًا بِالنَّبَاۗءِ بِالْحَقِّ ۗ

یہ بات کہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے یقیناً یقیناً آئے تھے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے

وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ

اور انہیں آواز دی جائے گی یہ ہے وہ جنت وارث بنائے گئے ہو تم جس کے سبب انکے جو تھے تم

تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ

کرتے اور پکاریں گے جنت والے آگ والوں کو کہ

قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا

یقیناً پایا، تم نے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچ سچ کہا یا کیا تم نے بھی جس کا

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّ مُؤَذِّنًا بَيْنَهُمْ

وعدہ کیا تھا اب تمہارے نے سچ سچ وہ کہیں گے ہاں پھر پکارے گا ایک پکارنے والا درمیان انکے

أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ

کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر وہ جو کہ روکتے ہیں

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

راہ سے اللہ کی اور چاہتے ہیں اس راہ کو ٹیڑھا اور وہ آخرت کے

كُفْرُونَ ﴿۳۶﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ

شکر ہیں اور درمیان ان دونوں (جنت اور جہنم) کے پردہ ہوگا اور اعراف پر کچھ لوگ ہونگے

يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ

پہچانتے ہوں گے سب کو نشان سے ان کے اور پکاریں گے جنت والوں کو کہ

سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ قَدْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿۳۷﴾ وَإِذَا

سلام ہو تم پر پس نہیں داخل ہوئے (جنتی) ان میں اور وہ توقع رکھتے ہیں اور جب

صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا

پھیری جائیں گی نظریں ان کی طرف آگ والوں کی کہیں گے اے رب ہمارے

لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ

نہ بنا ہمیں ساتھ ظالم لوگوں کے اور پکاریں گے

الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ

اعراف والے کچھ لوگوں کو پہچانیں گے انہیں نشان سے ان کے کہیں گے نہ کفایت کی

عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۵۱﴾ أَهْوَاءِ

تم سے تمہارے جتنے نے اور نہ اس نے کہ جس پر تھے تم تکبر کرتے کیا یہ (رضتی) وہ لوگ ہیں کہ

الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اذْخُلُوا

تسبیں کھائی تھیں تم نے کہ نہ پہنچائے انہیں اللہ رحمت (اپنی) داخل ہو جاؤ

الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۵۲﴾ وَنَادَى

جنت میں نہیں خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہو گے اور پکاریں گے

أَصْحَابُ التَّارِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ

آگ والے جنت والوں کو کہ ڈالو ہم پر کچھ

الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ؕ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا

پانی یا کچھ اس سے جو دیتا تم کو اللہ نے وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے حرام کی ہیں یہ دونوں چیزیں

عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿۵۳﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا

کافروں پر جنہوں نے بنایا اپنا دین مشغلہ اور کھیل

وَعَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ؕ فَالْيَوْمَ نَنسُهُمْ

اور دھوکہ میں ڈالا انہیں زندگی دہلی نے پس آج بھول جائیں گے ہم ان کو

كَمَا نَسُوا الْيَوْمَ الَّذِي كَفَرُوا بِهِ ؕ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

جیسا کہ وہ بھول گئے تھے بلنے کو اپنے اس دن کے اور جیسا کہ تھے وہ آیات کا ہماری

يَجْحَدُونَ ﴿۵۴﴾ وَقَدْ جِئْتُم بِكِتٰبٍ فَصَلْنٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

انکار کرتے اور یقیناً یقیناً لاتے ہم ان کے پاس ایک کتاب مفصل بنایا ہے ہم نے جسے (اپنے) علم پر

هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۵﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا

ہدایت ہے اور رحمت ہے لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں نہیں انتظار کرتے وہ (کافر) مگر

تَأْوِيلَهُ ؕ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوهُ

انجام کا اس کے جس روز آئے گا انجام اس کا کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے

مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ ؕ فَهَلْ لَّنَا مِنَ

پہلے سے یقیناً آئے تھے رسول ہمارے رب کے ساتھ حق کے پس کیا ہیں ہمارے لیے کوئی

شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا

سفرارش کی سفارش کریں ہمارے لیے یا لوٹائے جائیں ہم پھر کریں ہم رعل برظلات اس کے جو تھے ہم

نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

کرتے یقیناً گھائے میں ڈالا انہوں نے اپنے جانوں کو اور جاتا رہا ان سے جو تھے وہ

يَفْتَرُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

افترا کرتے یقیناً رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ تَدْعُنِي إِلَىٰ يَوْمٍ

چھ دنوں میں پھر ساتھ ہی) ٹھیک ٹھاک ہے قائم عرش پر ڈھانکتا ہے رات کو

النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

دن سے وہ یعنی دن طلب کرتا ہے اسے یعنی رات کو جلدی سے اور سورج اور چاند اور ستارے

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ

کام میں لگائے ہوئے ہیں اسکے حکم سے آگاہ ہو جاؤ کہ اس کیلئے پیدا کرنا اور حکم کرنا ہے برکت والا ہے

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ

اللہ رب تمام دنیا کا پکارو اپنے رب کو گڑگڑا کر اور آہستہ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۚ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

یقیناً وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو اور نہ فساد کرو زمین میں

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ وَإِذْ عُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ

بعد اصلاح کے اس کی اور پکارو اُسے ڈر کر اور طمع سے یقیناً رحمت

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ

اللہ کی قریب ہے محسنوں کے اور وہی ہے جو بھیجتا ہے

الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ

ہوئیں خوش خبری کے طور پر آگے اپنی رحمت کے یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں

سَحَابًا ثِقًا ۚ لَا سُقْنُهُ بَلَدٍ مِّمَّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ

بادل جو جھل ہانک کر بیجاتے ہیں ہم اُسے طرف گاؤں مردہ کی پس آتارے ہیں ہم بندے اس کے

الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَلِكَ

پانی پھرنکالتے ہیں ہم اُس رپانی سے ہر قسم کے پھل اسی طرح

نُخْرِجُ الْمَوْتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ

ہم نکالیں گے مُردے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور بستی پاکیزہ

يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرُجُ

نکلتی ہے نباتات اس کی حکم سے اسکے رب کے وہ (گاؤں) جو بُرا ہو نہیں نکلتی (نباتات اکی)

إِلَّا أَنْ كُذِّبَ ۚ كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۹﴾

مگر ناقص اسی طرح ہم بار بار لاتے ہیں آیات لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمٍ أُعْبَدُوا

یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے نوح کو طرف اس کی قوم کی پس کہا اس نے اے قوم میری عبادت کرو

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

اللہ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی خدا سوائے اس کے یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر

عَذَابٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا

عذاب سے دن بڑے کے کہا بڑے آدمیوں نے قوم میں سے اس کی یقیناً

لَنُرِكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۶۱﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي

ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے گمراہی میں کھلی کھلی اس نے کہا اے قوم میری نہیں ہے مجھ میں

ضَلَلَةٌ ۚ لَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۲﴾ أُبَلِّغُكُمْ

گمراہی دیکھیں میں رسول ہوں طرف سے رب العالمین کی پہنچاتا ہوں نہیں

رِسَالَتِ رَبِّي ۚ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا

پیغام اپنے رب کا اور نصیحت کرتا ہوں تمہارے لیے اور میں جانتا ہوں طرف سے اللہ کی جو نہیں

تَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

جانتے تم کیا تعجب کیا تم نے کہ آئی تمہارے پاس نصیحت طرف سے تمہارے رب

عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا ۚ وَلَعَلَّكُمْ

کی بذریعہ ایک آدمی کے تم میں سے تاکہ وہ ڈرائے تم کو اور تاکہ تم متقی بنو اور تاکہ تم

تُرْحَمُونَ ﴿۶۳﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

رحم کئے جاؤں پس تکذیب کی انہوں نے اس کی پس نجات دی ہم نے اُسے اور ان لوگوں کو جو ساتھ تھے اُس

فِي الْفُلِّ وَاعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ

کے کشتی میں اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تکذیب کی تھی ہماری آیات کی یقیناً وہ

كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۶۴﴾ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ

تھے لوگ اندھے اور (بھیجا) طرف عاد کی بھائی ان کا ہود اُس نے کہا

يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا

اے قوم میری عبادت کرو اللہ کی نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اُس کے کیا پس نہیں

تَتَّقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا

تم تقویٰ کرتے کہا بڑے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے یقیناً

لَنُرْسِلَنَّ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۶۶﴾

البتہ دیکھتے ہیں تجھے بیوقوفی میں اور یقیناً ہم البتہ لگان کرتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ

اس نے کہا اے قوم میری نہیں ہے مجھ میں بے وقوفی و لیکن میں رسول ہوں طرف سے رب

الْعَالَمِينَ ﴿۶۷﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَإِنَّا لَنَكْمُنُ بِكُمْ

العالمین کی میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغام اپنے رب کے اور میں تمہارے لیے خیر خواہ

أَمِينٌ ﴿۶۸﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ

آمین ہوں کیا تعجب کیا تم نے کہ آئی تمہارے پاس نصیحت طرف سے تمہارے رب کی بذریعہ ایک شخص کے

مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن

تم میں سے تاکہ وہ ڈرائے تم کو اور یاد کرو جبکہ اس نے بنایا تم کو جانشین

بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَاذْكُرُوا

بعد قوم نوح کے اور بڑھایا تم کو پیدائش میں فراخی کے لحاظ سے پس یاد کرو

الْآءِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۶۹﴾ قَالُوا اجْعَلْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ

نعتیں اللہ کی تاکہ تم کامیاب ہو انہوں نے کہا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس کہ عبادت کریں ہم اللہ

وَحَدَّهٗ وَنَدَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤَنَا فَاَتَيْنَا بِمَا

ایلیے کی اور چھوڑ دیں ہم جس کی تھے عبادت کرتے باپ دادا ہمارے پس لے آہمارے پاس جس کا

تَعْدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۶۱﴾ قَالَ قَدْ وَقَع

تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر ہے تو سچوں میں سے اس نے کہا یقیناً واقع ہوا ہے

عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَّغَضَبٌ اٰتٰجَا وَّلُوْنِيْ فِيْ

تم پر طرف سے تمہارے رب کی عذاب اور غضب کیا تم جھگرتے ہو مجھ سے بارہ میں

اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا

کچھ ناموں کے کہ نام رکھا ہے جن کا تم نے اور باپ دادا نے تمہارے نہیں اتاری اللہ نے جن کی

مِّن سُلْطٰنٍ فَاَنْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿۶۲﴾

کوئی دلیل پس انتظار کرو یقیناً میں ساتھ ہوں تمہارے انتظار کرنے والوں میں سے

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَاۤىِٕرَ

پس نجات دی ہم نے اُسے اور ان لوگوں کو جو ساتھ تھے اسکے بسبب رحمت کے اپنی اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰتِيْنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۳﴾ وَاِلٰى

لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی تھی آیات کی ہماری اور نہ تھے وہ مومن اور طرف

ثَمُوْدَ اِخْتٰهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا

تو مد کے (بھیجا ہم نے) بھائی ان کا صالح اس نے کہا اے قوم میری عبادت کرو اللہ کی نہیں

لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

تمہارے لیے کوئی خدا سوائے اس کے یقیناً آئی ہے تمہارے پاس واضح دلیل طرف سے تمہارے رب کی

هٰذِهِ نٰقَةٌ اِلٰلِهٍ لَكُمْ اَيُّهٗ فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ

یہ اذٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی پس چھوڑو اسے کھائے زمین میں

اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ

اللہ کی اور نہ پہنچاؤ اسے بُرائی ورنہ پھڑے گا تمہیں عذاب

اَلَيْمٌ ﴿۶۴﴾ وَاِذْ كُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ

درنداک اور یاد کرو جبکہ اس نے بنایا تمہیں جانشین بعد عاد کے اور

۱۱۱
۱۱۱
۱۱۱

بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا

جگہ دی تم کو زمین میں بناتے ہو تم میدانوں میں اگے محلات

وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا

اور تراش کر بناتے ہو پہاڑوں کو گھر پس یاد کرو نعمتیں اللہ کی اور نہ

تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

فساد کرو زمین میں مفسدین کر کہا بڑے لوگوں نے جنہوں نے

اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ

تکبر کیا تھا قوم میں سے اسکی ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے گئے تھے (یعنی ان کو جو ایمان لائے

مِنْهُمْ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ صَاحِبَ رَسُولٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا

تھے ان میں سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح رسول ہے طرف سے اپنے رب کی انہوں نے کہا

إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۗ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

یقیناً ہم اس پر کہ وہ بھیجا گیا ہے جس کیساتھ ایمان لائے والے ہیں کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا

إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ۗ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ

ہم اس کے کہ ایمان لائے ہو تم جس پر کافر ہیں پس انہوں نے کو بچیں کاٹ ڈالیں اس اونٹنی کی

عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا

اور سرکشی کی حکم سے اپنے رب کے اور انہوں نے کہا اے صالح لے آہمارے پاس جس کا نوعدہ کرتا ہے ہم سے

إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ

اگر ہے تو رسولوں میں سے پس پکڑا انہیں زلزلہ نے

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ۗ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ

پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں سینوں کے بل گرے ہوئے پھر صالح نے منہ پھیر لیا ان سے اور کہا

يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

اے قوم میری یقیناً پہنچا دیا تھا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا اور نصیحت کی تھی میں نے تم کو

وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۗ وَلَوْ طَإِذْ قَالَ

دیکن نہیں پسند کرتے تم نصیحت کرنے والوں کو اور لوٹو کہو بھیجا ہم نے جبکہ کہا اس نے

لِقَوْمِهِ آتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ

اسے قوم میری کیا کرتے ہو تم وہ بے حیائی کو نہیں پہلے کی تم سے وہ

أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۸۱﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

کسی نے تمام دنیا سے یقیناً تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے

مِنْ دُونَ النِّسَاءِ ۚ بَدَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ ﴿۸۲﴾ وَمَا

پھوڑ کر عورتوں کو بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے اور نہ

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ

تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہا انہوں نے نکال دو انہیں

قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۸۳﴾ فَانجَيْنَاهُ

اپنے گاؤں سے یقیناً یہ لوگ پاک باز بنتے ہیں پس نجات دی ہم نے اُسے اور

أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۸۴﴾ وَأَمْطَرْنَا

گھر والوں کو انکے سوا اُسکی بیوی کے وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے اور برساتی ہم نے

عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۸۵﴾

ان پر بارش (پتھروں کی) پس دیکھ کیونکر ہوا انجام مجرموں کا

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور طرف مدین کی (بیجیا) بھائی اس کا شعیب اس نے کہا اے قوم میری عبادت کرو اللہ کی

مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ

نہیں ہے تمہارے لیے کوئی خدا سوا اُس کے یقیناً آئی ہے تمہارے پاس واضح دلیل طرف سے

رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

تمہارے رب کی پس پورا کرو ماپ اور تول اور نہ کم دو لوگوں کو

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ

چیزیں ان کی اور نہ فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۸۶﴾ وَلَا تَقْعُدُوا

یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے اور نہ بیٹھو

بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

ہر راستہ پر دھمکاتے ہوئے اور روکتے ہوئے راہ سے اللہ کی

مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَخَّوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ

اسے جو ایمان لاتا ہے اس پر اور چاہتے ہو تم اس راہ کو ٹیڑھا اور یاد کرو جبکہ تھے تم

قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ ۚ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

تھوڑے پھر اس نے زیادہ کیا تم کو اور دیکھ کیونکر ہوا انجام

الْمُفْسِدِينَ ۝۸۶ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا

مفسدوں کا اور اگر ہے ایک گروہ تم سے ایمان لایا

بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

اس پر کہ بھیجا گیا ہوں میں جس کے ساتھ اور ایک گروہ نہیں ایمان لایا تو صبر کرو

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝۸۸

یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ درمیان ہمارے اور وہ بہتر ہے تمام فیصلہ کرنے والوں سے



قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ

کہا بڑے لوگوں نے جنہوں نے تمہارے قوم میں اس کی

لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ

کفر ورنہ نکال دیں گے ہم تجھے اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ تیرے

قَرِيْبِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا

اپنے گاؤں سے یا لوٹ آؤ گے تم مذہب میں ہمارے اس نے کہا کیا اگرچہ ہوں ہم

كَارِهِينَ ﴿۹۶﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ

نا پسند کرنے والے یقیناً گھڑ لیا ہم نے اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ آئیں ہم

فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا

مذہب میں تمہارے بعد اس کے کہ نجات دی ہمیں اللہ نے اس سے اور نہیں ہو سکتا ہمارے لیے

أَنْ نَعُوْدَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ

کو لوٹیں ہم اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا گھیر لیا ہے ہمارے رب نے ہر

شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَ

چیز کو علم کی رو سے اللہ پر بھروسہ کیا ہم نے اے رب ہمارے فیصلہ فرما درمیان ہمارے اور

بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ﴿۹۷﴾ وَ

درمیان قوم ہماری کے ساتھ حق کے اور تو بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے اور

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنَّ

کہا بڑے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے البتہ اگر بیروی کی تم نے

شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذْ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹۸﴾ فَآخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ

شعیب کی یقیناً تم تب البتہ گھاٹا پانی والوں میں سے ہو گے پس پکڑا انھیں زلزلے

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِيْنَ ﴿۹۹﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا

پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں سینوں کے بل گرے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی

شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَخْتَوُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا

شعیب کی گویا کہ وہ نہیں تھے ان (گھروں) میں جنہوں نے تکذیب کی شعیب کی

عالمی

عالمی

كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿۹۳﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ

تھے وہ ہی گھانا پانے والے پھر منہ پھیر لیا (شعیب نے) ان سے اور کہا اے قوم میری

لَقَدْ اَبْلَخْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ

یقیناً یقیناً پہنچا دیتے تھے میں نے تمہیں پیغام اپنے رب کے اور نصیحت کی تھی میں نے تمہیں پس کیونکر میں

اِسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿۹۴﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ

غم کھاؤں کفر کرنے والے لوگوں پر اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں

نَبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبِاسِ اِذْ اَنذَرْتَهُمْ لَعْنَتَنَا

نبی مگر پھڑا ہم نے اس کے باشندوں کو ساتھ فقر اور بیماری کے تاکہ وہ

يَضْرَعُوْنَ ﴿۹۵﴾ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

زاری کریں پھر بدل دی ہم نے بجائے بُرائی کے بھلائی

حَتّٰى عَفَوْا وَقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ

یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہا انہوں نے یقیناً پہنچے باپ دادا کو ہمارے دکھ اور شکر

فَاَخَذْنٰهُمْ بِغَتَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۹۶﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ

پس پھڑا ہم نے انہیں اچانک اور وہ نہیں جانتے تھے اور اگر بستیوں

الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاَتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنْ

والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کرتے تو ضرور کھولتے ہم ان پر برکتیں

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا

آسمان سے اور زمین سے لیکن تکذیب کی انہوں نے پس پھڑا ہم نے انہیں بسبب

كَانُوْا يٰ كٰسِبُوْنَ ﴿۹۷﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ

اس کے جو تھے وہ کسب کرتے کیا پس امن میں ہو گئے ہیں بستیوں والے اس سے کہ آئے ان کے پاس

بِاَسْنَابِيۡكَ اَتَاوَهُمْ نٰئِمُوْنَ ﴿۹۸﴾ اَدَا مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى اَنْ

غدا ہمارا رات بسر کرتے جبکہ وہ سو رہے ہوں کیا امن میں ہیں بستیوں والے اس سے

يَّاْتِيَهُمْ بِاَسْنَا ضَحٰى وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۹﴾ اَفَاَمِنُوْا مٰكُرَ

کہ اُسے ان کے پاس عذاب ہمارا چاشت کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں کیا پس وہ مڈر ہو گئے ہیں تدبیر

۱۳۱

اللّٰهُ، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرًا لِلّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۰۰﴾

اللہ کی سونپیں نڈر ہوتے تدبیر سے اللہ کی سوائے گھانا پانے والوں کے

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرْتُوْنَ اِلَّا اَرْضًا مِّنْ بَعْدِ اَهْلِهَا

کیا نہیں ہدایت دی ان لوگوں کو جو وارث ہوتے ہیں زمین کے بعد اسکے رہنے والوں

اِنَّ لَّوْنٰسًا اَصْبَنُهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ، وَنَطْبَعُ عَلٰى

کے کہ اگر ہم چاہیں تو پچھڑیں انہیں بسبب گناہوں کے انکے اور مہر کر دیں ہم

قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ

دلوں پر ان کے پس وہ نہیں سمجھتے یہ وہ بستیاں ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں

عَلَيْكَ مِنْ اَنْبِآئِهَا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

تجھ پر کچھ خبریں جن کی اور یقیناً یقیناً آئے تھے انکے پاس رسول ان کے

بِالْبَيِّنٰتِ، فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ

ساتھ روشن دلائل کے پس نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے اس لیے کہ تکذیب کر چکے تھے وہ

قَبْلُ، كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَمَا

پہلے اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے اور نہیں

وَجَدْنَا لَا اَكْثَرَهُمْ مِّنْ عَهْدٍ، وَاِنْ وَّجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ

پایا ہم نے اکثر کا ان میں سے کوئی عہد اور یقیناً پایا ہے ہم نے اکثر کو ان میں سے

لِفٰسِقِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِآيٰتِنَا

البتہ فاسق پھر مبعوث کیا ہم نے بعد ان (نبیوں) کے موسیٰ کو ساتھ اپنے نشانات

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلٰٓئِئِهِ فَظَلَمُوْا بِهَا، فَاَنْظُرْ كَيْفَ

کے طرف فرعون کی اور اسکے سرداروں کی پس بے انصافی کی انہوں نے ان (نشانات) کیساتھ پس دیکھ کیسا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَقَالَ مُّوْسٰى يٰفِرْعَوْنَ

ہوا انجام مفسدوں کا اور کہا موسیٰ نے اے فرعون

اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۵﴾ حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَا

یقیناً میں رسول ہوں طرف سے رب العالمین کی لائق ہوں کہ نہ

أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن

کہوں میں اللہ پر مگر حق یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل طرف سے

رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۰۶﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ

تمہارے رب کی پس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو اس نے کہا اگر ہے

جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۰۷﴾

تولایا کوئی نشان تو پیش کر اسے اگر ہے تو سچوں میں سے

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۱۰۸﴾ وَنَزَعْنَا مِنَّا

پس پھینکا (موسیٰ نے) اپنا سونٹا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اژدہا ہے کھلا کھلا اور اس نے نکالا (نعل سے) اپنا ہاتھ

فَأِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۰۹﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ

تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سفید ہے دیکھنے والوں کے لیے کہا بڑے لوگوں نے قوم

فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ

فرعون میں سے یقیناً یہ جادوگر ہے خوب علم رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو

مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۱۱۱﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ

زمین سے تمہاری پس کیا مشورہ دیتے ہو کہا انہوں نے ڈھیل دے اسے اور بھائی کو اس کے

وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَيْرِينَ ﴿۱۱۲﴾ يَا تَوَكُّلْ بِكُلِّ سِحْرِ

اور بھیج شہروں میں اچھے کرنے والے لوگ جو لوگوں تیرے پاس ہر ایک جادوگر

عَلَيْهِمْ ﴿۱۱۳﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ

خوب علم رکھنے والے کو اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کہا انہوں نے یقیناً تمہارے لیے البتہ بدلہ ہے اگر

كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۱۱۵﴾

ہوئے ہم غالب اس نے کہا ہاں اور یقیناً تم البتہ (شاہی) مقربوں میں سے ہو گے۔

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ

کہا انہوں نے اے موسیٰ یا تو پھینک یا ہوں ہم ہی

الْمُلْقِينَ ﴿۱۱۶﴾ قَالَ الْقَوْمُ فَلَمَّا آلَقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ

پھینکنے والے اس نے کہا تم پھینکو پس جب انہوں نے پھینکا جادو کیا آنکھوں پر

النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿۱۱۷﴾

لوگوں کی اور ڈرایا انہیں اور وہ لاشے جاوے اور بڑا اور

أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ

وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی کہ پھینک اپنا سونٹا پس اچانک وہ نکلنے لگ گیا

مَا يَأْفِكُونَ ﴿۱۱۸﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۹﴾

وہ جو جھوٹ بناتے تھے پس واقع ہو گیا حقیقی اور باطل ہو گیا جو تھے وہ کرتے

فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَٰخِرِينَ ﴿۱۲۰﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ

پس مغلوب ہو گئے وہ وہاں پر اور لوٹے ذلیل ہو کر اور گرا دیئے گئے جادوگر

سُجُودِينَ ﴿۱۲۱﴾ قَالُوا أَمَّا رَبُّنَا فَالْعَالَمِينَ ﴿۱۲۲﴾ رَبِّ مُوسَىٰ

سجدہ کرتے ہوئے کہا انہوں نے ایمان لائے ہم رب العالمین پر رب پر موسیٰ

وَهَارُونَ ﴿۱۲۳﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ

اور ہارون کے کہا فرعون نے ایمان لائے تم اس پر پہلے اسکے کہ میں اجازت دوں تمہیں

إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا

یقیناً یہ البتہ ایک تدبیر ہے کہ ہے تم نے جسے اس شہر میں تاکہ نکالو تم اس سے

أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۴﴾ لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَ

رہنے والوں کو اسکے پس عنقریب تم جان لو گے البتہ ضرور کاٹوں گا میں ہاتھ تمہارے اور

أَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَا يُضِلُّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۲۵﴾ قَالُوا

اور پاؤں تمہارے بالمقابل سے پھر البتہ ضرور صلیب دوں گا میں تم کو سب کو کہا انہوں نے

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَمَا نَنْقُرُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ أَمَّا

یقیناً ہم طرف اپنے رب کی لوٹنے والے ہیں اور نہیں بڑا ماننا تو ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم

بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ ثَنَاءُ رَبِّنَا فَرَّغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ

آیات پر اپنے رب کی جبکہ وہ آئیں ہمارے پاس اے رب ہمارے انڈیل ہم پر صبر اور

تَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۲۷﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ

وفات دے ہیں مسلمان ہونے کی حالت میں اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں کیا تو چھوڑ دیکھا

مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرِكَ وَ

موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ فساد کریں ملک میں اور چھوڑ دے تجھے اور

إِلَهَتِكَ ۚ قَالَ سَنُقَرِّبُ أَبْنَاءَهُمْ وَأَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ

معبودوں کو تیرے اس نے کہا عنقریب ہم قتل کر دیں گے بیٹوں کو ان کے اور زندہ چھوڑیں گے عورتوں کو ان کی

وَأَنَّا فَوقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۲۸﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا

اور یقیناً ہم ان پر غالب ہیں کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو مدد مانگو

بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَدْيُورُثَهَا مِنْ يَشَاءُ

اللہ سے اور صبر کرو یقیناً زمین اللہ کی ہے وارث کرتا ہے اہل کا جسے چاہے

مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۹﴾ قَالُوا أَوْذَيْنَا

اپنے بندوں میں سے اور انجام متقیوں کے لیے ہے کہا انہوں نے دکھ دینے گئے ہم

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ

پہلے اس کے کہ تو آئے ہمارے پاس اور بعد اس کے کہ تو آیا ہمارے پاس اس نے کہا قریب ہے

رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ

رب تمہارا کہ ہلاک کرے دشمن کو تمہارے اور جانشین بنائے تم کو زمین میں

فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

پھر دیکھے کہ کیسے عمل کرنے ہو تم اور یقیناً یقیناً پھرا ہم نے قوم فرعون کو

بِالسِّنِينَ وَنَقِصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿۱۳۱﴾

تھوڑے اور کمی سے پھلوں سے تاکہ وہ نصیحت پڑھیں

فَإِذَا جَاءَ ثَمَرُ الْحَسَنَةِ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۚ وَإِنِ

پس جب آئی تھی ان کے پاس بھلائی کتنے تھے ہمارے لیے ہے یہ اور اگر

تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا

پہنچتی تھی انہیں بُرائی بدشگونی لیتے تھے ساتھ موسیٰ کے اور ان لوگوں کے جو ساتھ تھے اگلے خبردار سوائے

طَرَفِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾

اگلے نہیں کہ بدشگونی انکی پاس ہے اللہ کے و لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے اور

قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيَتَسَحَّرَنَا بِهَا لَا فَمَا

کہ انہوں نے جو بھی کر لائے گا تو ہمارے پاس یعنی کوئی نشان تاکہ جادو کرے تو ہم پر اس کے ذریعے نہیں ہیں

نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَ

ہم تیرے لیے ایمان لانے والے پس بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور

الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ وَالْدمَّارَاتِ مَفْصَلَتٍ

مڑیاں اور چھوٹیاں اور مینڈک اور خون نشانات جدا جدا

فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مَّجْرِمِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَمَّا وَقَعَ

پس تکبر کیا انہوں نے اور تھے وہ لوگ مجرم اور جب واقع ہوا

عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى آدَمُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَمِدْ

ان پر عذاب کہا انہوں نے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس لیے کہ وعدہ کیا ہے

عِنْدَكَ، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ

اس نے تجھ سے یقیناً اگر دور کیا تو نے ہم سے عذاب البتہ ضرور ایمان لائیں گے ہم تجھ پر اور

لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۳۴﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

البتہ ضرور بھیج دیں گے ہم ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو پس جب دور کیا ہم نے ان سے

الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّمَدَّدٍ هُمْ بِالْعُتُوِّ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿۳۵﴾

عذاب ایک میعاد تک کہ وہ پہنچنے والے تھے جسے جھٹ وہ عہد توڑنے لگے

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا

پس بدل لیا ہم نے ان سے سوزق کر دیا ان کو ہم نے سمندر میں اچھلے کر انہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۳۶﴾ وَأَوْرَثْنَا

تکذیب کی ہماری آیات کی اور تھے وہ ان سے غافل اور وارث کر دیا ہم نے

الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ

ان لوگوں کو جو کہ تھے کمزور سمجھے جاتے مشرقی حصوں کے اس ملک کے

وَمَغَارِ بِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

اور مغربی حصوں کے اس کے برکت دی تھی ہم نے جس (مکان) میں اور پوری ہوئی بات تیرے رب کی

الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا

اچھی حق میں بنی اسرائیل کے اس لیے کہ صبر کیا انہوں نے اور برباد کر دیا ہم نے

مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ ۖ وَ قَوْمَهُ ۖ وَمَا كَانُوا

اُسے کوجو تھا کارروائی کرتا فرعون اور قوم اس کی اور جو تھے وہ

يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۸﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا

تعمیر کرتے اور گزار کر گئے ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے پس وہ آئے

عَلَىٰ قَوْمٍ يَتَّبِعُونَكَ عَلَىٰ أَصْنَائِهِمْ ۖ قَالُوا يَا مُوسَىٰ

ایک قوم پر جو پیٹھے رہتے تھے بتوں پر اپنے انہوں نے کہا اے موسیٰ

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ

بنادے ہمارے لیے ایک معبود جیسا ان کے لیے معبود ہیں اس نے کہا یقیناً تم لوگ

تَجْهَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُوا مَا فِيهِمْ وَبِطُلَّ مَا

جہالت کرتے ہو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہلاک کیا جانو والا ہے وہ کہ یہ لوگ جس میں ہیں اور باطل ہے وہ جو کہ

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۰﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ

ہیں یہ کرتے اُس نے کہا کیا غیر کو اللہ کے چاہوں میں تمہارے لیے معبود حالانکہ اس

فَضَّلَكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

نے فضیلت دی تمہیں تمام دنیا پر اور جب نجات دی ہم نے تم کو قوم فرعون سے

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

وہ پہنچاتے تم کو بُرا عذاب قتل کرتے تھے بیٹوں کو تمہارے اور

يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ

زندہ چھوڑتے تھے عورتوں کو تمہاری اور اس میں آزمائش تھی طرف سے رب کے تمہارے

عَظِيمٌ ﴿۱۴۲﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا

بڑی اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس (۳۰) رات کا اور پورا کیا ہم نے انہیں

بِعَشْرَةِ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ

ساتھ دنس کے پس پورا ہوا وقت مقررہ اس کے رب کا چالیس رات کا اور کہا موسیٰ نے

لَاخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ

اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بن میرا قوم میں میری اور اصلاح کیجیو اور مت پیروی کرنا

سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَ لَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَ

راہ کی فساد کرنے والوں کے اور جب آیا موسیٰ وقت مقررہ پر ہمارے اور

كَلِمَةَ رَبِّهِ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ لَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ

کلام کیا اس سے رب نے اس کے کہا اے رب میرے دکھا مجھے کہ دیکھوں میں طرف تیری فرمایا ہرگز نہیں

تَرِيَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرَا لِي الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

دیکھے گا تو مجھے دیکھن طرف پہاڑ کی پس اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر

فَسَوْفَ تَرِيَنِي ؕ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ

تو ضرور دیکھے گا تو مجھے پس جب تجلی کی اُسے رب نے پہاڑ کے لیے کر دیا اُسے

دَكَاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ؕ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ

مکڑے مکڑے اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر پھر جب ہوش میں آیا کہا پاک ہے تو

تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۴﴾ قَالَ يُمُوسَىٰ إِنَّ

توبہ کی میں نے حضور تیرے اور میں پہلا ہوں مومنوں میں سے فرمایا اے موسیٰ یقیناً میں نے

اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخَذْنَا

چن لیا تجھے لوگوں پر ساتھ اپنے پیغامات کے اور ساتھ اپنے کلام کے پس لے جو

اٰتِيَتِكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَابِ

دیا میں نے تجھے اور ہو جا شکر گزاروں میں سے اور لکھی ہم نے اس کیلئے تختیوں میں

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ؕ فَخَذَهَا

ہر بات کی نصیحت اور تفصیل ہر بات کی پس لے ان تختیوں

بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُوْرِيْكُمْ

کوساتھ مضبوطی کے اور حکم دے اپنی قوم کو عمل کریں وہ بہتر حصہ پر اس کے عنقریب دکھاؤں گا میں تم کو

دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۳۶﴾ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰتِيَتِي الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ

گھر (یعنی انجام) نافرمانوں کا ضرور پھیر دوں گا میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ آيَةً لَا يُؤْمِنُوا

زمین میں بغیر حق کے اور اگر دیکھیں وہ ہر ایک نشان نہ ایمان لائیں گے

بِهَاءٍ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَ

ان پر اور اگر دیکھیں وہ راہ ہدایت کی نہ بنائیں گے اُسے (اپنی) راہ اور

إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

اگر دیکھیں راہ گمراہی کی بنائیں گے اُسے (اپنی) راہ یہ اس لیے ہے کہ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَالَّذِينَ

انہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور تھے وہ ان سے غافل اور وہ لوگ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ

جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی اور ملنے کی آخرت سے گم گئے اعمال ان کے

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ

نہیں وہ بدلہ دیئے جائیں گے مگر اس کا جو تھے وہ عمل کرتے اور بنایا قوم

مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجَلًا ۚ جَسَدًا لَّهُ خَوَارِبٌ

موسیٰ نے بعد اس کے (طور پر جانے کے) اپنے زیوروں سے بھڑا (یعنی صرف) جسم رکھنے کے) جسکی آواز جی کاٹے

الْمَيْرِ ۚ وَأَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ

کی، کیانہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ کلام کرتا ہے ان سے اور نہ ہدایت دیتا ہے انہیں راہ کی

اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظٰلِمِينَ ﴿۱۴۰﴾ ذٰلِكَ مَا سَقَطَ فِي آيِدِيهِمْ

بنایا انہوں نے اسے اور تھے وہ ظالم اور جب وہ نام برتے

وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۚ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

اور دیکھا انہوں نے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے کہا انہوں نے البتہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے

وَيَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَذٰلِكَ رَجَعَهُ مُوسَىٰ

اور نہ بخشا ہمیں تو ضرور ہو جائیں گے ہم گھٹا پانے والوں میں سے اور جب لوٹا موسیٰ

إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي

طرف اپنی قوم کی غصہ میں افسوس کرتا ہوا کہا اس نے کیا ہی بُری جانشینی کی تم نے میری

مَنْ بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَالْقَى الْآلُوفَ ۚ وَ

پیچھے میرے کیا جلدی کی تم نے حکم سے اپنے رب کے اور ڈال دیں اس نے تختیاں اور

أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّرَاتِ الْقَوْمِ

پکڑا سر اپنے بھائی کا کھینچتا تھا اُسے اپنی طرف اس (بھائی) نے کہا اے بیٹے میری ماں کے اس قوم نے

اسْتَضَعَفُونِي ۖ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ

کمزور سمجھا مجھے اور قریب تھے کہ قتل کر دیں مجھے پس نہ ہنسا مجھ پر

الْأَعْدَاءَ ۚ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵۱﴾ قَالَ رَبِّ

دشمنوں کو اور نہ ٹھہرا مجھے ساتھ ظلم کرنے والے لوگوں کے اس نے کہا اے رب میرے

اغْفِرْ لِي ۖ وَلَا أَخِي ۖ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۚ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

بخش دے مجھے اور بھائی کو میرے اور داخل کرہیں اپنی رحمت میں اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے

الرَّحِيمِينَ ﴿۱۵۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُم

تمام رحم کرنے والوں سے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچھڑا عنقریب پہنچے گا انہیں

غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ۚ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَلِكَ

غضب طرف سے رب کی انکے اور ذلت زندگی دہلی میں اور اسی طرح

نَجَزَى الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۵۳﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ

بدل دیتے ہیں ہم افترا کرنے والوں کو اور وہ لوگ کیں جنہوں نے بدیاں پھر

تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا ۚ وَأَمَّنُوا بِرَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ

توبہ کی بعد ان کے اور ایمان لائے یقیناً رب تیرا بعد ان (بدلوں) کے ضرور بہت بخشنے والا

رَّحِيمٌ ﴿۱۵۴﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْآلُوفَ ۚ

بت رحم کرنے والا ہے اور جب ٹھہر گیا موسیٰ سے غصہ لیں اس نے تختیاں

وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ

اور نوشت میں ان (تختیوں) کی ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے

يَرْهَبُونَ ﴿۱۵۵﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا

ڈرتے ہیں اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں ستر (۷۰) آدمی

لَمِيْقَاتِنَاۙ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ

ہمارے وقت مقررہ کے لیے پس جب پکڑا انہیں زلزلہ نے اس نے کہا لے رب میرے اگر

سُئْتُ أَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ۚ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں پہلے سے اور مجھے بھی کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں بسبب اُنکے جو کیا

السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَفْتَنُكَ ۚ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ

بیوقوفوں نے ہم میں سے نہیں یہ مگر آزمائش تیری تو گمراہ کرتا ہے اُنکے ذریعہ جسے چاہتا ہے

وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ إِنَّتَ وَلِيُّنَا ۚ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو دوست ہے ہمارا پس بخش ہمیں اور رحم کر ہم پر

وَإِنَّتَ خَيْرٌ لِّلْغَافِرِينَ ﴿۱۷۱﴾ ۚ وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

اور تو بہتر ہے سب بخشنے والوں سے اور لکھ لے ہمارے لیے اس دنیا میں

حَسَنَةً ۚ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا لِأَيْتِكَ ۚ قَالَ عَذَابِي

بھلائی اور آخرت میں بھی ہم رجوع کرتے ہیں طرف تیری فرمایا عذاب میرا

أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَ

پہنچاؤں گا میں جسے چاہوں گا اور رحمت میری چھا گئی ہے ہر چیز پر

فَسَاكِبُهُمُ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ

پس لکھ لوں گا میں وہ (رحمت) ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور

الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۷۲﴾ ۚ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

وہ لوگ جو آیات پر ہماری ایمان لاتے ہیں وہ جو پیروی کرتے ہیں

الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُحَدِّثُهُمْ مَّا كَتَبُوا

رسول نبی اُمّی کی وہ کہ پاتے ہیں جسے لکھا ہوا

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ رِيًّا ۚ مَرُّهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

اپنے ہاں تورات اور انجیل وہ حکم دیتا ہے انہیں مناسب بات کا

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

اور روکتا ہے انہیں ناپسندیدہ بات سے اور حلال کرتا ہے ان کیلئے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے

عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

ان پر ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کے اور وہ طوق

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ

جو تھے ان پر پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر اور انہوں نے تعظیم کی اسکی

نَصْرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

اور مدد کی اسکی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ساتھ اس کے یہ لوگ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۸﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

ہی کامیاب ہونے والے ہیں تو کہہ دے اے لوگو یقیناً میں رسول ہوں اللہ کا

إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۗ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ

طرف تم سب کی وہ کہ جس کیلئے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اسکے وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ

نبی اُمی پر جو کہ ایمان لاتا ہے اللہ پر اور باتوں پر اسکی اور پیروی کرو اسکی

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۹﴾ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَّهْدُونَ

تا کہ تم ہدایت پاؤ اور قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ (کے لوگ) ہدایت دیتے ہیں

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۶۰﴾ وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ

حق کی اور اس (حق) کیساتھ انصاف کرتے ہیں اور ہم نے جدا جدا بنادیا ان کو بارہ

أَسْبَاطًا مِّمَّا دَاوَّحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ

بزرگوں کے گھاس سے توہیں اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی جب پانی مانگا اس سے

قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ

قوم نے اسکی کہ مار اپنا سونٹا پتھر پر پس پھوٹ نکلے اس سے

اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ وَ

بارہ چشمے یقیناً جان لیا سب آدمیوں نے گھاٹ اپنا اور

۱۵۸

ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ

سایہ کیا ہم نے ان پر اور اُتارا ہم نے ان پر تمق اور سلویٰ

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا

راور کھا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو دیں ہم نے تم کو اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر ولیکن تھے وہ

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۱﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ

اپنی جاؤں پر ہی ظلم کرتے اور جب کہا گیا ان کو رہو اس

الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَ

بستی میں اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو تم اور کہو بخشدے (ہیں) اور

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّخْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ

داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے بخشدیں گے تمہارے لیے غلطیاں تمہاری ضرور بڑھائیں گے

الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۶۲﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا

ہم محسنوں کو پس بدل دی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات

غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ

سوائے اس کے جو کہی گئی تھی انہیں پس بھیجا ہم نے ان پر عذاب

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۳﴾ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ

آسمان سے بسبب اسکے کہ تھے وہ ظلم کرتے اور پوچھ ان سے منعلق بستی کے

الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ

جو تھی کنارہ پر سمندر کے جب وہ زیادتی کرتے تھے سبت میں

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ

جب آتی تھیں ان کے پاس چھپیاں ان کی بروز ان کے سبت کے تیرتی ہوئیں اور جس روز

لَا يَسْبِتُونَ ۖ لَا تَأْتِيهِمْ ۖ كَذٰلِكَ ۖ تَبْلُوهُمْ بِمَا

نہیں وہ سبت کرتے تھے نہیں آتی تھیں ان کے پاس اسی طرح آزماتے تھے ہم انہیں بسبب اسکے

كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۴﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ

کہ تھے وہ نافرمانی کرتے اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کیوں نصیحت کرتے ہو تم

قَوْمًا يَلْبَسُهُمْ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

ایسی قوم کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے انہیں یا عذاب دینے والا ہے انہیں عذاب سخت

قَالُوا مَعذِرَةٌ أَلَىٰ رَبِّكَمْ وَلَعَلَّهُم يَنْتَقُونَ ﴿۱۶۵﴾ فَلَمَّا

انہوں نے کہا عذر کے طور پر طرف تمہارے رب کی اور تاکہ وہ پنج جائیں پس جب

نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ

وہ بھول گئے اُسے کہ نصیحت کئے گئے تھے وہ جسکی نجات دی ہم نے انہیں جو روکتے تھے

السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ

بُرَّئِيٍّ سِوَا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۶﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهَوُّا عَنْهُ

بِسَبَبِ اس كے تھے وہ نافرمانی کرتے پس جب انہوں نے سرکشی کی اس سے کہ روکے گئے تھے جس سے

قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۱۶۷﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ

کہا ہم نے انہیں ہو جاؤ بندر ذلیل اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے

لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ

کہ ضرور وہ مقرر کرے گا ان پر تا روز قیامت جو پہنچائے گا انہیں

سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ

بُرَّاءٌ عَذَابٌ يَقِينًا تَبَارَكَ الَّذِي جَدَّدَ دِينَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۸﴾ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ

بہت بختنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور جدا جدا کر دیا ہم نے انہیں زمین میں قومیں بنا کر بعض ان میں سے

الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ

نیکی میں اور بعض ان میں سے برعکس ہیں اس کے اور آزمایا ہم نے انہیں ساتھ سکھوں

وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۶۹﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ

اور دکھوں کے تاکہ وہ رجوع کریں پس جانشین بنے بعد ان کے

خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ

جانشین وارث ہوئے کتاب کے لیتے ہیں مال اس ورے (جہان) کا

وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ

اور کہتے ہیں ضرور بخشا جائے گا ہمیں اور اگر آئے ان کے پاس مال مانند اس کی

يَأْخُذُوهَا مَا لَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّثْلَاقِ الْكِتَابِ أَنْ لَا

لے لیں گے اُسے کیا نہیں لیا گیا ان سے عہد کتاب میں کہ نہیں

يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارُ

کہیں گے وہ اللہ پر سوائے سچ کے اور پڑھ لیا انہوں نے جو اس میں ہے اور گھر

الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ مَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶۰﴾

پچھلا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں کیا پس نہیں تم عقل کرتے اور

الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا

جو لوگ مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو اور قائم کی انہوں نے نماز یقیناً ہم

لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۶۱﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ

نہیں ضائع کریں گے اجر اصلاح کرنے والوں کا اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ

فَوَقَّعْنَاهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خَذُوا

اوپر ان کے گویا کردہ ساٹھان ہے اور خیال کیا انہوں نے کہ وہ گرنے والا ہے ان پر (ہم نے کہا) پکڑو

مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۶۲﴾

جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بنو

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

اور جب لی تیرے رب نے بنی آدم سے یعنی پیٹھوں سے ان کی اولاد ان کی

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا

اور گواہ کیا انہیں جانوں پر (کہا) کیا نہیں میں رب تمہارا انہوں نے کہا

بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا

کیوں نہیں ہم نے اقرار کیا ایسا نہ ہو کہ کہو تم بروز قیامت کہ ہم تھے

عَنْ هَذَا غَفِيلِينَ ﴿۱۶۳﴾ أَو تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا

اس سے غافل یا کہو تم کہ سوائے اسکے نہیں شرک کیا تھا باپ داوانے ہمارے

مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ؕ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا

پہلے سے اور تھے ہم اولاد بعد ان کے کیسے تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بسبب

فَعَلَّ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۴۳﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ

اس کے جو کیا جھوٹوں نے اور اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں آیات اور تاکہ وہ

يَرْجِعُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَاسْأَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا

رجوع کریں اور پڑھ ان پر خبر اس شخص کی دی تھیں ہم نے جسے اپنی آیات

فَأَنسَلَخْنَا مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۱۴۵﴾

پس وہ نکل گیا ان سے تو پیچھے لگا اس کے شیطان پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْآرِضِ

اگر چاہتے ہم ضرور بلند کرنے اُسے انکے ذریعہ و لیکن وہ جھکا طرف زمین کی

وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِن تَحْمِلْ

اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی پس مثال اس کی مانند مثال گتے کی ہے اگر تو لادے

عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثَ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ

اس پر زبان نکالتا ہے یا چھوڑ دے اُسے زبان نکالتا ہے یہ مثال ان لوگوں کی ہے

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ

جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی پس بیان کر یہ حالات تاکہ وہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۴۶﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

غور کریں بُرے ہیں مثالیں وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی

وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۱۴۷﴾ مَن يَهْدِ اللَّهُ فهُوَ

اور اپنی جان پر وہ تھے ظلم کرتے جسے ہدایت دے اللہ پس وہ

الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۴۸﴾

ہدایت پانے والا ہے اور جسے گمراہ کرے اللہ تو یہ لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ

اور یقیناً یقیناً پیدا کئے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انس

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ

ان کے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے جن سے اور ان کی آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے جن سے

بِهَا، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ

اور ان کے کان ہیں کہ نہیں سنتے جن سے یہ لوگ مانند چار پاؤں کے ہیں

بَلْ هُمْ آصْفَاءُ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَيَلَهُ الْأَسْمَاءُ

بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں یہ لوگ ہی غافل ہیں اور اللہ کے نام ہیں

الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي

اچھے پس پکارو اسے ان ناموں سے اور چھوڑ دے ان لوگوں کو جو کج روی اختیار کرتے ہیں

أَسْمَائِهِ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸۱﴾ وَمِمَّنْ

ناموں میں اس کے ضرور بدل دیئے جائیں گے وہ اس کا جو تھے وہ کرتے اور ان لوگوں میں

خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸۲﴾ وَالَّذِينَ

جسے جنہیں پیدا کیا ہم نے ایک گروہ ہدایت دیتے ہیں حق کی اور اسی (حق) کیساتھ انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۳﴾

تکذیب کی ہماری آیات کی ضرور بتدریج کیجیں گے ہم انہیں جہاں سے نہیں جانتے وہ

وَأُمِّي لَهُمْ بَرَاتٌ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۱۸۴﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَنَّهُمْ

اور ملت دیتا ہوں انہیں یقیناً تدبیر میری مضبوط ہے کیا نہیں غور کیا انہوں نے نہیں ہے

بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۸۵﴾ أَوَلَمْ

ساتھی کو ان کے کوئی جنوں نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا کھلا کھلا کیا نہیں

يَنْظُرُونَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ

نظر کی انہوں نے بادشاہی میں آسمانوں کی اور زمین کی اور اس میں کہ پیدا کیا اللہ نے

مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَآنَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ

جو کچھ اور یہ کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ نزدیک آگئی ہو ميعاد ان کی

فِي آيٍ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۶﴾ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا

پس کس بات پر بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے جسے گمراہ کرے اللہ تو نہیں کوئی

هَادِي لَهُ وَيَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۷﴾

ہدایت دینے والا اُسے اور وہ چھوڑ دیکھا انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکیں گے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا قُلْ إِنَّمَا

پوچھتے ہیں تجھ سے متعلق قیامت کے کب ہے قیام اس کا تو کہے صرف

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي

علم اس کا پاس ہے میرے رب کے، نہیں ظاہر کرے گا اسے وقت پر اس کے مگر وہی بھاری ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ

آسمانوں اور زمین میں نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک وہ پوچھتے ہیں تجھ سے

كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ

گویا کہ تو کرید کرید کر پوچھنے والا ہے اسے متعلق، تو کہے کہ صرف اس کا علم اللہ کو ہے لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا

اکثر لوگ نہیں جانتے تو کہے نہیں طاقت رکھتا میں اپنی جان کیلئے نفع کی

وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

اور نہ نقصان کی مگر جس قدر چاہے اللہ اور اگر ہوتا میں جانتا غیب کو

لَا شَتَكَثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا

البتہ بہت لے لیتا میں بھلائی اور نہ پہنچتی مجھے تکلیف نہیں میں

إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۹﴾ هُوَ الَّذِي

مگر ڈرانے والا (کافروں کو) اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں وہی ہے جس نے

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

پیدا کیا تم کو شخص واحد سے اور بنائی اس نے اس کی (نسل) سے بیوی اس کی

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا

تاکہ وہ آرام پکڑے طرف اسکی پس جب اس نے ڈھانکا حمل ہوا اسے حمل ہلکا سا

فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن

پس وہ چلتی پھرتی رہی ساتھ اس کے، پھر جب بوجھل ہو گئی دعا مانگی دونوں نے اللہ رب سے اپنے کہ البتہ اگر

دفعہ منزل

۱۸۷

اَتَيْتَنَّا صَالِحًا لَّئِن كُنْتُمْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿١٩٠﴾ فَلَمَّا

تو نے دیا ہم کو صحیح سلامت (بچہ) تو ضرور ہوں گے ہم۔ شکر گزاروں میں سے پس جب

اَتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اٰتَاهُمَا

دیبا اُس نے ان دونوں کو صحیح سلامت (بچہ) ٹھہرائے انہوں نے اس (اللہ) کے شریک اس (بچہ) میں جو اس نے دیا تھا انہیں

فَتَعَلَّى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩١﴾ اَيُّشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ

پس بلند ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں کیا وہ شریک بناتے ہیں جو نہیں پیدا کرتا

شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلِقُوْنَ ﴿١٩٢﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ

کچھ بھی اور وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں اور نہیں وہ طاقت رکھتے ان کے لیے مدد کی اور

لَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٣﴾ وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدٰى

نہ اپنی جانوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم بلاؤ انہیں طرت ہدایت کی

لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سِوَآءَ عَلٰىكُمْ اَدْعُوْتُمْوَهُمْ اَمْ اَنْتُمْ

نہیں پیروی کریں گے تمہاری برابر ہے تم پر کہ بلایا تم نے ان کو یا تم

صٰمِتُوْنَ ﴿١٩٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ

چپ رہو یقیناً وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے بندے ہیں

اَمْثَالِكُمْ فَاذْعُوْهُمْ فَلَيْسَتْ جِبُو الْكُفْرٰنِ كُنْتُمْ

مانند تمہاری پس پکارو انہیں تو چاہیے کہ وہ جواب دیں نہیں اگر ہو تم

صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٥﴾ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا زَاْمٌ لَهُمْ اَيْدٍ

سچے کیا ان کے پیر ہیں کہ چلتے ہیں جن سے یا ان کے ہاتھ ہیں

يَبْطِشُوْنَ بِهَا زَاْمٌ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَا زَاْمٌ

کہ پکڑتے ہیں جن سے یا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھتے ہیں جن سے یا

لَهُمْ اَاْذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا قُلْ اذْعُوْا شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ

ان کے کان ہیں کہ سنتے ہیں ان سے تو کہو اپنے شریکوں کو پھر

كَيْدُوْنَ فَلَا تُنْظِرُوْنَ ﴿١٩٦﴾ اِنَّ وَّلِيَّ يِ اللّٰهِ الَّذِي نَزَّلَ

جنگ کرو مجھ سے پس نہ مہلت دو مجھے یقیناً دوست میرا اللہ ہے وہ جس نے اتاری

الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۷﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ

یہ کتاب اور وہ دوست رکھتا ہے نیکوں کو اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو

مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ

سوائے اس کے نہیں وہ طاقت رکھتے مدد کی تمہاری اور نہ اپنی جانوں کی

يَنْصُرُونَ ﴿۱۹۸﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا

وہ مدد رکھتے ہیں اور اگر تو پکارے انہیں طرف ہدایت کی نہیں سنتے

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۹۹﴾ خُذْ

اور تو دیکھتا ہے انہیں کو نظر کرتے ہیں طرف تیری حالانکہ وہ نہیں دیکھتے تھے اختیار کر

الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۲۰۰﴾ وَ

درگزر اور علم دے مناسب بات کا اور اعراض کر جاہلوں سے اور

إِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

اگر دوسرا آئے تجھے طرف سے شیطان کی کوئی دوسرا تو پناہ مانگ اللہ کی

إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۰۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ

یقیناً وہ خوب سنتے والا خوب جاننے والا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا جب چھوٹا ہے انہیں

طِغْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۰۲﴾

کوئی خیال طرف سے شیطان کی تو یاد کرتے ہیں پس اچانک وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿۲۰۳﴾ وَ

اور بھائی ان (شیطانوں) کے بڑھاتے ہیں انہیں گمراہی میں پھر نہیں کمی کرتے اور

إِذَا الْمَتَأْتِيهِمْ بَايَةٌ قَالُوا وَالْوَالُوهُ لَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا

جب نہیں لاتا تو ان کے پاس کوئی نشان کہتے ہیں کیوں نہیں چن کر لایا تو اس (نشان) کو تو کہے صرف

اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ

پیروی کرتا ہوں میں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے طرف میری طرف سے میرے رب کی یہ دلائل ہیں طرف سے رب تمہارے کے اور

هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰۴﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں اور جب پڑھا جائے قرآن

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۵﴾ وَاذْكُرْ

پس کان دھرو اس کے لیے اور چپ رہو تاکہ تم رحم کئے جاؤ اور یاد کرو

رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ

اپنے رب کو اپنے دل میں رگڑ رگڑا کر اور ڈر کر اور کم بلند

الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ ﴿۲۶﴾

بات سے صبح اور شام اور نہ ہو غافلوں میں سے

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

یقیناً جو لوگ پاس ہیں رب کے تیرے نہیں تکبر کرتے عبادت سے اس کی

وَيَسْبِحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿۲۷﴾

اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(پس پڑھا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ

پوچھتے ہیں تجھ سے متعلق غنیمتوں کے تو کہے غنیمتیں اللہ اور رسول کیلئے ہیں

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَ

پس ڈرو اللہ سے اور اصلاح کرو آپس میں اور اطاعت کرو اللہ کی اور

رَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

رسول کی اس کے اگر ہو تم مومن سوائے اس کے نہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ

اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

جب ذکر کیا جائے اللہ کا ڈر جاتے ہیں دل ان کے اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر

اَيْتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۳﴾ الَّذِينَ

آیات اس کی وہ بڑھا دیتی ہیں انہیں ایمان میں اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں وہ جو کہ

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۴﴾ اُولَٰئِكَ

قائم کرتے ہیں نماز اور اس سے جو دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں یہ لوگ ہی

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ

مومن ہیں چنے ان کے لیے درجے ہیں پاس رب کے ان کے اور

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۵﴾ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ

بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا جیسا کہ نکالا تجھے تیرے رب نے گھر سے تیرے

بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرْهُوْنَ ﴿۶﴾

ساتھ حق کے اور یقیناً ایک فریق مومنوں میں سے البتہ ناپسند کرنے والے تھے

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاْتَمًا يَسْأَلُوْنَ

جھگڑتے تھے تجھ سے بارہ میں حق کے بعد اس کے کہ وہ کھل چکا تھا گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں

اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿۷﴾ وَاِذْ يَعِدُّكُمْ اللّٰهُ اِحْدَى

طرف موت کی اور وہ دیکھتے ہیں اور جب وعدہ کرتا تھا تم سے اللہ ایک کا

الطَّائِفَتَيْنِ اَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنْ غَيْرِ ذٰلِكَ

دو جماعتوں میں سے کہ وہ ہے تمہارے لیے اور تم چاہتے تھے کہ نہ

الشُّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ

شوکت والی (فوج) ہو تمہارے لیے اور چاہتا تھا اللہ کہ حق کر دکھائے حق کو

بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ

ساتھ اپنی باتوں کے اور کاٹ دے جڑ کافروں کی تاکہ حق کر دکھائے حق کو اور

يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۹﴾ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ

باطل کر دکھائے باطل کو اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم جبکہ فریاد کرتے تھے تم

رَبِّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ اِنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِالْفِئْتَيْنِ

اپنے رب سے پس اس نے قبول کی (دعا) تمہارے لیے کہ میں مدد کر دوں اللہ ہوں تمہاری ساتھ ہزار

اپنے رب سے پس اس نے قبول کی (دعا) تمہارے لیے کہ میں مدد کر دوں اللہ ہوں تمہاری ساتھ ہزار

الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۱۱ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَ

فرشتوں آگے پیچھے آنے والوں کے اور نہیں بنایا تھا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری اور

لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

تاکہ مطمئن ہوں ساتھ اے دل تمہارے اور نہیں مدد مگر پاس سے اللہ کے

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۱۲ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً

یقیناً اللہ عزت والا حکمت والا ہے جبکہ وہ ڈھانکتا تھا تم پر اونگھ کو بطور امن کے

مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرًا بِهِ وَ

طرف سے اپنی اور اتارتا تھا تم پر بادل سے پانی تاکہ پاک کرے تم کو اس کے ذریعہ اور

يُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ

دور کرے تم سے تکلیف شیطان کی اور تاکہ مضبوطی ڈالے دلوں پر تمہارے

وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۱۳ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ

اور ثبات کرے اسکے ذریعہ (تمہارے) قدموں کو جبکہ وحی کرتا تھا رب تیرا طرف فرشتوں کی

أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ

یقیناً میں ساتھ ہوں تمہارے پس مضبوط رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ضرور ڈالوں گا میں دلوں میں

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَ

ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا رعب پس مارو اوپر گردنوں کے اور

اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۱۴ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ

مارو ان کے ہر پورے پر (اور) یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی

وَدَسَّوْا لَهُ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ

اور رسول کی اسکے اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور رسول کی اس کے تو یقیناً اللہ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۱۵ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوا وَآتَىٰ لِلْكَافِرِينَ

سخت دینے والا ہے سزا یہ ہے پس چکھو اسے اور یقیناً کافروں کے لیے

عَذَابٍ نَّارٍ ۱۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ

عذاب ہے آگ کا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب ملو تم

الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ آخِذًا بَارًا ۝۱۷ وَمَنْ

لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا شکر باندھ کر تو نہ پھرو ان سے پیٹھیں اور جو

يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ بُرَّةٌ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا

پھیرے گا انہی طرف اس وقت پیٹھ اپنی سوائے ہنر کرنے والوں کے جنگ کا یا پڑنے والے کے

إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهْ جَهَنَّمُ

طرف کسی جماعت کے تو یقیناً وہ لوٹا ساتھ غضب کے اللہ کے اور ٹھکانا اس کا جہنم ہے

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۸ قَلِمَ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

اور کیا ہی بُرا ہے وہ ٹھکانا پس نہیں قتل کیا تم نے انہیں لیکن اللہ نے قتل کیا انہیں

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبَيِّنَ

اور نہیں پھینکا تو نے (کنکروں کو) جبکہ پھینکا تو نے لیکن اللہ نے پھینکا اور تاکہ وہ عطا کرے

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

مومنوں کو طرف سے اپنی انعام اچھا یقیناً اللہ خوب سنتے والا

عَلِيمٌ ۝۱۹ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝۱۹

خوب جاننے والا ہے۔ بات یہی ہے اور یقیناً اللہ کمزور کرنے والا ہے تدبیر کافروں کی

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَإِن تَنْتَهُوا

اگر فتح چاہتے ہو تم تو یقیناً آئی ہے تمہارے پاس فتح اور اگر بلا جاؤ تو

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ

یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور اگر لوٹو تم تو ہم بھی لوٹیں گے اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہارے

فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲۰

جماعت تمہاری کچھ بھی اور اگرچہ زیادہ ہو اور یقیناً اللہ ساتھ ہے مومنوں کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اس کے اور مت پھرو

عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝۲۱ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا

اس سے اور تم سنتے ہو اور نہ ہو مانند ان لوگوں کے جنہوں نے کہا

سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۲﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ
سناہم نے حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً بدتر سب جانوروں سے نزدیک

اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۳﴾ وَلَوْ عَلِمَ
اللہ کے برے گونگے ہیں وہ جو کہ نہیں عقل کرتے اور اگر جانتا

اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا سَمِعَهُمْ وَلَا أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا
اللہ ان میں کوئی بھلائی تو ضرور سنوادیتا انہیں اور اگر اب انہیں تو ضرور پھر جائیں

وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۲۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا
اور وہ اعراض کرنے والے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بات مانو

لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللہ کی اور رسول کی جب کہ وہ بلائے نہیں اس بات کیلئے جو زندہ کرے تم کو اور جان لو کہ

اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ يُحْشِرُونَ ﴿۲۵﴾
اللہ حائل ہوجاتا ہے درمیان آدمی اور دل کے اس کے اور بات یہ ہے کہ طرف اس کی تم اکٹھے کئے جاؤ گے

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ
اور ڈرو اس فتنہ سے کہ نہیں پہنچے گا ہرگز ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے

خَاصَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۶﴾ وَاذْكُرُوا
صرف اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت ہے سزا دینے میں اور یاد کرو

إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
جب تم تھوڑے تھے کمزور سمجھے جاتے تھے ملک میں تم ڈرتے تھے

أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَضْرِهِ وَ
کہ ایک میں گے تم کو لوگ پس بگدی اس نے تم کو اور مدد کی تمہاری ساتھ اپنی مدد کے اور

رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
دیں تم کو پاک چیزیں تاکہ تم شکر کرو اے لوگو جو

آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَ
ایمان لائے ہو نہ خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی اسکے اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں کی اور

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَالَكُمْ دَاوِلَادُكُمْ

تم جانتے ہو اور جان لو کہ مال تمہارے اور اولاد تمہاری

فِتْنَةٌ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۹﴾ يَا أَيُّهَا

آزمائش میں اور یقیناً اللہ وہ ہے کہ پاس اس کے اجر ہے بڑا اے

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

لوگو جو ایمان لائے ہو اگر ڈرو تم اللہ سے وہ بنا دے گا تمہارے لیے امتیاز تم میں اور تمہارے

وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

غیر میں اور دُور کر دیکھا تم سے بدیاں تمہاری اور بخش دے گا تمہیں اور اللہ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۰﴾ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ

بڑے فضل والا ہے اور جب تدبیر کرتے تھے تیرے متعلق وہ لوگ جنہوں نے

كَفَرُوا أَلَيْسَ لَكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۗ وَ

کفر کیا کہ قید کریں تھے یا قتل کریں تھے یا نکال دیں تھے اور

يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿۳۱﴾

وہ تدبیر کرتے تھے اور تدبیر کرتا تھا اللہ (بھی) اور اللہ بہتر ہے سب تدبیر کرنے والوں سے

وَإِذَا نَتَلْتَمَسُ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ

اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری کہتے ہیں یقیناً سن میں ہم نے اگر

نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ

ہم چاہیں تو کہیں ہم مانند اس کی نہیں ہے یہ مگر کہانیاں

الْأَوَّلِينَ ﴿۳۲﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا

پہلوں کی اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہے یہ

هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا

ہی حقی (دین) پاس سے تیرے تو برسنا ہم پر پتھر

مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۳﴾ وَمَا كَانَ

آسمان سے یا لہہمارے پاس کوئی عذاب دردناک اور نہیں ہے

اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ

اللہ کہ عذاب دے انہیں جبکہ تو ان میں ہو اور نہیں ہے اللہ

مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ

عذاب دینے والا انہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں اور کیا ہے ان کیلئے کہ نہ عذاب دے انہیں

اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا

اللہ حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے اور نہیں

كَانُوا أَوْلِيَاءَ لَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُ لَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ

ہیں وہ حقیقی متولی اس کے نہیں حقیقی متولی اس کے سوائے متقیوں کے لیکن

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ

اکثر ان کے نہیں جانتے اور نہیں ہے نماز ان کی پاس

الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَضْيَعَةٌ فَذُقُوا الْعَذَابَ

خانہ کعبہ کے سوائے سیٹی بجانے اور تالی بیٹنے کے پس پھو عذاب

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ

بسب اسلئے کہ تم تم کفر کرتے یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں

أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا

اپنے مال تاکہ روکیں راہ سے اللہ کی پس ضرور خرچ کریں گے ان (مالوں) کو

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ

پھر (یہ مال) ہونگے ان پر حسرت پھر وہ مغلوب کئے جائیں گے اور جن لوگوں نے

كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿۳۶﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ

کفر کیا طرف جہنم کی اکٹھے کئے جائیں گے تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو

مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ

پاک سے اور رکھ دے خبیث کو اس کے بعض کو بعض پر

فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ

پھر ڈھیر کر دے اُسے سب کو پھر کر دے اُسے جہنم میں یہ لوگ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَنْتَهُوْا

ہی نقصان پائیوالے ہیں تو گدے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آجائیں

يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْذُوْا فَقَدْ مَضَتْ

بخش دیا جائیگا ان کو جو پہلے ہو چکا اور اگر وہ لوہیں گے تو یقیناً گزر چکی ہے

سُنَّتُ الْاَدْوٰلِيْنَ ﴿۳۹﴾ وَاَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ

سنت پہلوں کی اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ ہو

فِئْتَنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اَنْتُمْ وَاٰتِيَا

فساد اور ہو جائے دین سب کا سب اللہ کیلئے پھر اگر وہ باز آجائیں تو یقیناً

اَللّٰهُ بِمَا يَعْْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا

اللہ اسے جو وہ کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے اور اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ

اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ نَعَمَ الْمَوْلٰى وَنَعَمَ النَّصِيْرُ ﴿۴۱﴾

یقیناً اللہ دوست ہے تمہارا کیا ہی اچھا ہے دوست اور کیا ہی اچھا ہے مددگار



وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

اور جان لو کہ جو غنیمت پاؤ تم کوئی چیز بھی یقیناً اللہ کیلئے ہے پانچواں حصہ اسکا

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ

اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتامی اور مسکین اور

ابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا

مسافر کے لیے اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا ہم نے

عَلَّ عِبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِينَ وَ

اپنے بندہ پر بروز فیصلہ کے جس روز کرتے تھے دوستر اور

اللَّهُ عَلَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۳﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا

اللہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے جبکہ تم کنارے ورے پر تھے

وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَ

اور وہ کنارے پر سے اور قافلہ نیچے تھا تم سے اور

لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيثَاقِ ۚ وَلَكِن لَّيَقْضِي

اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور اختلاف کرتے تم مقررہ وقت میں دیکھیں تاکہ فیصلہ کرے

اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَّيْهَلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ

اللہ اس معاملہ کا جو تھا کیا جانے والا تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہوا دلیل کے ساتھ

وَيَحْيِي مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾

اور زندہ رہے جو زندہ رہا دلیل کے ساتھ اور یقیناً اللہ بخوبی سننے والا خوب جاننے والا ہے

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا ۚ وَلَوْ أَرَادَكُمُ

جبکہ دکھاتا تھا تجھے وہ لوگ اللہ خواب میں تیری تھوڑے اور اگر دکھاتا تجھے وہ لوگ

كَثِيرًا لَّفَشَلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ ۚ لَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ

بت سے تو ضرور پھسل جاتے تم اور ضرور آپس میں جھگڑتے تم معاملہ جنگ میں دیکھیں اللہ نے بچا لیا

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۵﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ

یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے سیزوں کی بات کو اور جب دکھاتا تھا تمہیں وہ لوگ جبکہ

التَّقِيْمُ فِيْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْ اَعْيُنِهِمْ

تم نے تمہاری نظروں میں تمہاری نظروں سے اور تمہارے دکھانا تھا تم کو نظروں میں انہی

لِيَقْضِيَ اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۗ وَاِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۳۵﴾

تاکہ فیصلہ کر دے اللہ معاملہ کا جو تھا کیا جانے والا اور طرف اللہ لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا الْقِيَمَةُ فَاثْبُتُوْا وَاِذَا كُرُوْا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب ملو تم کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور یاد کرو

الله كَثِيْرًا لِّلْعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَاَطِيعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ

اللہ کو بہت تاکہ تم کامیاب ہو اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اس کے

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۗ اِنَّ

اور نہ آپس میں جھگڑو ورنہ پھسل جاؤ گے اور جاتی رہے گی ہوا تمہاری اور صبر کرو یقیناً

الله مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَبُوْا مِنْ

اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اور نہ ہو مانند ان لوگوں کے جو نکلے اپنے

دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَّ رِثَاءَ النَّٰسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللهِ

گھروں سے فخر کے طور پر اور دکھانے کیلئے لوگوں کے اور روکتے ہیں راہ سے اللہ کی

وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۳۸﴾ وَاِذْ زَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطٰنُ

اور اللہ اس پر جو وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے اور جبکہ خوبصورت کیے ان کیلئے شیطان نے

اَعْمٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غٰلِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ

اعمال ان کے اور کہا نہیں کوئی غالب تم پر آج ان لوگوں میں سے اور یقیناً

جَارٌ لَّكُمْ ۗ فَلَمَّا تَرٰ اَتَاتِ الْفِئْتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقْبَيْهِ وَقَالَ

میں حمایتی ہوں تمہارا پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا دو جماعتوں نے تو وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل اور کہا

اِنِّيْ بَرِيٌّ مِّنْكُمْ اِنِّيْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْ اَخَافُ اللهَ

یقیناً میں بیزار ہوں تم سے یقیناً میں دیکھتا ہوں جو نہیں دیکھتے تم یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے

وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۳۹﴾ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ

اور اللہ سخت ہے سزا دینے میں جبکہ کہتے تھے منافق اور وہ لوگ کہ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهُوا لِأَعْيُنِهِمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

دلوں میں جن کے بیماری تھی کہ دھوکا میں ڈالا ان (مسلمان) لوگوں کو دین نے ان کے حالانکہ جو بھروسہ رکھے

عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۵۱ وَكَوْتَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى

اللہ پر تو یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے اور کاش دیکھے تو جبکہ وفات دین گے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهَهُمْ دَا

ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فرشتے وہ ماریں گے چہروں پر ان کے اور

أَدْبَارَهُمْ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۵۲ ذٰلِكَ بِمَا

پیشوں پر ان کی اور رکھیں گے پکھو عذاب جلنے کا یہ سبب اسکے ہے

قَدَّمْتُمْ آيِدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۵۳

جو آگے بھیجا ہاتھوں نے تمہارے اور یقیناً اللہ نہیں ہے ہرگز ظالم بندوں پر

كَذٰبِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيٰتِ

(ان کا دستور ہے) مانند دستور فرعونوں کے اور ان لوگوں کے جو پہلے تھے ان سے انہوں نے کفر کیا آیات کا

اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدٌ

اللہ کی پس پکڑا انہیں اللہ نے سبب گناہوں کے ان کے یقیناً اللہ قوت والا اور سخت ہے

الْعِقَابِ ۝۵۴ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا

مزا دینے میں یہ اس لیے ہے کہ اللہ نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو جو انعام کی اس

عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَالَّذِينَ سَمِعُوا

نے کسی قوم پر یہاں تک بدل دیں وہ اسے جو دلوں میں ہو ان کے اور یقیناً اللہ خوب سننے والا

عَلَيْهِمْ ۝۵۵ كَذٰبِ اِلٰ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

خوب جاننے والا ہے مانند دستور فرعونوں کے اور ان لوگوں کے جو پہلے تھے ان سے

كَذَّبُوا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَعْرَقْنَا

تکذیب کی انہوں نے آیات کی اپنے رب کی پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو سبب گناہوں کے ان کے اور غرق کر دیا ہم نے

اِلٰ فِرْعَوْنَ ۙ وَكُلُّ كٰنُ وَاظِلِّمِيْنَ ۝۵۶ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ

فرعونوں کو اور سب کے سب تھے ظالم یقیناً بدتر تمام جانداروں سے

عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۷﴾ الَّذِينَ

نزدیک اللہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ نہ ایمان لائیں گے یعنی وہ لوگ

عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿۵۸﴾ فَمَا تَتَّقِفْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ

کہ عہد کیا تو نے ان سے پھر وہ توڑتے ہیں عہد ہر دفعہ اور

وہ نہیں تقویٰ کرتے پس اگر پاوے انہیں لڑائی میں تو بھگا دے

بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۵۹﴾ وَإِنَّمَا تَخَافَنَ

ان کے ذریعہ ان لوگوں کو جو پیچھے ہیں ان کے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اگر خوف ہو تھے

مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ اللَّهَ

طرف سے کسی قوم کی خیانت کا تو پھینک دے (عہد) ان کا طرف انہی برابری پر یقیناً اللہ

لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿۶۰﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

سَبَقُوا إِذْ هُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿۶۱﴾ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ

سبقت سے گئے یقیناً وہ نہیں عاجز کریں گے اور تیار کرو ان کے لیے جتنی طاقت رکھو تم

مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

مضبوطی سے اور گھوڑے بانڈھنے سے ڈراؤ گے تم اے ذریعہ دشمن کو اللہ کے

وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَجْنَا مِنْ دُونِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۶۲﴾

اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو سوائے ان کے نہیں جانتے تم انہیں

اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اللہ جانتا ہے انہیں اور جو خرچ کرو تم کوئی چیز بھی راہ میں اللہ کی

يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَإِنَّكُمْ لَتُظْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ وَإِن جَانَحُوا

پورا پورا دیا جائیگا اس کا اجر طرف تمہاری اور تم نہیں ظلم کئے جاؤ گے اور اگر وہ جھکیں

لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

صلح کے لیے تو توجہ جھک جا اس کیلئے اور بھروسہ کر اللہ پر یقیناً وہی خوب سنے والا

۵۷

الْعَلِيمُ ﴿۶۲﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ

توب جاننے والا ہے اور اگر وہ (لوگ) ارادہ کریں کہ دھوکا دیں تجھ کو تو یقیناً کافی ہے تجھ کو

اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۳﴾ وَاللَّفَّ

اللہ وہ جس نے تائید کی تیری ساتھ اپنی مدد کے اور ساتھ مومنوں کے اور اُلفت ڈال

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا

درمیان ان کے دلوں کے اگر خرچ کرتا تو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب نہ

الْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ

الفت ڈال سکتا درمیان دلوں کے ان کے دیکھ لیکن اللہ نے الفت ڈالی درمیان ان کے یقیناً وہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۴﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ

غالب اور حکمت والا ہے اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ اور لاکھوں جنوں نے پیروی کی تیری

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۵﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

مومنوں میں سے اے نبی ترغیب دے مومنوں کو

عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ

لڑائی کی اگر ہوں گے تم میں سے بیس صبر کرنے والے

يَغْلِبُوا مَا تَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا

وہ غالب آئیں گے دوسو پر اور اگر ہوں گے تم میں ایک سو وہ غالب آئیں گے

الْفَائِزِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۶۶﴾

ایک ہزار پر ان لوگوں میں سے جنوں نے کفر کیا کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے

أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ

اب تخفیف کر دی اللہ نے تم سے اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے پس اگر

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَا تَتَيْنِ ۚ وَ

ہوں گے تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے وہ غالب آئیں گے دوسو پر اور

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَ

اگر ہوں گے تم میں سے ایک ہزار غالب آئیں گے وہ دو ہزار پر اللہ کے حکم سے اور

اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۶۷﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ

اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے نہیں ہے شایان کسی نبی کے کہ ہوں اس کیلئے

أَسْرَى حَتَّى يَتُخَنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تَرِيدُونَ عَرَضَ

قیدی یہاں تک کہ خوب خون بہائے زمین میں تم چاہتے ہو اسباب

الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۸﴾

دُنیا کا اور اللہ چاہتا ہے آخرت کو اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے

لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ

اگر نہ ہوتا کھا ہوا اللہ کی طرف سے جو گزر چکا ہے (جو ضرور پہنچتا تم کو اس میں جو) یا تم نے عذاب

عَظِيمٌ ﴿۶۹﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

بڑا پس کھاؤ اس سے جو غنیمت حاصل کیا تم نے حلال طیب اور تقویٰ کرو اللہ کا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷۰﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي

یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی تو کہہ دے ان لوگوں کو جو

أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى ۚ وَإِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا

تمہارے ہاتھوں میں ہیں قیدیوں میں سے اگر جانے گا اللہ دلوں میں تمہارے بھلائی

يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

تو دیکھا نہیں بہتر اس سے جو لے گا تم سے اور بخش دے گا تم کو اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷۱﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا

بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور اگر وہ ارادہ کریں خیانت کا تیری تو یقیناً خیانت کی انہوں نے

اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمَّا كُنْ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۷۲﴾

اللہ کی پہلے پس اس نے قابو پایا ان پر اور اللہ خوب جاننے والا ہے حکمت والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآجَرُوا وَآبَاؤُهُمْ وَ

یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے اور

أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ

اپنی جانوں کے راہ میں اللہ کی اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی یہ وہ لوگ ہیں کہ

۵

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا

بعض ان کے دوست ہیں بعض کے اور جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ہجرت کی

مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِيهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا ۚ وَ

نہیں ہے تمہارے لیے ذمہ داری ان کی کچھ بھی یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور

إِنِ اسْتَنصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ

اگر مدد مانگیں وہ تم سے دین میں تو لازم ہے تم پر مدد دینا سوائے مقابلہ

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

میں ایسی قوم کے کہ درمیان تمہارے اور درمیان ان کے عہد ہے اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو

بَصِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَظْمِ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ ۚ لَّا تَفْعَلُوهُ

خوب دیکھنے والا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا بعض ان کے دوست ہیں بعض کے اگر نہ تم کرو یہ

تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ۚ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا

ہوگا فتنہ زمین میں اور فساد بڑا اور جو لوگ ایمان لائے اور

هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَاوْا وَنَصَرُوا

ہجرت کی اور جہاد کیا راہ میں اللہ کی اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

یہ لوگ ہی مومن ہیں سچے ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے

كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا

عزت والا اور جو لوگ ایمان لائے بعد میں اور ہجرت کی اور جہاد کیا

مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

ساتھ دل کر تمہارے تو یہ لوگ تم میں سے ہیں اور رشتہ دار بعض ان کے زیادہ قریبی ہیں

بَعْضٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

نسبت بعض کے کتاب میں اللہ کی یقیناً اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے



بعض قریبی ہیں

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدِينَةٌ

بَرَاءَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ

بیزاری ہے طرف سے اللہ کی اور رسول کے اس کی طرف ان لوگوں کی جن سے معاہدہ کیا تم نے

الْمُشْرِكِينَ ۱ فَمَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ

مشرکوں میں سے پس (اے مشرک) چلو پھرو اس ملک میں چار مہینے اور

اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ لَا وَآتَى اللَّهُ مُحْزِي

جان لو کہ یقیناً تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو اور یقیناً اللہ ذلیل کرینا والا ہے

الْكَافِرِينَ ۲ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ

کافروں کو اور اعلان ہے طرف سے اللہ کی اور رسول کی اگلے لوگوں کو

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۳

بروز حج اکبر کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے

وَرَسُولُهُ ۴ فَإِن تَبَتُّم فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ

اور رسول اس کا پس اگر توبہ کر دو تم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور اگر پھر جاؤ تم

فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۵ وَبَشِّرِ الَّذِينَ

تو جان لو کہ تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو اور بشارت دے ان لوگوں کو

كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۶ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

جنہوں نے کفر کیا عذاب دردناک سوائے ان لوگوں کے بھی جن سے معاہدہ کیا تم نے

مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ

مشرکوں میں سے پھر نہیں کمی کی انہوں نے کچھ اور نہ

يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

مدد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی پس پورا کرو طرف ان کی عہد ان کا

إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۳﴾ فَإِذَا انْسَلَخَ

ان کی ميعادت تک يقيناً اللہ پسند کرتا ہے متقيوں کو پھر جب گزر جائیں

الْأَشْهُرِ الْحُرْمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

جہاں عزت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں

وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوا هُمْ دَاقِعُدَا

پاؤ تم انہیں اور پکڑو انہیں اور قید کرو انہیں اور بیٹھو

لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم کریں نماز اور دیں

الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۴﴾

زکوٰۃ تو چھوڑ دو راہ ان کی يقيناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے

وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ

اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ چاہے تیری تو پناہ دے اُسے یہاں تک کہ

يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

وہ سُننے کلام اللہ کا پھر پہنچا دے اُسے امن کی جگہ پر اس کی یہ سبب اچھے ہے کہ وہ

قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ

لوگ نہیں جانتے کس طرح ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد

عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ

نزدیک اللہ کے اور نزدیک رسول کے اس کے سوائے ان لوگوں کے جن سے معاہدہ کیا تم نے پاس

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا

مسجد الحرام کے پس جب تک وہ درست رہیں تمہارے لیے تو درست رہو تم

لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۶﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا

ان کے لیے يقيناً اللہ پسند کرتا ہے متقيوں کو کیونکہ مشرکوں کے عہد کا اقتدار ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ

عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّتَهُ ۚ يُرْضُونَكُمْ

غلبہ پاویں تم پر نہ رعایت کریں تمہارے متعلق عہد کی اور نہ ذمہ داری کی وہ راضی کرتے ہیں تمہیں

بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۗ وَآكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸﴾

اپنے مومنوں سے اور انکار کرتے ہیں دل ان کے اور اکثر ان کے بعد عہد ہیں

إِشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ

یہ انہوں نے بدل میں آیات کی اللہ کی مول تمہوڑا پس روکا انہوں نے راہ سے اس کی

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ لَا يَزُقُّونَ فِي مُؤْمِنٍ

یقیناً وہ ایسے ہیں بُرے جو تھے وہ کرتے نہیں وہ رعایت کرتے کسی مومن کے متعلق

إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿۱۰﴾ فَإِن تَابُوا

عہد کی اور نہ ذمہ داری کی اور یہ لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں پس اگر وہ توبہ کریں

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ

اور قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ تو بھائی ہیں تمہارے دین میں

وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِن تَكْثَرُوا

اور ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور اگر توڑ دیں وہ

أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ

اپنی قسمیں بعد اپنے وعدے کے اور طعن کریں دین میں تمہارے

فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ ۗ إِنَّهُمْ لَا آيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ

توڑو سرداروں سے کفر کے یقیناً وہ ایسے ہیں کہ نہیں قسمیں (قابل اعتبار) الکی تاکہ وہ

يَنْتَهُونَ ﴿۱۲﴾ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ

باز آجائیں کیا نہیں لڑو گے تم ان لوگوں سے جنہوں نے توڑا اپنی قسموں کو

وَهُمْ أُولَٰئِكَ يَخْرُجُ الرِّسُولُ وَهُمْ بَدَءُواكُمْ أَوَّلَ

اور اولادہ کیا نکلنے کا رسول کو اور انہوں نے ابتداء کی تم میں سے پہلی

مَرَّةٍ ۗ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ ۖ فَاِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ

دفعہ کیا ڈرتے ہو تم ان سے پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ڈرو تم اس سے اگر

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ

ہو تم ایسا نڈار لڑو ان سے عذاب دیکھا نہیں اللہ

بَايِدِيكُمْ وَيُخْرِزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ

ہاتھوں سے تمہارے اور ذلیل کرے گا انہیں اور مدد کرے گا تمہاری خلاف ان کے اور شفا دے گا

صُدُورِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۱۴ وَيُدْهَبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

سینوں کو مومنوں کے اور لے جائے گا غصہ دلوں کا ان کے

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۵

اور فضل کیساتھ متوجہ ہوتا ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ الَّذِينَ

کیا گمان کیا ہے تم نے کہ تم چھوڑ دیئے جاؤ گے اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو

جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا

جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور نہیں بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے اور نہ

رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْزِيَ اللَّهُ خَيْرًا مَّا

اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے کوئی دوست اور اللہ خوب جزا دے گا اور اللہ اللہ ہے

تَعْمَلُونَ ۱۶ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ

جو تم کرتے ہو نہیں ہے حتیٰ مشرکوں کے لیے کہ آباد کریں وہ مسجدیں

اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ

اللہ کی اقرار کرتے ہوئے برخلاف اپنی جانوں کے کفر یہ لوگ وہ ہیں کہ بگڑ گئے

أَعْمَالُهُمْ ۗ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۱۷ إِنَّمَا يَعْمُرُ

اعمال ان کے اور آگ میں وہ رہ پڑنے والے ہیں سوائے ان کے نہیں آباد کرتا ہے

مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

مسجدیں اللہ کی جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور

أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

تاقلم کرے نماز اور دے زکوٰۃ اور نہ ڈرے مگر اللہ سے

فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۱۸ أَجَعَلْتُمْ

پس قریب ہیں یہ لوگ کہ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے کیا بنایا ہے تم نے

سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ

پانی پلانا حاجیوں کو اور آباد کرنا مسجد الحرام کا مانند اس شخص کی جو ایمان

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاءَ هَدًى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں (یہ دونوں)

يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾

نہیں برابر نزدیک اللہ کے اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم کو

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاءَ هَدًى سَبِيلِ

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ میں

اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لِأَعْظُمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ

اللہ کی اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے زیادہ بڑے ہیں درجہ میں اللہ کے نزدیک

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ

اور یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں بشارت دیتا ہے ان کو رب ان کا رحمت کی

مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۱﴾

طرف سے اپنی اور رضامندی کی اور باغات کی ان کے لیے ان میں نعمت ہے قائم رہنے والی

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۲﴾

ودرہ پڑنے والے ہونگے اس میں ہمیشہ یقیناً اللہ ہے کہ پاس اس کے اجر ہے بڑا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت بناؤ اپنے باپ دادا کو اور

إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ

اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۳﴾

اور جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے تو یہ لوگ ہی ظالم ہیں

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

تو کہے اگر ہیں باپ دادا تمہارے اور بیٹے تمہارے اور بھائی تمہارے اور

أَزْوَاجِكُمْ وَعَشِيرَتِكُمْ وَأَمْوَالٌ بِأَقْتَرْتُمْوهَا وَ

بیویاں تمہاری اور قبیلہ تمہارا اور اموال کہ کمایا تم نے جنہیں اور

تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ

تجارت کہ ڈرتے ہو تم مندا پڑ جانے سے جسکے اور گھر کہ پسند کرتے ہو تم جنہیں زیادہ پیارے

إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا

تہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو

حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم اور اللہ نہیں ہدایت دیتا لوگوں

الْفَاسِقِينَ ﴿۲۳﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ لَا

فاسقوں کو یقیناً یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے میدانوں میں بہت سے

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ

اور بروز حنین جبکہ غزور میں ڈالا تم کو کثرت نے تمہاری پس نہ وہ کام آئی

عَنكُم شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

تمہارے کچھ بھی اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اسکے کہ فراخ تھی وہ

ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿۲۴﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

پھر پھر گئے تم پیٹھ دیتے ہوئے پھر اتاری اللہ نے اپنی سکینت

عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ

اپنے رسول پر اور مؤمنوں پر اور اتارے لشکر کہ نہیں

تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ

دیکھا تم نے جنہیں اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور یہ بدلہ ہے

الْكٰفِرِينَ ﴿۲۵﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ

کافروں کا پھر فضل سے متوجہ ہوا اللہ بعد اس کے

مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

جس پر چاہا اس نے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

سوائے انکے نہیں کہ مشرک پید ہیں پس نہ قریب ہوں وہ مسجد الحرام کے

بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ

بعد اپنے اس سال کے اور اگر ڈرو تم فقر سے تو ضرور غنی کر دے گا تم کو

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ شَاءَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾

اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

لرؤ ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور روز

الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

آخر پر اور نہیں حرام ٹھہراتے جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ

يَدِينُونَ ۚ إِنَّ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اختیار کرتے ہیں مذہب سچا ان لوگوں میں سے جو دیئے گئے کتاب

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۲۹﴾

یہاں تک کہ دیں وہ جزیہ ہاتھ سے اور وہ ماتحت ہوں

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى

اور کہا یہود نے عجزیر بیٹا ہے اللہ کا اور کہا عیسائیوں نے

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ

سیح بیٹا ہے اللہ کا یہ بات ہے ان کی ان کے مومنوں سے

يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتِلْهُمْ

وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں بات کی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے سے ہلاک کرے انہیں

اللَّهُ ۚ إِنَّهُ آتَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿۳۰﴾ ۚ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ دَرُهْبًا نَّهُمْ

اللہ کہاں اٹاٹے جاتے ہیں بنایا انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو

أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا

رب سوائے اللہ کے اور مسیح ابن مریم کو حالانکہ نہیں

۱۰

أُمْرًا وَلَا يَلْبَعُدُ وَإِلَهُمَا وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

حکم دیجئے گئے وہ سوائے اس کے کہ عبادت کریں خداے واحد کی نہیں کوئی خدا سوائے اس کے

سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا

پاک ہے وہ اس سے جسے وہ شریک بناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بجھادیں

نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ

نور کو اللہ کے ساتھ اپنے مومنوں کے اور انکار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ پورا کرے

نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

نور کو اپنے اور اگرچہ ناپسند کریں کافر وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو

بِالْهُدَىٰ وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ

ساتھ ہدایت کے اور سچے دین کے تاکہ وہ غالب کرے اسے دینوں سب کے سب پر

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن

اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً

كثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا مِمَّا

بہت سے عالم اور درویش البتہ کھاتے ہیں مال

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

لوگوں کے ساتھ باطل کے اور روکتے ہیں راہ سے اللہ کی اور

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا

وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کا اور نہیں خرچ کرتے انہیں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۴﴾ يَوْمَ

راہ میں اللہ کی پس بشارت دے ان کو عذاب دردناک جس دن

يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهِمَا جِبَا هُمْ

گرم کئے جائیں گے وہ جہنم کی آگ میں پس داغ دیجئے جائیں گے اسکے ساتھ ماتھے ان کے

وَجَنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ

اور پہلو ان کے اور پیٹھیں ان کی یہ ہے جو خزانہ بنا کر جمع کیا تم نے اپنی جانوں کے لیے

فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾ رَاتٍ عِدَّةَ الشُّهُورِ

پس چھو جو تھے تم خزانہ جمع کرتے یقیناً گنتی مہینوں کی

عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

نزدیک اللہ کے بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے پیدا کیا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ

آسمانوں اور زمین کو ان میں سے چار عزت والے ہیں یہ ہے دین

الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا

فاسد رہنے والا پس نہ ظلم کرو ان میں اپنے لوگوں پر اور لڑو

الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا فَتَى

مشرکوں سے اٹھے ہو کر جس طرح وہ لڑتے ہیں تم سے اٹھے ہو کر اور

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ

جان لو کہ اللہ ساتھ متقیوں کے ہے سوائے اس کے ہیں اور کچھ کرنا مہینوں میں زیادہ

فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا

کفر میں گمراہ کئے جاتے ہیں بڑی حد تک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال ٹھہراتے ہیں وہ اس (ماہ) کو ایک سال

وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا مَّا لِيُؤْاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ اسے ایک سال تاکہ موافقت کریں گنتی کی جو حرام کیا اللہ نے

فِيحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زِيْنًا لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ

پس وہ حلال کرتے ہیں اسے جو حرام کیا اللہ نے خوبصورت کر کے دکھلائی گئی انہیں برائی ان کے اعمال کی اور

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو اے لوگو جو ایمان لائے

مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْتُمْ

کیا ہوا تمہیں کجب کہا گیا تم کو کوچ کرو اللہ کے راستہ میں جو جھل ہو گئے تم

إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ

طرف زمین کی کیا راضی ہو گئے تم ساتھ زندگی ورلی کے بمقابلہ آخرت کے

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۸﴾ إِلَّا

پس نہیں اسباب زندگی دنیا کا آخرت کے مقابل میں مگر تھوڑا کرنے

تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

کو نچ کرے تم تو وہ عذاب دیکھا تم کو عذاب دردناک اور بدل میں لائے گا کوئی قوم

شَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

سوائے تمہارے اور نہ تم ضرر دے سکو کچھ بھی اور اللہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ

اگر نہ مدد کرو تم اس (رسول) کی تو یقیناً مدد کی اس کی اللہ نے جبکہ نکالا تھا اسے ان لوگوں نے جنہوں نے

كَفَرُوا ۗ وَآثَارِي أَشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ

کفر کیا دوسرا دو میں کا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جبکہ وہ رسول نکلتا تھا

لِصَاحِبِهِ لَا تُحْزِنِ إِنَّ اللَّهَ مَعََنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

اپنے ساتھی کو نہ غمگین ہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اتاری اللہ نے

سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

اپنی سکینت اس پر اور تائید کی اسکی ساتھ لشکروں کے کہیں تم نے دیکھا جنہیں اور کردی

كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةٌ لِلَّهِ الْعُلْيَا ۚ

بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یعنی اور بات اللہ کی ہی اونچی ہے

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۰﴾ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ۚ

اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے کوچ کر کے ہلکے اور بوجھل ہو کر اور

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے راہ میں اللہ کی

ذِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ لَوْ كَانَ

یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے اگر ہوتا

عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ۗ لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ

فاصلہ نزدیک اور سفر درمیان تو ضرور وہ پیروی کرتے تیری ویکیں

بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ

دور ہو گئی ان پر مسافت اور ضرورہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر

اَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۖ يُهْرِكُونَ اَنْفُسَهُمْ ۗ

طاقت رکھتے ہم تو ضرور نکلتے ہم ساتھ تمہارے ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو

وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿۳۲﴾ عَفَا اللهُ عَنْكَ ۗ

اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں درگزر کرے اللہ تجھ سے

لِمَا اَذْنٰتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

کیوں اجازت دی تم نے انہیں یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تیرے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا

وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۳﴾ لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

اور جان لیتا تو جھوٹوں کو نہیں اجازت لیتے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

اللہ پر اور روز آخر پر کہ (رنہ) جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے اور

اَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۴﴾ اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ

اپنی جانوں کے اور اللہ خوب جاننے والا متقیوں کو سوائے انکے نہیں کہ اجازت لیتے ہیں رجاہانہ

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْتَ

کرتے کی تجھ سے وہ لوگ جو نہیں لاتے ایمان اللہ پر اور روز آخر پر اور

اِرْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿۳۵﴾

شک کیا ان کے دلوں نے پس وہ اپنے شک میں متردد ہیں

وَلَوْ اَرَادُوْا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُوْا لَهُ عُدَّةً وَّلٰكِنْ

اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلتے کا تو تیاری کرتے اس کے لیے خوب تیاری دیکھیں

كِرٰهًا لِلّٰهِ اُنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اَقْعُدُوْا

ناپسند کیا اللہ نے جانا ان کا پس اپنی جگہ پر قائم کر دیا انہیں اور کہا گیا بیٹھ جاؤ

مَعَ الْقَعِيْدِيْنَ ﴿۳۶﴾ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَا زَادُوْكُمْ

ساتھ بیٹھنے والوں کے اگر وہ نکلتے تم میں نہ بڑھاتے تم کو

الْآخِبَاءَ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَافَكُمْ يَبْغُونَكُمْ

مگر ہلاکت میں اور البتہ گھوڑے دوڑاتے درمیان تمہارے وہ چاہتے ہیں تم میں
الْفِتْنَةَ، وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
فساد اور تم میں طعنے والے ہیں ان کے لیے اور اللہ خوب جاننے والا ہے

بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۶﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ

ظالموں کو یقیناً یقیناً چاہا تھا انہوں نے فساد پہلے سے اور
قَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ
اُنٹائے تھے تیرے لیے معاملات یہاں تک کہ آگیا حق اور غالب آیا حکم۔

اللَّهُ وَهُمْ كَرِهُوا ﴿۳۷﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن

اللہ کا اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں اور ان میں سے بعض کہتے ہیں اجازت دے
بِي وَلَا تَفْتِنِي مَا لَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ
مجھے اور نہ فتنہ میں ڈال مجھے آگاہ ہو جاؤ فتنہ میں تو وہ (خود) گر گئے ہیں اور یقیناً جہنم

لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۸﴾ إِنَّ تَصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ،

البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو اگر پہنچے تجھ کو سچ بڑا لکھا ہے ان کو
وَإِنَّ تَصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا
اور اگر پہنچے تجھ کو مصیبت کہتے ہیں یقیناً سنبھال لیا تھا ہم نے اپنا معاملہ

مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ قَرِحُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا

پہلے سے اور پھر جاتے ہیں وہ اور وہ خوش ہوتے ہیں تو کہدے ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں
إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، هُوَ مَوْلَانَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
مگر جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے وہ ہمارا آقا ہے اور اللہ ہی پر چاہیے ہیں توکل کریں

الْمُؤْمِنُونَ ﴿۴۰﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى

مومن تو کہدے نہیں تم انتظار کرتے ہمارے متعلق مگر ایک کا
الْحُسَيْنَيْنِ، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، إِنَّ يُصِيبَكُمْ
دو احمی باتوں میں سے اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق یہ کہ پہنچائے گا تم کو

اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا بِقِتْرٍ بَصُورًا

اللہ عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے پس انتظار کرو

إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ

یقیناً ہم ساتھ تمہارے انتظار کرنے والے ہیں تو کدے خرچ کرو دل سے یا

كَرْهًا لَّنِ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ مَّا يُكْرَهُ أَنتُمْ قَوْمٌ

بے دل سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے یقیناً تم ہو قوم

فَسِئَئِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

فاسق اور نہیں محروم کیا انہیں کہ قبول کئے جائیں انہی طرف سے ان کے صدقے مگر

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ

داس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا اور نہیں آتے وہ نماز میں

إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۵۴﴾

مگر ایسی حالت میں کہ وہ سست ہوتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے مگر ایسے حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

پس نہ تعجب میں ڈالیں تجھے مال ان کے اور نہ اولاد ان کی سوائے اسکے نہیں کہ چاہتا ہے

اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ

اللہ کہ عذاب دے ان کو ان اموال کے ذریعہ زندگی دہلی میں اور نکل جائیں

أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۵﴾ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ

ان کی جانیں ایسے حال میں کہ وہ کافر ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی

إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنكُمْ وَلَئِنَّهُمْ قَوْمٌ

یقیناً وہ ضرور تم میں سے ہیں اور نہیں وہ تم میں سے دیکھیں یہ لوگ

يَفْرَقُونَ ﴿۵۶﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرِبًا أَوْ مَدْخَلًا

ڈرتے ہیں اگر پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا کچھ غار یا کوئی داخل ہونے کی

لَوْ لَوَّالِيهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿۵۷﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ

جگہ تو ضرور پھر جائیں طرف اس کی اور وہ دوڑتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں

فِي الصَّدَقَاتِ ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ

تَجِبُوا عَلَيْهَا فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا لَمْ يَسُوْغُوا لَهَا وَهِيَ كَالَّذِينَ اسْتُفْتُوا فِي الْحَدِيثِ وَصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِمْ لَمْ يُكَلِّمُوهُمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ

يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿۱۰﴾ وَكَوْنَتْ لَهُمْ رَضُوا

دیا جائے ان کو ان سے اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کاش وہ راضی ہو جاتے اس پر

مَا أَنْتُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبِينَ

جُوْدًا إِذْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

سَيُؤْتِيَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ

رَاغِبُونَ ﴿۱۲﴾

رَاغِبُونَ ﴿۱۲﴾

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ؕ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ؕ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۳﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ؕ قُلْ

أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ

رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ

رَسُولَ اللَّهِ كَمَا نَبَأَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۹﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۰﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۱﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۲﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۴﴾

لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ

تمہارے لیے تاکہ راضی کریں تمہیں اور اللہ اور رسول اس کا زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی کریں انہیں

إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۲﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن

اگر ہیں وہ مومن کیا نہیں جانا انہوں نے کہ بات یہ ہے کہ جو

يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس کیلئے آگ ہے جہنم کی رہ پڑنے والا ہے

فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۱۴۳﴾ يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ

اس میں یہ ذلت ہے بڑی ڈرتے ہیں منافق

أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ

کہ اتاری جائے ان پر کوئی سورت جو خبر دے انہیں اس بات کی جو دلوں میں ہے ان کے

قُلِ اسْتَهِزْءُ وَاِذَا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَ

تو کہہ دے ہنسی کرو یقیناً اللہ نکالنے والا ہے اسے جس سے تم ڈرتے ہو اور

لَيَسْئَلَنَّهُمْ لِيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

البتہ اگر بولوچھے تو ان سے ضرور کہیں گے کہ صرف ہم تھے بھینسے ہانکتے اور دل لگی کرتے

قُلْ يَا لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ وَأَيُّهَا وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۴۵﴾

تو کہہ دے کیا ساتھ اللہ کے اور اسکی آیات کے اور اس کے رسول کے تم ہو ہنسی کرتے

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ

نہ عذر کرو یقیناً کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے اگر

تَعَفُّوا عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نِعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ

ہم درگزر کریں ایک جماعت سے تم میں سے عذاب دیں گے ہم ایک جماعت کو اس لیے کہ وہ

كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۴۶﴾ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ

تھے مجرم منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان کے

مِّنْ بَعْضٍ مِّمَّا مَرُّونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

بعض میں سے ہیں حکم کرتے ہیں ناپسندیدہ بات کا اور روکتے ہیں

الْمَعْرُوفَ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ

اچھی بات سے اور بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو (خرچ کرنے سے) وہ بھول گئے اللہ کو

فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۳۷﴾ وَعَدَا

پس وہ بھول گیا انہیں یقیناً منافق ہی فاسق ہیں وعدہ کیا

اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارِنَا رَجَهْمَ

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آگ کا جہنم کی

خٰلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ، وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ،

وہ رہنے والے ہیں اس میں وہ جہنم کافی ہے انہیں اور لعنت کی ان پر اللہ نے

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۸﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا مانند ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے

كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا

وہ تھے زیادہ سخت تم سے قوت میں اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں

فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ

پس فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنے حصے سے پس فائدہ اٹھایا تم نے بھی اپنے حصے میں

كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ

جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو پہلے تھے تم سے اپنے حصے میں سے اور

خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

نفسوں باتوں میں لگ گئے تم جیسا کہ نفسوں باتوں میں لگ گئے وہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لڑ گئے عمل ان کے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۹﴾

دنیا اور آخرت میں اور یہ لوگ ہی نقصان پانے والے ہیں

الْمَيَاتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ

کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے ان سے (یعنی) قوم نوح

وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحٰبِ مَدْيَنَ

اور عاد اور ثمود کی اور قوم اور ابراہیم اور مدین والوں کی

وَالْمُؤْتَفِكِ ۖ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا

اور آئے والیوں (یعنی لوہ کی بیٹیوں) کی آئے تھے انکے پاس رسول ان کے ساتھ دلائل کے پس نہیں

كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

تھا اللہ کہ ظلم کرے ان پر لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر

يُظْلِمُونَ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

ظلم کرتے اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے

أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ مِّنْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْفِقُونَ

دوست ہیں بعض کے حکم کرتے ہیں مناسب بات کا اور روکتے ہیں

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

ناپسند بات سے اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ

اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی اس کے بڑے لوگ ہیں کہ ضرور رحم کرے گا ان پر

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ

اللہ یقیناً اللہ عزت والا حکمت والا ہے وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور مومن عورتوں سے باغات کا کہ چلتی ہیں نیچے سے جن کے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۗ

رہ پڑنے والے ہیں اس میں اور اچھے گھروں کا ہمیشہ کے باغات میں

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ

اور رضا مندی اللہ کی سب سے بڑی ہے یہ ہی کامیابی ہے بڑی

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ

اے نبی جہاد کر کافروں اور منافقوں سے اور

اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا أُوْهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ

سختی کر ان پر اور ٹھکانا ان کا جہنم ہے اور کیا ہی بُرا ہے ٹھکانا

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ

تسبیح کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہا انہوں نے حالانکہ یقیناً یقیناً کہا انہوں نے کلمہ

الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ وَابِعَا كَيْدَ

کفر اور کفر کیا بعد اپنے اسلام کے اور تصد کیا اس بات کا کہ جسے

يَنَاكُلُوهَا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

نہیں پاسکے وہ اور نہیں بُرا مانا یا انہوں نے سوائے اس کے کہ غنی کیا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے

مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ

اپنے فضل سے پس اگر وہ توبہ کریں بہتر ہے ان کے لیے اور اگر

يَتَوَلَّوْا يَعَذَّبْ اللَّهُ عَذَابًا أَبَدًا ۚ وَإِنَّمَا فِي

منہ موڑیں عذاب دے گا انہیں اللہ عذاب دردناک دنیا اور

الْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دِينٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝۴۳

آخرت میں اور نہیں ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ مددگار

وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ لِلَّهِ لَئِن أُتِيَ مِنْ فَضْلِهِ

اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر دے وہ ہمیں اپنے فضل سے

لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۴۴ فَلَمَّا

البتہ ضرور صدقہ دیں گے ہم اور البتہ ہو جائیں گے ہم نیکوں میں سے پس جب

آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

دیا اس نے انہیں اپنے فضل سے بخل کیا انہوں نے اس (مال) کا اور پھر گئے اور وہ

مُعْرِضُونَ ۝۴۵ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى

اعراض کرنے والے ہیں پس نتیجہ میں دیا انہیں نفاق ان کے دلوں میں

يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا

اس دن تک کہ ملیں گے اس (اللہ) سے اس لیے کہ خلاف کیا انہوں اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس سے اور ایسی

كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۴۶ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

کہ تھے وہ جھوٹ بولتے کیا نہیں جانا انہوں نے کہ اللہ جانتا ہے

سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۸۰﴾

بہید ان کا اور مشورہ ان کا اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے غیبوں کا

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وہ جو کہ الزام دیتے ہیں رغبت کرنے والوں کو مومنوں میں سے

فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

صدقات میں اور ان لوگوں کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ

پس وہ ہنسی کرتے ہیں ان سے ہنسی کی سزا دیگا اللہ انہیں اور ان کے لیے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۸۱﴾ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

عذاب ہے دردناک بخشش مانگ ان کے لیے یا نہ بخشش مانگ ان کے لیے

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

اگر بخشش مانگے گا تو ان کے لیے ستر دفعہ (بھی) پس ہرگز نہیں بخشے گا اللہ

لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ

انہیں یہ اس لیے ہے کہ کفر کیا انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۸۲﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ

نہیں ہدایت دیتا لوگوں فاسقوں کو خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے گئے

بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

اپنے بیٹھ رہنے پر پیچھے رسول اللہ کے اور ناپسند کیا انہوں نے کہ

يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ

جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے راہ میں

اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ

اللہ کی اور کہا انہوں نے کہ نہ کوچ کرو گرمی میں تو کہہ دے آگ جہنم کی

أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿۸۳﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا

زیادہ سخت ہے گرمی میں اگر ہوں وہ سمجھتے پس چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا

وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِن

اور چاہیے کہ روئیں زیادہ بدل ہے اس کا جو تھے وہ کاتے پس اگر

رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُواكَ

لوٹائے تھے اللہ طرف کسی جماعت کی ان میں سے پھر اجازت مانگیں وہ تجھ سے

لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا

نکلنے کی تو تو کہہ دے کہ ہرگز نہیں نکل سکتے تم ساتھ میرے کبھی بھی اور ہرگز نہیں جنگ کرو گے تم

مَعِيَ عَدُوًّا إِذْ أَنْتُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

ساتھ میرے دشمن سے یقیناً تم راضی ہو گئے بیٹھنے پر پہلی دفعہ

فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿۸۳﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ

پس بیٹھو ساتھ پیچھے رہنے والوں کے اور نہ جنازہ پڑھو ان میں سے

مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِذْ أَنْتُمْ

کسی کا جو مر جائے کبھی بھی اور نہ کھڑا ہو قبر پر اس کی یقیناً انہوں نے

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸۴﴾

کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا اور مر گئے جبکہ وہ ناسق تھے

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

اور نہ تعجب میں ڈالیں تھے مال ان کے اور اولاد ان کی سوائے ان کے نہیں کہ چاہتا ہے

اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ

اللہ کہ عذاب دے انہیں ان مال و اولاد کے ذریعہ دنیا میں اور نکل جائیں جانیں ان کی

وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۵﴾ وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ الْاٰمِنُوْا

جبکہ وہ کافر ہوں اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورۃ کہ ایمان لاؤ

بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو

اللہ پر اور جہاد کرو ساتھ (مکرم) اس کے رسول کے اجازت لیتے ہیں تجھ سے

الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا إِذْ رَأَيْنَاكَ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۸۶﴾

دولت مند ان میں سے اور کہتے ہیں کہ چھوڑ ہمیں ہو جائیں گے ہم ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى

وہ راضی ہوئے کہ ہو جائیں وہ ساتھ پیچھے رہنے والوں کے اور ہر کی گئی

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۸۶﴾ لَعَنَ الرَّسُولُ وَ

دلوں پر ان کے پس وہ نہیں سمجھتے لیکن رسول نے اور

الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

ان لوگوں نے جو ایمان لائے ساتھ اس کے جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے

وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ زَوَالِيكَ هُمُ الْمَفْرِحُونَ ﴿۸۷﴾

اور یہ لوگ وہ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

تیار کئے ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات بہتی ہیں نیچے سے ان کے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۸۸﴾ وَجَاءَ

رہ پڑنے والے ہیں ان میں یہ کامیابی ہے بڑی اور آئے

الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ

جھوٹے عذر کرنے والے گاؤں کے رہنے والوں میں سے تاکہ اجازت دے ان کے لیے اور بٹھڑ رہے

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ

وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے موزر پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۸۹﴾ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ

کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک نہیں ہے کمزوروں پر

وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا

اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے جو

يُنْفِقُونَ حَرْبًا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا

وہ خرچ کرتے ہیں کوئی الزام جبکہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے

عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۰﴾

نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا

اور نہیں ان لوگوں پر کہ جب آئے وہ تیرے پاس کہ سواری دے تو انہیں کہا تو نے نہیں

أَحَدٌ مَّا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ

پاتا میں وہ کہ سوار کروں میں تم کو جس پر پھر گئے وہ اور آئیں ان کی

تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَرْنَا إِلَّا يَجِدُ وَآ مَا يُنْفِقُونَ ﴿۹۲﴾

بہتی ہیں آنسوؤں سے غم کی وجہ سے کہ نہیں پاتے وہ جو وہ خرچ کریں

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ

سوائے ان کے نہیں کہ الزام ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں تجھ سے اور وہ

أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ لَا

دولتمند ہیں وہ راضی ہوئے اس پر کہ ہو جائیں ساتھ پیچھے رہنے والوں کے

وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾

اور ہر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر پس وہ نہیں جانتے



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذْ أَرْجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا

وہ عذر کریں گے طرف تمہاری جبکہ لوٹو گے تم طرف ان کی تو کہدے نہ

تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ

عذر تراشو ہرگز نہیں مانیں گے ہم تمہاری ربات) یقیناً ہم کو بتائی ہیں اللہ نے

أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ

تمہاری خبریں اور ضرور دیکھے گا اللہ کام تمہارے اور اس کا رسول پھر تم لوٹائے جاؤ گے

إِلَىٰ غَلِيظِ الْعَذَابِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

طرف جاننے والے کی غیب اور حاضر کو پس خبر دے گا تم کو اس کی جو تھے تم

تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ سَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذْ أُنْقَلِبْتُمْ

کرتے ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب لوٹو گے تم

إِلَيْهِمْ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ

طرف ان کی تاکہ درگزر کرو تم ان سے پس درگزر کرو ان سے یقیناً وہ

رَجِسَ زَوْمًا وَ مَا أَوْهَمَ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۴﴾

ناپاک ہیں اور ٹھکانا ان کا جسم ہے بدل اس کا جو وہ کاتے ہیں

يُخْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ

قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ راضی ہو جاؤ تم ان سے پس اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۵﴾ أَلَا عَرَابُ

تو یقیناً اللہ نہیں راضی ہوگا فاسق لوگوں سے گاؤں کے رہنے والے

أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا

زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں اور زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانیں (ان احکام کی) حدیں جو

أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۶﴾ وَمِنْ

اتاریں اللہ نے اپنے رسول پر اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے اور بعض

أَلَا عَرَابٌ مِّنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ

گاؤں کے رہنے والے ایسے ہیں جو ٹھہراتے اسے جوہ خرچ کرتے ہیں چٹتی اور انتظار کرتے رہتے ہیں

بِأَعْيُنِنَا ۗ سَتَجِدُنَا فِي سِدْرٍ مُّبِينٍ ﴿۹۷﴾

ہماری نگاہوں میں ہے سب سے زیادہ روشن اور روشن

بِكُمْ الدَّوَاءَ وَإِثْرَهُ عَلَيْهِمْ دَاثِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ

تمہارے متعلق کردشوں کا انہیں پر گردش ہے بُری اور اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۸﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور بعض گھاؤں کے رہنے والے ایسے کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ

اور روزِ آخر پر اور ٹھہراتے ہیں اسے جو وہ خرچ کرتے ہیں قرب کے ذریعے پاس

اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ إِلَّا إِنَّا نَقْرَبُ بِهِ قُرْبًا كَذَلِكَ يَكْنُ

اللہ کے اور دُعاؤں کا سبب رسول کی آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہ (صدقے) قرب کا ذریعہ ہیں ان کیلئے

سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

تو ضرور داخل کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت

رَحِيمٌ ﴿۹۹﴾ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ

پہلے اور سبقت لیجانے والے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے اور

الْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ

انصار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی ساتھ نیکی کے راضی ہو گیا اللہ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے اور تیار کئے اس نے ان کیلئے باغات چلتی ہیں

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ

نیچے ان کے نہریں رہ پڑنے والے ہیں اس میں ہمیشہ یہ کامیابی ہے

الْعَظِيمُ ﴿۱۰۰﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ذُو

بڑی اور بعض جو ارد گرد ہیں تمہارے گھاؤں کے رہنے والوں میں سے منافق ہیں اور

مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ

بعض اہل مدینہ (بھی منافق ہیں) وہ اڑ گئے ہیں نفاق پر نہیں جانتا تو انہیں

نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى

ہم جانتے ہیں انہیں ضرور ہم عذاب دیں گے انہیں دو دفعہ پھر وہ لوٹائے جائیں گے طرف

عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ وَأَخْرُوزَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا

عذاب عظیم کی اور کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے اقرار کیا اپنے گنہوں کا انہوں نے ملا دینے

عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيْئَاتٍ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

عمل اچھے اور کچھ اور بُرے امید ہے کہ اللہ رحمت سے توجہ کرے ان پر

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے ان کے مالوں سے صدقہ

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

پاک کریگا انہیں اور صاف کرے گا انہیں اس کے ذریعہ اور دعا کران کے لیے یقیناً دعا تیری

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

سکینت کا سبب ہے ان کیلئے اور اللہ خوب بخشنے والا خوب جاننے والا ہے کیا نہیں جانا انہوں نے یقیناً اللہ

هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ

ہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات اور

أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۴﴾ وَقِيلَ اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ

یقیناً اللہ ہی بہت رحمت سے متوجہ ہو گا بہت رحم کرنے والا ہے اور تو کہے عمل کرو پس ضرور دیکھے گا

اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

اللہ عمل تمہارا اور اس کا رسول اور مومن بھی اور ضرور لوٹائے جاؤ گے تم طرف

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾

جاننے والے کی پوشیدہ اور ظاہر پھر وہ آگاہ کریگا تم کو اس پر جو تھے تم کرتے

وَأَخْرُوزَ مُرْجُونَ لَا مِرًا لِلَّهِ إِمَّا يَعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا

اور کچھ اور (لوگ) پیچھے رکھے گئے ہیں واسطے حکم کے اللہ کے خواہ عذاب دے انہیں اور خواہ

يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا

رحمت سے توجہ فرمائے ان پر اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے اور جن لوگوں نے بناؤ

مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

مسجد نقصان پہنچانے کے لیے اور انکار کرنے اور تفریق ڈالنے کے لیے درمیان مومنوں کے

وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، وَلِيَحْلِفْنَ
اور گھات لگانے کیلئے اس شخص کیلئے جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے اور ضرورت میں کھائیں گے

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰۴﴾
کہ نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر بھلائی کا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ البتہ جھوٹے ہیں

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ
نکھڑا ہو تو اس میں کبھی بھی البتہ مسجد کو جس کی بنیاد رکھی گئی تقویٰ پر

أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رَجَا لٌ يُحِبُّونَ، أَنْ
پہلے دن سے زیادہ حق دار ہے کہ تو کھڑا ہو اس میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ

يَتَطَهَّرُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱۰۵﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ
پاکیزگی حاصل کریں اور اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو کیا پس جس نے بنیاد رکھی

بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ
اپنی عمارت کی تقویٰ پر اللہ کے اور رضامندی پر بہتر ہے یا وہ جس نے

أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ
بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارہ پر کھوکھلے گڑھے گرتے ہوئے کے پس وہ لے گا اسے آگ میں

جَهَنَّمَ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۶﴾ لَا يَزَالُ
جہنم کی اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو ہمیشہ رہے گی

بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ
عمارت ان کی جو انہوں نے بنائی ہے قراری کا موجب دلوں میں ان کے مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے

قُلُوبُهُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۷﴾ إِنْ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنْ
ہو جائیں دل ان کے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے یقیناً اللہ نے خرید لیا

الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ،
مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو بدل میں اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تَدْوَعْدًا
وہ لڑتے ہیں راہ میں اللہ کی پس قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں وعدہ ہے

عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ

اس کے ذمہ سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون

أَوْ فِي بَعْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

زیادہ پورا کر نیوالا ہے اپنے عہد کو نسبت اللہ کے پس خوش ہو جاؤ اپنے سودے پر جو

بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۱۱

سودا کیا تم نے اس سے اور یہ ہی کامیابی ہے بڑی توبہ کرنے والے

الْعِبَادُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّكَعُونَ السَّاجِدُونَ

عبادت کرنیوالے حمد کرنے والے سفر کرنیوالے رکوع کرنیوالے سجدہ کرنے والے

الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

علم دینے والے مناسب بات کا اور روکنے والے ناپسندیدہ بات سے

الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۲

اور حفاظت کرنیوالے حدود کی اللہ کی اور خوش خبری دے مومنوں کو (نہیں ہے مناسب)

لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ

داعی نبی کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے کہ بخشش مانگیں مشرکوں کے لیے اور اگرچہ

كَانُوا أَوْلِيَا قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ صَحْبَ

ہوں وہ رشتہ دار بعد اس کے کہ کھل گیا ان پر کہ وہ دوزخ والے

الْجَحِيمِ ۝۱۱۳ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن

میں اور نہ تھا بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر سبب ایک

مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ

وعدہ کے وعدہ کیا تھا جو اس سے پھر جب کھل گیا اس پر کہ وہ دشمن ہے

بِاللَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ ۗ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝۱۱۴ وَمَا كَانَ

اللہ کا بیزار ہو گیا اس سے یقیناً ابراہیم البتہ درود خدا اور بربار تھا اور نہیں ہے

اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا

اللہ کہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اس کے کہ اس نے ہدایت دی انہیں یہاں تک کہ کھو کر بیان کرے ان کیلئے وہ

يَتَّقُونَ دَانَ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ

جس سے بچیں یقیناً اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے یقیناً اللہ وہ ہے کہ اس کے لیے ہے بادشاہت

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِغْيِي وَيُمِيتُ مَوَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

آسمانوں کی اور زمین کی وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور نہیں تمہارے لیے سوائے

اللَّهِ مِنْ دُونِ وَلَا نَصِيرٌ ۗ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ

اللہ کے کوئی دوست اور نہ مددگار یقیناً یقیناً رحمت سے توجہ کی اللہ نے نبی پر

وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ

اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی اس کی

الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ

تنگی کی گھڑی میں بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں سے

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۗ وَعَلَى

پھر رحمت سے توجہ کی ان پر یقیناً وہ ان پر بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اور ان

الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

تین پر (جہی) جو کہ پیچھے چھوڑے گئے تھے یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر

الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَ

زمین باوجود کہ فراخ تھی اور تنگ ہو گئیں ان پر جانیں ان کی اور

ظَنُّوْا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

گمان کیا انہوں نے کہ نہیں پناہ کی جگہ اللہ سے مگر طرف اسی کی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سے توجہ کی ان پر

لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

تاکہ وہ توبہ کریں یقیناً اللہ ہی فضل سے توجہ کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو

أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۗ مَا كَانَ لِأَهْلِ

ایمان لانے ہو تقویٰ اختیار کرو اللہ کا اور ہو جاؤ ساتھ سچوں کے نہیں ہے (مناسب) واسطے اہل

الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا

اور ان کے جو ارد گرد (بستے) ہیں ان کے گاؤں کے رہنے والوں میں سے کہ جنگ میں جانے سے پیچھے

مدینہ کے

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَزْعُبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ هَذَا ذِكْرُ

رہیں رسول اللہ سے اور نہ یہ کہوہ (زیادہ) چاہیں اپنی جانوں کو اس کی جان سے یہ اس لیے

بِأَنْفُسِهِمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي

کہوہ ایسے ہیں کہ نہیں پینے گی انہیں پیاس اور نہ تکلیف اور نہ بھوک

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ

راہ میں اللہ کی اور نہ روندیں گے کوئی روندنے کی جگہ کہ جو ناراض کرے کافروں کو اور نہ میں گے

مِنْ عَدُوِّنِي إِلَّا أَكْتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ

دشمن سے کچھ (مالِ نعمت) مگر لکھا جائے گا ان کے لیے عوض میں اس کے کام نیک یقیناً

اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲۶﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً

اللہ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا اور نہ خرچ کریں گے وہ کوئی خرچ

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا أَكْتُبَ لَهُمْ

پھوٹا اور نہ بڑا اور نہ طے کریں گے وہ کوئی وادی مگر وہ لکھی جائے گی ان کے لیے

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾ وَمَا كَانَ

تا کہ بدل دے انہیں اللہ زیادہ بہتر اس سے جو تھے وہ کرتے اور نہیں ہیں

الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفَّةٍ فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

مومن کو کوچ کریں سب کے سب پس کیوں نہیں کوچ کرتا ہر جماعت میں سے

مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

ان کی ایک گروہ تاکہ سمجھ حاصل کریں وہ دین میں اور تاکہ خبردار کریں اپنی قوم کو

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

جگہ لوٹیں وہ طرف ان کی تاکہ وہ بچ جائیں اے لوگو جو

آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا

ایمان لائے ہو لڑو ان لوگوں سے جو قریب رہتے ہیں تمہارے کافروں میں سے اور چاہیے کہوہ پائیں

فِيكُمْ غُلَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۹﴾ وَإِذَا

تم میں سختی اور جان لو کو یقیناً اللہ ساتھ ہے متقیوں کے اور جب

مَا أَنْزَلْتُ سُورَةَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ

کبھی اتاری جاتی ہے کوئی سورت تو بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے بڑھایا ہو جسے

هَذِهِ آيَمَانًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ آيَمَانًا

اس (سورت) نے ایمان میں سو جو لوگ ایمان لاتے ہیں پس بڑھایا اس نے انہیں ایمان میں

وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۳﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

اور وہ خوش خبری حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ دلوں میں ان کے بیماریا ہے

فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۴﴾

پس بڑھایا اس نے انہیں پلیدی میں ساتھ ان کی پلیدی کے اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہوئے ہیں

أَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

کیا نہیں وہ دیکھتے کہ وہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ

ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ

پھر نہیں توبہ کرتے اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جب کبھی اتاری جاتی ہے

سُورَةً تَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَسُكُمْ مِنْ أَحَدٍ

کوئی سورت دیکھتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کی (اور کہتے ہیں) کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی

ثُمَّ أَنْصَرَفُوا هِ حَصْرَفَ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

پھر پھر جاتے ہیں پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اس لیے کہ وہ لوگ

لَا يَفْقَهُونَ ﴿۳۶﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

نہیں سمجھتے یقیناً یقیناً آیا تمہارے پاس رسول اپنے میں سے تمہارے شاق ہے

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

اس پر وہ جو دکھ دے تم کو حریص ہے تم پر مومنوں پر بہت مہربان

رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

بہت رحم کرنے والا پس اگر وہ پھر جا میں تو تو کہدے کافی ہے مجھے اللہ نہیں کوئی خدا سوا اسے

هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۳۸﴾

اس کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ رب ہے عرشِ عظیم کا

سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الرَّتِّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۲ اَكَانَ لِلنَّاسِ

الف، لام، وا یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی کی کیا ہے واسطے لوگوں کے۔

عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا لِیْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرَ النَّاسَ وَ

تعجب کہ وحی کی ہم نے طرف ایک آدمی کے ان میں سے کہ ڈرانو لوگوں کو اور

بَشِّرَ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ لَهُمْ قَدْرٌ مِّمَّا عِنْدَ رَبِّهِمْ ۳

اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے درجہ ہے اعلیٰ پاس ان کے رب کے

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا السَّحْرُ مَبِیْنٌ ۴ اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ

کہا کافروں نے یقیناً یہ بہر جا و گر ہے کھلا کھلا یقیناً رب تمہارا اللہ وہ

الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ

ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین چھ دنوں میں پھر

اَسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَافِعٍ اِلَّا

قرار پکڑا اس نے عرش پر تدبیر کرتا ہے وہ معاملہ کی نہیں کوئی سفارشی مگر

مَنْۢ بَعْدَ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا

بعد اس کی اجازت کے یہ اللہ رب ہے تمہارا پس عبادت کرو اس کی کیا پھر نہیں

تَذٰكُرُوْنَ ۵ اِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا

تم نصیحت حاصل کرو گے طرف اس کی لوٹنا ہے تمہارا سب کا وعدہ ہے اللہ کا سچا

اِنَّهٗ یَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهٗ لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

یقیناً وہ شروع کرتا ہے پیدائش پھر دوبارہ کرے گا اسے تاکہ بدل دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ

اور کہیں نیکیاں ساتھ انصاف کے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے

شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۵﴾

پینا ہے گرم پانی اور عذاب دردناک ایسے کہ تھے وہ کفر کرتے

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ۗ

وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی اور چاند کو نور اور

قَدَرًا مَّا زَلَّ لِلْعَالَمِينَ ۗ عَذَابَ السِّنِينَ وَالْجَسَابِ ۗ وَمَا

اندازہ کے مطابق بنائیں انہی منزلیں تاکہ جان لو تم گنتی سالوں کی اور حساب نہیں

خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

پیدا کیا اللہ نے اسے مگر ساتھ حق کے مفصل بیان کرتا ہے آیات ان لوگوں کے لیے

يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

جو جانتے ہیں یقیناً آگے سمجھ آنے میں رات اور دن کے اور اس میں جو پیدا کیا

اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿۷﴾ إِنَّ

اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں الٰہی نشانات ہیں ان لوگوں کیلئے جو تقویٰ کرتے ہیں یقیناً

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَارٍ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ملاقات کی ہماری اور راضی ہو گئے زندگی دنیوی پر

وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿۸﴾

اور مطمئن ہو گئے اس پر اور وہ لوگ جو آیات سے ہماری غافل ہیں

أُولَٰئِكَ مَا لَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹﴾ إِنَّ

یہ لوگ وہ ہیں کہ ٹھکانا ان کا آگ ہے بسبب اس کے کہ جو تھے وہ کاتے یقیناً

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمُ

جو لوگ ایمان لائے اور کہیں نیکیاں ہر ایت دے گا انہیں رب ان کا

بِأَيِّمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتٍ

بسبب ان کے ایمان کے بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں باغوں میں

التَّعِيمِ ۱۰ اَدْعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

بہت سی نعمتوں کے پکاران کی ان دباؤں میں یہ ہوگی کہ پوک ہے تو اے اللہ اور ان کا تحفہ

فِيهَا سَلَامٌ، وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ

ان میں سلام ہوگا اور آخری پکاران کی یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے

الْعٰلَمِيْنَ ۱۱ وَلَوْ يَعْجَلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَا لَهُمْ

تمام دنیا کا اور اگر جلدی لائے اللہ لوگوں کے لیے بُرائی دکا بدلہ مانند ان کے جلدی چاہنے کے

بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا

مال کو توفیق دیا جاتا ان کی طرف ان کی معاد کا پس ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں

يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۱۲ وَاِذَا مَسَّ

امید کرتے ہماری ملاقات کی وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں اور جب چھوڑتا ہے

الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا نَا لِجَنَّتِهِ اَوْ قَاعًا اَوْ قَائِمًا،

انسان کو دکھ پکارتا ہے ہمیں اپنے پلوں پر ہو کر یا بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَانَ تَمِيْدُ عُنَا اِلٰى

پھر جب دور کر دیتے ہیں ہم اس سے دکھ اس کا گذرتا ہے گویا کہ نہیں پکارتا تھا اس نے ہمیں طرف

ضُرِّ مَسَّهُ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا

کسی دکھ کی جو پہنچا ہوا ہے اسی طرح خوبصورت کیا گیا ہے حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو تھے

يَعْمَلُوْنَ ۱۳ وَلَقَدْ اٰهَلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكَ

وہ کرتے اور یقیناً یقیناً ہلاک کیا ہم نے قوموں کو پہلے تم سے

لَمَّا ظَلَمُوْا لَا وَاَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا

جبکہ ظلم کیا تھا انہوں نے اور آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ دلائل کے اور نہ

كَانُوْا اِلٰى يَوْمُنَا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمَجْرِمِيْنَ ۱۴

ہوتے وہ کہ ایمان لاتے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں لوگوں کو جو مجرم ہیں

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ

پھر بنایا ہم نے تم کو جانشین زمین میں بعد ان کے تاکہ دیکھیں ہم

كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝۱۵ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِآيَاتِنَا لَا

کیونکر تم عمل کرتے ہو اور جب پڑھکر سنائی جاتی ہیں انھیں آیات ہماری کھلی کھلی

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا

کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ملاقات کی ہماری لا کوئی قرآن سوا اس کے

اَوْ بَدِّلَهُ ۚ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِىْ

یا بدل دے اسے تو کہہ دے نہیں ہو سکتا ہے میرے لیے کہ بدل دوں میں اسے

نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ ۚ اَخَافُ اِنْ

اپنی نہیں پیروی کرنا میں سوائے اس کے جو وحی کی جاتی ہے طرف میری یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر

عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۱۶ قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ

نازمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب سے دن بڑے کے تو کہہ دے اگر چاہتا اللہ

مَا تَلَّوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا اَذَّرَكُمْ ۚ اِنَّهٗ ۙ فَقَدْ لَيْثٌ فَيَكُمُ

نہ پڑھتا میں اسے تم پر اور نہ وہ (اللہ) آگاہ کرنا تم کو اس پر پس یقیناً رہ چکا ہوں میں تم میں

عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۷ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ

ایک عمر پہلے اس سے کیا پھر نہیں عقل کرنے تم پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے

اِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يَفْلِحُ

گھوڑیا اللہ پر جھوٹ یا جھٹلایا اس نے اس کی آیات کو یقیناً بات یہ ہے کہ نہیں کامیاب

الْمُجْرِمُوْنَ ۝۱۸ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

ہوتے مجرم اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے اس کی جو نہیں نقصان دیتا انھیں

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

اور نہ نفع دیتا ہے انھیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں ہمارے پاس اللہ کے

قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي

تو کہہ دے کیا آگاہ کرتے ہو تم اللہ کو اس پر کہ جسے نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور

الْاَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعْلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱۹ وَمَا كَانَ

زمین میں پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جسے وہ شریک جاتے ہیں اور نہ تھے

النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

لوگ مگر گروہ ایک پھر اختلاف کیا انہوں نے اور اگر نہ ایک بات پہلے سے ہوتی

مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۰﴾ وَ

طرف سے تیرے رب کے ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور میان ان کے اس میں کوجس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور

يَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقَدْ إِنْ تَمَّا

کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی نشان طرف سے اگے رب کی پس تو کدے سوائے اس کے

الْغَيْبِ لِلَّهِ فَإِنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۲۱﴾

نہیں کو غیب اللہ کے لیے ہے پس انتظار کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ

اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت بعد تکلیف کے جو پہنچتی ہے انہیں

إِذَا هُمْ مَكْرُفِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا وَإِنَّا

اچانک ان کیلئے تدبیر ہوتی ہے ہماری آیات میں تو کدے اللہ زیادہ جلدی کرنے والا ہے تدبیر یقیناً

رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿۲۲﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي

بھیجے ہوئے ہمارے کہتے ہیں جو تدبیر میں کرتے ہو وہی ہے جو چلاتا ہے تم کو

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ

خشکی میں اور سمندر میں یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور وہ لے چلتی ہیں ان (سافروں)

بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَ

کوساتھ ہوا اچھی کے اور وہ خوش ہوتے ہیں ان پر آتی ہے انہیں ہوا تیز اور

جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ

آتی ہے ان کو موج ہر جگہ سے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ گئے

بِهِمْ ۗ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ لَئِن لَّمْ يَاجِئْتَنَا

گئے پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو ضرور اگر نجات دے تو ہمیں

مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا

اس سے ضرور ہوں گے ہم شکر گزاروں میں سے پھر جب وہ نجات دیتا ہے انہیں اچانک

مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا

هُم يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مِثْلَ مَا نَسُوا إِنَّمَا

وہ زیادتی کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر حق کے اسے لوگو سوائے اس کے

بَغْيِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا

نہیں کہ زیادتی تمہاری تمہاری جانوں پر ہے فائدہ اٹھانا ہے زندگی دہلی سے پھر ہماری طرف

مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّمَا مِثْلُ

لوٹنا ہے تمہارا پھر ہم آگاہ کریں گے تم کو اس پر جو تھے تم کرتے سوائے اگلے نہیں کرنا

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ

زندگی دہلی کی مانند پانی کے آمارا ہم نے جسے بادل سے پس مل جل گئی

بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ

ساتھ اگلے روئیدگی زمین کی ان چیزوں میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی یہاں تک کہ

إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا

جب لیتی ہے زمین اپنی زینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور خیال کرتے ہیں اگلے

أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا لَا أَتَاهَا أَمْرًا نَيْلًا أَوْ نَهَارًا

کہ وہ قادر ہیں ہم اسے آتا ہے اس کے پاس حکم ہمارا رات کو یا دن کو

فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ

ہیں کر دیتے ہیں ہم اسے کٹا ہوا گویا کہ نہ تھا وہ کل اسی طرح

نُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ

ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کیلئے جو سوچتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے طرف گم

السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۵﴾

سلامتی کے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف راہ سیدھی کی

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ

ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی بھلائی ہے اور زیادتی ہے اور نہ چھا جائے گی ان کے چہروں پر

قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۶﴾

سیاہی اور نہ ذلت یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لَا يَدْرُونَ

اور جن لوگوں نے کیں بدیاں بدلہ بدی کا مانند اس کے اور

تَرَهُمْ ذُلًّا مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاقِبَةٍ كَانَتْ

بچھا جائے گی ان پر ذلت نہیں ہے ان کیلئے اللہ سے کوئی بچانے والا گویا کہ

أَغْشَيْتَ وَجُوهَهُمْ قَطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ

ڈھانکے گئے ان کے چہروں پر ٹکڑے رات اندھیری کے یہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۸﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

آگ والے ہیں وہ اس میں رہ پڑے والے ہیں اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ان

جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَ

سب کو پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا ٹھہرو اپنی جگہ پر تم اور

شُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ

شریک تمہارے پھر تفرق ڈالیں گے ہم درمیان انکے اور کہیں گے شریک ان کے نہ تھے تم

إِنَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿۳۹﴾ فَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ

ہماری عبادت کرتے ہیں کاشی ہے اللہ گواہ درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے یقیناً

كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَوِيلِينَ ﴿۴۰﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو أَعْمَالَكُمْ نَفْسٍ

تھے ہم عبادت سے تمہاری ضرور غافل وہاں امتحان کریگا ہر نفس

مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ

جو اعمال وہ کر چکا ہوگا اور لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کی اپنے سے آقا کی اور جاتا ہے گا ان سے

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ

جو تھے وہ افزا کرتے تو کہہ دے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور

الْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ

زمین سے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو

مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ

مردہ سے اور نکالتا ہے مُردہ کو زندہ سے اور کون انتظام کرتا ہے

الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ قَدْ لَكُمْ

(اس تمام معاملہ کا پس ضرور کہیں گے کہ اللہ پس تو کہدے کیا پھر نہیں تقویٰ کرتے تم سو یہ

اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى

اللہ رب ہے تمہارا سچا پس نہیں ہے چھوڑ کر حق کو سوائے گمراہی کے سو کہاں

تُضْرَفُونَ ﴿۳۲﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ

پھیرے جاتے ہو تم اسی طرح ثابت ہوئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے

فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ

فسق اختیار کیا کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے تو کہدے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے وہ جو

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ

شروع کرے پیدائش پھر دوبارہ کرے اسے تو کہدے اللہ شروع کرتا ہے پیدائش پھر

يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ

دوبارہ کرتا ہے اسے پس کہاں اٹٹے جاتے ہو تم تو کہدے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے وہ جو

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ أَفَمَنْ يَهْدِي

ہدایت دیتا ہے طرف حق کی تو کہدے اللہ (ہی) ہدایت دیتا ہے حق کی کیا پھر جو ہدایت دیتا ہے

إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَهُ

طرف حق کی زیادہ حقوار ہے کہ پیروی کی جائے اس کی یا وہ جو نہیں (خود ہی) راہ پاتا سوائے اسکے کہ راستہ دکھایا جائے

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا

اُسے پس کیا ہو تم کو کیسا فیصلہ کرتے ہو تم اور نہیں پیروی کرنے اکثر ان کے سوائے

ظَنَاءٍ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

گان کے یقیناً گمان نہیں کام دیتا مقابل حق کے کچھ بھی یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے

بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ

اسے جو وہ کرتے ہیں اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا جائے (کسی اور کی

دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ

طرف سے اسوئے اللہ کے دلیکن یہ تصدیق (کرتا) ہے اس کی جو اس سے آگے ہے اور تفصیل (ریاں کرتا) ہے

الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ أَمْ يَقُولُونَ

کتاب (الہی) کی نہیں شک اس میں رب کی طرف سے تمام جہانوں کے کیا وہ کہتے ہیں کہ

افترسہ دقل فأتوا بسورةٍ مثله واذعوا من

اس نے گھڑا یہ ہے تو کہہ سے پس لاؤ کوئی سورۃ مانند اس کی اور پکارو جسے

اشتطعتن من دون الله ان كنتم صديقين ﴿۳۹﴾ بل كذبوا

حالت رکھتے ہو تم سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے بلکہ جھٹلایا انہوں نے

بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله كذلك

اسے کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے علم کا اس کے اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت اسی طرح

كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة

جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے پس دیکھ کیونکہ ہوا انجام

الظالمين ﴿۴۰﴾ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا

ظالموں کا اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور بعض ان میں ایسے ہیں جو نہیں

يؤمن به ورتبك اعلم بالمفسدين ﴿۴۱﴾ وان

ایمان لاتے اس پر اور رب تیرا خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اور اگر وہ

كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم

جھٹلائیں گے تو تو کہہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے ہے عمل تمہارا تم

بريئون مما عملوا وانا بريء مما تعملون ﴿۴۲﴾ و

بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو اور

منهم من يستمعون اليك ما فانت تسمع الصم

بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کان دھرتے ہیں طرف تیری کیا پس تو سنانے گا بہروں کو

ولو كانوا لا يعقلون ﴿۴۳﴾ ومنهم من ينظروا اليك

اور اگرچہ ہوں وہ نہ عقل رکھتے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں طرف تیری

افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ﴿۴۴﴾ ان

کیا پس تو ہدایت دیگا اندھوں کو اور اگرچہ ہوں وہ نہ بصیرت (بھی) رکھتے یقیناً

بقرہ

اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ

اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی دیکھیں لوگ اپنی جانوں پر (خود)

يَظْلِمُونَ ﴿۳۵﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَمَا نَلَّمْتُمُوهُمُ إِلَّا

ظلم کرتے ہیں اور جس روز وہ اکٹھا کریگا انہیں (وہ محسوس کریں گے) گویا کہ نہ رہے تھے وہ (دنیا میں)

سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ

سوائے ایک گھڑی کے دن کی وہ ایک دوسرے (کی حالت) کو معلوم کریں گے آپس میں یقیناً گھانا پایا

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اللَّهُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۳۶﴾

ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی ملاقات کی اللہ کی اور نہ ہونے ہدایت پانے والے

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ

اور اگر ہم دکھائیں گے تجھے بعض وہ جس کی ہم وعید دیتے ہیں انہیں یا وفات دیں ہم تجھے

فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۷﴾

تو ہماری طرف لوٹنا ہے پھر اللہ نگران ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

اور ہر امت کے لیے رسول ہے پس جب آتا ہے رسول ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے درمیان ان کے

بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا

ساتھ انصاف کے اور وہ نہیں ظلم کئے جاتے اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ

الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي

وعدہ اگر ہو تم سچے تو کہہ دے نہیں میں طاقت رکھتا خود اپنے لیے بھی

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ

نقصان کی اور نہ نفع کی سوائے اس کے جو چاہے اللہ ہر امت کیلئے ميعاد ہے جب آجاتی ہے

أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۴۰﴾

ميعاد ان کی پس نہ پیچھے ہوتے ہیں نہ ایک گھڑی اور نہ آگے ہوتے ہیں

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا

تو کہہ دے کیا دیکھتا تم نے (رہتا تو سہی) اگر آئے تمہارے پاس عذاب اس کا رات کو یا دن کو کیونکر

يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۱﴾ اَتَمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اَمْنَتُمْ
بھاگ سکیں گے اس سے مجرم کیا پھر جبکہ واقع ہو گیا ایمان لائے تم

بِهٖ ؕ اَلْعَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۲﴾ تَمَّ قِيلَ
اس پر کیا اب حالانکہ یقیناً تھے تم اس کا جلدی مطالبہ کرتے پھر کہا جائے گا

لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ
ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چکھو عذاب قائم رہنے والا نہیں تم بدل دیتے جاتے

اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۵۳﴾ وَيَسْتَنْبِغُوْنَكَ اَحَقُّ هُوَ
مگر اس کا جو تھے تم کما تے اور پلوچھتے ہیں تجھ سے کیا سچ ہے یہ

قُلْ اِي وَرَبِّيْ اِنَّهٗ لَحَقُّ ؕ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۵۴﴾ وَ
تو کہہ سے قسم ہے میرے رب کی یقیناً وہ اللہ سچ ہے اور نہیں ہو تم (ہمیں) عاجز کرنے والے اور

لَوْ اَنْ لِّكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَاقْتَدَتْ بِهٖ ؕ
اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے ضرور قدر میں دیدے اسے (عذاب سے بچنے

وَاسْرُوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاوُا الْعَذَابَ ؕ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ
کیئے) اور چھپائیں گے وہ پشیمانی جب دیکھیں گے عذاب اور فیصلہ کیا جائیگا درمیان انکے

بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾ اَلَا اِنَّ رَبَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
ساتھ انصاف کے اور وہ نہ ظلم کئے جائیں گے آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کا ہے جو آسمانوں

وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا
اور زمین میں ہے آگاہ ہو جاؤ یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے لیکن اکثر ان کے ہیں

يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۶﴾ هُوَ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۷﴾
جانتے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور طرف اس کی تم لوٹائے جاؤ گے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمِمْوَعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَا
اے لوگو یقیناً آئی تمہارے پاس نصیحت طرف سے تمہارے رب کی اور

شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۸﴾
شفا اس (شک) کے لیے جو سینوں میں ہے اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے

وقف النبی
صلی اللہ علیہ وسلم

وقف النبی
صلی اللہ علیہ وسلم

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

تو کہدے فضل سے اللہ کے اور اس کی رحمت سے پس ساتھ اس کے پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

وہ بہتر ہے اس سے جسے وہ جمع کرتے ہیں تو کہدے کیا دیکھا تم نے کہ جو کچھ اتارا ہے اللہ نے

لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ

تمہارے لیے رزق پھر کر دیا تم نے کچھ اس سے حرام اور (کچھ) حلال تو کہدے کیا

اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَا ظَنُّ

اللہ نے اجازت دی تم کو یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو اور کیا خیال ہے

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ان لوگوں کا جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ روز قیامت کے متعلق

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرْتُمْ لَا

یقیناً اللہ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر ان کے نہیں

يَشْكُرُونَ ﴿۱۷﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ

شکر کرتے اور نہیں ہوتا تو کسی حالت میں اور نہیں پڑھتا تو اس میں سے کچھ

قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا

قرآن اور نہ کرتے ہو تم کوئی عمل مگر ہوتے ہیں ہم تم پر نگران

إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ

جبکہ مشغول ہوتے ہو تم اس میں اور نہیں غائب تیرے رب سے (کوئی چیز) برابر

ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ

ذره کے زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹی اس سے اور

لَا أَكْبَرَ لَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۱۸﴾ الْآيَاتِ أَوْ لِيَاءِ اللَّهِ لَا

نہ بڑی مگر کتاب کھلی کھلی میں ہے آگاہ ہو جاؤ یقیناً دوست اللہ کے نہیں

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ جو کہ ایمان لائے اور

كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۷۶﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ

تھے تقویٰ کرتے ان کے لیے خوشخبری ہے زندگی دنی میں اور

فِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ

آخرت میں نہیں تبدیلی باتوں میں اللہ کی یہ ہی ہے

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۷۷﴾ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ

کامیابی بڑی اور نہ غم میں ڈالے تجھے بات ان کی یقیناً عزت

بِلّٰهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۷۸﴾ الْاٰرَاتِ بِلّٰهِ مَنْ فِي

اللہ کے لیے ہے سب کی سب وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کے ہیں جو

السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ

آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ۚ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ

سوائے اللہ کے (اور) فریجوں کے نہیں پیروی کرتے وہ سوائے گمان کے اور نہیں

هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۷۹﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَيْدِ

وہ مگر انگوٹوں سے کام لیتے ہیں وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو

لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

تاکہ آرام کرو تم اس میں اور دن کو دکھانے والا یقیناً اس میں اللہ کی نشانات ہیں

لِقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۸۰﴾ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَهُ

ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں انہوں نے کہا اختیار کیا ہے اللہ نے (اپنے لیے) بیٹا پاک ہے وہ

هُوَ الْعَزِيزُ ۚ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ اِنَّ

وہ بے پرواہ ہے اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے نہیں ہے

عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا مَا تَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا

تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی کیا کہتے ہو تم اللہ پر جو نہیں

تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكُذِبُ

جانتے تم تو کہہ دے یقیناً جو لوگ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ

لَا يُفْلِحُونَ ﴿۵۱﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ

نہیں کامیاب ہوں گے فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں پھر ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا پھر

نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۵۲﴾

پکھائیں گے ہم عذاب سخت بسبب اس کے کہ تم وہ کفر کرتے

وَآتِلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِن كَانَ

اور پڑھ ان پر خبر نوح کی جب کہا اس نے اپنی قوم کو اے قوم میری اگر ہے

كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَّ اللَّهُ

شاق گزرتا تم پر کھڑا ہونا میرا اور نصیحت کرنا میرا ساتھ آیات کے اللہ کی پس اللہ پر

تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ

بھروسہ کیا میں نے پس جمع کر لو تم اپنا معاملہ اور اپنے شرکاء کو پھر نہ رہے

أَمْرَكُمْ عَلَيكُمْ عُمَّةٌ ثُمَّ آقُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ ﴿۵۳﴾ فَإِن

معاملہ تمہارا تم پر مشتبہ پھر کر لو مجھ سے (جو چاہو) اور نہ ملت دو مجھے پھر اگر

تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِهِ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى

پھر جاؤ تم تو نہیں مانگائیں گے تم سے کوئی اجر نہیں اجر میرا مگر

اللَّهِ لَا أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۵۴﴾ فَكَذَّبُوهُ

اللہ پر اور حکم دیا گیا ہوں میں کہ ہو جاؤں فرماں برداروں میں سے پس کذب کی انہوں نے

فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَ

اس کی پھر بچایا ہم نے اسے اور انہیں جو ساتھ تھے اس کے کشتی میں اور بنایا ہم نے انہیں (پہلوں کا) جانشین اور

أَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری پس دیکھ کیسا ہوا

عَاقِبَةُ الْمُتَذَكِّرِينَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى

انجام ڈرانے جانے والوں کا پھر بھیجا ہم نے بعد اس کے کئی رسولوں کو طرف

قَوْمِهِمْ فَجَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

ان کی قوم کی پس وہ لاشے ان کے پاس کھلے دلائل پس نہ تھے وہ ایمان لاتے

بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ، كَذَلِكَ نَنْظِمُ عَلَى قُلُوبِ

اس لیے کہ تذبذب کی تھی انہوں نے اس کی پہلے سے اسی طرح مہر کرتے ہیں ہم دلوں پر

الْمُتَعَدِّينَ ﴿۵۸﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ

حد سے بڑھنے والوں کے پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ اور ہارون

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا

طرف فرعون کی اور اس کے سرداروں کی ساتھ اپنی آیات کے پس تکبر کیا انہوں نے اور وہ تھے قوم

مُجْرِمِينَ ﴿۵۹﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ

جرم پس جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے کہا انہوں نے یقیناً

هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿۶۰﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا

یہ البتہ جادو ہے کھلا کھلا کہا موسیٰ نے کیا تم کہتے ہو حق کے متعلق جب وہ

جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا

آیا تمہارے پاس کیا جادو ہے یہ اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر انہوں نے کہا

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ

کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھردے ہیں اس سے کہ پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو اور زانگہ ہو جائے

لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۶۲﴾

تم دونوں کے لیے بڑائی ملک میں اور نہیں ہیں ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴿۶۳﴾ فَلَمَّا جَاءَ

اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر ماہر پس جب آئے

السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۶۴﴾

جادوگر کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو زمین پر جو تم ڈالنے والے ہو

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ

پس جب ڈالا انہوں نے کہا موسیٰ نے وہ چیز کہ لاشے ہو تم جے جادو ہے یقیناً اللہ

سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّهُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۶۵﴾ وَ

عقرب باطل کر دیکھا سے، یقیناً اللہ نہیں ٹھیک ہونے دیتا کام مفسدوں کا اور

يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۳﴾ فَمَا

حق ثابت کریگا اللہ حق کو ساتھ اپنی باتوں کے اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم پس نہ

أَمَّن لِّمُوسَىٰ إِذْ ذُرِّيَّتُهُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن

ایمان لائے موسیٰ پر سوائے چند نوجوانوں کے قوم سے اس کی بوج خوف کے

فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَن يُفْتِنَهُمْ ؕ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ

فرعون کے اور اسکے سرداروں کے کہ وہ دکھ پہنچائے گا انہیں اور یقیناً فرعون البتہ سرکش تھا

فِي الْأَرْضِ ؕ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُشْرَفِينَ ﴿۸۴﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ

زمین میں اور یقیناً وہ البتہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا اور کہا موسیٰ نے

يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِن كُنتُمْ

اے قوم میری اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم (اس کے)

مُشْرِكِينَ ﴿۸۵﴾ فَقَالُوا عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

فرما نبردار پس کہا انہوں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہم نے اے رب ہمارے نہ بنا ہمیں

فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸۶﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ

فتنہ (کا موجب) ظالم لوگوں کے لیے اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے

الْكَافِرِينَ ﴿۸۷﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَا

کافروں سے اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ اور اس کے بھائی کے کہ بناؤ

لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ

اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور بناؤ اپنے گھروں کو آنے سامنے اور

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَابْشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ

قائم کرو نماز اور خوشخبری دے مومنوں کو اور کہا موسیٰ نے

رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي

اے رب ہمارے یقیناً تو نے دی ہے (فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَارَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ؕ رَبَّنَا

زندگی درلی میں اے رب ہمارے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ برگشتہ کرتے ہیں (اوروں کو بھی) راہ سے تیری رب

اطْمَسَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُّدَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا
ہمارے تباہی لا اموال پر ان کے اور سخت کر دے دلوں کو ان کے پس نہ ایمان لائیں

حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۸۹﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ
یہاں تک کہ دیکھیں عذاب دردناک فرمایا یقیناً قبول کر لی گئی

دَعَاؤُكُمْ مَا فَاسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعْتِ سَبِيلَ الَّذِينَ
دُعا تم دونوں کی پس درست رہو اور نہ پیروی کرنا طریق کی ان لوگوں کے جو

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
نہیں جانتے اور گزار کر لے گئے ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۗ وَحَتَّىٰ
تو پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی سے یہاں تک کہ

إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۗ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي
جب آیا اسے غرق ہونے نے اس نے کہا ایمان لایا میں نہیں کوئی خدا سوائے اس کے کہ

آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۱﴾
ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں

الَّذِينَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۹۲﴾
کیا اب؟ حالانکہ یقیناً نامرمانی کی تو نے پہلے اور تھا تو مفسدوں میں سے

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۗ
پس آج بچائیں گے ہم تجھے بصورت جسم کی تیرے تاکہ ہونو ان لوگوں کیلئے جو پیچھے ہیں تیرے نشان

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَقَدْ
اور یقیناً بہت سے لوگ آیات ہماری سے البتہ غافل ہیں اور یقیناً

بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأً صَدِيقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ اعلیٰ درجہ کی اور دیں ہم نے ان کو

الطَّيِّبَاتِ ۗ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ طَرَاتٍ
پاک چیزیں پس نہ (اپس میں) اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آیا انکے پاس علم یقیناً

رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

رب تیرا فیصلہ کرے گا درمیان ان کے بروز قیامت اس میں کہ تھے جس میں

يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۲﴾ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

وہ اختلاف کرتے ہیں اگر ہے تو کسی شک میں اس سے جو اتارا ہم نے طرف تیری

فَسْئَلِ الَّذِينَ يَاقُرءُونَ الْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ

پس پوچھ لے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں (آسمانی) کتاب پہلے تجھ سے یقیناً یقیناً

جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۹۳﴾

آیا تیرے پاس حق طرف سے تیرے رب کی پس نہ ہوتو شک کرنے والوں میں سے

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا

اور نہ ہوتو ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی آیت کی اللہ کی درجہ ہو جائے گا تو

مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿۹۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ

نقصان پانہ والوں میں سے یقیناً وہ لوگ کہ ثابت ہو گئی ان پر بات

رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۹۵﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ

تیرے رب کی نہیں ایمان لائیں گے اور اگر چہ آئیں ان کے پاس سب نشان بیان تک کہ

يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۹۶﴾ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ

دیکھیں وہ عذاب دردناک پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لائی

فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ۚ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا

پھر نفع دیتا ہے اسے ایمان اس کا سوائے قوم یونس کے جب ایمان لائے وہ دور کر دیا ہم نے

عَنْهُمْ عَذَابَ الْخٰزِي فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَنَجَّيْنَاهُمْ

ان سے عذاب ذلت کا زندگی درلی میں اور سامان دیا ہم نے

إِلَىٰ حَيٰٓئِن ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ

ایک ذلت تک اور اگر چاہتا رب تیرا البتہ ایمان لاتے وہ جو زمین میں ہیں سب کے سب

جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۰﴾

اگلے کیا پھر تو مجبور کرے گا لوگوں کو کہ وہ ہو جائیں مومن

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ

حالاںکہ نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ ایمان لائے سوائے اجازت کے اللہ کی اور ڈالتا ہے

الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا

دکھو (کفر کی) پیدی ان لوگوں پر جو نہیں عقل کرتے تو کہدے دیکھ کیا کچھ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ

آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور نہیں کام آتے نشانات اور ڈرانے والی

عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۲﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِهِ

باتیں ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے پس نہیں وہ انتظار کرتے مگر مانند دنوں کے

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ

ان لوگوں کے جو گذر چکے پہلے ان کے تو کہدے پس انتظار کرو یقیناً میں بھی ساتھ تمہارے

مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۱۱۳﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا

انتظار کرنے والوں میں سے ہوں پھر ہم نجات دیتے رہے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے

كَذَلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۴﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا

اسی طرح فرض ہے ہم پر کہ نجات دیں مومنوں کو تو کہدے اے

النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ

لوگو اگر ہو تم شک میں متعلق میرے دین کے پس نہیں عبادت کرتا میں ان لوگوں کی

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي

جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو

يَتَوَقَّكُمْ ۚ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۵﴾ وَ

روح قبض کرنا ہے تمہاری اور حکم دیا گیا ہوں میں کہ ہو جاؤں مومنوں میں سے اور

أَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

یکہ قائم کر اپنی توجہ دین کے لیے متحد ہو کر اور نہ ہو تو ہرگز

الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۱۶﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ

مشرکوں میں سے اور نہ پکار سوائے اللہ کے جو نہ نفع دے تجھے

وَلَا يَضُرُّكَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۸﴾

اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تجھے پس اگر کیا تو نے (ایسا) تو یقیناً تو ظالموں میں سے ہوگا

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ،

اور اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دُور کر نیوالا اسے سوائے اس کے

وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ مَنْ

اور اگر ارادہ کرتے تیرے متعلق بھلائی کا تو نہیں کوئی لوٹانے والا فضل کو اس کے، وہ پہنچاتا ہے اس (فضل) کو جسے

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۹﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا

چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تو کہدے اے

النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ

لوگو یقیناً آچکا ہے تمہارے پاس حق طرف سے تمہارے رب کی سو جس نے ہدایت پائی

فَاتَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ


تو صرف ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا تو صرف گمراہ ہوتا ہے اسی

عَلَيْهَا ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۱۰﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ

(نفس) کے خلاف اور نہیں میں تم پر ہرگز نگہبان اور تو پیروی کر اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف تیری

وَأصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۱۱﴾

اور صبر کر بیان تک کہ فیصلہ کرے اللہ اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

امیں پڑھتا ہوں، ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الرَّسْمِ كَتَبَ أَحْكَمَتْ آيَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ

افلام۔ را۔ ایہ کتاب ہے پر حکمت بنائی گئی ہیں آیات اس کی پھر مفصل بیان کی گئی ہیں طرف سے

۱۱۱

حَكِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۱﴾ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ مَا تَنبِي لَكُمْ مِنْهُ

حکمت والے بہت خبر رکھنے والے کے یہ کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے یقیناً میں تمہارے لیے طرف سے اسکی

نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿۱۲﴾ وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا

ڈرانے والا اور نجات دینے والا ہوں اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے رب سے پھر توبہ کرو

إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ

حنوریں اسکے سامان دیکھا وہ تم کو اچھا میعاد مقررہ تک اور

يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ

دے گا ہر فضیلت والے کو فضیلت اس کی اور اگر تم پھر جاؤ تو میں ڈرتا ہوں

عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَّوْمٍ كَبِيرٍ ﴿۱۳﴾ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ

تم پر عذاب سے دن بڑے کے طرف اللہ کی لوٹنا ہے اور وہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۴﴾ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ

ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہ موڑتے ہیں سینے اپنے تاکہ

لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ وَالْأَحْيَيْنَ يَسْتَخَشُونَ رَبَّ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

وہ چھپ جائیں اس سے خبردار جب وہ اوڑھتے ہیں کپڑے اپنے وہ جانتا ہے

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۵﴾ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۶﴾

جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں یقیناً وہ خوب جانتے والا ہے (بات) سینوں والی کو



وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہے اس کا رزق

وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ

اور وہ جانتا ہے ٹھہرنے کی جگہ اس کی اور امانت رکھے جانے کی جگہ اس کی سب چیزیں کھلی کھلی کتاب

مُتَيْنٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

میں ہیں اور وہی ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین چھ

أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَبُ

دنوں میں اور تھا عرش اس کا پانی پر تاکہ آزمائے تم کو کہ کن تم میں سے زیادہ اچھا ہے

عَمَلَاءَ وَلَيْتَنَّ أَتَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ

عمل میں اور البتہ اگر کہے تو کہ یقیناً تم اٹھائے جانو گے ہو بعد موت کے

لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۸

ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں یہ مگر جادو کھلا کھلا اور

لَيْتَنَّ آخِرْنَا عَنَّهُمُ الْعَذَابُ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ

البتہ اگر پیچھے ڈال دیں ہم ان سے عذاب مدت معینہ تک ضرور کہیں گے وہ

مَا يَخِيسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَ

کون روکے ہوئے ہے اسے خبردار جس دن آئیگا (عذاب) انکے پاس نہیں وہ ہٹایا جانے والا ان سے اور

حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝۹ وَلَيْتَنَّ أَذَقْنَا

گھیرے گا ان کو وہ کہتے وہ ہنس پر ہنسی کرتے اور البتہ اگر چکھائیں ہم

الذُّنَّانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ

انسان کو اپنی طرف سے رحمت پھر کھینچ لیں ہم اسے یقیناً وہ البتہ نہایت مایوس (اور) ہمت

كَفُورًا ۝۱۰ وَلَيْتَنَّ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

ناشکر گزار ہوتا ہے اور البتہ اگر چکھائیں ہم اسے نعمت بعد دکھ کے پہنچا تھا اسے ضرور کہے گا وہ

ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝۱۱ إِلَّا الَّذِينَ

دُور ہو گئیں تکلیفیں مجھ سے یقیناً وہ البتہ بہت خوش ہوئیوا البتہ فخر کرے والا ہے سوا اسے ان لوگوں کے جنہوں نے

صَبْرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

صبر کیا اور کیں نیکیاں یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر

كَبِيرٌ ﴿۱۲﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ

بڑا پس شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے بعض وہ جو وحی کی جاتی ہے طرف تیری اور تنگ ہونوالا ہے ساتھ

بِهِ صَدْرُكَ ۚ إِنَّ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ

اس کے سینہ تیرا جبکہ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آتا راگیا اس پر خزانہ یا

جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

آیا ساتھ اس کے فرشتہ سوائے اسکے نہیں کہ تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر بات کا

رَكِيعٌ ﴿۱۳﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ

کار ساز ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے تو کہے پس لاؤ دس سورتیں

مِثْلِهِ مُفْتَرِيَةٌ ۚ وَأَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنْ

مانند اس کی خود گھڑی ہوئی اور بلاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو سوائے اللہ کے اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا

ہو تم سچے پس اگر نہ قبول کریں وہ (دیبان) تمہاری تو جان لو کہ صرف

أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ۚ وَأَنَّ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۵﴾

آتا راگیا ہے ساتھ علم کے اللہ کے اور یہ کہ نہیں کوئی خدا سوائے اس کے پس کیا تم فرمانبردار ہو گے

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ

جو شخص کہ ہے چاہتا زندگی دنیوی اور زینت اس کی پورے پورے دیں گے ہم ان کو

أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿۱۶﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

اعمال ان کے اس (دنیا) میں اور وہ اس میں نہ کم دیئے جائیں گے یہ لوگ وہ ہیں کہ

لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ

نہیں ہے ان کیلئے آخرت میں سوائے آگ کے اور بیسود ہو گیا جو کر چکے ہیں وہ اس میں اور

بَطُلٌ ۚ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَبِّهِ

باطل ہے جو تھے وہ کرتے کیا پس جو شخص ہے دلیل پر طرف سے رب اپنے کی

وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَٰحِمَةً ۗ

اور پیچھے آئیگا اسکے ایک گواہ اسی میں سے اور پہلے اس کے کتاب ہے موسیٰ کی امام اور

رَحْمَةً ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ

رحمت (وہ جھوٹا ہو سکتا ہے) یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اور جو انکار کرے گا اس کا

الْآخِرَابِ قَالُوا مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ

قوموں میں سے تو آگ وعدہ کی جگہ ہے اس کی پس نہ ہوتو روائے مخاطب شک میں اسکی طرف سے

إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸﴾

یقیناً وہ حق ہے طرف سے تیرے رب کی ولیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے اور

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ

کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ یہ لوگ پیش کئے جائیں گے

عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْآشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ

اپنے رب کے حضور اور کہیں گے گواہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر

أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

آگاہ ہو جاؤ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر وہ جو روکتے ہیں راہ سے

اللَّهِ وَيَبْتَغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۲۰﴾ أُولَٰئِكَ

اللہ کی اور چاہتے ہیں اسے ٹیڑھا اور وہ آخرت کے منکر ہیں یہ

لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ

نہیں ہیں عاجز کرنے والے زمین میں اور نہیں ہیں ان کے لیے سوائے

اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۗ مِ يَضَعُ لَهُمُ الْعَذَابَ ۗ مَا كَانُوا

اللہ کے کوئی دوست بڑھ چڑھ کر دیا جائیگا انہیں عذاب نہ ہوں گے

يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾ أُولَٰئِكَ

طاقت رکھتے سنتی اور نہ ہوں گے دیکھتے یہ لوگ وہ ہیں

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

جنہوں نے گھائے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور جاتا رہا ان سے جو تھے وہ

يَفْتَرُونَ ۲۲ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ۲۳

جھوٹ بانڈتے بے شک یقیناً وہ آخرت میں (ہاں) وہی گناہا پانے والے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ

يَقِينًا ۲۴ جولوگ ایمان لائے اور کہیں نیکیاں اور جھکے طرف

رَبِّهِمْ ۲۵ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۶

رب اپنے کی یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۲۷

مثال ان دو گروہوں کی مانند اندھے اور بہرے اور بینا اور سنے والے کی ہے

هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۲۸ فَلَا تَذَكَّرُونَ ۲۹ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا

کیا وہ دونوں برابر ہیں مثال میں کیا پس نہیں نصیحت پکڑتے تم اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے نوح کو

إِلَىٰ قَوْمِهِ ۳۰ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۳۱ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۳۲

طرف اکی قوم کی (اس نے کہا) یقیناً میں تمہارے لیے ڈرا نیوالا ہوں کھلا کھلا یہ کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ۳۳ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے متعلق عذاب سے دن دردناک کے پس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے

كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَزَّلَكَ

کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے کہ نہیں دیکھتے تمہارے سوائے ایک انسان اپنے جیسے کہ اور نہیں دیکھتے تمہارے

اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لِنَا بَادِيَ الرِّأْيِ ۳۴ وَمَا نَرَىٰ

پیروی کی ہے تیری سوائے ان لوگوں کے کہ جو رزق ہیں ہمیں سے سرسری نظریں اور نہیں دیکھتے ہم

لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَدَلٍ نَنْظُرُكُمْ لِذِٰبِنٍ ۳۵ قَالَ يَقَوْمِ

تمہارے لیے اپنے پر کوئی فضیلت بلکہ گمان کرتے ہیں ہم نہیں جھوٹے اس نے کہا اے قوم میری

أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَبِّي وَأَنْتُمْ رَحِمَةٌ

بتاؤ تو سہی اگر ہو میں دلیل پر طرف سے اپنے رب کی اور دی ہو اس نے مجھے رحمت

مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ ۳۶ أَنْزَلْنَاكُمْ مِّنْهَا وَأَنْتُمْ

طرف سے اپنی پس وہ پوشیدہ ہو گئی تم پر (تو تمہارا کیا حال ہو گا) کیا ہم جبراً واجب کر دیں گے تم پر (مانا) اگے ہو گئے

لَهَا كَرِهُونَ ﴿۲۹﴾ وَيَقُولُوا لَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَدَارِثِ

اسے ناپسند کرتے ہو اور اسے قوم میری نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں

أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا

اجیر میرا مگر ذمہ اللہ کے اور نہیں میں دھنکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے

إِنَّهُمْ مُلْقُوا لَهُ بِهَمٍّ وَلَكِنِّي أَرْسَلَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿۳۰﴾

یقیناً وہ طے والے ہیں رب اپنے سے ولیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایسے لوگ کہ تم جہالت کرتے ہو

وَيَقُولُوا مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا

اور اسے قوم میری کون مدد کریگا میری بمقابلہ اللہ کے اگر دھنکار دیا میں نے انھیں کیا پس نہیں

تَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا

نصیحت پر دتے تم اور نہیں میں کہتا تمہیں کہ پاس میرے خزانے ہیں اللہ کے اور نہیں

أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ

میں جانتا غیب اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں کہتا ہوں متعلق ان لوگوں کے

تَزَدَّرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ

جن کو حقیر سمجھتی ہیں آنکھیں تمہاری کہ ہرگز نہیں دیکھا انہیں اللہ کوئی بھلائی اللہ زیادہ جانتا ہے

بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنْ إِيَّاكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۲﴾ قَالُوا

اسے جو دلوں میں ہے ان کے یقیناً میں تب تو اللہ ظالموں میں سے ہوں گا انہوں نے کہا

يُنُوحٌ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا

اے نوح یقیناً جھگڑا تو ہم سے پس بہت کیا تو نے جھگڑا ہم سے پس لاہمارے پاس وہ جس کا تو

تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ

وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر ہے تو سچوں میں سے اس نے کہا صرف لائے گا تمہارے پاس اسے

اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۴﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ

اللہ اگر چاہا اس نے اور نہیں تم ہرگز عاجز کرنے والے اور نہ نفع دے گا تم کو

نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ

نصیحت کرنا میرا اگر ارادہ کروں میں کہ نصیحت کروں تم کو اگر ہے اللہ چاہتا کہ

أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۗ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾ آم

گمراہ کرے تم کو وہ رب ہے تمہارا اور طرف اس کی تم لوٹاٹے جاؤ گے کیا

يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلِيَ إِجْرَامِي

وہ کہتے ہیں کہ گھڑ دیا اس نے اسے تو کد سے اگر گھڑ دیا ہے میں نے اسے تو مجھ پر ہے جرم میرا

وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَأَوْحِيَ إِلَيُّنَا أَنَّهُ

اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو اور وحی کی گئی طرف نوح کی کہ بات یہ ہے کہ

لَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنَ قَوْمِكَ إِلَّا أَلَمٌ مِّنْ قَدِّمِينَ ۚ فَلَا تَبْتَئِسْ

بگزر نہیں ایمان لانے کا تیری قوم میں سے سوائے اس کے جو ایمان لا چکا پس نہ بے چین ہو

بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۷﴾ وَأَضْمَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ وَ

اس پر جو ہیں وہ کرتے اور بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور

وَحِينًا ۚ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ

ہماری وحی کے مطابق اور نہ مخاطب ہو مجھ سے بارہ میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا یقیناً وہ

مُغْرَقُونَ ﴿۳۸﴾ وَيَضْمَعُ الْفُلْكَ تَدْوِكَ ۚ وَمَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ

غرق کئے جانے والے ہیں اور وہ بنا تا تھا کشتی اور جب کبھی گذرتے اس پر سردار

مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَمِنَّا

اس کی قوم میں سے ہنسی کرتے وہ اس سے وہ کہتا اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم سے تو ہم

نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۳۹﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَمَنْ

ہنسی کریں گے تم سے جیسا کہ تم ہنسی کرتے ہو پس عنقریب تم جان لو گے کون ہے

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِذَابَ مُّكِيمٍ ﴿۴۰﴾

وہ کہ آئے گا اسکے پاس عذاب جو ذلیل کرے گا اسے اور اترے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۚ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ

یہاں تک کہ جب آیا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے کہا ہم نے سوار کر لے اس میں

كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اپنے گھروالوں کو سوائے اس شخص کے کہ جاری ہو چکا ہے اس پر پہلا فرمان

وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۱﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا

اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے اس کے ساتھ مگر چند لوگ اور کہا اس نے سوار ہو جاؤ

فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبًا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ

اس میں ساتھ نام اللہ کے ہے چلنا اس کا اور ٹھہرنا اس کا یقیناً رب میرا البتہ بہت بخشنے والا

رَّحِيمٌ ﴿۳۲﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَدْوَىٰ

بہت نرم کر نوا لہے اور وہ چلتی تھی ان کے ساتھ موج میں پہاڑوں کی طرح اور پکارا

نُوحٌ بِأَبْنِهِ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا

نوح نے اپنے بیٹے کو اور تھا وہ ایک طرف اے بیٹے میرے سوار ہو جاؤ ساتھ ہمارے اور نہ

تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعَصِمُنِي

ہو ساتھ کافروں کے اس نے کہا ضرور پناہ لوں گا میں طرف کسی پہاڑ کے جو بچائے گا مجھے

مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ

پانی سے کہا اس نے نہیں بچانے والا کوئی آج اللہ کے حکم سے مگر جس پر

رَّحِمَةٌ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿۳۴﴾

رحم کیا اس (اللہ) نے اور حائل ہو گئی درمیان انکے موج بس ہو گیا وہ غرق کئے ہوؤں میں سے

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأُ أَقْلِبِي وَعِيشِي

اور کہا گیا اے زمین نگل جا پانی اپنا اور اے آسمان تم جا اور خشک ہو گیا

الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا

پانی اور فیصلہ کیا گیا معاملہ کا اور وہ ٹھہر گئی جو دی پر اور کہا گیا ہلاکت ہو

لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي

لوگوں کے لیے ظلم کر نوا لوں کے لئے اور پکارا نوح نے اپنے رب کو پس کہا اے رب میرے یقیناً بیٹا میرا

مِنَ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿۳۶﴾

اہل میں سے ہے میرے اور یقیناً وعدہ تیرا سچا ہے اور تو بہت بہتر فیصلہ کر نوا لہے تمام فیصلہ کر نوا لوں میں سے

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ

فرمایا اے نوح یقیناً وہ نہیں ہے اہل میں سے تیرے یقیناً وہ عملِ مجسم ہے غیر صالح

فَلَا تَسْأَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ

پس نہ پوچھ مجھ سے وہ کہ نہیں ہے تیرے لیے جس کا علم یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ (نہ)

تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ

ہوتوں جاہلوں میں سے اس نے کہا اے رب میرے یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ

أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۗ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي

مانگوں تجھ سے وہ کہ نہیں ہے مجھ جس کا علم اور اگر نہ بخشے تو مجھے اور رحم کرے مجھ پر

أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا

ہو جاؤں گا گھانا پانے والوں میں سے کہا گیا اے نوح! اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے

وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۗ وَأُمَّمٌ

اور (ساتھ) برکتوں کے تجھ پر اور قوموں پر ان میں سے جو ساتھ ہیں تیرے اور کچھ قومیں ہیں کہ

سَمِعَتْهُمْ لَمَنَّا أَنَّهُمْ فِي الْآيَاتِ كَذِبُونَ ۚ

ضرور فائدہ پہنچائیں گے ہم انہیں پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک یہ

مِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۗ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ

خبروں سے ہے غیب کی ہم وحی کرتے ہیں جسے تیری طرف نہ تھا تو جانتا انہیں تو

وَلَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِ هَذَا ۗ فَاصْبِرْ ۗ إِنَّ الْعَاقِبَةَ

اور نہ قوم تیری پہلے اس سے پس صبر کر یقیناً انجام

لِلْمُتَّقِينَ ۗ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ مَا عَبَدُوا

متقیوں کیلئے ہے اور بھیجا ہم نے (طرف عادی بھائی ان کا ہود اس نے کہا اے قوم میری عبادت کرو

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۗ إِنَّكُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۚ

اللہ کی نہیں تمہارے لیے کوئی خدا سوائے اس کے نہیں تم مگر افتراء کرنے والے

يَقَوْمِ ۗ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي

اے قوم میری نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں اجر میرا مگر اس پر جس نے

فَطَرَنِي ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

پیدا کیا مجھے کیا پس نہیں عقل کرتے تم اور اے قوم میری بخشش مانگو اپنے رب سے

ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا
 پھر بھونک کر اس کی بھیجے گا وہ بادل تم پر بہت برسے والا

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿۵۳﴾
 اور بڑھائے گا تم کو قوت میں ساتھ قوت کے تمہاری اور نہ پھر جاؤ مجرم ہو کر

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
 کہا انہوں نے اے ہود نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی دلیل اور نہیں ہم ہرگز چھوڑنے والے

الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۴﴾ إِنَّ
 اپنے معبودوں کو کہنے سے تیرے اور نہیں ہم تجھ پر ہرگز ایمان لائے ہوئے نہیں

تَقُولُ إِلَّا آعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي
 ہم کہتے مگر (یہ کہ) پہنچائی ہے تجھے کسی معبود نے ہمارے بڑائی اس نے کما یقیناً میں

أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۵۵﴾
 گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ کو اور گواہ رہو تم کہ میں بیزار ہوں اس سے جسے تم شریک بناتے ہو

مَنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿۵۶﴾ إِنِّي
 سوائے اس کے پس تدبیر میں کر دو مجھ سے سب کے سب پھر نہ ہمت دو مجھے یقیناً میں نے

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ
 بھروسہ کیا اللہ اپنے رب اور تمہارے رب پر نہیں کوئی جاندار مگر وہ (خدا)

أَخَذَ بِنَاصِيَتَيْهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۷﴾ فَإِنْ
 پکڑے ہوئے ہے چوٹی اس کی یقیناً رب میرا راہ سیدھی پر ہے پس اگر

تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَ
 تم پھر جاؤ تو یقیناً پہنچا چکا ہوں تم کو وہ کہ بھیجا گیا ہوں ساتھ جس کے طرف تمہاری اور

يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا
 جانشین بنا دے گا رب میرا کوئی قوم سوائے تمہارے اور نہ نقصان پہنچا سکو گے تم سے کچھ بھی

إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۵۸﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا
 یقیناً رب میرا ہر بات پر نگراں ہے اور جب آیا حکم ہمارا نجات دی ہم نے

هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ

ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اسکے ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے اور نجات دی ہم نے انہیں

مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۶۱﴾ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

عذاب سخت سے اور یہ عادتھے انکار کیا انہوں نے آیات کا اپنے رب کی

وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۶۲﴾

اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی اور پیروی کی حکم کی ہر ظالم سرکش کی اور

اتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَّا

ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور بروز قیامت خبردار

إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَّا بُعْدَ لِلْعَادِ قَوْمٍ هُوَ جَبَّارٌ

یقیناً عادنے کفر کیا اپنے رب کا خبردار ہلاکت ہے واسطے عاد کے جو قوم سے ہود کی تھے

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور رہجیا ہم نے طرف ثمود کی بھائی ان کا صالح کہا اس نے اسے قوم میری عبادت کرو اللہ کی

مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ

نہیں تمہارے بے کوئی خدا سوائے اسکے اس نے پیدا کیا تم کو زمین میں اور

اسْتَعْمَرَ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ

آباد کیا تم کو اس میں پس بخشش مانگو اس سے پھر رجوع کرو طرف اس کی یقیناً

رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿۶۳﴾ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا

رب میرا قریب ہے قبول کرنیوالا ہے انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تھا تو ہم میں

مَرْجُوعًا قَبْلَ هَذَا أَتَنهِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

امید کیا ہوا پہلے اس سے کیا تو روکتا ہے ہمیں اس کے عبادت کریں ہم جس کی عبادت کرتے تھے باپ دادا ہمارے

وَأِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿۶۴﴾ قَالَ

اور یقیناً ہم البتہ شک میں ہیں اس سے تو بلاتا ہے ہمیں طرف جس کی بے چین کرنیوالے (شک میں) اس نے کہا

يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي

اے قوم میری تاؤ تو سہی اگر ہو میں دلیل پر طرف سے اپنے رب کی اور دی ہو اس نے مجھے

مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا

اپنی طرف سے رحمت پس کون مدد کرے گا میری مقابلہ میں اللہ کے اگر نافرمانی کی میں نے اگلی پس نہیں

تَزِيدُ وَنَحْيِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿۶۳﴾ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ

بڑھاتے تم مجھے سوائے نقصان کے اور اسے قوم میری یہ اونٹنی ہے اللہ کی

لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا

تمہارے لیے نشان ہیں چھوڑو اسے کھاٹے زمین میں اللہ کی اور نہ پہنچاؤ اسے

بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿۶۴﴾ فَعَقَرُوْهَا

کوئی بُرائی اور نہ پکڑے گا تم کو عذاب جلد آنے والا پس نہ لگیں گاٹ دیں انہوں نے

فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ

اکل پس فرمایا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں تین دن یہ وعدہ

غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴿۶۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا

نہیں جھوٹا پس جب آیا حکم ہمارا نجات دی ہم نے صالح کو اور

الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ

ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اسکے ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے اور ذلت سے اس دن کی

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۶۶﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

یقیناً رب تیرا ہی توت والا عزت والا ہے اور پھڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا

الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿۶۷﴾ كَأَنَّ لَمْ

عذاب نے پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گویا کہ نہ

يَخْتَنُوا فِيهَا إِلَّا إِنْ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا

بے تھے ان میں خبردار یقیناً تمود نے کفر کیا اپنے رب کا خبردار ہلاکت ہے

لِتَمُودَ ﴿۶۸﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى

واسطے تمود کے اور یقیناً یقیناً لائے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوشخبری

قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلِّمْ فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ

انہوں نے کہا ہم سلام بھیجتے ہیں اس نے کہا سلام ہو پھر نہ دیر کی کہ لے آیا پھر

حَنِيزٍ ۴۰ فَلَمَّا رَاَ اَيِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسَلْنَا اِلَيْكَ

بگناہوا پس جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ نہیں پہنچتے طرف اس کی ادباً سمجھا انہیں اور

محمول کیا طرف سے ان کی خوف انہوں نے کہا نہ ڈر یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں طرف

قَوْمِ لُوطٍ ۴۱ وَاَمْرًا تُهَاقِمُهُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا

توم لوط کی اور بیوی اس کی کھڑی تھی پس وہ ہنس پڑی پس خوشخبری دی ہم نے

بِاسْحَاقَ وَدَاوُدَ ۚ وَرَآءُ اِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ۴۲ قَالَتْ يَوَيْلَىٰ

اسے اسحق کی اور پیچھے اسحق کے یعقوب کی اس نے کہا اے انیسویں مجھ پر

ءَالِدٍ وَاَنَا عَجُوزٌ ۚ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ

کیا جنوں کی میں حلالہ میں بڑھیا ہوں اور یہ خاوند میرا بوڑھا ہے یقیناً یہ البتہ بات ہے

عَجِيبٌ ۴۳ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتُ اللّٰهِ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسَلْنَا اِلَيْكَ

عجیب انہوں نے کہا کیا تعجب کرتی ہے تو حکم پر اللہ کے رحمت اللہ کی اور

بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۚ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۴۴

برکتیں اس کی تم پر ہیں اے خاندان والو یقیناً وہ خوبوں والا بزرگی والا ہے

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرُّوْعُ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسَلْنَا اِلَيْكَ

پس جب جاتا رہا ابراہیم سے ڈر اور آئی اس کے پاس خوشخبری

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۴۵ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ

وہ جھگڑنے لگا ہم سے بارے میں قوم لوط کے یقیناً ابراہیم البتہ بردبار درد مند

مُنِيْبٌ ۴۶ يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَن هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ

جھکنے والا تھا اے ابراہیم اعراض کر اس سے یقیناً بات یہ ہے کہ فرود آ گیا ہے

اَمْرٌ رَّبِّكَ ۚ وَاِنَّهٗمُ اتٰتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۴۷

حکم تیرے رب کا اور یقیناً وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے انہیں عذاب نہ لوٹایا جانے والا اور

لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ

جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) لوط کے پاس ناخوش ہوا وہ ان سے اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے

ذَرَعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿۸۵﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ

دل میں اور کہا یہ دن سخت ہے اور آئے اسکے پاس لوگ اس کے

يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ، وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

دوڑتے ہوئے طرف اس کی اور پہلے سے تھے وہ کرتے بدیاں

قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

اس نے کہا اے قوم میری یہ بیٹیاں ہیں میری یہ بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے پس ڈرو اللہ سے

وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي هَ الْيَسَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿۸۶﴾

اور نہ ذلیل کر دیجئے مہمانوں میں میرے کیا نہیں تم میں سے کوئی آدمی ہدایت والا

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ، وَإِنَّكَ

انہوں نے کہا یقیناً یقیناً جان لیا ہے تو نے نہیں ہمارے لیے بیٹیوں میں تیری کوئی حق اور یقیناً تو

لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿۸۷﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي

البتہ جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اس نے کہا کاش میرے لیے مقابلہ میں تمہارے طاقت ہوتی یا جگہ پڑتا میں

إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿۸۸﴾ قَالُوا لَوْ لَوْطٌ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن

طرف سہارے مضبوط کی انہوں نے کہا اے لوط یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے ہرگز نہیں

يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ

وہ پیچیں گے طرف تیری پس لے چل اپنے گھر والوں کو حصہ میں رات کے اور نہ مڑ کر دیکھے

مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرًا تَكُنَّ مِنْهُ مُصِيبًا مَا آصَابَهُمْ

تم میں سے کوئی سوائے بیوی کے تیری یقیناً بات یہ ہے کہ پہنچنے والا ہے اسے جو پہنچے گا انہیں

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ هَ الْيَسَّ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿۸۹﴾

یقیناً وعدہ کا وقت ان کا صبح ہے کیا نہیں صبح قریب

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا

پس جب آیا حکم ہمارا کر دیا ہم نے اوپر کا حصہ اس کا نیچے کا حصہ اس کا اور برساتے ہم نے

عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ هَ مِّنْضُودٍ ﴿۹۰﴾ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ

اس پر پتھر سکروں سے تہہ بہ تہہ (جو) نشان زدہ دتھے) پاس

رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِمَعِيَدٍ ﴿۸۶﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ

تیسے رب کے اور نہیں وہ (بستی) ان ظالموں (کفار) سے ہرگز دور اور (بھیجا ہم نے) طرف مدین کی

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ

بھائی ان کا شعیب اس نے کہا اے قوم میری عبادت کرو اللہ کی نہیں تمہارے لیے کوئی

إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي

خدا سوائے اس کے اور نہ کم کرو ماپ اور تول یقیناً میں

أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۷﴾

دیکھتا ہوں تم کو خوشحال میں اور یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے متعلق عذاب سے دن گھرنے والے کے

وَيَقَوْمِ أَذُوقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا

اور اے قوم میری پورا کرو ماپ اور تول ساتھ انصاف کے اور نہ کم دو

النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۸۸﴾

لوگوں کو چیزیں ان کی اور نہ فساد کرو زمین میں مفسدین کر

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ وَمَا

باقی رکھا ہوا اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایماندار اور نہیں

أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۸۹﴾ قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُوكَ

ہوں میں تم پر محافظ انہوں نے کہا اے شعیب! کیا نماز تیری

تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ تَفْعَلَ فِي

حکم دیتی ہے تجھے کہ چھوڑ دیں ہم جس کی عبادت کرتے تھے باپ دادا ہمارے یا یہ کہ کریں ہم

أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۚ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿۹۰﴾

مالوں میں اپنے جو چاہیں یقیناً تو البتہ بردبار ہدایت والا ہے

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَ

اس نے کہا اے قوم میری کیا تاؤ تو سہی اگر ہوا میں دلیل پر طرف سے رب کے اپنے اور

رَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ

اس نے رزق دیا مجھے طرف سے اپنی رزق اچھا اور نہیں ارادہ کرتا میں کہ مخالفت کروں تمہاری

مَا أَنهٰكُمْ عَنْهُ ۖ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ

اس میں کہ منع کرتا ہوں تم کو اس سے نہیں چاہتا میں مگر اصلاح جہاں تک طاقت رکھتا ہوں میں

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۸۹﴾

اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے اس پر بھروسہ کیا میں نے اور طرف ای کی بھکتا ہوں میں

وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ۖ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا

اور اے قوم میری نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی میری اس پر کہ پہنچے تم کو مانند اس کی جو

أَصَابَ قَوْمٌ نُوحًا ۖ أَوْ قَوْمَ هُودٍ ۖ أَوْ قَوْمَ ضَلِيحٍ ۚ وَمَا

پہنچا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو اور نہیں

قَوْمٌ لُّوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿۹۰﴾ ۚ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ

ہے قوم لوط تم سے ہرگز دور اور بخشش مانگو رب سے اپنے پھر

تُؤْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ ﴿۹۱﴾ ۚ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا

توبہ کرو اس کے حضور یقیناً رب میرا بہت رحم کرنے والا ہے کہ انہوں نے اے شعیب نہیں

نَفَقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ ۚ وَإِنَّا لَنَرٰكَ فِينَا ضَعِيْفًا

سمجھتے ہم بہت کچھ اس سے جو تو کہتا ہے اور یقیناً ہم البتہ سمجھتے ہیں تجھے اپنے میں ضعیف (کمزور)۔

وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿۹۲﴾

اور اگر نہ ہوتا قبیلہ تیرا البتہ پتھراؤ کرتے ہم تجھے اور نہیں ہے تو ہم پر ہرگز غالب

قَالَ يَقَوْمٌ أَرَهْطِي ۖ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَاتَّخَذْتُ مَمُوَّةً

اس نے کہا اے قوم میری کیا قبیلہ میرا زیادہ معزز ہے تم پر بنسبت اللہ کے اور نبیلا ہے تم نے اُسے

وَرَأٰكُمْ ظَهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۹۳﴾ ۚ وَ

پہچے اپنی پیٹھ کے پھینکا ہوا یقیناً رب میرا اُسے جو تم کرتے ہو گھیرنے والا ہے اور

يَقَوْمٌ أَعْمَلُوا عَلٰی مَا كُنْتُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ

اے قوم میری عمل کرو جگہ پر اپنی یقیناً میں عمل کرنے والا ہوں عنقریب تم جان لو گے

مَنْ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَ

کہ کون ہے کہ آویگا اُسے عذاب جو ذلیل کرے گا اُسے اور کون ہے جو جھوٹا ہے اور

اَزْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا

انتظار کرو یقیناً میں ساتھ تمہارے انتظار کروں والا ہوں اور جب آیا حکم ہمارا نجات دی ہم نے

شُعَيْبًا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَاَخَذَتِ

شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اسکے ساتھ رحمت کے طرف سے اپنی اور پکڑا

الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ

ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا عذاب نے پس وہ ہو گئے گھروں میں اپنے

جَثْمِيْنَ ﴿۹۴﴾ كَانَتْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا اَلَا بَعْدَ الْمَدْيَنَ

گھٹنوں کے بل گویا کہ نہ بسے تھے ان میں خبردار ہلاکت ہے واسطے مدین کے

كَمَا بَعَدَتْ ثَمُوْدُ ﴿۹۵﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيٰتِنَا

جیسا کہ ہلاک ہوئے ثمود اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ آیات کے اپنی

وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۹۶﴾ اِنِّي فِرْعَوْنَ وَمَلَٓئِهٖ فَاتَّبِعُوْا اَمْرَ

اور غلبہ کھلے کے طرف فرعون اور سرداروں کے اسکے پس پیروی کی انہوں نے حکم کی

فِرْعَوْنَ ؕ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿۹۷﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ

فرعون کے اور نہ تھا حکم فرعون کا ہرگز درست آگے آگے ہوگا قوم کے اپنی

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاُوْرَدَهُمُ النَّارَ وَاَيُّسُ الْوٰرِدُ

بروز قیامت پس وارد کرے گا انہیں آگ پر اور بڑا ہے گھاٹ

الْمَوْرُوْدُ ﴿۹۸﴾ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

جس پر لاکھڑا کیا گیا اور پیچھے لگانے لگئی انکے اس (دنیا) میں لعنت اور بروز قیامت

يُسُّ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿۹۹﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى

کیا ہی بڑی ہے بخشش جو بخشتی گئی یہ خبریں ہیں بستیوں کی

نَقَضَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيْدٌ ﴿۱۰۰﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَا

ہم بیان کرتے ہیں اُسے تجھ پر بعض ان میں سے قائم ہیں اور (بعض) کٹی ہوئی ہیں اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر و

لٰكِن ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي

لیکن ظلم کیا انہوں نے جانوں پر اپنی پس نہ کفایت کی ان سے معبودوں نے ان کے جنہیں

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ اِلٰهَكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سَخَّرَ لَكُمْ سُلٰطٰنَكُمْ فَاَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ

۹۳

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَ

وہ پکارتے تھے سوائے اللہ کے کچھ بھی جبکہ آیا حکم رب کا تیرے اور

مَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۗ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا

نہ بڑھایا (معبودوں نے) انکو سوائے ہلاک کرنے کے اور اسی طرح پکڑتا ہے رب کی تیرے جب

أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۗ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۗ

پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں یقیناً پکڑ اس کی دردناک ہے سخت

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۗ ذَلِكَ

یقیناً اس میں البتہ نشان ہے اس شخص کے لیے جو ڈرا عذاب آخرت سے یہ

يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۗ

دن ہے جمع کئے جانے والے ہیں اس کے لیے لوگ اور یہ دن حاضر کیا جانے والا ہے

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ۗ يَوْمَ مَرَاتٍ لَا تَكَلَّمُ

اور نہیں ہم پوچھے کرتے اُسے مگر واسطے میعاد مقررہ کے جس روز وہ (دن) آئیگا نہیں کلام کرے گا

نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ

کوئی شخص مگر اجازت سے اس کی سوا بعض ان میں سے بد بخت ہونگے اور بعض نیک بخت پس وہ لوگ جو

شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۗ خَلِيدِينَ

بد بخت ہوئے سوا آگ میں ہوں گے انکے لیے اس میں چلانا اور اونچی آواز سے رونا ہے وہ پڑنے والے ہیں

فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۗ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۗ

اس میں جب تک رہیں گے آسمان اور زمین مگر جو چاہے رب تیرا

اِنَّ رَبَّكَ فَعٰلٌ لِّمَا يُرِيدُ ۗ وَاَمَّا الَّذِينَ سُجِدُوْا فِى

یقیناً رب تیرا کرنے والا ہے اُسے جو ارادہ کرتا ہے اور وہ لوگ جو نیک بخت کئے گئے سو

الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۗ

جنت میں ہونگے وہ پڑنے والے ہیں اس میں جب تک رہیں گے آسمان اور زمین

اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۗ عَطَاءٌ غَيْرٌ مُّجْدُوْدٍ ۗ فَلَا تُكْرِفِي

مگر جو چاہے رب تیرا بخشش ہے نہ کال جانے والی پس نہ ہوتی

مَرِيَّةٌ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ

شک میں اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ نہیں یہ عبادت کرتے مگر جیسا کہ عبادت کرتے تھے

آبَاءُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَنَا لَمُوقُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ

باپ دادا ان کے پہلے سے اور یقیناً ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں انہیں حصہ ان کا بغیر

مَنْقُوصٍ ۱۱۰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ط

کئی کے اور یقیناً یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو کتاب پس اختلاف کیا گیا اس میں

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ

اور اگر نہ ہوتی بات گذر چکی طرف سے تیرے رب کے فیصلہ کیا جاتا درمیان ان کے اور یقیناً وہ

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۱۱۱ وَإِنَّ كَلَّا لَمَلِيُوفِينَ لَهُمْ

البتہ شک میں ہیں اس میں تردد والے اور یقیناً ہر ایک کو البتہ ضرور پورا پورا دیکھا انہیں

رَبِّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۱۱۲ فَاسْتَقِمْ

رب تیرا اعمال ان کے یقیناً وہ اس کی جو وہ کرتے ہیں خوب خبر رکھنے والا ہے پس قائم رہ تو

كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا

جیسا کہ حکم دیا گیا ہے تجھے اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی ساتھ تیرے اور نہ زیادتی کرو یقیناً وہ اسے جو

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۳ وَلَا تَزْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے اور نہ جھکو طرف ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ

پس نہ چھوٹے گی تم کو آگ اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست پھر

لَا تُنصِرُونَ ۱۱۴ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا

نہ مدد دیتے جاؤ گے تم اور قائم کر نماز دونوں حصہ میں دن کے اور حصوں میں

مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ

رات کے یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں بدیوں کو

ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَرِهُوا ۱۱۵ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

نسیحت ہے واسطے نسیحت حاصل کرنے والوں کے اور صبر کر پس یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اجر

الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۶﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ

احسان کرنے والوں کا پس کیوں نہیں ہوئے قوموں میں سے جو پہلے تھیں تم سے

أُولَؤَابِقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا

شعور والے جو روکتے فساد سے زمین میں مگر تھوڑے سے

مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا

ان لوگوں میں سے جسکو نجات دی ہم نے ان میں سے اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس راہ کی کہ وہ عیش و عشرت دینے

فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۱۷﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ

کے جس میں اور تھے وہ مجرم اور نہیں ہے رب تیرا کہ ہلاک کرے

الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْرِحُونَ ﴿۱۱۸﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ

بستیوں کو ظلم سے جسکو باشندے اسکے اصلاح کرنے والے ہوں اور اگر چاہے رب تیرا

لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿۱۱۹﴾

ابتدا کر دے لوگوں کو گروہ ایک اور ہمیشہ رہیں گے وہ اختلاف کرنے والے

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ

مگر جس پر رحم کیا رب نے تیرے اور اس لیے پیدا کیا ان کو اور پوری ہو گئی

كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

بات رب کی تیرے کو ضرور بھریں گائیں جہنم کو جنوں اور آدمیوں

أَجْمَعِينَ ﴿۱۲۰﴾ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ

سب سے اور جو کچھ بیان کرتے ہیں ہم تجھ پر خبروں سے رسولوں کی

مَا نُنشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ

وہ ہے کہ مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے دل کو تیرے اور تیرے پاس آیا ہے اس میں حق

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا

اور وعظ اور نصیحت متقیوں کے لیے اور تو کہدے ان لوگوں کو جو نہیں

يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ إِتِنَا عَمَلُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَ

ایمان لاتے کہ عمل کرو جسکو پر اپنی یقیناً ہم عمل کرنے والے ہیں اور

اَنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَبِاللّٰهِ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ
انتظار کرو یقیناً ہم انتظار کرنے والے ہیں اور اللہ کیلئے ہے پوشیدہ آسمانوں اور

الْاَرْضِ وَرَالَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
زمین کا اور طرف اس کی لوٹنا جائیگا معاملہ سب کا پس عبادت کرو اس کی اور بھروسہ کرو

عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

اس پر اور نہیں رب تیرا ہرگز غافل اس سے جو تم کرتے ہو

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الَّذِیْ تِلْكَ آیٰتِ الْکِتٰبِ الْمُبِیْنِ ﴿۲﴾ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ
انف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب کھلی کھلی کی یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اسے

قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۳﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ
قرآن عربی میں تاکہ تم عقل کرو ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر

اَحْسَنَ الْقِصَصِ بِمَا اَوْحٰنَا اِلَیْكَ هٰذَا الْقُرْءٰنَ
بہترین بیان اس لیے کہ وحی کیا ہم نے وہ تیری یہ قرآن

وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ ﴿۴﴾ اِذْ قَالَ یُوْسُفُ
اور اگرچہ تھاتو پہلے اس کے البتہ نادانوں میں سے جب کہا یوسف نے

لَا یُبٰیہِ یَا بَتِّ اِنِّیْ رَاٰیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسُ
اپنے باپ کو اسے باپ میرے یقیناً دیکھے میں نے گیارہ ستارے اور سورج

وَ الْقَمَرَ رَاٰیْتُهُمْ لِیْ سٰجِدِیْنَ ﴿۵﴾ قَالَ یُبٰیہِ لَا تَقْصُصْ
اور چاند دیکھا میں نے انھیں میرے لیے سجدہ کرنے والے ہیں اس نے کہا اے بیٹے میرے نہ بیان کر

رُءِيََاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ ۖ وَاللَّكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ

خواب اپنی بھائیوں پر درندہ تدبیر کرے گی تیرے لیے کوئی تدبیر یقیناً شیطان

لِلَّذِينَ نَسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۖ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ

انسان کا دشمن ہے کھلا کھلا اور اسی طرح چنے گا رب تیرا تجھے اور

يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُنَّعْمَتَهُ عَلَيْكَ

کھائے گا تجھے تعبیر باتوں کی اور پوری کرے گی نعمت اپنی تجھ پر

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ

اور خاندان یعقوب پر جیسا کہ پوری کی اس نے وہ (نعمت) باپ دادا پر تیرے پہلے سے

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ لَقَدْ

ابراہیم اور اسحق پر یقیناً رب تیرا خوب جاننے والا حکمت والا ہے یقیناً یقیناً

كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّاعِلِينَ ۗ إِذْ

ہیں یوسف اور بھائیوں میں اس کے نشانات پلوچنے والوں کے لیے جبکہ

قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ

کہا انہوں البتہ یوسف اور بھائی اس کا زیادہ پیارے ہیں باپ کو ہمارے بنسبت ہمارے اور ہم

عُصَبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۖ ۗ اِقْتُلُوا يُوسُفَ

ایک جماعت ہیں یقیناً باپ ہمارا کھلی گراہی میں ہے قتل کرو یوسف کو

أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ

یا پھینک دو کسی زمین میں خالی ہو جائیگی تمہارے لیے توجہ باپ کی تمہارے اور ہو جانا

بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِينَ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ

بعد اس کے نیک لوگ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے نہ قتل کرو یوسف کو

وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ۗ إِنَّ

اور ڈال دو اسے اندھے کنویں میں اٹھایگا اسے کوئی قافلہ ال

كُنْتُمْ فٰعِلِينَ ۗ ۗ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ

ہو تم کرنے والے انہوں نے کہا اے باپ ہمارے کیا ہوا تجھے نہیں این سمجھتا میں بارہ میں یوسف کے

وَاتَاكُهُ لَنَا صِحْوٰنَ ۱۲ اَرْسَلَهُ مَعَنَا عَدَايْرَتَهُ وَ

حالا کہ یقیناً ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں بیچ اُسے ساتھ ہمارے کل کھادے اور

يَلْعَبُ وَرَاتَاكُهُ لِحِفْظُوْنَ ۱۳ قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِيْ اَنْ

کھیلے اور ہم اس کی ابتہ حفاظت کرنیوالے ہیں اس نے کہا یقیناً ابتہ عم میں ڈالتی ہے مجھے (یہ بات)

تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ

لے جاؤ تم اسے اور میں ڈرتا ہوں اس سے کہ کھالے اسے کوئی بھیڑیا جبکہ تم اس سے

غَفِلُوْنَ ۱۴ قَالُوْا لَيْنَ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا

غافل ہو انہوں نے کہا ابتہ اگر کھالے اسے بھیڑیا جبکہ ہم ایک جماعت ہیں یقیناً

اِذَا الْخٰسِرُوْنَ ۱۵ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ

ہم تو بتہ ابتہ گھانا پائیوالے ہیں سو جب (ایسا ہوا کہ) لے گئے اسے اور انہوں نے اتفاق کیا اس پر کہ ڈال دیں اسے

فِيْ غِيْبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهٖ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِ هٰذَا

اندھے کنویں میں اور وحی کی ہم نے طرف اسکی ابتہ ضرور آگاہ کر دیگا تو انہیں معاملہ پر ان کے اس

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۱۶ وَاَبَاؤُهُمْ عَشَاءٌ يَّبْكُوْنَ ۱۷ قَالُوْا

اور وہ نہ جانتے ہوں گے اور وہ آئے باپ کے پاس اپنے عشاء کے وقت روتے ہوئے انہوں نے کہا

يٰۤاَبَانَا اِنَّا ذٰهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا

اے باپ ہمارے یقیناً گئے ہم ایک دوسرے سے بڑھتے ہوئے اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو پاس سامان کے اپنے

فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۱۸

پس کھایا اسے بھیڑیے نے اور نہیں ہے تو ماننے والا ہماری بات اور اگرچہ بولیں ہم سچے

وَاَجَاءُوْا عَلٰی قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كٰذِبٍ ۙ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

اور لائے کڑتے پر اس کے خون جعلی اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے

اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا ۙ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۙ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا

جانوں نے تمہاری ایک بات پس صبر اچھا ہے اور اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اس پر جو

تَصِفُوْنَ ۱۹ وَاَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ۙ فَاَرْسَلُوْا وَاَرَادَهُمْ فَاَدَلٰى

بیان کرتے ہو تم اور آیا ایک قافلہ سو بھیجا انہوں نے پانی لانے والے کو اپنے پس لٹکایا

ذَلُوهُ ۚ قَالَ يُبْتِغَىٰ هَذَا غُلَامًا ۖ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً ۚ وَ

اس نے ذول اپنا اس نے کہا اے خوشخبری ہو یہ لڑکا ہے اور چھپایا ہے انہوں نے اسے بطور بونچی کے اور

اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ

اللہ خوب جانتے والا تھا اسے جو وہ کرتے تھے اور بیچا انہوں نے اُسے بعض مول ناقص کے (بعض) درہمیں

مَعْدُودَةً ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۲۱﴾ وَقَالَ

پسند کے اور تھے وہ اس میں بے رغبت اور کہا

الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لَا مِرَاتٍ ۖ أَكْرَهِي مَثْوَاهُ

اس شخص نے جس نے خرید لیا تھا اُسے مصر سے بیوی کو اپنی کہ عزت سے کر رہنا اس کا

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا

امید ہے کہ نفع دیکھا ہمیں یا بنالیں گے ہم اسے بچہ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے

يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ

یوسف کو زمین میں اور تاکہ سکھادیں ہم اسے تعبیر باتوں کی

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾

اور اللہ غالب ہے حکم پر اپنے دیکھیں اکثر لوگ نہیں جانتے

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَلِكَ

اور جب پہنچا مضبوطی کو اپنی دیا ہم نے اسے حکم اور علم اور اسی طرح

نَجَّرْنَا الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۳﴾ وَرَأَوْنَاهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا

ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اور چھسلا یا اسے اس عورت نے کہ وہ گھر میں تھا اس کے

عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ

نفس سے اس کے اور بند کر لیے دروازے اور کہا آؤ رکھتی ہوں تجھے اس نے کہا

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

پناہ خدا کی یقیناً بات یہ ہے کہ رب نے میرے چھپانایا ہے ٹھکانا میرا یقیناً بات یہ ہے نہیں کامیاب ہوتے

الظَّالِمُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ

ظالم اور یقیناً یقیناً قصد کیا اس عورت نے اور قصد کرتا یوسف) اسکا اگر نہ ہوتا یہ کہ

رَأْبُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ

دیجی تھی اس نے دلیل رب کی اپنے اسی طرح تاکہ پھیریں ہم اس سے بُرائی اور

الْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۵﴾ وَاسْتَبَقَا

بیعتاً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا اور دونوں ایک دوسرے کے

الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا

تھا میں دوسرے دروازے کی طرف اور پھاڑا وہاں عورت نے گڑتا اس کا پیچھے سے اور دونوں نے پایا سرور اور اس عورت کے پاس

الْبَابَ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا

دروازے کے اس عورت نے کہا نہیں ہے بدلہ اس کا جو ارادہ کرے ساتھ گھروالوں کے تیرے بُرائی کا منکر

أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۲۶﴾ قَالَ هِيَ رَأَوْدَ ثَنِي عَن

یہ کہ قید کیا جائے یا عذاب دردناک اس نے کہا اس عورت نے پھسلا یا مجھے

نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ

نفس سے میرے اور گواہی دی ایک گواہ نے گھروالوں سے اہل کے کہ اگر ہے گڑتا اس کا پھاڑا گیا

مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۲۷﴾ وَإِنْ كَانَ

آگے سے تو سچ کہا اس عورت نے اور وہ (یوسف) جھوٹوں میں سے ہے اور اگر ہے

قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿۲۸﴾

گڑتا اس کا پھاڑا گیا پیچھے سے تو جھوٹ بولا اس عورت نے اور وہ سچوں میں سے ہے

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ

سوجب دیکھا اس نے گڑتا اس کا پھاڑا گیا پیچھے سے کہا یقیناً یہ تدبیر ہے تم عورتوں کی

إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ﴿۲۹﴾ يٰوَسْفُ اعْرَضْ عَن هٰذَا عَدُوِّ

یقیناً تدبیر تم عورتوں کی بڑی ہے اے یوسف اعراض کر اس بات سے اور

اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِينَ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ

بخش مانگ تو عورت گناہ اپنے کی یقیناً تو ہی خطا کاروں سے ہے اور کہا

نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا

عورتوں نے شہر کی بیوی عزیز کی پھسلاتی ہے نوکر کو اپنے

عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلٰلٍ

نفس سے اس کے یقیناً وہ دل میں ایسے گھر گریا ہے محبت کے لحاظ سے، یقیناً ہم البتہ دیکھتی ہیں اسے گمراہی میں

مُبِينٍ ﴿۳۱﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ

کھلی کھلی پس جب سنی اس عورت نے تدبیر ان کی بلا بھیجا انہیں اور

أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا

تیار کئے ان کے لیے تکیے اور دی اس نے ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری

وَقَالَتْ أَخْرِجِي عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ

اور اس نے کہا نکل ان پر پس جب دیکھا انہوں نے اُسے عظیم الشان پایا اور کائے انہوں نے

أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا

ہاتھ اپنے اور کہا پاک ہے اللہ نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے یہ مگر

مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۲﴾ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ؕ وَ

فرشتہ معزز اس نے کہا پس یہ وہ ہے کہ تم نے ملامت کی مجھے بارہ میں اس کے اور

لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ

یقیناً یقیناً پھسلا یا میں نے اسے نفس سے اس کے پس بچ گیا وہ اور البتہ اگر نہ کیا اس نے

مَا أَمْرُهُ لِيُسْجَنَ وَ لِيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ

جو حکم کرتی ہوں میں اسے فرزد ہی وہ قید کیا جائیگا اور ضرور وہ ہوگا ذلیلوں میں سے اس نے کہا

رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ؕ وَإِلَّا

اے رب میرے قید خانہ زیادہ پیارا ہے مجھے اس سے کہ وہ بلاتی ہیں مجھے طرف جس کی اور اگر نہ

تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۴﴾

پھیری تو نے مجھ سے تدبیر ان کی جھک جاؤں گا طرف ان کی اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ

پس قبول کی اس کے لیے رب نے اس کے پس پھیر دی اس سے تدبیر ان کی یقیناً وہ ہی خوب

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاوَا

سننے والا خوب جاننے والا ہے پھر ظاہر ہوا ان کے لیے بعد اس کے کہ دیکھ لی تھیں انہوں نے

الْأَيِّتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ

نشانیوں البتہ ضرور قید میں ڈالیں گے اسے تا ایک مدت اور داخل ہوئے ساتھ اس کے قید خانہ میں

فَتَيْنِ ۚ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ

دو جوان کہا ان میں سے ایک نے میں دیکھتا ہوں اپنے تئیں کہ میں ٹھوڑا ہوں شراب اور کہا

الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ طَيْرًا ۚ فَأَكُلُ الطَّيْرَ

دوسرے نے میں دیکھتا ہوں اپنے تئیں کہ اٹھاتا ہوں اوپر سر کے اپنے رونڈ کھاتے ہیں پرندے

مِنْهُ ۚ نَبَّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرْكَبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾

اس سے آگاہ کر ہمیں تعبیر سے اس کی ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنوں میں سے

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

اس نے کہا نہیں آئیگا تم دونوں کے پاس کھانا کہ تم دینے جاؤ گے جو مگر آگاہ کروں گا میں تم کو

بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي

تعبیر سے اس کی پہلے اس کے کہ آئے گا تمہارے پاس یہ اس سے ہے جو سکھایا مجھے

رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ

رب نے میرے میں نے چھوڑ دیا مذہب ان لوگوں کا جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور وہ

بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي

آخرت کے منکر ہیں اور پیروی کی میں نے مذہب کی باپ دادا کے اپنے

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ

ابراہیم اور اسحق اور یعقوب کی نہیں ہے ہمارے لیے کہ شریک بنائیں ہم

بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

ساتھ اللہ کے کچھ بھی یہ فضل سے ہے اللہ کے ہم پر اور لوگوں پر

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۹﴾ يَصَاحِبِي السِّجْنِ

لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے اے میرے دوست تمہیں قید خانہ کے

ءَازِبًا بَشَرًا مَّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۴۰﴾

کیا رب بہت سے بہتر ہیں یا اللہ اکیلا اور مالک

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
نہیں عبادت کرتے تم سوائے اس کے مگر ناموں کی کر رکھے ہیں تم نے جو تم نے

وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا
اور باپ دادا نے تمہارے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے علم مگر

لِلَّهِ هُدًى مِمَّا رَآكَ وَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
اللہ کا اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت کر سوائے اس کے یہ (رہی) دین ہے درست

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ يَصَاحِبِي السَّجِينِ
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے دو ساتھیو قید کے

أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَآمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ
وہ جو تم دونوں میں سے ایک پس وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب اور وہ جو دوسرا ہے پس صلیب پر مارا جائیگا

فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
پس کھا ئیں گے پرندے سر سے اس کے فیصلہ کیا گیا اس معاملہ کا جس میں تم

تَسْتَفْتَيْنِ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاقِحٌ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي
دونوں فتویٰ مانگتے ہو مجھ سے اور کہا (یوسف نے) اس شخص کیلئے کہ (یوسف نے) گمان کیا تھا کہ وہ نجات پا نہیوالا ہے ان دونوں میں سے ذکر کیجیو

عِنْدَ رَبِّكَ زَفَا نَسَهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبَّهُ فَلَبِثَ فِي
میرا پس اپنے آقا کے پس بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس پس (یوسف) ٹھہرا

السَّجِينِ بِضَعَةِ سِنِينَ ﴿۳۳﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ
قید خانہ میں کچھ سال اور کہا بادشاہ نے یقیناً میں دیکھتا ہوں سات

بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ
گائیں موٹی کھاتی ہیں ان کو سات ڈبئی اور سات بائیں

خُضْرٍ وَأُخْرَى يَسْتَءَيُّنَهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ
سبز اور دوسری خشک اے سردارو فتویٰ دو مجھے خواب (کے بارہ) میں میری

إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۳۴﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ
اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرتے کہا انہوں نے پراگندہ خوابیں ہیں

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَلَمِينَ ﴿۳۵﴾ وَقَالَ الَّذِي

اور نہیں ہم حقیقت پر اگندہ خوابوں کی جاننے والے اور کہاں نے جو

نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرْبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

خلا گیا تھا ان دونوں میں سے اور یاد کیا اس نے ایک مدت کے بعد کہ میں آگاہ کروں گا تم کو حقیقت سے اس کی

فَأَرْسَلُونِ ﴿۳۶﴾ يُوسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ

پس بھیجو مجھے یوسف اے راستباز فتویٰ دے ہمیں سات

بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ

گائیوں میں (دو) موٹی (دیں) کھاتی ہیں ان کو سات ڈبلی اور سات بالیں

خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يَسْتَ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ

سبز اور دوسری خشک تاکہ میں لوگوں میں لوگوں کے تاکہ وہ (لوگ)

يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ فَمَا

جان لیں کہا تم کھیتی کر دو گے سات سال پہلے در پہلے سو جو

حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۸﴾

کاٹو تم تو چھوڑ دو اس کو بالوں میں اس کے مگر تھوڑا اس سے جو تم کھاؤ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا

پھر آئیں گے بعد اس کے سات (سال) سخت کھا جائیں گے جو

قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۹﴾ ثُمَّ يَأْتِي

پہلے رکھا تھا تم نے ان کے لیے مگر تھوڑا سا اس سے جو محفوظ رکھو گے پھر آئے گا

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ

بعد اس کے ایک سال میں جس میں سیراب کیے جائیں گے لوگ اور اس میں

يَعَصِرُونَ ﴿۴۰﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ . فَلَمَّا جَاءَهُ

پھرتیں گے (عرق) انگور اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے پس جب آیا اس کے پاس

الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسُ النِّسْوَةِ

قاصد کہا واپس جا طرف مالک کے اپنے پھر پوچھو اس سے کیا حال ہے ان عورتوں کا

الَّتِي قَطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ وَإِنَّ رَبِّي لَبَكِيدٌ هَنَّ عَلِيمٌ ۝۵۱

جنہوں نے کاٹنے ہاتھ اپنے یقیناً رب میرا تدبیر کو ان کی خوب جاننے والا ہے

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۝

اس نے کہا کیا اصل بات ہے تمہاری اے عورتو جبکہ چھسلا یا تم نے یوسف کو نفس سے اس کے

قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۝ قَالَتْ

انہوں نے کہا پاک ہے اللہ نہیں جانی ہم نے اس پر کوئی بُرائی کہا

أُمَّرَأَتُ الْعَزِيزِ الَّتِي حَصَّصَ الْحَقُّ زَانَا رَأَوْتُهُ

عورت نے عزیز کی اب ظاہر ہو گیا حق میں نے ہی چھسلا یا تھا اسے

عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝۵۲ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي

نفس سے اس کے اور یقیناً وہ البتہ سچوں میں سے ہے یہ اس لیے تاکہ جان لے وہ کہ جس نے

لَمَّا خُنَّ بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ لَإِيَّاهُ لَإِلْمُ الْخَائِنِينَ ۝۵۳

نہیں خیانت کی اس کی غیر حاضری میں اور یقیناً اللہ نہیں راہ دیتا تدبیر کو خیانت کرنے والوں کی



وَمَا اَبْرئى نَفْسِى ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَمَّ تَارَةً بِالسُّوءِ

اور نہیں بری ٹھہراتا میں نفس کو اپنے یقیناً نفس تو البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا

اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۵۳

مگر جس پر رحم کیا رہے میرے یقیناً رب میرا بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور کہا بادشاہ نے

اِثْتُوْنِىْ بِهٖ اَسْتَخْلِصْهٗ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَمَتْهٗ قَالَتْ اِنَّكَ

لاؤ میرے پاس اس کو خالص کروں گا اسے واسطے نفس کے اپنے سوچا اس نے بات کی اس سے اس سے کہا یقیناً

الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ۝۵۴

تو آج نزدیک ہمارے معزز اور امین ہے اس نے کہا مقرر کر دے مجھے خزانوں پر

اَلْاَرْضِ ۚ رَاقِيٌّ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۝۵۵

زمین کے یقیناً میں حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو

فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَّبِعُوْنَ اَمْنًا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُوْصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا

زمین میں جگہ پھرتا تھا اس سے جہاں چاہتا تھا ہم پہنچاتے ہیں رحمت اپنی

مَنْ نَّشَاءُ ۚ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۵۶

جسے ہم چاہتے ہیں اور نہیں ضائع کرتے اجر احسان کرنے والوں کا اور البتہ اجر آخرت کا

خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝۵۷

بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ہیں تقویٰ کرنے اور آئے بھائی

يُوْسُفَ فَاَدْخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ ۝۵۸

یوسف کے پاس داخل ہوئے اس پر پس اس نے پہچان لیا انہیں اور وہ اس سے انجان تھے

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَارِهِمْ قَالَ اِثْتُوْنِىْ بِاٰخِرِ لَكُمْ

اور جب تیار کیا اس نے ساتھ سامان کے ان کے کہا لاءو میرے پاس بھائی اپنا

مِّنْ اٰيٰتِكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْ اَوْفِى الْكَيْدِ وَاَنَا خَيْرٌ

باپ سے اپنے کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا دیتا ہوں ماپ اور میں بہتر ہوں

اَلْمُنْزِلِيْنَ ۝۶۰

تمام گمان نوازوں سے پس اگر نہ لائے میرے پاس اُسے تو نہیں ماپ تمہارے لیے

تمام گمان نوازوں سے پس اگر نہ لائے میرے پاس اُسے تو نہیں ماپ تمہارے لیے

عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ﴿٦١﴾ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَ

پاس میرے اور نہ قریب آتا تم میرے انہوں نے کہا ضرور پھسلا میں گے ہم اس سے باپ کو اسکے اور

إِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦٢﴾ وَقَالَ لِفَتِيلِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ

ہم ضرور (ایسا) کرنیوالے ہیں اور کہا اس نے نوکروں کو اپنے رکھ دو پلوئجی ان کی

فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى

سامان میں ان کے تاکہ وہ پہچان لیں اُسے جب واپس ہوں طرف

أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٣﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ

گھر والوں کے اپنے تاکہ وہ واپس آئیں پس جب وہ واپس ہوئے طرف باپ کے اپنے

قَالُوا يَا أَبَانَا مِمَّنَّا الْكَيْدُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا

انہوں نے کہا اے باپ ہمارے روکا گیا ہے ہم سے باپ پس بھیج ہمارے ساتھ بھائی کو ہمارے

نَحْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٦٤﴾ قَالَ هَلْ أَمْنَكُمُ عَلَيْهِ إِنَّا

ہم باپ کریں گے اور ہم اس کی ابتہ حفاظت کرنیوالے ہیں اس نے کہا نہیں میں امان سمجھتا تم کو اس پر مگر

كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَفِظًا مَّا

جیسا کہ میں سمجھا میں نے تم کو بھائی پر اس کے پہلے سے پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنیوالا اور

هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا

وہ زیادہ رحم کرنیوالا ہے تمام رحم کرنیوالوں سے اور جب کھولا انہوں نے سامان اپنا پائی انہوں نے

بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبِغِي ۗ هَذِهِ

پلوئجی اپنی لوٹائی گئی ہے طرف ان کی انہوں نے کہا اے باپ ہمارے ہم نہیں چاہتے تھے (مگر) یہ

بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۚ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفِظُ أَخَانَنَا

پلوئجی ہماری لوٹائی گئی ہے طرف ہماری اور ہم غدا میں گے گھر والوں کے پاس اور ہم حفاظت کرتے بھائی کی اپنے

وَنَزِدْكَ كَيْدًا بَعِيرٍ ۗ ذَٰلِكَ كَيْدٌ يَّسِيرٌ ﴿٦٦﴾ قَالَ لَنْ

اور زیادہ میں گے باپ ایک اونٹ کا یہ باپ ہے آسان کہا ہرگز نہیں

أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي

بھیجوں گا اس کو ساتھ تمہارے یہاں تک کہ دو مجھ کو پختہ عہد اللہ کا ضرور لاؤ گے اس کو

بِهِ اِلَّا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ. فَلَمَّا اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ

میرے پاس مگر یہ کہ گھیر لیا جائے تم کو پس جب دیا انہوں نے اس کو پختہ عہد اپنا اس نے کہا

اللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۶۷﴾ وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا

اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے اور اس نے کہا اے بیٹو میرے نہ داخل ہونا

مِنْ بَابٍ وَاجِدٍ وَاذْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا

ایک دروازہ سے اور داخل ہونا دروازوں سے مختلف اور نہیں

اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَحْكُمُ الْاِلٰهُ عَلَيْهِ

کفایت کروں گا میں تم سے اللہ کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے حکم مگر اللہ کا اس پر

تَوَكَّلْتُ. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۶۸﴾ وَلَمَّا

توکل کیا میں نے اور اس پر پس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے اور جب

دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

داخل ہوئے وہ جہاں سے حکم دیا تھا ان کو باپ نے ان کے نہیں تھا وہ کفایت کرتا ان سے

مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْذُوبُ قَضَاهَا

اللہ سے کچھ بھی مگر یہ ایک مقصد تھا دل میں یعقوب کے اس نے پورا کیا اس کو

وَاِنَّهٗ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اور یقیناً وہ البتہ علم والا تھا جس کا علم دیا تھا ہم نے اس کو اور لیکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۶۹﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوْسُفَ اَدٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ

جانتے اور جب داخل ہوئے وہ یوسف پر جگہ دی اس نے اپنی طرف بھائی کو اپنے

قَالَ رَآى اَنَا اَخُوکَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۰﴾

کہا یقیناً میں بھائی ہوں تیرا پس نہ غمگین ہو اس سے جو یہ کرتے رہے ہیں

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ

پس جب تیار کیا ان کو ساتھ ان کے اسباب کے رکھ دیا پانی پینے کا برتن سامان میں اپنے بھائی کے

ثُمَّ اٰذَنَ مُوْذِنٌ اٰیَّتَهَا الْعِزْرٰتُکُمْ لَسَارِقُونَ ﴿۷۱﴾ قَالُوْا

پھر پکارا ایک پکارنے والے نے اے قافلہ والو یقیناً تم البتہ چور ہو انہوں نے کہا

۱۲

وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿۶۲﴾ قَالُوا نَفْقَدُ صَوَاءَ

اور وہ متوجہ ہوئے ان پر کیا گم پاتے ہو تم انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں پیمانہ

الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَهُ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۶۳﴾

بادشاہ کا اور اس شخص کے لیے جو لائے وہ بوجھ ہے ایک اونٹ کا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں

قَالُوا تَأْتِيهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ

انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً یقیناً جان لیا تم نے کہ نہیں آئے ہم (بیاں) کہ فساد کریں زمین میں

وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿۶۴﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاءُكَ إِنْ كُنْتُمْ

اور نہیں ہیں ہم چور انہوں نے کہا تو کیا ہے بدلہ اس کا اگر ہو تم

كٰذِبِينَ ﴿۶۵﴾ قَالُوا جَزَاءُكَ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ

جھوٹے کہا انہوں نے بدلہ اس کا وہی ہے کہ پایا گیا اسباب میں اس کے پس وہی

جَزَاءُكَ ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۶۶﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ

بدلہ ہے اس کا اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو پس ابتدا کی (تلاش کی) گٹھریوں سے

قَبْلَ رِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ رِعَاءِ أَخِيهِ ط

انہی پہلے گٹھری کے اس کے بھائی کی پھر نکال لیا اُسے گٹھری سے اس کے بھائی کی

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ

اسی طرح تدبیر کی ہم نے یوسف کیلئے نہ تھا کہ لے لیتا بھائی کو اپنے حکومت میں

الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ط

بادشاہ کی مگر یہ کہ چاہے اللہ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں اور

فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۶۷﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ

اوپر ہر علم والے کے زیادہ علم والا ہے انہوں نے کہا اگر چوری کی ہے اس نے تو یقیناً چوری کر چکا

أَخْرَجَهُ مِنْ قَبْلُ ، فَاسْرَهَا يُّوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ

ہے بھائی اس کا پہلے سے پس چھپایا اسے یوسف نے دل میں اپنے اور نہ

يُبْدِيهَا لَهُمْ ، قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ظاہر کیا اسے ان کے لیے اس نے کہا تم بڑے بھو درجہ میں اور اللہ خوب جانتا ہے

بِمَا تَصِفُونَ ﴿۸۶﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا

جو تم بیان کرتے ہو انہوں نے کہا اے عزیز یقیناً اس کا باپ

شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْنَا مَكَانَهُ، إِنَّا نَرُكَ مِنْ

بڑھا ہے بہت پس لے لے ایک کو ہم میں سے جگہ اس کی یقیناً ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے

الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۷﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا

احسان کرنے والوں میں سے اس نے کہا پناہ (مانگتا ہوں) اللہ کی اس سے کہ ہم یوں سوائے اس کے کہ پایا ہم نے

مَتَاعَنَا عِنْدَكَ لِإِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿۸۸﴾ فَلَمَّا اسْتَأْيَسُوا

سامان اپنا پاس جس کے یقیناً ہم تب تو البتہ ظالموں میں سے ہونگے پس جب وہ بالو بس ہو گئے

مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ

اس سے الگ ہوئے مشورہ کرنے کیلئے کہا بڑے نے ان میں سے کیا نہیں جانا تم نے کہ

أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قَبْلُ

باپ نے تمہارے یقیناً لیا تھا تم سے پختہ عہد اللہ کا اور پہلے اس سے

مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ

جو کمی کی تم نے بارہ میں یوسف کے پس ہرگز نہیں جدا ہوں گا میں اس ملک سے یہاں تک کہ

يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۹﴾

اجازت دے مجھے باپ میرا یا فیصلہ کرے اللہ میرے لیے اور وہ بہتر ہے نام فیصلہ کرنے والوں سے

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا بَنَاتِ ابْنِكَ سَرَقَ، وَ

واپس جاؤ لون باپ کے اپنے پس کہو اے باپ ہمارے یقیناً بیٹے نے تیرے چوری کی اور

مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿۹۰﴾

نہیں گواہی دی ہم نے مگر اس کی جو جانا ہم نے اور نہیں ہیں ہم غیب کی حفاظت کرنے والے

وَسَأَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا

اور پوچھ اس بستی سے کہ تھے ہم جس میں اور اس قافلہ سے کہ آئے ہم

فِيهَا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۹۱﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

جس میں اور یقیناً ہم البتہ سچے ہیں اس نے کہا بلکہ بنالی ہے واسطے تمہارے نفسوں نے تمہارے

أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ

ایک بات پس صبر اچھا ہے امید ہے اللہ کرے آئے میرے پاس ان

جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۸۲﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ

سب کو یقیناً وہ ہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے اور چلا گیا پاس سے ان سے اور کہا

يَا سَفِي عَلَىٰ يُونُسَ ۖ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ

اے افسوس یوسف پر اور ڈبدا آئیں دونوں آنکھیں اس غم سے

فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۸۳﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُونُسَ ۖ

پس وہ غم کو چھپا رہا تھا کہا انہوں نے قسم ہے اللہ کی تو ہمیشہ رہے گا یاد کرتا یوسف کو

حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿۸۴﴾ قَالَ

یہاں تک کہ ہو جائیگا مضمحل یا ہو جائے گا تو ہلاک ہونے والے میں سے اس نے کہا

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ۖ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ

سوائے اسکے نہیں کہ فریاد کرتا ہوں رنج کی اپنی اور غم کی اپنے حضور اللہ کے اور میں جانتا ہوں اللہ سے

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۵﴾ يُبْرِي ۖ إِذْ هَبُوا فِتْحَاسًا ۖ

جو نہیں جانتے تم اے بیٹو میرے جاؤ پس تلاش کرو

يُونُسَ ۖ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا

یوسف کو اور بھائی کو اس کے اور نہ یا یوس ہو رحمت سے اللہ کی یقیناً بات یہ ہے کہ نہیں

يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿۸۶﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا

یا یوس ہوتے رحمت سے اللہ کی سوائے کافر لوگوں کے سوجب داخل ہوئے

عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ وَ

اس پر کہا انہوں نے اے عزیز پہنچی ہے ہمیں اور گھرا لوں کو ہمارے تکلیف اور

جِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزْجَجَةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْدَ وَتَصَدَّقْ

لاٹے ہیں ہم بلوئچی تھوڑی سی پس پورا دے ہمیں ماپ اور صدقہ کر

عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۷﴾ قَالَ هَلْ عِلْمَتُمْ

ہم پر یقیناً اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو کہا کیا جانتے ہو تم

مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا

جو کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے جبکہ تم ناواقف انہوں نے کہا

عَرَانِكَ لَا نَتَّيُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي زَقْنُ

کیا البتہ تو ہی یوسف ہے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے یقیناً

مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقُ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

احسان کیا اللہ نے ہم پر بات یہ ہے کہ جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ نہیں

يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۱﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرُكَ

ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا کہا انہوں نے قسم ہے اللہ کی البتہ یقیناً چن بیاتے تھے کہ

اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِئِينَ ﴿۹۲﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ

اللہ نے ہم پر اور تحقیق تھے ہم خطا کار کہا نہیں کوئی ملامت تم پر

الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿۹۳﴾

آج بخشنے اللہ تم کو اور وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے

إِذْ هَبُوا بَقْمِصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ

سے جاؤ میری قمیص یہ پس ڈالو اس کو چہرہ پر میرے باپ کے آٹے کا

بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۴﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ

بینا ہو کر اور لاؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کو اور حجب جدا ہوا قافلہ

قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفِئِدُونِ ﴿۹۵﴾

کہا ان کے باپ نے یقیناً میں البتہ پاتا ہوں خوشبو یوسف کی اگر ایسا نہ ہو کہ تم بیوقوف ٹھہراؤ مجھے

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿۹۶﴾ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ

کہا انہوں نے قسم اللہ کی یقیناً تو البتہ غلطی اپنی پرانی میں ہے پس جبکہ آیا

الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ

بشارت دینے والا ڈال دیا اس (قمیص) کو اس کے چہرہ پر پس وہ پھر سے ہو گیا صاحب بصیرت کہا کیا نہیں

أَقُلَّ لَكُمْ إِنِّي آعَلِمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾ قَالُوا

کہا تمہاری تم کو یقیناً میں زیادہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو نہیں تم جانتے انہوں نے کہا

يَا بَا نَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۹۸﴾ قَالَ

اے باپ ہمارے۔ بخشش مانگ ہمارے لیے گناہوں کی ہمارے یقیناً ہم ہیں خطا کار (باپ نے کہا

سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۹۹﴾

مذور میں۔ بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أُوِيَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ

پس جب داخل ہوئے یوسف پر اس نے جگدی طرف اپنی اپنے والدین کو اور کہا

إِذْ خُلُوا مِصْرَانَ شَاءَ اللَّهُ أَمِنِينَ ﴿۱۰۰﴾ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ

داخل ہو جاؤ مصر میں اگر چاہے اللہ امن سے اور اٹھایا اپنے والدین کو

عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا

تخت پر اور گر گئے وہ اس کے لیے سجدہ میں اور کہا اے باپ میرے یہ

تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ زَقَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۚ وَقَدْ

تعبیر ہے خواب کی میرے پہلے سے یقیناً ثابت) کر دیا ہے اے رب نے میرے سچ اور یقیناً

أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ

احسان کیا اس نے مجھ پر جبکہ نکالا اس نے مجھ سے قید خانہ سے اور لے آیا تم کو

الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ

گاؤں سے بعد اس کے کہ فساد ڈال دیا شیطان نے درمیان میرے اور درمیان بھائیوں کے میرے

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰۱﴾

یقیناً رب میرا مہربان ہے جس پر چاہتا ہے یقیناً وہ ہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ

اے رب میرے یقیناً دیا تو نے مجھے حکومت سے (ایک حصہ) اور سکھایا ہے تو نے مجھے (کچھ) تعبیر سے

الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ تَأْتِ وَرَبِّي فِي

باتوں سے اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے تو دوست ہے میرا

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَّالْحَقْنِي

دُنیا اور آخرت میں وفات دے مجھے مسلمان بنا کر اور ملا دے مجھے

بِالصَّالِحِينَ ۱۳۲ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۗ وَ

نبیوں کے ساتھ یہ خبروں سے ہے غیب کی ہم وحی کرتے ہیں طرف تیری اور

مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۱۳۳ وَ

نہ تھا تو پاس ان کے جبکہ اتفاق کیا انہوں نے کام پر اپنے اور وہ تدبیریں کرتے تھے اور

مَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۱۳۴ وَمَا تَسْأَلُهُمْ

نہیں ہیں اکثر لوگ اور اگر چہ تو خواہش کرے ایمان لانے والے اور نہیں ہے تو مانگتا

عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۱۳۵ وَكَآيِّن

اس پر کوئی اجر نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام دنیا کے لیے اور کتنے ہی

مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ

نشان ہیں آسمانوں اور زمین میں یہ لوگ گزرتے ہیں ان پر اور

عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۱۳۶ لَوْ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ

ان سے منہ موڑنے والے ہیں اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ پر مگر ایسے حال میں کہ وہ

مُشْرِكُوْنَ ۱۳۷ اَفَاَمِنُوْا اِنْ اَتٰتِيْهِمْ غَآشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ

مشرک ہوتے ہیں کیا ہیں وہ امن میں ہیں اس سے کہ آوے انکے پاس ڈھانک لینے والا کوئی عذاب

اللّٰهِ اَوْ اَتٰتِيْهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۱۳۸

اللہ کا یا آوے ان کے پاس قیامت اچانک اور وہ نہ جانتے ہوں

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ ۙ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ تَدْعٰى بِصِيْرَةٍ اَنَا وَمِنْ

تو کہے یہ راہ ہے میری میں بلاتا ہوں طرف اللہ کے بصیرت پر ہو کر میں اور وہ جنہوں نے

اَتَّبَعْنِيْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۱۳۹ وَمَا

پیروی کی میری اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے اور نہیں

اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ

بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے مگر مردوں کو وحی کرتے تھے ہم طرف ان کی بستیوں

الْقُرٰى ۙ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ

والوں میں سے کیا پس نہیں پھرے وہ زمین میں کہ دیکھتے کیوں کر ہوا

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارًا آخِرَةٌ خَيْرٌ

انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے ان سے اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۰﴾ حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ

ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا، کیا پس نہیں عقل کرتے تم یہاں تک کہ جب (کفار کی ہدایت سے) بالوں پر گئے

الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ

رسول اور گمان کیا انہوں نے (کافروں نے) کہ وہ یقیناً جھوٹ بولے گئے ہیں اُن کے پاس مدد ہماری پس نجات دیا گیا

مَنْ تَشَاءُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۱۱﴾

جسے ہم چاہتے ہیں اور نہیں لوٹایا جاتا عذاب ہمارا مجرم لوگوں سے

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ

یقیناً یقیناً ہے بیان میں ان لوگوں کے عبرت عقل والوں کے لیے نہیں ہے

حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

یہ بات جو جھوٹ بنائی جاسے ولیکن تصدیق ہے اس کی جو پہلے ہے اس کے اور

تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۲﴾

تفصیل ہے ہر بات کی اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْمَرَاتِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

الف-لام-میم-را یہ آیات ہیں کتاب کی اور وہ جو اُتارا گیا طرف تیری

رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲﴾ اللَّهُ

رب سے تیرے حق ہے ولیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے اللہ ہے

الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ

جس نے بلند کئے آسمان بغیر ستونوں کے کہ تم دیکھتے ہو جنہیں پھر وہ متوجہ ہوا

عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ

عرش پر اور کام میں لگائے سورج اور چاند ہر ایک چلتا ہے معیار

مُسَمًّى ۙ يُدِيرُ الْأُمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ

مقررہ تک تدبیر کرتا ہے معاملے کی مفصل بیان کرتا ہے آیت تاکہ تم ملاقات پر

رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿۲﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

اپنے رب کی یقین کرو اور وہی ہے جس نے پھیلا یا زمین کو اور بنا شے اس میں

رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِزْقًا

پھاڑ اور نہریں اور ہر قسم کے پھلوں سے اس نے بنا شے اس میں فرد

اَثْنَيْنِ يُغِثِي الْبَلَّ النَّهَارَ رَاتٍ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

دو دو وہ ڈھانکتا ہے رات کو دن پر یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں سوچنے

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳﴾ فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّزٌ وَجَدْتُمْ

والے لوگوں کے لیے اور زمین میں ٹکڑے ہیں پاس پاس اور باغ ہیں

أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرُصْنَوَانٍ يُسْقَىٰ

انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں ملی ہوئی اور نہ ملی ہوئی انہیں سیراب کیا جاتا ہے

بِمَاءٍ وَآحِدٍ تَدُّ وَنُفِضَلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۗ

پانی سے ایک ہی اور ہم فضیلت دیتے ہیں انکے بعض کو بعض پر مزہ میں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۴﴾ وَإِنْ تَعْجَبْ

یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں عقل والے لوگوں کے لیے اور اگر تو تعجب کرے تو

فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ أَكُنَّا تُرَبَّاءً إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ

رواقع میں تعجب والی بات ہے ان کی کہ جب ہو جائیں گے ہم مٹی کیا ہم پیدا نش میں ہونگے نئی

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ فِي

یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا رب کا اپنے اور یہی لوگ ہیں کہ طوق ہیں

أَعْنَاهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾

گروہوں میں ان کی اور یہ لوگ ہی آگ والے ہیں وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے بُرائی پہلے نیکی کے اور یقیناً گذر چکے ہیں

مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ

پہلے ان سے موجب عبرت عذاب اور یقیناً رب تیرا البتہ صاحب مغفرت ہے لوگوں کے لیے

عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾ وَيَقُولُ

باوجود ان کے ظلم (کرنے) کے اور یقیناً رب تیرا البتہ سخت عذاب (دینے) والا ہے اور کہتے ہیں وہ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَالُونَ أَنزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَا

لوگ جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتارا کیا اس پر کوئی نشان رب کی طرف سے سوائے اسکے نہیں

أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿۱۲﴾ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ

کرتو ڈرانے والا ہے اور واسطے ہر قوم کے رہنما ہے اللہ جانتا ہے جو حمل میں رکھتی ہے ہر

أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ

مادہ اور جو گھٹاتے ہیں جسم اور جو بڑھاتے ہیں اور ہر چیز پاک اس کے ساتھ

بِمِقْدَارٍ ﴿۱۳﴾ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿۱۴﴾

ایک اندازے کے ہے جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا بڑا ہے بلند ہے

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأُ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ

برابر ہے تم میں سے وہ جس نے آہستہ کی بات اور جس نے ظاہر کیا اسے اور وہ جو کہ

مُسْتَخْفٍ بِالْأَيْدِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿۱۵﴾ لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ

چھپنے والا ہے رات کو اور چلنے والا ہے دن کو اس کیلئے چوکیدار ہیں

بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ

آگے سے اس کے اور پیچھے سے اس کے حفاظت کرتے ہیں اس کی حکم سے اللہ کے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

یقیناً اللہ نہیں بدلاتا اس (صالحیت) کو جو کسی قوم کی ہو یہاں تک کہ وہ بدلاتے ہیں جو دلوں میں ہے ان کے

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ

اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ ساتھ کسی قوم کے بُرائی کا تو نہیں پھرنا واسطے اسکے اور نہیں ان کے لیے سوائے

دُونِهِ مِنْ ذَالٍ ۚ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ

اس کے کوئی کارساز وہی جو دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈرانے اور

طَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ

سید دلانے کیلئے اور پیدا کرتا ہے بادل بوجھل اور تسبیح کرتی ہے کرک

بِحَمْدِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

ساتھ حمد کے اس کی اور فرشتے بھی ڈرے اس کے اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں

فِيصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ

پس زدیں لے آتا ہے ان کی جسے چاہتا ہے اور وہ جھگڑتے ہیں بارہ میں اللہ کے اور وہ

شَدِيدُ الْحَاكِمِ ۚ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

سخت عذاب (دینے) والا ہے اس کیلئے ہے بلاوا سچا اور وہ (معبودان باطلہ) جنہیں پکارتے ہیں رہے

مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَابًا سِطًّا

لوگ سوائے اس (اللہ) کے نہیں جواب دیتے واسطے ان پکارتے والوں کے کچھ بھی مگر مانند پھیلانے والے کے

كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا

دونوں ہاتھ اپنے طرف پانی کے تاکہ وہ پہنچ جائے زمیں اس کے حالاکہ نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والا اس تک اور نہیں

دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۚ وَيَلْتَمِسُ السُّجُودَ مَنْ فِي

پکار کافروں کی مگر بے فائدہ اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمُهُمْ بِالْغُدُورِ

آسمانوں میں ہیں اور زمین میں خوشی سے اور مجبوراً اور سائے ان کے سچ

وَالْأَصَالِ ۚ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلْ

اور شام تو کہدے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا تو کہدے

اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ آلِهَاءَ لَا يَمْلِكُونَ

اللہ تو کہدے کیا پس بناٹے ہیں تم نے سوائے اس کے دوست نہیں قدرت رکھتے

لَا نَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ

جانوں کے لیے اپنی نفع کی اور نہ نقصان کی تو کدے کیا برابر ہے اندھا

وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ

اور بینا یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور نور کیا

جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ

بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک کو پیدا کئے انہوں نے مانند پیدا کرنے کے اس کے کہ پھر شبہ ہو گئی پیدا کرنا

عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۱۴

ان پر تو کدے اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہ یکتا ہے غالب ہے

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

اس نے اتارا بادل سے پانی پس بہ نکلیں دادیاں مطابق اندازے کے اپنے

فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ

پہر اٹھایا سیلاب نے جھاگ چڑھا ہوا اور اس لیے کہ دھونکتے ہیں

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ

جس پر آگ چاہنے کے لیے زیور یا سامان جھاگ مثل اس کی

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ

اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل پس جھاگ تو

فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي

چلا جاتا ہے بے کار اور جو نفع دیتا ہے لوگوں کو پس ٹھہر جاتا ہے

الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۱۵ لِلَّذِينَ

زمین میں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں ان لوگوں کیلئے جنہوں

اسْتَجَابُوا لِلرَّبِّ بِمِثْلِ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا

نے بات مانی رب کی اپنے بھلائی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں بات مانی

لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

اس کی اگر ہو ان کے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب اور مثل اس کی ساتھ اس کے

لَا تَقْدَرُ عَلَيْهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ

البتہ قدر میں دیں اسے یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے بُرا حساب ہے اور ٹھکانا ان کا

جَهَنَّمَ ۚ وَيَبْسُ إِلَيْهِمْ ۚ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ

جہنم ہے اور کیا ہی بُرا ہے پچھونا کیا پس جو جانتا ہے کہ جو کچھ اتارا گیا ہے

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

طرف تیری طرف سے رب کے تیرے حق ہے مانند اس کے ہے جو اندھا ہے سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت پڑھتے

أُولَٰئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۚ وَلَا

ہیں عقل والے وہ جو کہ پورا کرتے ہیں عہد کو اللہ کے اور نہیں

يَنْقُضُونَ الْعِمَّةَ ۚ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ

توڑتے عہد اور وہ جو کہ ملاتے ہیں اسے کہ حکم کیا اللہ نے

بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

متعلق جس کے کہ ملایا جائے اور ڈرتے ہیں رب سے اپنے اور خوف کرتے ہیں بُرے

الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ۚ

حساب سے اور وہ جنہوں نے صبر کیا چاہنے کے لیے رضامندی رب اپنے کی اور

أَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

قائم کی نماز اور خرچ کیا اس سے جو دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور ظاہر

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ

اور دُور کرتے ہیں ساتھ نیکی کے بدی یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے انجام ہے

الدَّارِ ۚ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا ۚ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

(آخری) گھر کا باغات ہیں ہمیشہ کے داخل ہوں گے وہ جن میں اور وہ جو کہ نیک ہوئے

آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ

باپ دادا میں سے انکے اور بیویوں میں سے ان کی اور اولاد میں سے انکی اور فرشتے داخل ہوں گے

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۚ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

ان پر ہر دروازہ سے سلامتی ہو تم پر بسبب اس کے کہ صبر کیا تم نے

فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۵﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

پس کیا ہی اچھا ہے انجام (آخری گھر) کا اور وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا

مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

بعد پختہ کرنے کے اس کے اور کاٹتے ہیں اسے کہ حکم کیا اللہ نے متعلق جس کے کہ

يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ

وہ طایا جاتے اور فساد کرتے ہیں زمین میں یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۲۶﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

اور ان کے لیے برائی ہے (آخری گھر) کی اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے

وَيَقْدِرُهَا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ

اور تنگ کرتا ہے اور وہ خوش ہو گئے ساتھ زندگی درلی کے حالانکہ نہیں زندگی

الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۲۷﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ

درلی بمقابل آخرت کے مگر سامان (تھوڑا سا) اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے

كَفَرُوا وَالْوَالُونَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ

کفر کیا کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی طرف سے رب کے اسکے تو کہدے یقیناً

اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿۲۸﴾

اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے طرف اپنی جو جھکا (اس کی طرف)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ

وہ جو کہ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے ساتھ یاد کے اللہ کی

إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۲۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

اگاہ ہو جاؤ کہ ساتھ یاد کے اللہ کی ہی مطمئن ہوتے ہیں دل وہ جو کہ ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُبَدِّلُ اللَّهُ كَذَلِكَ

کیں انہوں نے نیکیاں مبارک ہے ان کے لیے اور اچھی واپسی کی جگہ ہے اسی طرح

أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوا

بھیجا ہم نے تجھے ایک (ایسی) قوم میں کہ یقیناً گزر چکی ہیں پہلے اس کے تو میں تاکہ تو پڑھے

عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

ان پر وہ جو وحی کی ہم نے طرف تیری اور وہ انکار کرتے ہیں رحمن کا

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

تو کہہ دے وہ رب ہے میرا نہیں کوئی خدا سواٹھے اس کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور طرف اس کی

مَتَّابٍ ﴿۳۱﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ

رجوع ہے میرا اور اگر ہوتا قرآن کہ چلائے جاتے ساتھ اسکے پہاڑ یا کاٹ جاتی

بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٍ بِهِ الْمَوْتُ بَلِّغْ لِلَّهِ الْأَمْرَ جَمِيعًا

ساتھ اس کے زمین یا بلائے جاتے ساتھ اسکے مڑے بلکہ اللہ کے لیے ہے معاملہ سب کا سب

أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى

کیا پس نہیں جان بیا ان لوگوں نے جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ البتہ ہدایت دیتا

النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمُ

لوگوں کو سب کو اور ہمیشہ رہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ پہنچے گی انہیں

بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ

بسبب اس کے جو کیا انہوں نے مصیبت یا آرزے کی قریب گھر کے ان کے یہاں تک کہ

يَأْتِي وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۳۲﴾ وَلَقَدْ

آجائے وعدہ اللہ کا یقیناً اللہ نہیں خلاف کرتا وعدہ کا اور یقیناً یقیناً

اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ

ہنسی کی گئی ساتھ رسولوں کے پہلے تجھ سے پس ہمت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے

كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿۳۳﴾ أَفَمَن

کفر کیا پھر پھڑپھڑا میں نے انہیں پس کیونکر ہوئی سزا پس کیا وہ

هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ

جو کہ نگران ہے ہر نفس پر ساتھ اس کے جو کیا اس نے اور انہوں نے بناٹے اللہ کیلئے

شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ

شریک تو کہہ دے نام لو ان کے کیا آگاہ کرتے ہو تم اسے اس پر جو نہیں جانتا وہ

فِي الْأَرْضِ أَمْ يَطَّاهِرُونَ مِنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ

زمین میں یا ساتھ ظاہری بات کے بلکہ مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں

كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِّ

نے کفر کیا تدبیران کی اور وہ روکے گئے راہ سے اور جسے گمراہ ٹھہرائے

اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ ۗ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ

اللہ پس نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ان کے لیے عذاب ہے زندگی

الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنَ

دولت میں اور البتہ عذاب آخرت کا بہت شاق ہے اور نہیں ان کے لیے کوئی

اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۗ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۗ

اللہ سے بچانے والا حالت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے (یہ ہے کہ)

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۗ

بہتی ہیں نیچے اس کے نہریں پھل رہتی اس کا دائمی ہے اور سایہ اس کا دائمی

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۗ

یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ کیا اور انجام کافروں کا آگ ہے

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

اور وہ لوگ کہ دی ہم نے جن کو کتاب خوش ہوتے ہیں اس پر جو اتارا گیا طرف تیری

وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ

اور بعض قوموں میں سے وہ ہیں کہ انکار کرتے ہیں ایک حصہ کا اسکے تو کہہ دے سوائے اسکے نہیں کہ حکم کیا گیا ہوں

أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ

کہ عبادت کروں اللہ کی اور نہ شریک بناؤں ساتھ اسکے طرف اسی کی میں بلاتا ہوں اور طرف اسی کی

مَا ب ۗ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَيْسَ اتَّبَعْتَ

لوٹا ہے میرا اور اسی طرح اتارا ہم نے اسے حکم عربی اور البتہ اگر پیروی کی تو نے

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

خواہش کی ان کی بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس علم نہیں ہوگا تیرے لیے مقابلہ میں اللہ کے

مِن دَلِيلٍ وَلَا وَاِقٍ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ

کوئی دوست اور نہ بچانے والا اور یقیناً یقیناً بھیجے ہم نے رسول پہلے تجھ سے اور

جَعَلْنَا لَهُمُ آزُوجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن

بنائیں ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد اور نہیں ہے واسطے کسی رسول کے کہ

يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۹﴾ يَمْحُوها

لاوے کوئی نشان سوائے اجازت کے اللہ کے ہر زمانہ کی (انتہا کے لیے نوشت ہے مٹاتا ہے

اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۚ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿۴۰﴾ وَإِن

اللہ جو چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے اور پاس اس کے اصل کتاب ہے اور اگر

مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ

ہم دکھائیں تجھے بعض وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے یا وفات دیں ہم تجھے

فَرَأَيْنَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿۴۱﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

پس صرف تجھ پر پہنچا دینا ہے اور ہم پر حساب ہے کیا نہیں دیکھا انہوں نے

أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ

یقیناً ہم آتے ہیں زمین کی طرف گھٹانے ہوئے اسے کناروں سے اس کے اور اللہ فیصلہ کرتا ہے

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴۲﴾ وَقَدْ

نہیں کوئی توڑنے والا واسطے حکم کے اس کے اور وہ جلد لینے والا ہے حساب اور یقیناً

مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَبِلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ

تمہر کی ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے پس اللہ کے لیے ہے تدبیر سب کی سب

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن

جانتا ہے جو کتا ہے ہر شخص اور ضرور جان میں گے کافر کہ کس کیلئے

عُقُبَى الدَّارِ ﴿۴۳﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

ہے انجا (آخری) گھر کا اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے تو بھیجا ہوا

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَن عِنْدَهُ

تو کہہ سے کافی ہے اللہ گواہ اور درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور وہ کہ پاس جس کے

مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

جسے چاہتا ہے اور وہ عزت والا حکمت والا ہے اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ کو

بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ

ساتھ آیات کے اپنی کہ نکال قوم کو اپنی اندھیروں سے طرف نور کی اور

ذَكَرَهُمْ بِأَيْمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

یاد دلا ان کو دن اللہ کے یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والے

شَكُورٍ ۖ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

بہت شکر کرنیوالے کے اور جب کہا موسیٰ نے قوم کو اپنی یاد کرو نعمت اللہ کی

عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ

اپنے پر جبکہ اس نے نجات دی تم کو فرعونوں سے پہنچاتے تھے تم کو بُرا

الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ

عذاب اور ہلاک کرتے تھے بیٹوں کو تمہارے اور زندہ رکھتے تھے عورتوں کو تمہاری

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ

اور اس میں آزمائش تھی طرف سے رب کے تمہارے بڑی اور جب اعلان کیا رب نے تمہارے

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

البتہ اگر شکر کیا تم نے البتہ بڑھاؤں گا تم کو اور البتہ اگر ناشکری کی تم نے تو یقیناً عذاب میرا

لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي

البتہ سخت ہے اور کہا موسیٰ نے اگر کفر کرو تم اور وہ جو

الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

زمین میں ہیں سب کے سب پس یقیناً اللہ البتہ بے پرواہ (اور) خوبیوں والا ہے کیا نہیں آئی تمہارے

نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۗ وَ

پاس خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۗ جَاءَتْهُمْ

وہ لوگ جو بعد میں تھے ان کے نہیں جانتا انہیں مگر اللہ آئے ان کے پاس

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَ

رسول ان کے پاس ساتھ دلائل کے پس لوٹانے انہوں نے ہاتھ اپنے مومنوں میں اپنے اور

قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا

کہا یقیناً انکار کیا ہم نے اسکا کہ تم بھیج گئے ہو ساتھ اس کے اور یقیناً ہم شک میں ہیں اس سے کہ

تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۱۱۰ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِى اللَّهِ

تم بلا تے ہو ہمیں طرف اس کی تردد میں ڈالنے والے کہا رسولوں نے ان کے کیا اللہ میں

شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ

شک ہے پیدا کرنیوالا آسمانوں اور زمین کا بلا تا ہے تم کو کہ بخشے

لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

تمہارے لیے گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ميعاد مقررہ تک

قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَنَا

انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر انسان مانند ہماری تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں

عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا

اس سے کہ جس کی تھے عبادت کرتے باپ دادا ہمارے پس لاؤ ہمارے پاس کوئی دلیل کھلی کھلی

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُوا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ

کہا ان کو رسولوں نے ان کے نہیں ہم مگر انسان مانند تمہاری و

لَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ

لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے بندوں میں سے اپنے اور نہیں ہے

لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَعَلَىٰ اللَّهِ

ہمارے لیے کہ لائیں ہم تمہارے پاس کوئی دلیل مگر ساتھ حکم کے اللہ کے اور اللہ پیر ہی

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۱۱۱ وَمَا لَنَا إِلَّا أَنْتَ وَكَدَّ عَلَىٰ اللَّهِ

پس چاہئے کہ بھروسہ رکھیں مومن اور کیا ہوا ہمیں کہ نہ بھروسہ رکھیں ہم اللہ پیر

وَقَدْ هَدَانَا رَبُّنَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَكُنْزِ اللَّهِ عَلٰى مَا أَذَيْتُمُونَا ۗ

اور یقیناً اس نے ہدایت دی ہمیں راہوں کی ہماری اور البتہ ضرور صبر کریں گے ہم اس پر جو تکلیف دی تم نے ہمیں

وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۳﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے اور کہا ان لوگوں نے

كَفَرُوا بِالرُّسُلِ لَهُمْ لَنْخُرِجَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ

جنوں نے کفر کیا رسولوں کو اپنے البتہ ضرور نکال دیں گے ہم تم کو ملک سے اپنے یا ضرور ہی لوٹ آؤ گے

فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهْلِكَنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴﴾ وَ

تم مذہب میں ہمارے پس وحی کی طرف ان کی رب نے ان کے کہ البتہ ہلاک کریں گے ہم ظالموں کو اور

لَنْسُكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ

البتہ بسا دیں گے ہم تم کو زمین میں بعد ان کے یہ اس کے لیے ہے جو ڈرا کھڑے

مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿۱۵﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

ہونے سے میرے سامنے اور ڈرا دھمکی سے میری اور فتح چاہی انہوں نے اور ناکام ہو گیا ہر سرکش

عَيْنِي ﴿۱۶﴾ مِنْ دَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴿۱۷﴾

دشمن آگے اس کے جہنم ہے اور پلایا جائے گا پانی پیپ کا

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ

گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اسے اور نہ قریب ہو گا کہ طلق سے اتارے اسے اور آئیگی اسے موت

كُلِّ مَكَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ، وَ مِنْ دَرَائِهِ عَذَابٌ

ہر جگہ سے اور نہ وہ مرنے والا ہے اور آگے اس کے عذاب ہے

غَلِيظٌ ﴿۱۸﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ

سخت مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا رب کا اپنے اعمال ان کے

كَرَمَادٍ يَأْتِيهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ، لَا

مانند راہ کی ہیں کہ سخت ہوتی اس پر ہوا دن آندھی کے نہیں

يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ، ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَلُ

وہ قدرت رکھتے اس پر جو کیا انہوں نے کسی چیز پر بھی یہ ہی گمراہی ہے

الْبَعِيدُ ﴿۱۹﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

دور کی کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے پیدا کئے آسمان اور زمین

بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِمُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۲۰﴾

ساتھ حق کے اگر وہ چاہے لے جائے گا تم کو اور لاشے کا مخلوق نئی اور

مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۲۱﴾ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ

نہیں یہ اللہ پر ہرگز مشکل اور وہ نکلیں گے اللہ کیلئے سب کے سب تب کہیں گے

الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ

کمزور ان لوگوں کو جنہوں نے متبرک کیا کہ یقیناً ہم تھے تمہارے پیرو پس کیا تم

أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا قَالُوا

کفایت کریں گے ہم سے عذاب اللہ کے کچھ بھی وہ کہیں گے

لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَلْنَا أَمْ

اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ البتہ ہدایت دیتے ہم تم کو برابر ہے ہم پر خواہ گھبرائے ہم یا

صَبْرًا مَّا لَنَا مِنْ مَّجِيصٍ ﴿۲۲﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا

مہر کیا ہم نے نہیں ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ اور کہے گا شیطان جب

قُضِيَ الْأَمْرَاتِ اللَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّ وَعَدَّكُمْ

فیصلہ کیا جائیگا معاملہ کا یقیناً اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے وعدہ سچا اور وعدہ کیا تھا میں نے تم سے

فَاخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ

پس خلاف کیا میں نے تم سے اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی غلبہ سوائے اسکے کہ

دَعَوْتُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تَلُمُوا

بلا بیا میں نے تم کو پس بات مان لی تم نے میری پس نہ علامت کرو مجھے اور علامت کرو

أَنْفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي

نفسوں کو اپنے نہیں میں فریاد پر پہنچنے والا تمہاری اور نہ تم فریاد رس ہو میرے یقیناً

كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ الظَّالِمِينَ

میں نے انکار کیا اس کا کہ شریک بنایا تم نے مجھ سے پہلے سے یقیناً ظالم وہ ہیں

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور داخل کئے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کہیں

الصَّلَاحِ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآ نَهْرٌ خَلِيدٍ

نیکیوں باغات میں بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں رہ پڑنے والے ہونگے

فِيهَا يَأْذِنُ رَبُّهُمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۳۳ ۝

ان میں ساتھ حکم کے رب کے اپنے دعا و ملاقات ان کی ان میں سلام ہوگا کیا نہیں دیکھا تو

كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ

نے کس طرح بیان کی اللہ نے مثال بات اچھی کی مانند درخت

طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝۳۴ ۝

اچھے کے جڑ جس کی گڑھی ہوتی ہے اور شاخ جس کی آسمان میں ہے وہ دیتا ہے

أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

پھل اپنا ہر وقت ساتھ حکم کے رب اپنے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۳۵ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ

لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور مثال بات بُری کی

كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ

مانند درخت بُرے کی ہے جو اکھڑ گیا اوپر سے ہی زمین کے نہیں اس کے لیے

قَرَارٍ ۝۳۶ ۝ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي

ٹھہرنا ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ بات مضبوط کے

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۝۳۷ ۝

زندگی دنی میں اور آخرت میں اور گمراہ ٹھہراتا ہے اللہ ظالموں کو

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝۳۸ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا

اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کی جنہوں نے بدل دیا

نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝۳۹ ۝ جَهَنَّمَ

نعمت کو اللہ کی کفر سے اور اتارا قوم کو اپنی گھر میں ہلاکت کے (یعنی) جہنم میں کہ

يَصَلُّونَهَا وَيِئِسَ الْقَرَارُ ۝۴۰ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

داخل ہوں گے اس میں اور کیا ہی بُرا ہے ٹھہرنا اور بناٹے انہوں نے اللہ کے شریک

لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ

تاکہ گمراہ کریں راہ سے اس کی تو کدے فائدہ اٹھاؤ پس یقیناً ٹھکانا تمہارا

اِلَى النَّارِ ﴿۳۱﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوْا

ظن آگ کے ہے تو کدے بندوں کو میرے وہ جو ایمان لائے قائم کریں

الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ

نماز اور خرچ کریں اس سے جو دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور ظاہر

قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيْهِ وَلَا خِلَافٌ ﴿۳۲﴾ اَللّٰهُ

پہلے اس کے کہ آوے ایک دن کہ نہیں خرید و فروخت اس میں اور نہ دوستی اللہ

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

وہ ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین اور اتارا بدل سے

مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ وَسَخَّرَ

پانی پس نکالے ساتھ اس کے پھل بطور رزق کے تمہارے اور کام میں لگائیں

لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ

تمہارے لیے کشتیاں تاکہ چلیں سمند میں ساتھ حکم کے اس کے اور کام میں لگا دیتے تمہارے

اَلْاَنْهٰرَ ﴿۳۳﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دٰ اٰتِيْنَ ۗ

پہلے دریا اور کام میں لگا دیتے تمہارے لیے سورج اور چاند گردش کرنیوالے

وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۴﴾ وَاَتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَآ

اور کام میں لگا دیتے تمہارے لیے رات اور دن اور دیا اس نے تم کو ہر وہ کہ

سَاَلْتُمُوْهُ ۗ وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ

مانگا تم نے جسے اور اگر شمار کرو تم نعمت کو اللہ کی نہ گن سکو گے تم اسے

اِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ

یقیناً انسان البتہ بہت ظلم کرنیوالا ناشکر گزار ہے اور جب کہا ابراہیم نے اے رب میرے

اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَاَجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ

بنا یہ شہر امن والا اور بچا مجھے اور بیٹوں کو میرے کہ ہم عبادت کریں

الْأَضْنَامَ ﴿۳۶﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ؕ
بتوں کی اسے رب میرے یقیناً انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو آدمیوں میں سے

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ؕ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ
پس جس نے پیروی کی میری پس وہ یقیناً مجھ سے ہے اور جس نے نافرمانی کی میری تو یقیناً تو بہت بخشش والا

رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ
بست رقم کرنیوالا ہے اسے رب ہمارے یقیناً میں نے بسائی ہے اولاد اپنی ایک وادی میں کہ نہیں

ذِي زُرِّعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
کھیتی والی پاس گھر تیرے عزت والے کے اسے رب ہمارے تاکہ وہ قائم کریں نماز

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
پس کر دلوں کو لوگوں کے کہ جھکیں طرف ان کی اور رزق دے انہیں

مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
پھلوں سے تاکہ وہ شکر کریں اسے رب ہمارے یقیناً تو جانتا ہے

مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور نہیں پوشیدہ ہوتی اللہ پر کوئی بھی چیز

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۳۹﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ
زمین میں اور آسمان میں سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے عطا کئے

لِي عَبْدَ الْكَبِيرِ إسماعِيلَ وَإِسْحَاقَ ؕ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ
مجھے بڑھا پے میں اسمعیل اور اسحق یقیناً رب میرا البتہ خوب سنتے والا

الدَّعَاءِ ﴿۴۰﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ
ہے دعا کا اسے رب میرے بنا مجھے قائم کرنیوالا نماز کا اور اولاد کو میری

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿۴۱﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَ
اسے رب میرے اور قبول کر دعا میری اسے رب ہمارے بخشش مجھے اور ماں باپ کو میرے اور

لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿۴۲﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
مومنوں کو جس دن قائم ہوگا حساب اور نہ ہرگز گمان کرتو اللہ کو

غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
غافل اس سے جو کرتے ہیں ظالم سوائے اسکے نہیں کہ مہلت دیگا وہ انہیں اس دن تک

تَشْخِصُ فِيهِ ۗ إِلَّا بَصَارُ ۗ ۝۳۳ ۗ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ
کچھنی کی پٹی رہ جائیں جس میں آنکھیں خوفزدہ ہو کر دوڑنے والے ہونگے اور اٹھائے ہونگے سروں کو اپنے

لَا يَزِيدُ الْيَهُودَ طَرْفَهُمْ ۚ وَأَفْعَدَتْهُمْ هَوَاءٌ ۗ ۝۳۴ ۗ وَأَنْذِرْ
نہ پھرے گی طرف ان کی نگاہ ان کی اور دل ان کے بیٹھے جا رہے ہونگے اور ڈرا

النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۖ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
لوگوں کو جس روز آئے گا ان کے پاس عذاب پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا

رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ لَا تَجِبْ دَعْوَتَكَ ۚ وَ
اے رب ہمارے مہلت دے ہمیں مبعاد قریب تک ہم قبول کر چکے دعوت تیری اور

نَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا
پیروی کریں گے رسولوں کی کیا نہ تھے تم تمہیں کھاتے پہلے سے کہ نہیں

لَكُمْ مِّن ذَوَالٍ ۗ ۝۳۵ ۗ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
تمہارے لیے کوئی زوال اور آباد ہوئے تم گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا

أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ
جانوں پر اپنی اور ظاہر ہو گیا تھا تمہارے لیے کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ساتھ انکے اور بیان کی تمہیں ہم نے تمہارے

الْأَمْثَالَ ۗ ۝۳۶ ۗ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
یہے مثالیں اور یقیناً کی تھی انہوں نے تدبیر اپنی اور پاس اللہ کے ہے تدبیر ان کی

وَأَن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۗ ۝۳۷ ۗ فَلَا
اور اگرچہ تھی تدبیر ان کی کہ ٹھل جائیں اس سے پہاڑ پس نہ

تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخِلِفًا وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
تو گمان کر اللہ کو خلاف کر نیوالا وعدہ کو اپنے رسولوں سے یقیناً اللہ غالب ہے

ذُو انْتِقَامٍ ۗ ۝۳۸ ۗ يَوْمَ تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
انتقام لینے والا جس روز بدل دی جائے گی زمین علاوہ اس زمین کے اور آسمان

وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۴۱﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

اور وہ نکلیں گے اللہ یکتا (اور) غالب کے لیے اور تو دیکھے گا مجرموں کو

يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۴۲﴾ سَرَّابِيلُهُمْ مِنْ

اس دن جکڑے ہوئے زنجیروں میں کھرتے ہوں گے ان کے

قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿۴۳﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ

تارکول کے اور ڈھانکے گی چہروں کو ان کے تاکہ بدل دے اللہ

كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴۴﴾

ہر نفس کو جو اس نے کمایا یقیناً اللہ جلد لینے والا ہے حساب

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُمْ أُولَٰئِكَ

یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں ساتھ اس کے اور تاکہ وہ جان لیں کہ سوائے اسکے نہیں

هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَرَبُّكَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۴۵﴾

کہ وہی معبود ہے اکیلا اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقول والے



سُورَةُ الْحَجْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الَّذِينَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴿۲﴾

الف۔ لام۔ را یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن کھونکر بیان کرنوالے کی

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۴﴾

بہت دفعہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے کاش کہ ہوتے وہ مسلمان

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ آلاَمًا لَّسَوْفَ

چھوڑ دے ان کو کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور غافل کرے ان کو آرزو کیونکہ عنقریب

يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا

جان لیں گے اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر ایسے حال میں کہ اسکے

كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿۶﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا

یہ وقت تھا مقررہ نہیں بڑھتی کوئی قوم مگر اسے اپنی اور نہ

يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۷﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

پیغمبر رہ سکتے ہیں اور انہوں نے کہا اے وہ شخص کہ اتارا گیا ہے اور اس کے

الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۸﴾ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ

یہ ذکر یقیناً تو البتہ مجنون ہے کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس فرشتے اگر

كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۹﴾ مَا نُنزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ

ہے تو سچوں میں سے نہیں ہم اتارتے فرشتے مگر ساتھ حق کے

وَمَا كَانُوْا اِذَا مُنْظَرِیْنَ ﴿۱۰﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

اور نہ ہوں گے اس وقت ملت دیئے ہوئے یقیناً ہم نے ہی اتارا ہے یہ ذکر اور

اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

یقیناً ہم خود ہی اسکی ضرور حفاظت کر نیوالے ہیں اور یقیناً یقیناً رسول بھیجے ہم نے پہلے تجھ سے

شِیْعِ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۲﴾ وَمَا يٰٓاْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا

گردہوں میں پہلے اور نہیں آیا ان کے پاس رسول مگر تجھ

بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۳﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ

اس سے ہنسی کرتے اس طرح ہم چلاتے ہیں اس کو دلوں میں

الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۱۴﴾ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ

مجرموں کے نہیں وہ ایمان لاتے اس پر اور یقیناً گزر چکا ہے طریقہ

أَلَا ذَرِيرِينَ ۱۴ ۱۴ وَكَوَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

پہلوں کا اور اگر کھولیں ہم ان پر دروازہ آسمان سے

فَطَلُّوا فِيهِ يَعْزُجُونَ ۱۵ ۱۵ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ

پھر لگیں اس میں چڑھنے تو ضرور کہیں کہ سوائے اسکے نہیں کہ متوالی کی گئی ہیں

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۱۶ ۱۶ وَلَقَدْ جَعَلْنَا

آنکھیں ہماری بلکہ ہم لوگ ہیں جادو رکھے ہوئے اور یقیناً یقیناً بنائے ہم نے

فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۱۷ ۱۷ وَحَفِظْنَاهَا

آسمان میں ستارے اور خوبصورت بنایا ہم نے نکو دیکھنے والوں کے لیے اور حفاظت کی ہم نے اس

مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۱۸ ۱۸ إِلَّا مَن أَشْرَقَ السَّمْعَ

(آسمان) کی ہر شیطان ملعون سے سوائے اس کے جس نے چوری کی سننے میں

فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ۱۹ ۱۹ وَالْأَرْضُ مَدَدُهَا وَاللَّيْلُ نَارٌ

پس پیچھے گیا اس کے شعلہ کھلا کھلا اور زمین کو پکھایا ہم نے اور ڈالے ہم نے

فِيهَا رَوَاسِيٍّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۲۰ ۲۰

اس میں پہاڑ اور اگائی ہم نے اس میں ہر چیز موزون

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ

اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں گزارے کے اسباب اور واسطے اس کے کہ نہیں ہو تم جسے

بِرِزْقَيْنَ ۲۱ ۲۱ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانُهُ وَمَا

رزق دینے والے اور نہیں کوئی چیز مگر پاس ہمارے خزانے ہیں اس کے اور نہیں

نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۲۲ ۲۲ وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ

اتارتے ہم اسے مگر ساتھ اندازہ معلوم کے اور بھیجی ہم نے ہوا میں بار دار

فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ

پس اتارا ہم نے بادل سے پانی پس پلایا ہم نے تم کو وہ اور نہیں تم

لَهُ بِخَازِنِينَ ۲۳ ۲۳ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ

اس کو ذخیرہ کرنے والے اور یقیناً ہم ہی زندہ کرنے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی

الْوَارِثُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ

وارث ہیں اور یقیناً یقیناً جان یا ہم نے پہلوں کو تم میں سے

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿۲۵﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ

اور یقیناً یقیناً جان یا ہم نے پچھلوں کو اور یقیناً رب تیرا ہی

يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

اکٹھا کر کیا انھیں یقیناً وہ حکمت والا بہت جاننے والا ہے اور یقیناً یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو

مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۷﴾ وَالْجِبَانِ خَلَقْتَهُ مِنْ

کھکھناتے کالے کچھڑ تبدیل شدہ ہیٹت والے سے اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے

قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ ﴿۲۸﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ

پہلے آگ سے کو والی اور جب کہا رب تیرے نے فرشتوں کو

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۹﴾

کہ میں پیدا کر نیوالا ہوں انسان کو کھکھناتے کالے کچھڑ تبدیل شدہ ہیٹت والے سے

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ

پس جب ٹھیک ٹھاک بناؤں اُسے اور پھونکوں اس میں رُوح اپنی پس گر پڑو اس کے لیے

سُجِدِينَ ﴿۳۰﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۳۱﴾ إِلَّا

سجدہ میں پس سجدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام نے سوائے

إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّٰجِدِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ

ابلیس کے اس نے انکار کیا کہ وہ ہو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے فرمایا

يٰۤإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّٰجِدِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ

اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو نہ ہو انو ساتھ سجدہ کر نیوالوں کے کہا

لَمْ أَكُنْ لَّا سَجِدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ

نہ تھا میں کہ سجدہ کروں انسان کو پیدا کیا تو نے اسے کھکھناتے کالے کچھڑ

مَّسْنُونٍ ﴿۳۴﴾ قَالَ فَاخْرِجْهَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَٰجِيْمٌ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّ

تبدیل شدہ ہیٹت والے سے پس فرمایا نکل اس سے یقیناً تو ملعون ہے اور یقیناً

عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۳۶﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي

تجھ پر لعنت ہے تا روز جزا اور اس نے کہا اے رب میرے سوہلت دے مجھے اس

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۳۷﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۳۸﴾

وقت تک کہ وہ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے فرمایا پس یقیناً تو ہے مہلت دینے گئے ہوؤں میں سے

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي

مقررہ وقت کے دن تک اس نے کہا اے رب میرے اس لیے کہ گمراہ کیا تو نے مجھے

لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۰﴾ إِلَّا

البتہ مزین کروں گا میں ان کے لیے زمین میں اور البتہ گمراہ کروں گا میں ان سب کو سوائے

عِبَادِكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ

بندوں کے تیرے ان میں سے مخلصوں کے فرمایا یہ راہ مجھ پر

مُسْتَقِيمٌ ﴿۴۲﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا

سیدھی ہے یقیناً بندے میرے وہ ہیں کہ نہیں تیرا ان پر غلبہ سوائے

مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿۴۳﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ

انکے جس نے پیروی کی تیری گمراہوں میں سے اور یقیناً جہنم وعدہ کی جگہ ہے ان

أَجْمَعِينَ ﴿۴۴﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

سب کی اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ کا ان میں سے

جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۴۵﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۴۶﴾

ایک حصہ تقسیم شدہ یقیناً متقی باغوں میں اور چشموں میں ہونگے

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿۴۷﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ

داخل ہو ان میں سلامتی سے امن والے ہو کر اور نکال لیں گے ہم جو سینوں میں تھا ان کے

مِّنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۴۸﴾ لَا يَمَسُّهُمْ

کینہ بھائی بھائی ہو کر (دیکھیں گے) تختوں پر آمنے سامنے نہ چھوئے گی انہیں

فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿۴۹﴾ نَبِيُّ عِبَادِي

اس میں تنکان اور نہ وہ اس سے ہرگز نکالے جانے والے ہیں آگاہ کر بندوں کو میرے

إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۰﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
 کریں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں اور یقیناً عذاب میرا ہی عذاب

الْأَلِيمُ ﴿۵۱﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿۵۲﴾ إِذْ دَخَلُوا
 دردناک ہے اور آگاہ کریں گے انہوں سے ابراہیم کے جبکہ وہ داخل ہوئے

عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿۵۳﴾ قَالُوا
 اس پر سوگھا انہوں نے سلام اس نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں انہوں نے کہا

لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِخُلْمٍ عَلِيمٍ ﴿۵۴﴾ قَالَ أَبَشْرُ تَمُونِي
 نہ ڈر تو یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تجھے بہت علم والے لوگ کی اس نے کہا کیا بشارت دی تم نے مجھے

عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تَبَشِّرُونَ ﴿۵۵﴾ قَالُوا أَبَشْرُ نَكَ
 اس پر کہ پہنچا ہے مجھے بڑھاپا سوکس بنا کر تم بشارت دیتے ہو انہوں نے کہا بشارت دی ہم نے تجھے

بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَارِظِينَ ﴿۵۶﴾ قَالَ وَمَنْ يَّقْنُطُ
 ساتھ حق کے پس نہ ہو تو نا امیدوں میں سے اس نے کہا اور کون یالوس ہوتا ہے

مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۷﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ
 رحمت سے رب کی اپنے سوائے گمراہوں کے کہا پس کیا ہے اصل مقصد تمہارا

أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۸﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ
 اے فرستادو کہا انہوں نے یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں قوم

مُجْرِمِينَ ﴿۵۹﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۶۰﴾ إِلَّا
 مجرم کے سوائے خاندان لوط کے یقیناً ہم البتہ نجات دینے والے ہیں انہیں سب کو سوائے

أَمْرَاتِهِ قَدْ زَنَّا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۶۱﴾ فَلَمَّا جَاءَ
 بیوی کے اس کی مقدر کیا ہم نے کہ وہ البتہ پیچھے رہنے والوں سے ہے سو جب آئے

آلَ لُوطٍ بِالْمُرْسَلُونَ ﴿۶۲﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿۶۳﴾
 خاندان لوط کے پاس بھیجے ہوئے اس نے کہا یقیناً تم لوگ اجنبی ہو

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۴﴾ وَ
 انہوں نے کہا بلکہ لائے ہیں ہم تیرے پاس وہ کہ تھے اس میں وہ شک کرتے اور

أَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصِدْقُونَ ﴿۶۵﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

لائے ہیں ہم تیرے پاس حق اور یقیناً ہم البتہ سچے ہیں لے چل اپنے گھر والوں کو

بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ

حصہ میں رات کے اور پیچھے چل ان کے اور نہ التفات کرے تم میں سے

أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۶﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ

کوئی اور چلو جہاں کا تم حکم دینے جاتے ہو اور فیصلہ کیا ہم نے طرف اس کی

ذَلِكَ الْأَمْرَاتِ ذَابِرَهُمْ وَلَا يَمْقُطُونَ مَصْبِحِينَ ﴿۶۷﴾

اس امر کا کہ جڑھ ان لوگوں کی کاٹی جانے والی ہے صبح ہوتے ہی

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۸﴾ قَالَ إِنَّ

اور آئے اہل شہر خوشی محرتے ہوئے اس نے کہا یقیناً

هُوَ لَأَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿۶۹﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا

یہ لوگ مہمان ہیں میرے پس نہ رسوا کر دیجئے اور ڈرو اللہ سے اور نہ

تُخْزُونَ ﴿۷۰﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نُنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۷۱﴾ قَالَ

ذلیل کر دیجئے انہوں نے کہا کیا نہیں ہم نے منع کیا تجھ کو تمام دنیا سے کہا

هُوَ لَأَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿۷۲﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ

یہ بیٹیاں ہیں میری اگر ہوتی کرنے والے قسم ہے تیری عمر کی یقیناً وہ

لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۷۳﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ

البتہ مدہوشی میں اپنی بھٹک رہے ہیں پس پھولیا ان کو عذاب نے

مُشْرِقِينَ ﴿۷۴﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا

سورج نکلنے ہوئے پس کر دیا ہم نے اس کے بلند حصہ کو اس کا پچلا حصہ اور برسائے ہم نے

عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ ﴿۷۵﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

ان پر پتھر کنکروں سے رہنے ہوئے یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں

لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿۷۶﴾ وَإِنَّهَا لَيْسَبِيلٌ مُّقِيمٍ ﴿۷۷﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ

فراست رکھنے والوں کے لیے اور یقیناً وہ رگاؤں راستے چلتے پر ہے یقیناً اس میں

لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

البتہ نشان ہے مومنوں کے لیے اور یقیناً تھے رہنے والے بن کے

لظَلِيمِينَ ﴿٨٦﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَرَأَيْنَاهُمَا لِيَامًا وَمُيَبِّئِينَ ﴿٨٧﴾

البتہ ظالم پس انتقام لیا ہم نے ان سے اور یقیناً وہ دونوں البتہ راستہ کھلے پر ہیں

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٨﴾ وَأَتَيْنَهُمْ

اور یقیناً یقیناً جھٹلایا رہنے والوں نے حجر کے رسولوں کو اور دی ہم نے ان کو

أَيُّتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٩﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ

آیتیں اپنی پس تھے وہ ان سے اعراض کر نیوالے اور تھے وہ تراش کر بناتے

مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا أَمِينًا ﴿٩٠﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ

پھاڑوں سے گھر امن میں پس پھڑپھڑایا ان کو عذاب نے

مُصْبِحِينَ ﴿٩١﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٢﴾ وَ

صبح کے وقت پس نہ کفایت کی ان سے اس نے کہ جو تھے وہ کما تے اور

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

ہیں بنائے ہم نے آسمان اور زمین اور جو درمیان ان دونوں کے ہے مگر ساتھ حق کے

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٩٣﴾

اور یقیناً وہ گھڑی البتہ آئیوالی ہے پس درگزر کر درگزر کرنا اچھا

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٩٤﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا

یقیناً رب تیرا ہی بہت پیدا کر نیوالا بہت جاننے والا ہے اور یقیناً یقیناً دین ہم نے تھے سات (آیتیں)

مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ﴿٩٥﴾ لَا تُمَدَّنْ عَيْنَيْكَ

دہرائی جانے والی اور قرآن بڑا نہ پھیر دونوں آنکھیں اپنی

إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ

طرف اس کے کہ فائدہ دیا ہم نے ساتھ جس کے ان میں سے اور نہ غم کھا ان پر اور

اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ

جھکا (شفقت کا) بازو اپنا مومنوں کے لیے اور تو کہدے یقیناً میں ہی ڈرانے والا ہوں

الْمُيْتِينَ ﴿٩٠﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ

کھلا کھلا اس لیے کہ اتارا ہم نے (عذاب) تقسیم کرنے والوں پر وہ جنہوں نے

جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسُئَلَنَّهُمْ

کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے پس قسم ہے رب کی تیرے کہ ضرور باز پرس کریں گے

أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ فَاصْدَعْ بِمَا

ہم ان سب سے متعلق اس کے کرتے وہ عمل کرتے پس کھول کر بیان کرو جس کا تو

تَوْمَرُوا عَرْضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ

حکم کیا جاتا ہے اور اعراض کر مشرکوں سے یقیناً کفایت کی ہم نے تجھ

الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٦﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

ہنسی کرنے والوں سے وہ جو کہ قرار دیتے ہیں ساتھ اللہ کے معبود

آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ

دوسرا پس ضرور وہ جان میں گے اور یقیناً یقیناً جان لیا ہم نے کہ تو وہ ہے کہ تنگ ہوتا ہے

صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٨﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

سینہ تیرا اس سے جو وہ کہتے ہیں پس تسبیح بیان کر ساتھ حمد کے رب کی اپنے اور ہو جا

مِنَ السَّجِدِينَ ﴿٩٩﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٠٠﴾

سجدہ کرنیوالوں سے اور عبادت کر رب کی اپنے یہاں تک کہ آئے تیرے پاس موت

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

إِنِّي أَمْرٌ بِاللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰى عَمَّا

آگیا حکم اللہ کا پس نہ جلدی کرو اس کی پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جسے

يُشْرِكُونَ ۲ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى

وہ شریک بناتے ہیں اُنزاتا ہے فرشتوں کو ساتھ کلام کے حکم سے اپنے

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوكَ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

جس پر چاہتا ہے بندوں سے اپنے یہ کہ ڈراؤ بات یہ ہے کہ نہیں کوئی خدا مگر میں

فَاتَّقُونَ ۳ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْلَى

پس ڈرو مجھ سے پیدا کئے اس نے آسمان اور زمین ساتھ حق کے بلند ہے

عَمَّا يُشْرِكُونَ ۴ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُفْهِةٍ فَإِذَا هُوَ

اس سے وہ شریک بناتے ہیں پیدا کیا انسان کو نطفہ سے پس اچانک وہ

خَصِيمٌ مُبِينٌ ۵ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ

جھگڑنے والا ہے کھلا کھلا اور مویشی پیدا کیا انہیں تمہارے لیے ان میں سامان گرمی ہے اور

مَنْفَعَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۶ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ

نفع میں اور ان سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جب شام کو

تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۷ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ

پہرا کر لاتے ہو اور جب چرانے نکلتے ہو اور وہ اُٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے اس شہر تک کہ

لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشِقُّ الْإِنْفُسِ إِذِ ان رَّبَّكُمْ لَرءُوفٌ

نہیں تھے تم پیچھے والے ان تک مگر ساتھ تکلیف میں ڈالنے جانوں کو یقیناً رب تمہارا البتہ بہت مہربان

رَّحِيمٌ ۸ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

بہت رحم کرنے والا ہے اور گھوڑوں کو چھروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ سوار ہو تم ان پر اور بطور زینت

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۹ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ

اور پیدا کرے گا جو نہیں جانتے تم اور اللہ پر میانی راہ کا بتانا ہے اور

مِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۱۰ هُوَ الَّذِي

بعض ان میں سے ٹیڑھی ہیں اور اگر چاہتا البتہ ہدایت دیتا تم کو سب کو وہی ہے جس نے

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ

اتارا بادل سے پانی تمہارے لیے کہ اس سے پینا ہے اور اس سے درخت ہیں کہ

فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿۱۱﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ

جس میں تم (جانور) چراتے ہو وہ اگاتا ہے تمہارے لیے ساتھ اگے کھیتی اور زیتون

وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور کھجوریں اور انجور اور ہر پھل یقیناً اس میں

لَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۲﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ

ابنہ نشان ہے ان لوگوں کیلئے جو سوچ بچار کرتے ہیں اور کام میں لگا دیتے تمہارے لیے رات اور دن اور

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّي

سورج اور چاند اور ستارے کام میں لگائے ہوئے ہیں ساتھ ہم کے اس کے یقیناً اس میں

ذَلِكَ لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ

ابنہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں اور جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۴﴾

مختلف ہیں رنگ اس کے یقیناً اس میں ابنہ نشان ہے ان لوگوں کیلئے جو نصیحت پر ملتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ

اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس سے گوشت تازہ اور

تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ

نکالو اس سے زیور پہنتے ہو تم جسے اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو

مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۵﴾

پھاڑنے والیاں اس میں اور تاکہ چاہو تم فضل اس کا اور تاکہ تم شکر کرو

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَدًا يَسِيءَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

اور ڈالے اس نے زمین میں پہاڑ کہ پھر کھائیں ساتھ تمہارے اور دریا اور راستے

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾ وَعَلَّمْتَ دَرَبَ النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۷﴾

تاکہ تم ہدایت پاؤ اور علامتیں دہنائیں اور ساتھ ستاروں کے وہ راستے پاتے ہیں

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۸﴾ وَإِنَّ

کیا پس وہ جو پیدا کرتا ہے مانند اس کے ہے جو نہیں پیدا کرتا کیا پس نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اور اگر

تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

گنوتم نعتیں اللہ کی نہ گن سکو گے ان کو یقیناً اللہ البتہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِينَ

اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو تم اور جو ظاہر کرتے ہو تم اور جو لوگ

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

پکارتے ہیں سوائے اللہ کے نہیں پیدا کرتے کچھ اور وہ

يُخْلِقُونَ ﴿۲۱﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا آيَانَ

پیدا کئے جاتے ہیں مردہ ہیں نہیں زندہ اور نہیں جانتے کہ کب

يُبْعَثُونَ ﴿۲۲﴾ أَلَمْ كُفِّرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ فَكَيْفَ يُبْعَثُونَ

اٹھائے جائیں گے معبود تمہارا معبود ہے ایک پس جو لوگ نہیں ایمان لاتے

بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۲۳﴾ لَا جَرَمَ

آخرت پر دل ان کے انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں نہیں کوئی شک

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں یقیناً وہ نہیں پسند کرتا

الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ لَا

تکبر کرنے والوں کو اور جب کہا جاتا ہے ان کو کیا اتارا ہے رب نے تمہارے

قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً

کہتے ہیں کہانیاں پہلوں کی تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ

دن قیامت کے اور بوجھ ان لوگوں کے کہ گمراہ کرتے ہیں جن کو بغیر

عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُّونَ ﴿۲۶﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

علم کے آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو بوجھ وہ اٹھاتے ہیں یقیناً تدبیر کی ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے

فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

پس آیا اللہ عمارت کے پاس ان کی بنیادوں کی طرف سے پس گر پڑی ان پر چھت

مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۵﴾

اوپر سے ان کے اور آبا ان کے پاس عذاب (وہاں سے) جمال سے نہیں جانتے تھے وہ

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي

پھر دن قیامت کے ذیل کر لگا ان کو اور کہے گا کہاں ہیں شریک میرے

الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا

وہ جو کہ تھے تم مخالفت کرتے ان کے بارہ میں کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا

الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۲۶﴾

علم یقیناً ذلت آج اور برائی کافروں پر ہے

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

وہ جو کہ وفات دیتے ہیں انہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ ظلم کرتے تھے جانوں پر اپنی

فَالْقَوْمَ الَّذِينَ سَلَّمُوا لَنَا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ مَا بَلَّغْنَاكَ اللَّهُ

بس ڈالیں گے صلح (کی طرح) کہہ تھے ہم کرتے کوئی برائی کیوں نہیں یقیناً اللہ

عَلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ فَاذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

نوب جاننے والا ہے اسے جو تھے تم کرتے پس داخل ہو دروازوں میں جہنم کے

خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۲۸﴾ وَقِيلَ

رہ پڑنے والے اس میں پس کیا ہی برا ہے ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا اور کہا گیا

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا

ان لوگوں کیلئے جنہوں نے تقویٰ کیا، کیا اتارا ہے رب نے تمہارے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ

ان لوگوں کیلئے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھلائی ہے اور البتہ گھر

الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۹﴾ جَنَّتُ عَدْنٍ

آخرت کا بہتر ہے اور البتہ کیا ہی اچھا ہے گھر متقیوں کا باغات میں ہمیشہ کے

يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا

داخل ہوں گے وہ ان میں بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں ان کے لیے ہے اس میں جو

يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۲﴾ الَّذِينَ

چاہیں گے اسی طرح بدلہ دیکھا اللہ متقیوں کو وہ کہ

تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ لَا يَقُولُونَ سَلَامًا عَلَيْكُمْ وَلَا

دفات دیتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ

داخل ہو جنت میں بسبب اس کے کہ تھے تم (نیک عمل) کرتے نہیں انتظار کرتے وہ

إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرًا رِبِّكَ كَذَلِكَ

مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا آوے حکم رب کا تیرے اس طرح

فَعَلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ

کیا تھا ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے لیکن

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۴﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا

تھے وہ جانوں پر اپنی ظلم کرنے پس پہنچیں انہیں بدیاں اس کی جو

عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۵﴾ وَقَالَ

کیا انہوں نے اور گھیر لیا انہیں اس نے کہ تھے ساتھ جیکے ہنسی کرتے اور کہا

الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ

ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ نہ عبادت کرتے ہم سوائے اس کے

مِنْ شَيْءٍ تَحْنُ وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ

کسی کی ہم اور نہ باپ دادا ہمارے اور نہ حرام کرنے ہم بغیر اس کے (کہنے کے) کوئی

شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى

چیز اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے پس نہیں

الرُّسُلِ إِلَّا الْآبِلَةُ الْمُبِينُ ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

رسولوں پر مگر پہنچا دینا کھلا کھلا اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں

رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ

رسول یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو بتوں سے پس بعض ان میں سے

مَنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

وہ ہیں کہ ہدایت دی اللہ نے اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ثابت ہوئی ان پر گمراہی

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

پس پھرو زمین میں پس دیکھو کیونکر ہوا انجام

الْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ تَخْرِيصَ عَلَىٰ هٰذِهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

مجھلانے والوں کا اگر تو حرص کرے ہدایت پر ان کی پس یقیناً اللہ نہیں

يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَأَقْسَمُوا

ہدایت دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار اور قسمیں کھاؤں انہیں

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَنْبَغْتُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَدَلًا

نے اللہ کی بچتہ قسمیں اپنی کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مرجاتا ہے کیوں نہیں

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

وعدہ ہے اس پر بچتہ دیکھیں اکثر لوگ نہیں جانتے

يُؤْتِي لَّهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ

تاکہ بیان کرے ان کے لیے کہ اختلاف کرتے تھے جس میں اور تاکہ جان میں وہ لوگ جنہوں نے

كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ

کفر کیا کہ وہ تھے جھوٹے سوائے اسکے نہیں کہ کہنا ہمارا کسی چیز کے لیے

إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ

جبکہ ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کے متعلق ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے

هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيَّ وَتَنَّهُمْ

ہجرت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے کہ ظلم کئے گئے البتہ جگہ دیں گے ہم ان کو

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا

دنیا میں اچھی اور البتہ اجر آخرت کا زیادہ بڑا ہے کاش کہ وہ ہوں

يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۴۲﴾

جانتے وہ جنہوں نے صبر کیا اور رب پر اپنے بھروسہ کرتے ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوا

اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے مگر مردوں کو وحی کرتے تھے ہم طرف ان کی پس پوچھو

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبُورِ

اہل ذکر سے اگر ہو تم نہیں جانتے ساتھ دلائل کے اور کتابوں کے

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

اور اتارا ہم نے طرف تیری ذکر تاکہ کھو کر بیان کرے ان لوگوں کیلئے جو اتارا گیا طرف ان کی

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ

اور تاکہ وہ سوچ بچار کریں کیا پس امن میں ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تدبیر کی برائیوں کی

أَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

اس سے کہ دھنسا دے اللہ انہیں زمین میں یا آوے ان کے پاس عذاب

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۱﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ

جہاں سے نہیں وہ جانتے یا پکڑے ان کو ان کے پھرنے میں پس نہیں وہ

بِمُعْجزَاتِنَا أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ

عاجز کرنے والے یا پکڑے ان کو خوف پر پس یقیناً رب تمہارا

كَرِيمٌ ﴿۴۲﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

بہتر بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف اسکے جو پیدا کیں اللہ نے چیزیں

يَتَفَيَّؤُا ظِلًّا عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ

جھکتے ہیں سامنے ان سے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کیلئے

وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴿۴۳﴾ وَبِاللَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

در آئینا لیکر وہ ذلیل ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو

الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿۴۴﴾

زمین میں ہیں چلنے والے اور فرشتے اور وہ نہیں تکبر کرتے

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۴۵﴾

ڈرتے ہیں رب سے اپنے جو ان کے اوپر ہے اور کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ

اور فرمایا اللہ نے نہ بناؤ معبود دو سوائے اگے نہیں کہ وہ معبود ہے

وَاحِدٌ. فَإِنَّمَا يَفَارِهِبُونَ ﴿۵۲﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

ایک پس مجھ سے ہی ڈرو اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور

الْاَرْضِ وَلَهُ الدِّیْنُ وَاَصْبَاءُ اَفْغَیْرًا لِّلّٰهِ تَتَّقُونَ ﴿۵۳﴾

زمین میں ہے اور اسی کے لیے فرمانبرداری ہے دائم کیا پس اللہ کے سوا بچاؤ کا ذریعہ بناتے ہو

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ

اور جو تمہارے شامل مال ہے نعمت پس (وہ) ہے اللہ کی طرف سے پھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف

فَاِلَیْهِ تَجْعَرُونَ ﴿۵۴﴾ ثُمَّ اِذَا كُفِّرْتُمْ بَدَّوْا

تو اس کی طرف تم زاری کرتے ہو پھر جب دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے بھٹ

فَرِیْقٌ مِّنْكُمْ بِرِیْبِهِمْ یُشْرِكُوْنَ ﴿۵۵﴾ لَیْغَفُرُوْا بِمَا

ایک گروہ (میں) سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انکار کر دیتے ہیں اسکا

اٰتٰیْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۶﴾ وَیَجْعَلُوْنَ

جو دیا ہم نے ان کو پس فائدہ اٹھا لو پس ضرور جان لوگے تم اور بناتے ہیں

لِمَا لَا یَعْلَمُوْنَ نَصِیْبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْعَلُنَّ

اس کیلئے کہ جسے نہیں جانتے وہ ایک حصہ اس کا جو دیا ہم نے انہیں قسم ہے اللہ کی ضرور باز پرس ہوگی تم

عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَیَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ

سے اس کے متعلق جو تم افترا کر رہے ہو اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں

سُبْحٰنَہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ مَا یَشْتَهُوْنَ ﴿۵۸﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُہُمْ

پاک ہے وہ اور ان کیلئے ہے جو وہ خواہش کرتے ہیں اور جب خبر دی جاتی ہے کسی ایک کو ان میں سے

بِالْاُنْثٰی ظَلَّ وَجْہُہٗ مُسْوَدًّا وَّہُوَ کَظِیْمٌ ﴿۵۹﴾ یَتَوَارٰی

لڑائی کی ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ اور وہ اپنے غم کو چھپانے والا ہوتا ہے چھپتا ہے

مِنَ النِّقَمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِہٖ ۗ اَیْمُسُکُمْ عَلٰی

لوگوں سے بسبب بُرائی کے اسکی کہ بشارت دیا گیا وہ جس کی کیا روک رکھے اسے باوجود

هُونَ أَمِيدُ سُهُ فِي التَّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۵﴾
ذلت کے یا گارڈ سے اسے مٹی میں آگاہ ہو جاؤ برا فیصلہ کرتے ہیں

لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوَاءِ ۚ وَ
ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر مثال ہے بری اور

بِاللَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ
اللہ کے لیے مثال اعلیٰ ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اور اگر

يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ
مواخذہ کرے اللہ لوگوں سے ظلم پر ان کے نہ چھوڑے اس (زمین) پر کوئی

دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ
جاندار و لیکن ڈھیل دے گا انہیں ميعاد مقررہ تک پس جب آئے گی

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿۱۷﴾ وَ
ميعاد ان کی نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے اور

يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ
وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو ناپسند کرنے میں اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ

أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۚ لَآ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ
پر کہ ان کے لیے بھلائی ہے نہیں کوئی شک کہ ان کے لیے آگ ہے اور یقیناً وہ

مُفْرَطُونَ ﴿۱۸﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
جلائے جانے والے ہیں قسم ہے اللہ کی یقیناً یقیناً رسول بھیجے ہم نے قوموں کی طرف تجھ سے پہلے

فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ۚ وَ
پس مزین کر کے دکھائے انکو شیطان نے اعمال ان کے پس وہ دوست ہے ان کا آج اور

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۹﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا
ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور نہیں اتاری ہم نے تجھ پر کتاب مگر

لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً
تاکہ کھول کر بیان کرے انکے لیے وہ کہ اختلاف کیا انہوں نے جس میں اور ہدایت اور رحمت

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۷۵﴾ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا

ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے اتارا بادل سے پانی پس زندہ کی ساتھ

بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

اس کے زمین بعد موت کے اس کی یقیناً اس میں البتہ نشان ہے ان لوگوں کیلئے جو

يَسْمَعُونَ ﴿۷۶﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّئْتَسِقَ بِكُمْ

سنتے ہیں اور یقیناً تمہارے لیے چار پالیوں میں البتہ عبرت ہے ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے

مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا

جو پیٹوں میں ہے اس کے درمیان گوبر اور خون کے دودھ خالص

سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ ﴿۷۷﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

حلق سے گزرنے والا پینے والوں کے لیے اور پھلوں سے کھجوروں کے اور انگوروں کے

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ

تم بناتے ہو اس سے نشہ آور اور رزق اچھا یقیناً اس میں

لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۷۸﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

البتہ نشان ہے ان لوگوں کیلئے جو عقل کرتے ہیں اور وحی کی رب تیرے نے طرف بھیجی کے

أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

کہ بنا پہاڑوں سے گھر اور درختوں سے اور اس سے کہ

يَعْرِشُونَ ﴿۷۹﴾ ثُمَّ كُنَّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ

چھتیں بناتے ہیں پھر تو رکھا تمام پھلوں سے پھر پل راہوں میں اپنے

رَبِّكَ ذُلًّا لَا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

رب کی مطیع ہو کر نکلتی ہے پیٹوں سے اس کے ایک پینے کی چیز یعنی شہد) مختلف ہیں

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّنَاسٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

رنگ جس کے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے یقیناً اس میں البتہ نشان ہے

لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۸۰﴾ وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّعُ مِنْكُمْ

ان لوگوں کیلئے جو سوچتے ہیں اور اللہ نے پیدا کیا تم کو پھر وفات دے گا تم کو اور

مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ

بعض تم میں ایسے ہیں جو لوٹتے جاتے ہیں طرف بدترین عمر کے تاکہ نہ جانیں بعد

عِلْمِ شَيْءٍ مَّا رَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَذُرُّهُ ۗ وَاللَّهُ فَضَّلَ

جاننے کے کچھ بھی یقیناً اللہ خوب جاننے والا خوب قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ نے فضیلت دی

بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا

بعض کو تمہارے بعض پر رزق میں پس نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی

بِرَأْيِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ

ہرگز لوٹانے والے رزق کو اپنے ان پر کہ مالک ہوئے ہیں (جنگے) دائیں ہاتھ ان کے کہ وہ

فِيهِ سَوَاءٌ مَّا أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۗ وَاللَّهُ جَعَلَ

اس (رزق) میں برابر ہوں کیا پس نعمت کا اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں اور اللہ نے بنائیں

لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

تمہارے لیے جانوں سے تمہاری بیویاں اور بنائے تمہارے لیے بیویوں سے تمہاری

بَنِينَ وَحَفَظَةً ۗ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَّا أَقْبَلْتُمْ

بیٹے اور پوتے اور رزق دیا تم کو پاک چیزوں سے کیا پھر باطل پر

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمُ الْكَافِرُونَ ۗ وَيَعْبُدُونَ

وہ ایمان لاتے ہیں اور نعمت کا اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ

سوائے اللہ کے اس کی کہ جو نہیں قدرت رکھتا ان کے لیے رزق کی آسمانوں سے

وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۗ فَلَا تَضْرِبُوا

اور زمین سے کچھ بھی اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں پس نہ بیان کرو

بِاللَّهِ الْأَمْثَالَ مِمَّا رَاتِ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

اللہ کیلئے مثالیں مثالیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ

بیان کی اللہ نے مثال ایک بندہ غلام کی نہیں وہ طاقت رکھتا کسی بات کی اور

مَنْ دَرَزْنَهُ مِنْكَ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ

اس شخص کی کر دیا تم نے اسے ان سے اپنی رزق اچھا پس وہ خرچ کرتا ہے اس سے پوشیدہ اور

جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

ظاہر کیا وہ برابر ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کیسے ہیں بلکہ اکثر ان میں سے

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۹﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا

نہیں علم رکھتے اور بیان کی اللہ نے مثال دو آدمیوں کی ایک ان دونوں میں سے

أَنْتُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ لَا آئِنًا

گوں گاہے نہیں قدرت رکھتا کسی بات کی اور وہ بوجھ ہے آقا پر اپنے جمال کہیں

يُوجِّهُهُ لَا آيَاتٍ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ

بھیجتا ہے اُسے نہیں لاتا بھلائی کیا برابر ہے یہ اور وہ شخص کہ جو حکم کرتا ہے

بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۰﴾ وَ لِلَّهِ غَيْبُ

انصاف کا اور وہ راہ سیدھی پر ہے اور اللہ کیسے ہے غیب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ

آسمانوں اور زمین کا اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر مانند جھکنے

الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۱﴾

آنکھ کے بلکہ وہ زیادہ قریب ہے یقیناً اللہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور اللہ نے نکالا تم کو پیٹوں سے ماؤں کے تمہاری کہ نہیں جانتے تھے تم

شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَا

کچھ بھی اور بنا دے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۲﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ

تاکہ تم شکر کرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کی کام میں لگائے ہوئے

فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي

فضا میں آسمان کی نہیں تھامتا انہیں مگر اللہ یقیناً

ذٰلِكَ لَايْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۰﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

اس میں البتہ نشانات ہیں ان لوگوں کیلئے جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے

بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا

گھروں سے تمہارے رہائش کا سامان اور بناٹے تمہارے لیے چمڑوں سے چارپایوں کے گھر کہ

تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ نَضُغُكُمْ وَيَوْمَ رَاقَا مَتَكُمْ ۗ وَامِنْ

ہلکا پاتے ہو تم انہیں بروز کوچ کے اپنے اور بروز مقیم ہونے کے اپنے اور (بناٹے)

اَضْوَا فِيهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا لِى

اونوں سے ان کی اور اونٹ کے بالوں سے اور بکریوں کے بالوں سے سامان اور اسباب ایک

حِيْنٍ ﴿۸۱﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ

وقت تک اور اللہ نے بناٹے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو پیدا کیں اس نے سائے اور بناٹیں

لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابٍ مُّثَلِّثًا

تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہیں اور اس نے بناٹے تمہارے لیے گرتے جو بجاتے ہیں تم کو

الْحَرَّ وَسَرَابٍ مُّثَلِّثًا تَهَيِّجُكُمْ بِاسْمِكُمْ كَذٰلِكَ يُتَمَّ

گرمی سے اور گرتے جو بجاتے ہیں تم کو جنگ میں تمہارے اسی طرح پلوری کرتا ہے

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۲﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا

نعمت اپنی تم پر تاکہ تم فرما بردار بنو پس اگر وہ پھر جاؤ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۸۳﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ

تو صرف تجھ پر پہنچا دینا ہے کھلا کھلا وہ پہچانتے ہیں نعمت

اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿۸۴﴾ وَيَوْمَ

اللہ کی پھر انکار کرتے ہیں اس کا اور اکثر ان میں سے (بچے) کافر ہیں اور جس روز

نَبَعَتْ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ

کھڑا کریں گے ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ پھر نہ اجازت دی جائیگی ان لوگوں کو جنہوں نے

كَفَرُوْا وَاَوْلٰٓءِهِمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۸۵﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

کفر کیا اور نہ وہ غدر قبول کئے جا میں گے اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا

الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۸۶﴾ وَ

عذاب پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور نہ وہ ہلکت دیئے جائیں گے اور

إِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَأَنْ

جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا شرکاء کو اپنے کس کے اسے رب ہمارے یہ

شُرَكَاءُ وَاَلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ . قَالُوا

شریک ہیں ہمارے وہ جنہیں تھے ہم پکارتے سوائے تیرے پس ڈالیں گے

إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۸۷﴾ وَالْقَوْلَ إِلَى اللَّهِ

طرف ان کی بات کہ یقیناً تم البتہ جھوٹے ہو اور ڈالیں گے طرف اللہ کی

يَوْمَئِذٍ بِالسَّلَامِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۸﴾

اس روز صلح اور کم ہو جائیگا ان سے وہ کہ جسے تھے وہ گھرتے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْذُوعًا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَادَهُمْ

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا راہ سے اللہ کی بڑھائیں گے ہم انہیں

عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۹﴾ وَيَوْمَ

عذاب میں عذاب پر اس لیے کہ تھے وہ فساد کرتے اور جس روز

نَبَعَتْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں ایک گواہ خلاف ان کچھ جانوں سے ان کی

وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰى هُوَ لَأَنْ

اور لائیں گے ہم تجھے گواہ ان لوگوں پر اور اتاری ہم نے تجھ پر

الْكِتَابَ تَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

کتاب کھول کر بیان کر نیوالی ہر بات کیلئے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ

فرمانبرداروں کے لیے یقیناً اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا اور نیکی کا اور

إِيتَانِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ

دینے کا رشتہ دار کو اور روکتا ہے بے حیائی اور ناپسندیدہ بات اور

الْبَنِي، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ

بناتوں سے نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو اور پورا کرو عہد کو

اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا إِلَّا يَمَانَ بَعْدَ

اللہ کے جب عہد کرو تم اور نہ توڑو قسموں کو بعد

تَوْعِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَإِنَّ

پختہ کرنے کے ان کے اور یقیناً بنایا تھا تم نے اللہ کو اپنے پر ضامن یقیناً

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ

اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور نہ ہو مانند اس عورت کی جس نے توڑ لیا

عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَ نَكَمٍ

سوت اپنا بعد مضبوطی کے ٹکڑے ٹکڑے تم بناتے ہو قسموں کو اپنی

دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا

دھوکے کا ذریعہ آپس میں اس لیے کہ ہے ایک جماعت جو کہ بڑھی ہوئی دوسری جماعت سے سوائے اُنکے

يَبْلُغُكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْهَيْمَةِ مَا كُنْتُمْ

نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ذریعہ اور البتہ کھول کر بیان کرے گا تمہارے لیے بروز قیامت وہ کہ تھے تم

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

جس میں اختلاف کرتے اور اگر چاہے اللہ البتہ بنا دے تم کو جماعت ایک

وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ

ویکین گمراہ ٹھہراتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور البتہ ضرور پوچھے جاؤ گے

عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَ نَكُمْ دَخَلًا

تم متعلق اس کے کہ تھے تم کرتے اور نہ بناؤ قسموں کو اپنی کو دھوکے کا ذریعہ

بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ

آپس میں درز پھسل جائیگا قدم بعد ثبات ہونے کے اس کے اور چھوگے بُرائی

بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾

اس لیے کہ روکا تم نے راہ سے اللہ کی اور تمہارے لیے عذاب ہے بڑا

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَمَلِكُمُ اللّٰهُ فَمَنْ قَلِيلًا مَّا رَاتِمَا عِنْدَ

اور نہ خریدو بدل میں عمل کے اللہ کے مول تصوراً یقیناً جو پاس

اللّٰهُ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾ مَا عِنْدَكُمْ

اللہ کے ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے جو پاس ہے تمہارے

يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنْ نَّجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

ختم ہو جائے گا اور جو پاس اللہ کے ہے باقی رہیگا اور البتہ ضرور دینگے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا

اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۸﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

اجران کا زیادہ بہتر اس سے جو حقے وہ کرتے جس نے کی نیکی

مَنْ ذَكَرَ اٰدَاۤءِيَّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً

خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہے تو ضرور زندگی دیں گے اُسے ہم زندگی

طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا

پاکیزہ اور البتہ ضرور بدل میں دیں گے ہم ان کا زیادہ بہتر اس سے جو حقے وہ

يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾ فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

کرتے پس جب پڑھے تو قرآن تو پناہ مانگ اللہ سے

مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۱۰۰﴾ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلٰی

شیطان ملعون سے یقیناً بات یہ ہے کہ نہیں ہے اس کیلئے غلبہ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ

ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور رب پر اپنے وہ بھروسہ رکھتے ہیں سوائے ان کے نہیں کہ غلباں کا

عَلِ الَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

ان لوگوں پر ہے جو دوستی رکھتے ہیں اس سے اور وہ لوگ کہ جو اسے شریک بنانے والے ہیں

وَ اِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۗ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ

اور جب بدلتے ہیں ہم کوئی نشان جگہ پر کسی نشان کی اور اللہ بہتر جانتا ہے اُسے جو وہ اتارتا ہے

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

وہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ تو تو مفتری ہے بلکہ اکثر ان کے نہیں علم رکھتے

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

تو کہے اتارا ہے اسے روح القدس نے طرف سے رب کے لیے ساتھ حق کے تاکہ مضبوط کرے

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَدَىٰ وَبَشَّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۳﴾ وَ

ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے اور

لَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

یقیناً یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سوائے اسکے نہیں کہ سکھاتا ہے اسے ایک انسان

لِسَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ

زبان اس شخص کی کہ منسوب کرتے ہیں طرف جس کی . عجیب ہے اور یہ زبان ہے

عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۰۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

عربی کھلی کھلی یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آیتوں پر اللہ کی

لَا يَهْدِيهِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي

نہیں ہدایت دیکھا انھیں اللہ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک سوائے اس کے نہیں کہ گھڑتے ہیں

الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَأُولَٰئِكَ

جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آیت پر اللہ کی اور یہ لوگ ہی

هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۰۶﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ

جھوٹے ہیں جس نے الکار کیا اللہ کا بعد ایمان لانے کے اس پر

إِلَّا مَنْ أُضْغِرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ

سوائے اس شخص کو جو مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن ہے ساتھ ایمان کے دیکھ

مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّن

وہ جنہوں نے کھولا ساتھ کفر کے سینہ تو ان پر غضب ہے طرف سے

اللَّهِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۷﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

اللہ کی اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے

اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ

پسند کی زندگی دنیوی مقابل آخرت کے اور یقیناً اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۹۹﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ

نہیں ہدایت دیتا کفر کرنے والے لوگوں کو یہ لوگ وہ ہیں کہ ہر کردی ہے

اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاسْمِعَهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ

الذین دلوں پر ان کے اور کانوں پر ان کے اور آنکھوں پر ان کی اور یہ لوگ

هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۰۰﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ

ہی غافل ہیں نہیں کوئی شک کہ وہ آخرت میں وہی

الْخٰسِرُونَ ﴿۱۰۱﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن

نا کام ہوں گے پھر یقیناً رب تیرا ان لوگوں کیلئے جنہوں نے ہجرت کی

بَعْدَ مَا فِتْنُوا أَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ وَأَنْ رَّبُّكَ مِنْ

بعد اسکے کہ ابتلاء میں ڈالے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا یقیناً رب تیرا

بَعْدَ مَا لَعَنُوا الرَّحِيمَ ﴿۱۰۲﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ تُجَادِلُ

بعد اس کے اللہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے جس روز آئے گا ہر شخص جھگڑتا ہوا

عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا

طرف سے اپنی اور پورا پورا دیا جائیگا ہر شخص وہ جو اس نے کیا اور وہ نہ

يُظْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً

ظلم کئے جائیں گے اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی کہ تھی امن والی

مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ

اطمینان والی آتا تھا اس میں رزق اس کا با فراغت ہر جگہ سے

فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ

پس انکار کیا اس نے نعمتوں سے اللہ کی پس چکھایا اسے اللہ نے لباس بھوک

وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

اور خوف کا سبب اسکے کہ تھے وہ دُبرے عمل کرتے اور یقیناً یقیناً آیا ان کے پاس

رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

رسول ان میں سے پس جھٹلایا انہوں نے اسے پس پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ

ظَلِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَ

ظالم تھے۔ پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال (اور) طیب اور

اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ رِيَاءًا تَعْبُدُونَ ﴿۱۱۵﴾

شکر کرو نعمت کا اللہ کی اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

سوائے اسکے نہیں کہ حرام کیا تم پر مردار اور خون اور گوشت سورکا

وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

اور وہ کہ پکارا گیا غیر اللہ کیسے جس پر (نام) پس جو مجبور ہوا نہ چاہنے والا

وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۶﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا

اور نہ حد سے بڑھنے والا یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور نہ کہو اس چیز کے لیے کہ

تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ

بیان کرتی ہیں زبانیں تمہاری جھوٹ موٹ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے

لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

تاکہ گھڑو اللہ پر جھوٹ یقیناً وہ لوگ جو گھڑتے ہیں

عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۷﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۚ وَلَهُمْ

اللہ پر جھوٹ نہیں کامیاب ہوتے سامان ہے ننھوڑا اور ان کیلئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۸﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا

عذاب ہے دردناک اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرام کیا ہم نے جو

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ

بیان کیا ہم نے تجھ پر پہلے سے اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر و

لَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

لیکن وہ ننھے وہ جانوں پر اپنی ظلم کرتے پھر یقیناً رب تیرا

لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا

ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کی بدی ساتھ جہالت کے پھر توبہ کی

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا

بعد اس کے اور اصلاح کی یقیناً رب تیرا بعد اس کے

لَخَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۰﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا

البتہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے یقیناً ابراہیم تھا معلم خیر فرمانبردار

تِلَّهُ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۱﴾ شَاكِرًا

اللہ کا موجد اور نہ تھا مشرکوں میں سے شکر گزار تھا

لَا نَعُومُهُ ۖ رَاجِتْبِهِ ۖ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۲﴾

نعمتوں کا اس کی اس نے چن لیا تھا اسے اور ہدایت دی تھی اسے طرف راہ سیدھی کی

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَرَأَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ

اوردی تھی ہم نے اسے دنیا میں بہتری اور یقیناً وہ آخرت میں

لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۳﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ

البتہ نیکوں سے ہوگا پھر وحی کی ہم نے طرف تیری کہ پیروی کر

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۴﴾

مذہب ابراہیم موجد کی اور نہ تھا مشرکوں میں سے

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ

سوائے ان کے نہیں کہڑا لایا گیا تھا (دجال) سبت کا ان لوگوں پر جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی اس میں (حکم کے بارے)

وَأَنَّ رَبَّكَ لَيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا

اور یقیناً رب تیرا البتہ فیصلہ کریگا درمیان ان کے بروز قیامت اس میں

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۵﴾ أَدْعَايَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ

کہتے وہ جس میں اختلاف کرتے بلا طرف راہ اپنے رب کی

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

ساتھ دانائی اور نصیحت عمدہ کے اور جھگڑا ان سے ساتھ اس بات کے

هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

جو بہتر ہے یقیناً رب تیرا ہی زیادہ جانتا ہے اسے جو گمراہ ہوا

سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۳۶﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ

راہ سے اس کی اور وہی زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو اور اگر سزا دو تم

فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ

تو سزا دو تم اسی قدر اس کی کہ ایذا دینے لگے ہو تم (یعنی) اور البتہ اگر صبر کرو تم

لَهُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا

یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے اور صبر کر اور نہیں ہے صبر تیرا مگر

بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا

ساتھ اللہ کے اور نہ غم کر ان پر اور نہ ہو تو تکلیف میں اس سے جو

يَمْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ

وہ تدبیر کرتے ہیں یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقویٰ کیا اور ان لوگوں کے جو کہ

هُم مُّحْسِنُونَ ﴿۳۹﴾

احسان کرنے والے ہیں



سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

پاک ہے وہ جو بگیا بندہ اپنے کو ایک رات مسجد

الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بَرَعْنَا حَوْلَهٗ

الحرام سے تا مسجد اقصیٰ وہ (مسجد) کہ برکت دی ہم نے اردگرد اس کے

لِنُرِيَهٗ مِنْ اَيْتِنَادٍ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۲ وَ اَتَيْنَا

تاکہ دکھائیں ہم اسے نشانیاں اپنی یقیناً وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اور دی ہم نے

مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرٰٓءِیْلَ اِلَّا

موسیٰ کو کتاب اور بنایا تھا ہم نے اسے ہدایت (کا ذریعہ) بنی اسرائیل کے لیے یہ کہ نہ

تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَ كَيْلًا ۳ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۷

بناؤ سوائے میرے کوئی کارساز اسے اولاد ان لوگوں کی جنہیں سوار کیا ہم نے ساتھ نوح کے

اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۴ وَ قَضٰیۤ اِلٰی بَنِيْ اِسْرٰٓءِیْلَ فِی

یقیناً وہ تھا بندہ شکر گزار اور یقینی طور پر بتا دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو (ان کی)

الْكِتٰبِ لَتُفْسِدَنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا

کتاب (یعنی تورات) میں البتہ ضرور فساد کروگے تم (اس) ملک میں دو مرتبہ اور البتہ ضرور سرکشی کروگے تم سرکشی

كَبِیْرًا ۵ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اَوْلٰٓئِهِمَْا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا

بڑی پس جب آیا وعدہ پہلے مرتبہ کا ان دو میں سے بھیجے ہم نے تم پر بندے

لَنَا اُولٰٓئِیْۤ اَبٰیۤ شَدِیْدٍ فَجَآءَ سُوْاۤ اِخْلٰۤلَ الدِّيَارِ وَ كَانَ

اپنے جنگجو سخت سو وہ گس گئے درمیان (تمہارے) شہروں کے اور ہو گیا

سُبْحَانَ الَّذِي ۱۵

وَعَدًا مَّفْعُولًا ۹ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ

وعدہ پورا پھر دوبارہ دیا ہم نے تمہیں غلبہ ان پر اور

أَمَدًا نَكْمًا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا كَثْرَ نَفِيرًا ۱۰ إِنْ

مدد دی ہم نے تم کو ساتھ مالوں اور بیٹوں کے اور کر دیا ہم نے تم کو زیادہ لشکر میں اگر

أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسِكُمْ تَدْرِي وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

نیکی کرو گے تم تو نیکی کرو گے جانوں کے لیے اپنی اور اگر بدی کرو تم تو انہیں کیلئے ہے

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا

پھر جب آیا وعدہ دوسری مرتبہ کا تاکہ وہ (دشمن) بگاڑ دیں چہروں کو تمہارے اور تاکہ داخل ہوں

الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَلِّيْتُمْ وَأَمَّا عَلُوا

مسجد (یعنی بیت المقدس میں) جیسا کہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی دفعہ اور تاکہ ہلاک کریں وہ اسے کہ جس پر غالب آئیں

تَثْبِيرًا ۱۱ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ وَ

خوب ہلاک کرنا (اب بھی) ممکن ہے رب تمہارا کہ تم سے تم پر اور اگر پھر کرو گے (بدی) تم تو پھر دیکھے ہم

جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۱۲ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي

(جہنم) اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ یقیناً یہ قرآن راہنمائی کرتا ہے

لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

اس (راہ) کی جو سب سے زیادہ درست ہو اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو وہ جو کہ کرتے ہیں

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۱۳ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا

نیکیاں کہ ان کے لیے اجر ہے بڑا اور یقیناً وہ لوگ جو نہیں

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۴ وَيَذَرُهُمْ

ایمان لاتے آخرت پر تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک اور بلاتا ہے

الذُّنُوبَ وَالشَّرَّ عَآءَةً بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

انسان بُرَّانِي كُو جیسا کہ وہ بلاتا ہے بھلائی کو اور ہے انسان

عَجُولًا ۱۵ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ

بہت جلد باز اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشان سوٹا دی ہم نے نشان

الَّذِي وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن

رات کی اور بنایا ہم نے نشان کو دن کے دکھانے والا تاکہ تلاش کرو فضل

رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَّةَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ

رب کا اپنے اور تاکہ جان لو تم گنتی سالوں کی اور (جان لو) حساب اور ہر چیز

فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۱۳ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عُرْقِهِ ۚ

تفصیل کی ہے ہم نے اسکی خوب تفصیل اور ہر آدمی کو لگا دیا ہم نے اسے اعمال نامہ اس کا گردن میں اس کی

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۱۴ اِقْرَأْ

اور نکالیں گے ہم اس کیلئے بروز قیامت ایک کتاب پائے گا اسے کھلا ہوا پڑھ

كِتَابِكَ ۚ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۱۵ مِّن

کتاب اپنی کافی ہے نفس تیرا آج تجھ پر حساب لینے والا جس نے

اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

ہدایت پائی تو سوائے اسکے نہیں کہ اس نے ہدایت پائی واسطے نفس کے اپنے اور جو گمراہ ہوا تو سوائے اسکے نہیں

يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا

کروہ گمراہ ہوتا ہے اپنے خلاف ہی اور نہ بوجھ اٹھائی بوجھ اٹھانے والی (جان) بوجھ دوسری کا اور نہیں ہیں ہم

مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۱۶ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ

عذاب دینے والے یہاں تک کہ مبعوث کریں کوئی رسول اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم کہ ہلاک کریں ہم

قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

کسی بستی کو حکم کرتے ہیں ہم (ملازموں کو اس کے جس پر وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں پھر ولوری ہو جاتی ہے اس پر

الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۱۷ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ

(عذاب) کی بات پھر برباد کرتے ہیں اُسے اچھی طرح برباد کرنا اور کتنی ہی ہلاک کیں ہم نے تو ہیں

مِن بَعْدِ نُوحٍ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادٍ خَبِيرًا

بعد نوح کے اور کافی ہے رب تیرا گناہوں کی بندوں کے اپنے خوب خبر رکھنے والا

بَصِيرًا ۱۸ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا

خوب دیکھنے والا جو شخص کہے چاہتا دنیا جلدی کرتے ہیں ہم اسکے لیے اس میں

مَا تَشَاءُ لِمَنْ تَرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا
بتنا چاہتے ہیں ہم جس کے لیے پسند کرتے ہیں ہم پھر بنا دیں گے ہم اس کے لیے جہنم داخل ہوگا اس میں

مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۱۹ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا
ذمیت کیا ہوا دھتکارا ہوا اور جس نے چاہا آخرت کو اور کوشش کی اس کے لیے

سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۲۰
کوشش کرنا اور وہ مومن ہے تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ بے کوشش ان کی مقبول

كُلًّا نُمِدُّهُؤَلَاءَ وَهُؤَلَاءُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
سب کو مدد دیتے ہیں ہم ان کو بھی بخشش سے تیرے رب کی اور نہیں ہے بخشش

رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۱ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ؕ
رب کی تیرے دکھی سے اور کی گئی ہوئی دیکھ کس طرح فضیلت دی ہم نے بعض کو ان میں سے بعض پر

وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُءُ رَجَبٌ وَّاكْبَرُ تَفْضِيلًا ۲۲ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ
اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجوں کے لحاظ سے اور بہت بڑی ہے فضیلت یعنی میں نہ بنا ساتھ اللہ کے

إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۲۳ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا
کوئی مجسود دوسرا درجہ بٹھ رہے گا تو ذمیت کیا ہوا چھوڑا ہوا اور تاکید کی حکم کیا رب نے تیرے یہ کہ

تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَيَا لَوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ؕ وَإِذَا بَلَغْتَ
نہ عبادت کرو مگر اسی کی اور ساتھ ماں باپ کے نیکی (کرو) اگر پہنچ جائیں

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ
پاس تیرے بڑھاپے کو ایک ان دونوں میں سے یا دونوں ان کے تو نہ کہیو ان دونوں کے لیے اُف

وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۲۴ وَاخْفِضْ لَهُمَا
اور نہ جھڑکیو ان دونوں کو اور کہہ ان دونوں کے لیے بات عزت والی اور جھکا ان دونوں کے لیے

جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي
بازو اطاعت کا رحمت سے اور کہہ اے رب میرے رحمت کر ان دونوں پر جیسا کہ انہوں نے پرورش کی

صَغِيرًا ۲۵ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ؕ وَإِنْ تَكُونُوا
میری پس میں رب تمہارا خوب جانتا ہے اسے جو دلوں میں ہے تمہارے اگر ہو گے تم

صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأُولَآءِ آيَاتٍ غَفُورًا ۲۶ وَأَتَى الْقُرْبَىٰ

نیک تو یقیناً وہ ہے (اپنے حضور) جھکنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا اور دے رشتہ دار کو

حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَسْفِلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۲۷ إِنَّ

حق اس کا اور مسکین کو اور مسافر کو اور نہ فضول خرچی کر یا بالکل فضول خرچی یقیناً

الْمُبْذِرِينَ كَأَنَّهُمْ آخِوَانُ الشَّيْطَانِ ۲۸ وَكَانَ الشَّيْطَانُ

فضول خرچ ہیں بھائی شیطانوں کے اور ہے شیطان

لِرَبِّهِ كَفُورًا ۲۹ وَإِذَا مَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ مُبْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ

رب کا اپنے بڑا ناشکرا اور اگر اعراض کرے ان سے چاہنے کے لیے رحمت طرف سے

رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۳۰ وَلَا تَجْعَلْ

رب کے اپنے امید رکھتا ہے تو جس کی تو کہہ انہیں بات آسان اور نہ کر

يَدَكَ مَخْلُوعَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَمْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ

ہاتھ اپنا بند گردن کی طرف اپنی اور نہ پھیلا اسے بالکل پھیلاتا

فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۳۱ إِنَّ رَبَّكَ يَهْطُلُ الرِّزْقَ لِمَن

ورنہ بیٹھے گا تو ملالت کیا ہوا حسرت زدہ یقیناً رب تیرا پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے

يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۳۲ وَلَا

چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے یقیناً وہ ہے بندوں کا اپنے خوب خبردار خوب دیکھنے والا اور نہ

تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقٍ ۳۳ وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ

قتل کرو اولاد کو اپنی ڈر سے خرچ ہو جانے کے ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو اور

إِيَّاكُمْ وَإِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۳۴ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ

تم کو یقیناً قتل ان کا ہے غلطی بڑی اور نہ قریب جاؤ زنا کے

الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۳۵ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

جسے حرام کیا ہے اللہ نے ساتھ حق کے اور جو قتل کیا جائے مظلوم تو یقیناً بنایا ہے ہم نے

لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُشْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿۳۳﴾

وارث کے لیے اے اختیار ہیں نہ زیادتی کرے قتل میں یقیناً وہ ہے مدد دیا گیا

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى

اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ساتھ اس طریقہ سے کہ جو سب سے بہتر ہو یہاں تک کہ

يَبْلُغَ اَشُدَّهُمْ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿۳۴﴾

وہ پہنچ جائے جوانی کو اپنی اور پورا کرو عہد کو یقیناً عہد ہے پورا جانے والا اور

اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كَلْتُمْ وَاَوْفُوا بِالْقِسْطِ اِسْمُ الْمُسْتَقِيْمِ

پورا کرو ماپ جب ماپ کر دو تم اور وزن کرو ساتھ ترازو درست کے

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۳۵﴾ وَلَا تَتَفَنَّسْ لَكَ بِهٖ

یہ بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے اور نہ بیروی کر اس کی کہ نہیں ہے تجھے جس کا

عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ

کوئی علم یقیناً کان اور آنکھ اور دل سب ایسے ہیں کہ ہے متعلق ان کے

مَسْئُوْلًا ﴿۳۶﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ

سوال کیا جائیگا اور نہ چل زمین میں اڑو مگر یقیناً تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا

الْاَرْضَ وَلَنْ تَمْلِكَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ

زمین کو اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں تک لمبائی میں سب یہ ایسے رنگہا ہیں کہ ہے بُرائی ان کی

عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَاً ﴿۳۸﴾ ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ

نزدیک رب کے تیرے ناپسندیدہ یہ اس میں سے ہے جو وحی کی طرف تیری رب نے تیرے

مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَ فَتُلْفِي فِي

دانائی میں سے اور نہ بنا ساتھ اللہ کے معبود کوئی دوسرا ورنہ تو ڈالا جائے گا

جَهَنَّمَ مَلُوْا مَادْحُوْرًا ﴿۳۹﴾ اَفَاَصْفِكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبٰنِيْنَ

جنہم میں ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا کیا میں چنن یا ہے تم کو رب نے تمہارے ساتھ بیٹوں کے

وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا

اور بنا لیں اس نے فرشتوں سے بیٹیاں یقیناً تم البتہ کہتے ہو بات

عَظِيمًا ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا

بڑی اور یقیناً یقیناً بار بار بیان کیا ہم نے اس قرآن میں تاکہ نصیحت پکڑیں

وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿۳۲﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ

اور نہیں بڑھایا انہیں اس بات نے، مگر بھاگنے میں تو کھرے اگر ہوتے ساتھ اس کے کوئی معبود

كَمَا يَقُولُونَ إِذْ آلَا ابْتِغَاؤِ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿۳۳﴾

جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب تو ضرور وہ تلاش کر لیتے طرف عرش والے (خدا) کے راہ

سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰی عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۳۴﴾ تُسَبِّحُ لَهُ

پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں بلند بہت تسبیح کرتے ہیں اس کی

السَّمٰوٰتِ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ؕ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ

آسمان سات اور زمین اور وہ جو ان میں ہیں اور نہیں کوئی چیز

اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ ؕ

مگر تسبیح کرتے ہیں اس کے ساتھ حمد کے اس کی دیکھ نہیں سمجھتے تم تسبیح ان کی

اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿۳۵﴾ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا

یقیناً وہ ہے بردبار بہت بخشنے والا اور جب پڑھتا ہے تو قرآن بنا دیتے ہیں ہم

بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ جَبَابًا

درمیان تیرے اور درمیان ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر پردہ

مَسْتُورًا ﴿۳۶﴾ وَجَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ

پوشیدہ اور بنا دیتے ہیں ہم دلوں پر ان کے پردے یہ کہ سمجھیں اسے

وَفِيْ اِذْنِهِمْ وَقُرْءًا وَّاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا ؕ

اور کانوں میں ان کے گرائی ہے اور جب ذکر کرتا ہے تو رب کا اپنے قرآن میں ایک کا

وَلَوْ اَعْلٰی اَذْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۳۷﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمْعُوْنَ

پھر جانتے ہیں پیٹھوں پر اپنی نفرت سے ہم خوب جانتے ہیں اس ذہن کو کہ وہ سنتے ہیں ساتھ

بِهٖ اِذْ يَسْتَمْعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى اِذْ يَقُوْلُ

جس کے جب وہ کان رکھتے ہیں طرف تیری اور جب وہ مخفی مشورہ کرتے ہیں جبکہ کہتے ہیں

الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿۳۸﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ
عالم نہیں پیروی کرتے تم مگر آدمی جادو کئے ہوئے کی دیکھ کس طرح

ضَرْبُوكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿۳۹﴾
بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں پس گمراہ ہو گئے پس نہیں طاقت رکھتے راہ کی اور

قَالُوا إِرَادَ اِكْتِنَاعِ عَظْمًا وَّ رَفَاتًا وَّ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
کہا انہوں نے جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جائیں گے پیدائش

جَدِيدًا ﴿۴۰﴾ قُلْ كُونُوا حِجَابًا وَّ أَحَدِيْدًا ﴿۴۱﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا
نئی میں تو کدے ہو جاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی مخلوق اس سے جو

يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ
بڑی ہو سینوں میں تمہارے اس پر ضرور وہ کہیں گے کون لوٹائے گا ہمیں تو کدے

الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْخِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ
وہی جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ پس ضرور تعجب سے بلائیں گے طرف تیری سراپنے

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيْبًا ﴿۴۲﴾ يَوْمَ
اور وہ کہیں گے کہ کب ہے وہ تو کدے امید ہے کہ ہو وہ نزدیک جس روز

يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ
وہ بلائے گا تم کو تو فرما خبر داری کرو گے تم ساتھ حمد کے اس کی اور گمان کرو گے تم کہ نہیں رہے تم

إِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۳﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
مگر تھوڑے اور تو کدے بندوں کو میرے کہ وہ کہیں وہ بات کہ جو بہتر ہو یقیناً

الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرِإْدِنَاسَانَ
شیطان فساد ڈالتا ہے درمیان انکے یقیناً شیطان ہے انسان کا

عَدُوًّا مُبِيْنًا ﴿۴۴﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ
دشمن کھلا کھلا رب تمہارا خوب جانتا ہے تم کو اگر چاہے رحم کرے تم پر

أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۴۵﴾
یا اگر چاہے عذاب دے تم کو اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان پر کارساز

وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا

اور رب تیرا خوب جانتا ہے انہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور یقیناً لقباً فضیلت دی ہم

بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ قُلْ اَدْعُوا

نے بعض نبیوں کو بعض پر اور دی ہم نے داؤد کو زبور تو کہے پکارو

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ

ان لوگوں کو جنہیں گمان کیا تم نے (موجود) سوائے اس کے پس نہیں قدرت رکھتے وہ دور کرنے کی تکلیف کو

عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ

تم سے اور نہ بدلانے کی یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ چاہتے ہیں

إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ۚ وَ

طرف رب کے اپنے قرب کو کون ان میں سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور امید رکھتے ہیں وہ اس کی رحمت کی اور

يَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۗ

ڈرتے ہیں عذاب سے اس کے یقیناً عذاب تیرے رب کا ہے ڈرنے کی چیز

وَإِن مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُّهِكُّوهُمَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کر نچوالے ہیں اسے پہلے روز قیامت کے

أَوْ مَعَذِبُهُمَا عَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّكَ فِي لِكُتُبِ

یا عذاب دینے والے ہیں اسے عذاب سخت ہے یہ کتاب میں

مَسْطُورًا ۗ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ

کھا ہوا اور نہیں روکا ہمیں اس سے کہ بھیجیں ہم نشانات مگر اس بات ہنے کہ تکذیب

بِهَآءِ الْوَلُؤُنَ ۗ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

کی ان کی پہلوں نے اور دی تھی ہم نے ثمود کو اونٹنی دکھانے والی

فَظَلَمُوا بِهَا ۗ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۗ وَإِذْ

سوزگم کیا انہوں نے اس پر اور نہیں ہم بھیجتے نشانات مگر ڈرانے کے لیے اور جب

قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۗ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا

کہا ہم نے تجھے یقیناً تیرے نے گھرا ہے لوگوں کو اور نہیں بنائی ہم نے وہ خواب

الَّتِي آذَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ

جو دکھائی ہم نے تھے مگر آزمائش لوگوں کے لیے اور درخت ملعون کو

فِي الْقُرْآنِ ۷ وَنُحَوْفُهُمْ ۸ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا

قرآن میں اور ہم ڈراتے ہیں انہیں پس نہیں زیادہ کرتا (قرآن) انہیں مگر سرکشی

كَبِيرًا ۹ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

بڑی میں اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انہوں نے

إِلَّا إِبْلِيسَ ۱۰ قَالَ ۙ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۱۱ قَالَ

سوائے ابلیس کے اس نے کہا کیا سجدہ کروں اسے جسے تو نے پیدا کیا کچھڑے اس نے کہا

إِذْ يَتُوكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ يَأْخُذَنِي يَوْمَ

کیا دیکھا تو نے یہ شخص ہے جسے عزت دی تو نے مجھ پر اگر ڈیل دی تو نے مجھے تا روز

الْقِيَامَةِ لَآخُتِنِكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۱۲ قَالَ إِذْ هَبْ فَمَنْ

قیامت آئندہ ہلاک کروں گا اولاد کو اس کی سوائے تھوڑوں کے فرمایا جا تو پس جس نے

تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۱۳

پیروی کی تیری ان میں سے تو یقیناً جہنم بدلہ تمہارا بدلہ پورا پورا

وَاسْتَفْزِذْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ

اور بہکا جسے چاہے تو ان میں سے ساتھ آواز کے اپنی اور کیچھ لا ان پر

بِخَيْبِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ

سوار اپنے اور پیادے اپنے اور شریک کر انہیں مالوں اور اولاد میں اور وعدے سے انہیں

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۱۴ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ

اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان سوائے دھوکے یقیناً بندے میرے وہ ہیں کہ نہیں ہے تیرا

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۱۵ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۱۶ رَبُّكُمْ الَّذِي

ان پر غلبہ اور کافی ہے رب تیرا کارساز رب تمہارا وہ ہے جو

يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۱۷ إِنَّهُ

چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمند میں تاکہ جاہو تم فضل ان کا یقیناً

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ

وہ ہے تم پر بہت رحم کرنے والا اور جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف سمندریں تم ہوجاتا ہے وہ جسے

تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتَاهُ ۚ فَلَمَّا نَجَّسَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ

پکارتے ہو تم سوائے اس (اللہ) کے پھر جب نجات دیتا ہے تم کو طرف خشکی کے اعراض کرتے ہو تم اور

كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۗ ۙ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ

ہے انسان بہت ناشکرا کیا ہیں بے خوف ہو تم اس سے کہ دھنسا دے تم کو کنارہ پر

الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكُفْرَ وَكَيْلًا ۗ

خشکی کے یا وہ بھیجے تم پر آندھی پھر نہ پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ

یا بے خوف ہو تم اس سے کہ لوٹائے تم کو اس میں دوسری بار پھر بھیجے تم پر

قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرَقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا

تند ہوا پھر غرق کر دے تم کو سبب اسکے کہ کفر کیا تم نے پھر نہ پاؤ تم

لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۗ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ

واسطے اپنے خلاف ہمارے اس کا بدلہ لینے والا اور یقیناً یقیناً عزت دی ہم نے بنی آدم کو اور سوار کیا ہم نے انہیں

فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

خشکی اور تری میں اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت دی ہم نے انہیں

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۗ ۙ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنثَىٰ

بہتوں پر ان میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے بہت فضیلت جس روز بلائیں گے ہم سب لوگوں کو

بِمَا كَمِهْم ۚ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ

ساتھ امام کے ان کے پس جو شخص دیا گیا کتاب اپنی دائیں ہاتھ سے اپنے تو یہ لوگ

يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ ۙ وَمَنْ كَانَ فِي

پڑھیں گے کتاب اپنی اور نہ ظلم کئے جائیں گے تاکہ کے برابر اور جو ہے اس

هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۗ ۙ وَإِنَّ

(دنیا) میں اندھا تو وہ آخرت میں (بھی) اندھا ہوگا اور زیادہ گمراہ راستہ کے لحاظ سے اور یقیناً

كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ

قریب تھے وہ کہ عذاب میں مبتلا کر دیں تجھے اس سے جو وحی کی ہم نے طرف تیری تاکہ افتراء کرے تو

عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿۴۳﴾ وَلَا آتَانَا

ہم پر خلاف اس کے اور تب ضرور بنا میں گئے تجھے دل دوست اور اگر نہ ہوتا یہ کہ

نَبَاتِكَ لَقَدْ كَدَّتْ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿۴۴﴾ وَإِذَا

مضبوط کرتے ہم تجھے یقیناً یقیناً قریب تھا تو کہ بچے طرف ان کی کچھ تھوڑا سا تب

لَاذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ

ضرور چکھاتے ہم تجھے کئی گنا (عذاب) زندگی کا اور کئی گنا (عذاب) موت کا پھر نہ پاتا تو

لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿۴۵﴾ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُواكَ مِنَ الْأَرْضِ

اپنے لیے ہم پر کوئی مددگار اور یقیناً قریب تھے وہ تو اضطراب میں ڈالیں تجھے اس زمین میں

لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۴۶﴾

تاکہ نکالیں تجھے اس سے اور تب نہ ٹھہریں گے پیچھے تیرے مگر تھوڑا سا

سُنَّةٍ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا

سنت ان لوگوں کی جنہیں یقیناً بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے رسولوں میں سے اپنے اور نہ پہلے کا تو سنت کیلئے ہماری

تَحْوِيلًا ﴿۴۷﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْبَيْلِ

بدلتا قائم کر نماز بوقت ڈھلنے سورج کے تا چھا جانے رات کے

وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۴۸﴾ وَ

اور قرآن فجر کے یقیناً قرآن فجر کا ہے حاضر کیا گیا اور

مِنَ الْبَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ

رات کو پس تہجد پڑھ اس میں بطور نوافل کے اپنے لیے قریب ہے یہ کہ کھڑا کرے تجھے

رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۴۹﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ

رب تیرا مقام محمود پر اور تو کہدے لے رب میرے داخل کر مجھے داخل ہونے کی جگہ

صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ

عمرہ میں اور نکال مجھے نکالنے کی جگہ عمرہ میں اور بنا میرے لیے جناب سے اپنی

سُلْطَنًا نَّصِيرًا ﴿۸۱﴾ وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ

غلبہ مدد دینے والا اور توکدے آگیا حق اور چلا گیا باطل

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿۸۲﴾ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

یقیناً باطل ہے بہت بھاگنے والا اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ جو کہ

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

شفا اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے اور نہیں وہ (قرآن) زیادہ کرتا ظالموں کو

إِلَّا خَسَارًا ﴿۸۳﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأٰ

مگر گھائے میں اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر اعراض کرتا ہے اور دور

يَجَانِبُهُ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿۸۴﴾ قُلْ كُلُّ

کرتا ہے پلو پنا اور جب پہنچتی ہے اُسے تکلیف ہوتا ہے یا یوس تو کدے ہر شخص

يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَمْدٰ

کام کرتا ہے مطابق طریق کے اپنے پس رب تمہارا خوب جانتا ہے اسے کہ جو زیادہ ہدایت والا ہے

سَبِيلًا ﴿۸۵﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

راستہ کے لحاظ سے اور پوچھتے ہیں تجھ سے متعلق روح کے تو کدے روح حکم سے ہے

رَبِّي ۗ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۶﴾ وَلَئِن شِئْنَا

میرے رب کے اور نہیں دیتے ہو تم علم میں سے مگر تھوڑا سا اور البتہ اگر چاہیں ہم

لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ

توے جاہیں ہم اسے جسے وحی کیا ہم نے طرف تیری پھر نہ پائے گا تو اپنے لیے

عَلَيْنَا وَكَيْلًا ﴿۸۷﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ

خلاف ہمارے (کوئی) کارساز سوائے رحمت کے طرف سے رب کے تیرے یقیناً فضل اس کا ہے

عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿۸۸﴾ قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ

تجھ پر بڑا تو کدے البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن

عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

اس بات پر کہ وہ لائیں مانند اس قرآن کی نہ لائیں گے مانند اس کے

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿۸۹﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا

اور اگرچہ ہو بعض ان کا واسطے بعض کے مددگار اور یقیناً یقیناً بار بار لائیں ہم نے

لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ زَفَابِي أَكْثَرَ

لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر عمدہ بات پس انکار کیا اکثر

النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ﴿۹۰﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ

لوگوں نے مگر کفر کا اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پر یہاں تک کہ

تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿۹۱﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ

پھاڑے گا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ یا ہو تیرے لیے باغ

مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلْمًا تَفْجِيرًا ﴿۹۲﴾

کھجوروں اور انگوروں کا پس تو چلا دے نہریں درمیان انکے خوب چلانا

أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا جِسْفًا أَوْ تَأْتِي

یا تو گرا دے آسمان جیسا کہ بیان کیا تھنے ہم پر ٹکڑہ ٹکڑہ یا لائے تو

بِأَلْحَبٍ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿۹۳﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ

آئد کو اور فرشتوں کو سامنے یا ہو تیرے لیے گھر

زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ

سونے کا یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور ہرگز نہیں مانیں گے ہم چڑھنے کو تیرے

حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي

یہاں تک کہ اتارے تو ہم پر کتاب پڑھیں ہم جسے تو کہدے پاک ہے رب میرا

هَذَا كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿۹۴﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ

نہیں ہوں میں مگر انسان رسول اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے

يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ

کہ ایمان لائیں جبکہ آئی ان کے پاس ہدایت مگر یہ کہ کہا انہوں نے کیا بھیجا ہے

اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿۹۵﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ

اللہ نے انسان رسول تو کہدے اگر ہوتے زمین میں فرشتے

يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

چلتے اطمینان سے البتہ اتارتے ہم ان پر آسمان سے فرشتہ

رَسُولًا ﴿۹۷﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ

رسول تو کہہ سے کافی ہے اللہ گواہ درمیان میرے اور درمیان تمہارے یقیناً وہ

كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۹۸﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ

ہے بندوں کا اپنے خوب خبردار خوب دیکھنے والا اور جسے ہدایت دے اللہ تو وہ

الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُمَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۗ

ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو ہرگز نہ پائے گا تو ان کا دلی دوست سوائے اس کے

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآدٌ

اور اکٹھا کریں گے ہم انہیں بروز قیامت چہروں کے بل ان کے اندھے اور

بُكْمًا وَصُمَّآءَ مَا وَوَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ كَلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ

گوئیے اور برے ٹھکانا ان کا جہنم ہے جب کبھی دھیمی پڑنے لگے گی بڑھا دیں گے ہم ان

سَعِيرًا ﴿۹۹﴾ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

کو جلیں میں یہ بدلہ ہے ان کا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا آیات کا ہماری

وَقَالُوا آءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

اور کہا انہوں نے کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا کیا یقیناً ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں

خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۱۰۰﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ

پیدائش نئی میں کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کئے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ وَ

آسمان اور زمین قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے مانند ان کی اور

جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَإِنِ الظَّالِمُونَ إِلَّا

اس نے بنائی ان کے لیے ایک ميعاد کہ نہیں کوئی شک جس میں پس انکار کیا ظالموں نے مگر

كُفْرًا ﴿۱۰۱﴾ قُلْ لَّوِ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي

کفر کا تو کہہ سے اگر تم مالک ہو جاؤ خزانوں کے اپنے رب کی رحمت سے

إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ

تب ضرور روک رکھو تم ڈر سے خرچ ہو جانے کے اور ہے انسان

تَتَوَدَّ ۱۰۱ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

بہت بخیل اور یقیناً دینے ہم نے موسیٰ کو نو نشانات کھلے کھلے

فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

پس پوچھ بنی اسرائیل سے جب وہ آیا انکے پاس پس کہا اے فرعون نے

رَبِّي لَا ظَنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ۱۰۲ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا

یقیناً میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ جاودہ اس نے کہا یقیناً جان لیا تو نے کہ نہیں

أَنْزَلَ هُوَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرُهُ

اتاریں یہ (نشانیوں) مگر رب نے آسمانوں اور زمین کے بصیرت پیدا کرنے والیاں

وَرَبِّي لَا ظَنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۱۰۳ فَأَرَادَ أَنْ

اور یقیناً میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک شدہ پس اس نے ارادہ کیا کہ

يَسْتَفِرَّ هُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۱۰۴

اضطراب میں ڈال دے ان کو زمین میں پس غرق کیا ہم نے اُسے اور انہیں جو ساتھ تھے اس کے سب

وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ

اور کہا ہم نے بعد اس کے بنی اسرائیل کو کہ رہو زمین میں

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۱۰۵ وَيَا حَقِّ

پس جب آئے گا وعدہ پچھلا لائیں گے ہم تم کو اکٹھا کر کے اور ساتھ حق کے

أَنْزَلْنَاهُ وَيَا حَقِّ نَزَلَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا

اتارا ہم نے اسے اور ساتھ حق کے اترا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر بشارت دینے والا

وَنَذِيرًا ۱۰۶ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى

اور ڈرانے والا اور قرآن کو جدا جدا کیا ہم نے اسے تاکہ پڑھے تو اسے لوگوں پر

مَكْتَبٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۱۰۷ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا

ٹھکر کر اور اتارا ہم نے اسے حصہ بہ حصہ تو کہدے ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
 يَقِنُوا بِهِ جُودِيَّةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حِمْزٌ مِمَّنْ
 يَخْرُؤْنَ وَلَا أَذْقَانِ سُجَّدًا ۝۱۰۸ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا
 أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ إِنَّ رَبَّهُ مُبِينٌ

یقیناً وہ جو دینے گئے علم پہلے سے اس کے جب پڑھا جاتا ہے ان پر
 گریڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے اور وہ کہتے ہیں پاک ہے رب ہمارا

إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝۱۰۹ وَيَخْرُؤْنَ لِأَذْقَانِ
 يَقِنًا بِهِ وَعَدَهُ رَبُّكَ بِمَا لَهُ يَدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَءِيفٌ

روتے ہیں اور وہ (قرآن) بڑھا دیتا ہے انہیں عاجزی میں تو کہہ سے پکارو اللہ کو اور
 اذعو الرّحمن آیاتہ عوفلہ الاسماء الحسنى

پکارو رحمن کو جسے بجا تم پکارو گے تو اس کے لیے نام ہیں اچھے

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
 أَوْرَنَ اَوْجِحِي پڑھ نماز اپنی اور نہ بہت آہستہ پڑھ اسے اور اختیار کر درمیان

ذَلِكَ سَبِيلًا ۝۱۱۰ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
 اس کے راہ اور تو کہہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا

وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 بیٹا اور نہ ہے اس کا کوئی شریک ملک میں اور نہیں ہے اس کا

وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ۝۱۱۱
 کوئی دوست . لوجہ کمزوری کے اور بڑائی کو اس کی بہت بڑائی

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے اتاری بندہ پر اپنے یہ کتاب اور نہیں

يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ

بنائی اس کے لیے کوئی کجی درست ہے تاکہ ڈرائے عذاب سخت سے طرف سے

لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ

اپنی اور بشارت دے مومنوں کو جو کہ کرتے ہیں نیکیاں

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَا كَثِيرٌ فِيهِ اِبْدَاءٌ ۖ وَيُنذِرَ

کہ ان کے لیے اجر ہے اچھا پھرنے والے ہیں اس مقام اجراء میں ہمیشہ اور تاکہ ڈرائے

الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ

ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بنایا اللہ نے بیٹا نہیں ان کو متعلق اسکے کوئی علم

وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ

اور نہ باپ واداکو ان کے بڑی ہے بات جو نکلتی ہے مومنوں سے ان کے

إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى

نہیں کہتے مگر جھوٹ پس شاید کہ تو ہلاک کر نیو لاپے جان اپنی

أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ أَسَفًا ۗ إِنَّكَ

پیچھے ان کے اگر نہ ایمان لائیں اس بات پر مارے غم کے یقیناً

جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيُنبِلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ

بنایا ہم نے جو کچھ زمین پر ہے زینت اس کیلئے تاکہ امتحان کریں ہم انہیں کہ کون ان میں سے زیادہ اچھا ہے

عَمَلًا ۗ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۗ أَمْ

عمل کے لحاظ سے اور یقیناً ہم اللہ بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے مٹی بخر کیا

حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا

گمان کیا تو نے کہ اصحاب کھف اور رقیم تھے نشانیوں میں سے

عَجَبًا ۗ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا

ہماری عجیب جبکہ پناہ گزین ہوئے جو ان طرف غار کی پس کہا انہوں نے اے رب ہمارے دے ہمیں

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۱۱

جناب سے اپنی رحمت اور ہتیا کر ہمارے لیے معاملہ میں ہمارے درستی

فَضْرِبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۱۲ ثُمَّ

پس سننے سے روک دیا ہم نے کانوں کو ان کے ذہنی حالات کے سننے سے، غار میں سال کئی پھر

بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۱۳

اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ جان میں ہم کہ کون دونوں جماعتوں میں سے زیادہ شمار کر نوا لے اے جسے تین ٹھہرے وہ مدت

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا

ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر خبر ان کی ساتھ حق کے یقیناً وہ کچھ جوان تھے جو ایمان لائے

بِرَبِّهِمْ وَرِزْدْنَاهُم هُدًى ۱۴ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

رب پر اپنے اور بڑھایا ہم نے انہیں ہدایت میں اور مضبوط کر دیا ہم نے دلوں کو ان کے

إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن

جب کہ وہ کھڑے ہوئے پھر کہا انہوں نے رب ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا ہرگز نہیں

نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطْنَا ۱۵

پکاریں گے ہم سوائے اس کے کوئی معبود یقیناً یقیناً کسی ہم نے تب تو بات زیادتی کی

هُوَ لَا يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ مِّنَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ

اس قوم نے ہماری بنائے سوائے اس کے معبود کیوں نہیں لاتے

عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ

ان پر کوئی دلیل کھلی کھلی بھی کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بانڈھا

عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ۱۶ وَإِذْ اعْتَرٰثْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ

اللہ پر جھوٹ اور جب کہ جدا ہو گئے ہو تم ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں

إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَىٰ الْكَهْفِ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

سوائے اللہ کے تو پناہ گزین ہو جاؤ طرف غار کی پھیلانے گا تمہارے لیے رب تمہارا رحمت اپنی

وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۱۷ وَتَرَىٰ الشَّمْسَ

اور ہتیا کرے گا تمہارے لیے معاملہ میں تمہارے آسانی اور تو دیکھے گا سورج کو

سورج

إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا

جب وہ چڑھتا ہے ہٹ کر گزرتا ہے غار سے ان کے دائیں طرف اور جب

عَرَبَتْ تَقْرُضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ

غروب ہوتا ہے کترا کر جاتا ہے ان سے بائیں طرف اور وہ ایک میدان میں ہیں اس

مِنْهُ ذَلِكِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

(غار) کے یہ نشانات ہیں سے ہے اللہ کے جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانوالا ہے

وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ وِلِيًّا مَرشِدًا ۱۸ وَتَحَسَبُهُمْ

اور جسے گمراہ کرے ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست ہدایت دینے والا اور تو گمان کرتا ہے انہیں

أَيْقَاطًا وَهُمْ دُقُودٌ ۱۹ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ

بیدار حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم پلٹتے ہیں انہیں دائیں اور

ذَاتَ الشِّمَالِ ۲۰ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۲۱

بائیں اور گنا ان کا پھیلائے ہوئے ہے دونوں بازو اپنے سچو کھٹ پر

لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَمَلَّيْتَ

اگر جھانکے تو ان پر البتہ پھر جائے تو ان سے بھاگ کر اور البتہ بھرا دیا جائے

مِنْهُمْ دُعَابًا ۲۲ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

تو ان سے رعب میں اور اسی طرح اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ سوال کریں آپس میں

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ

کہا کتنے دنوں نے ان میں سے کہ کتنا ٹھہرے تم انہوں نے کہا ٹھہرے ہم ایک دن یا

بَعْضُ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا

حصہ دن کا انہوں نے کہا رب تمہارا خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے پس بھیجو

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا يَتِمَّ

کسی کو اپنے ساتھ سکہ کے اپنے اس طرف شہر کے پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کونسی ہے

أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا

زیادہ اچھی کھانے کی چیز پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس رزق اس (سکہ) سے اور نرمی کرے اور نہ

يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۲۰ ۱ تَهُمُ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
آگاہ کرے تم پر کسی کو یقیناً وہ اگر آگاہ ہو جائیں گے تم پر

يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مَلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا
پتھراؤ کر دیں گے تم کو یا لوٹائیں گے تم کو فریب میں اپنے اور ہرگز نہیں کامیاب ہو گے تم تب

أَبَدًا ۲۱ ۲ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ
کبھی بھی اور اسی طرح آگاہ کیا ہم نے (لوگوں کو) ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ یقیناً وعدہ

اللَّهُ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذِ اتَّخَذُوا
اللہ کا سچ ہے اور یقیناً قیامت ایسی ہے کہ نہیں کوئی شک اس میں جب جھگڑتے تھے

بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَدُّوهُمْ
آپس میں معاملہ میں ان کے پس کہا انہوں نے بناؤ ان پر کوئی عمارت رب ان کا

أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ
زیادہ جانتا ہے انہیں کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے معاملہ میں ان کے البتہ ضرور بنائیں گے ہم

عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۲۲ ۳ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ
ان پر ایک مسجد ضرور کہیں گے (کہوہ) تین تھے چوتھا ان کا کتا ہے ان کا

وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ
اور کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا ان کا تھینا بن دیجیے

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ
اور کہیں گے سات اور اٹھواں ان کا کتا ان کا تو کہے رب میرا خوب جانتا ہے

بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا
گنتی ان کی نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے سے پس نہ جھگڑ بارہ میں ان کے مگر

مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۲۳ ۴
جھگڑا مضبوط اور نہ دریافت کر بارہ میں ان کے ان میں سے کسی سے

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِيَّايَ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۲۴ ۵ إِلَّا أَنْ
اور نہ کہو ہرگز کسی بات کے متعلق کہ میں کروں گا یہ کل مگر یہ کہ

يَشَاءُ اللَّهُ، وَإِذْ كُرَّرْتُكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ

چاہے اللہ اور یاد کر رب کو اپنے جب بھول جائے تو اور کہہ قریب ہے

أَنْ يَهْدِيَ بَيْنَ رَبِّي لَا قَرَبَ مِنْ هَذَا ارشاد ﴿۱۷﴾ وَلَيْسُوا

کہ ہدایت دے مجھے رب میرا زیادہ قریب بات کی اس سے بھی ہدایت میں اور ٹھہرے وہ

فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿۱۸﴾ قُلْ

غار میں اپنے تین سو سال اور زیادہ رہے نوٹ تو کہہ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ بہتر جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے اسی کیلئے غیب ہے آسمانوں اور زمین کا

أَبْصُرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِ رَبِّي وَلَا

کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ اور کیا ہی سننے والا ہے نہیں ان کیلئے سوائے اس کے کوئی دوست اور نہیں

يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ﴿۱۹﴾ وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ

شریک بنانا وہ حکم میں اپنے کسی کو اور پڑھ جو وحی کیا گیا من تیری

كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ

کتاب میں سے رب کے تیرے نہیں کوئی بدلنے والا باتوں کی اس کی اور ہرگز نہ پائے گا تو

دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿۲۰﴾ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

سوائے اس کے پناہ کی جگہ اور تھام رکھ اپنے آپ کو ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا

رب کو اپنے صبح اور شام وہ چاہتے ہیں توجہ اس کی اور نہ

تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ہٹا آنکھیں اپنی ان سے تو چاہتا ہے زینت زندگی دنیوی کی

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

اور نہ اطاعت کر اس کی کہ غافل کیا ہم نے دل کو جس کے یاد سے اپنی اور اس نے پیروی کی خواہش کی اپنی

وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿۲۱﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ

اور ہے معاملہ اس کا حد سے بڑھا ہوا اور تو کہہ (یہ) حق ہے من سے رب کے تمہارے پس جو چاہے

قَلِيُومٍ مِّنْ دُونِ شَاءٍ فَلْيُكْفُرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

تو ایمان لے آئے اور جو چاہے تو انکار کرے یقیناً ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے

نَارًا لَّا أَحَاطَ بِهَا مِمَّا سُرَّادٍ قُمْهَاءٍ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا

آگ گھیرا ہے انہیں قناتوں نے اس کی اور اگر فریاد کریں گے تو فریاد ہی کی جاوے گی ان کی

بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ وَيُسَّسُ الشَّرَابُ بِهِ

ساتھ پانی کے مانند گھلے ہوئے تانبے کے مجلس دینگا چروں کو کیا ہی بُری ہے پینے کی چیز اور

سَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بُری ہے (آگ) آرام گاہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور کیں نیکیاں

إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۗ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ

یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر اسکا جس نے اچھا کیا عمل یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں

عَذِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ

ہمیشہ کے بہتی ہیں نیچے سے ان کے نہریں پہنائے جائیں گے ان میں

أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خَضْرَاءً مِن سُندُسٍ

کروے سونے کے اور پہنیں گے کپڑے سبز باریک ریشم کے

وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِعِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۗ نِعْمَ

اور موٹے ریشم کے تکیہ لگائے ہوئے ہونگے اس میں تختوں پر اچھا ہے

الثَّوَابِ ۗ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۗ ۚ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

بدلہ اور اچھی ہے (جنت) آرام گاہ اور بیان کر ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی کہ

جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

بنائے ہم نے واسطے ایک کے ان دونوں میں سے دو باغ انگوڑوں کے اور گھیرا ہم نے ان کو

بِنَخْلٍ ۗ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَبْعًا ۗ ۚ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ

گھجروں سے اور بنائی ہم نے درمیان ان دونوں کے کھیتی دونوں باغوں نے دیا

أُكْلًا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ وَفَجَّرْنَا خِلْمَهُمَا نَهْرًا ۗ ۚ

پھل اپنا اور نہ کم کیا اس (پھل) سے کچھ بھی اور چلائی ہم نے اندر ان کے نہر

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ

اور تھا اس کیلئے پھل پھر کہا اس نے ساتھی کو اپنے اور وہ بات کر رہا تھا اس سے کہ میں زیادہ ہوں

مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۵﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ

تجھ سے مال میں اور زیادہ معزز ہوں تو تم کے لحاظ سے اور وہ داخل ہوا باغ میں اپنے اکل حال میں کہ وہ ظالم تھا

لِنَفْسِهِ ، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿۳۶﴾ وَمَا أَظُنُّ

نفس پر اپنے اس نے کہا نہیں سمجھتا میں کہ برباد ہو یہ باغ (کبھی بھی اور نہیں سمجھتا میں

السَّاعَةَ قَائِمَةً ، وَلَئِن رُّدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا

قیامت کو قائم ہونے والی اور البتہ اگر میں لوٹا یا گیا طرف رب کے اپنے البتہ ضرور پاؤں گا بہتر

مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۷﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ

اس سے لوٹنے کی جگہ کہا اسے ساتھی نے اس کے اور وہ بات کر رہا تھا اس سے کیا کفر کیا تو نے

بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ

اس کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پھر ٹھیک ٹھاک بنایا تجھے

رَجُلًا ﴿۳۸﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿۳۹﴾ وَلَوْ

مرد (میں کہتا ہوں) وہ اللہ رب ہے میرا اور نہیں شریک بناتا میں ساتھ رب کے اپنے کسی کو اور کیوں

لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ،

نہیں جب داخل ہوا تھا تو باغ میں اپنے کہا تو نے جو چاہا اللہ نے نہیں توت مگر ساتھ اللہ کے

إِن تَرَىٰ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿۴۰﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن

اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہیں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں تو بالکل ممکن ہے رب میرا کہ

يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّن

دے مجھے بہتر باغ سے اپنے اور بھیجے اس پر عذاب

السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿۴۱﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَورًا

آسمان سے پس ہو جائے وہ میدان چٹیل یا ہو جائے پانی اس کا خشک

فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿۴۲﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ

پس ہرگز نہ طاقت رکھے تو اس کی طلب کی اور تباہ کر دیا گیا پھل اس کا پس لگانے

كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَ

ہتھمیاں اپنی اس (مال) پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں اور وہ (باغ) گرا ہوا تھا چھتوں پر اپنی اور

يَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۗ وَلَمْ تَكُن لَّهُ

وہ کہتا تھا اے کاش میں نہ شریک ٹھہراتا ساتھ رب کے اپنے کسی کو اور نہ ہوں اس کے لیے

فِتْنَةً يَّتَنصَرُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۗ

کوئی جماعت جو مدد کرتے اس کی سوائے اللہ کے اور نہ ہوا وہ بدلنے والا

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۗ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

وہاں پر حکومت واسطے اللہ کے ہے حقیقی وہ بہتر ہے بدل دینے میں اور بہتر ہے

عُقْبًا ۗ ۞ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا

انجام لانے میں اور بیان کر ان کے لیے مثال زندگی درلی کی مانند پانی کے

أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ

اُتارا ہم نے جسے بادل سے پس مل گئی ساتھ اس کے نباتات زمین کی پس ہو گیا

هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۗ

وہ پورا اڑاتی ہیں اسے ہوا میں اور ہے اللہ ہر بات پر قدرت والا

الْمَالِ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ

مال اور بیٹے زینت ہیں زندگی درلی کی اور باقی رہنے والی

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مِّمَّا ۗ وَيَوْمَ

نیکیاں بہترین نزدیک رب کے تیرے بدل میں اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے اور جس دن

نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۗ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ

ہم چلائیں گے پہاڑ اور تو دیکھے گا زمین صاف نکلی ہوئی اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو پس نہ

نُعَادِرُهُمْ أَحَدًا ۗ ۞ وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ

چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو اور پیش کئے جا میں گے رب پر تیرے قطاروں میں یقیناً یقیناً

جِثْمُؤَنَّا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَبَلًا زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ

آئے ہو تم ہمارے پاس جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بلکہ سمجھا تھا تم نے کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے

لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿۲۹۱﴾ وَدُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ

تہارے لیے وعدہ کا وقت اور رکھی جائیگی کتاب پس تو دیکھے گا مجرموں کو ڈرنے والے ہونگے

مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ

اس سے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے اے افسوس ہم پر کیا ہوا اس کتاب کو کہ نہیں چھوڑتی

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا

چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر اس نے گن لیا ہے اسے اور وہ پائیں گے اسے جو انہوں نے کیا تھا

حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿۲۹۲﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ

حاضر اور نہ ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو

اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ

سجدہ کرو آدم کے لیے پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے تھا وہ جنوں میں سے پس نافرمانی کی اس نے

عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۚ وَ

حکم سے رب کے اپنے کیا پس بناتے ہو تم اسے اور اولاد کو اس کی دوست سوائے میرے

هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَإِنَّكُمْ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿۲۹۳﴾ مَا أَشْهَدُكُمْ

حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں کیا ہی برا ہے ظالموں کے لیے قائم مقام نہیں گواہ بنایا میں نے ان کو

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلَقَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ

پیدائش کا آسمانوں اور زمین کی اور نہ پیدائش کا جانوں کی ان کی اور نہیں ہوں میں بنانے والا

الْمُضِلِّينَ عَصَا ﴿۲۹۴﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ

گراہ کر نیوالوں کو بازو اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو شریکوں کو میرے وہ جنہیں

رَعَمْتُمْ فَاَدْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ

گمان کیا تھا تم نے پس وہ بلائیں گے انہیں پس نہ جواب دیں گے وہ ان کو اور بنائیں گے ہم درمیان ان کے

مَوْبِقًا ﴿۲۹۵﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا

ہلاکت کی جگہ اور دیکھیں گے مجرم آگ کو پس خیال کریں گے کہ وہ پڑنے والے ہیں اس میں

وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا ﴿۲۹۶﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ

اور نہ پائیں گے وہ اس سے پھرنے کی جگہ اور یقیناً یقیناً بار بار لائے ہم اس قرآن میں

يَلْتَأِسُ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا ۝۹

لوگوں کے لیے ہر مثال اور ہر انسان بڑھ کر سب سے جھگڑانے میں

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَ

اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب آئی ان کے پاس ہدایت اور

يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أَلْوَلِيْنَ أَوْ

بخشش مانگیں رب سے اپنے مگر یہ کہ آوے ان کے پاس طریقہ پہلوں کا یا

يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝۱۰ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا

آوے ان کے پاس عذاب سامنے سے اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر

مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ

خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور جھگڑاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بذریعہ جھوٹ کے

لِيُدَّ حُضُوعًا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝۱۱

تاکر باطل کر دیں ساتھ اسکے حق کو اور بنایا انہوں نے آیات کو میری اور جس سے وہ ڈرائے گئے ہنسی

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا

اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جسے نصیحت کی گئی ساتھ آیات کے رب کی اپنے پس اعراض کیا ان سے اور وہ بھول گیا جو

قَدَّمَتْ يَدَاؤُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

آگے بھیجا تھا دونوں ہاتھوں نے اسکے، یقیناً ہم نے بنائے دلوں پر ان کے پردے کو سمجھیں اسے

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ

اور کانوں میں ان کے براہین اور اگر تو بلائے گا انہیں طرف ہدایت کی تو ہرگز نہیں

يَهْتَدُوا وَإِذَا بَدَأْنَا ۝۱۲ وَرَبُّكَ الْخَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ذَا لَوْ

ہدایت پائیں گے تب تو کبھی بھی اور رب تیرا بہت بخشنے والا رحمت والا ہے اگر

يُؤَاخِذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ دَبْدَبًا لَّهُمْ

مواخذہ کرے ان سے سبب اسکے جو کیا یا انہوں نے البتہ جلدی لائے ان کے لیے عذاب لیکن ان کے لیے

مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۝۱۳ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ

وعدہ کا وقت ہے ہرگز نہیں وہ پائیں گے ورنہ اس سے پناہ کی جگہ اور یہ بستیاں ہیں

أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۖ ﴿۶۰﴾

ہلک کیا ہم نے انہیں جب ظلم کیا انہوں نے اور بنایا ہم نے واسطے ہلاکت کے ان کی وعدہ کا وقت اور

إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَوْبَدُكُمْ آلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ كَيْفَ يَأْتِيَكُمُ الْيَوْمَ الْفَجْرُ ﴿۶۱﴾

جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم کو نہیں رکوں گا میں یہاں تک کہ پہنچوں میں مجمع البحرین

أَوْ آمُضِيَ حُكْبًا ۖ ﴿۶۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا

یا چھتا رہوں گا برسوں پس جب دونوں پہنچے مجمع ہونے کی جگہ میں درمیان ان دونوں کے بھول گئے پھلی اپنی

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ ﴿۶۲﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَوْمِهِ

پس بنالیا اس نے راستہ اپنا دریا میں چل کر پس جب دونوں آگے بڑھے کہا اس نے خادم کو اپنے

إِنَّا كُنَّا عَدَاءَ تَارِكًا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ ﴿۶۳﴾ قَالَ

لا ہمارے پاس صبح کا کھانا ہمارا یقیناً پائی ہے ہم نے اپنے اس سفر سے تھکان اس نے کہا

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ

کیا دیکھا تونے جب جگہ پھری تھی ہم نے طرف پتھر کے تو میں بھول گیا تھا پھلی

وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ

اور نہیں بھلائی مجھ وہ مگر شیطان نے کہ یاد کروں میں اسے اور بنالیا اس نے راستہ اپنا

فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ ﴿۶۴﴾ قَالَ ذَلِكُمْ مَا حَنَّا نَبِغُ بِهِ فَآزِدْنَا عَلَى

دریا میں عجیب طرح اس نے کہا یہ وہ ہے جو تھے ہم چاہتے پس دونوں لوٹے

أَثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ ﴿۶۵﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَهُ رَحْمَةً

نشانوں پر اپنے کو جگتے ہوئے پس پایا انہوں نے ایک بندہ بندوں میں سے ہمارے دی تھی ہم نے اسے رحمت

مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ ﴿۶۶﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ

پاس سے اپنے اور سکھا یا تھا ہم نے اسے جناب سے اپنی علم کہا اُسے موسیٰ نے کیا

أَتَّبِعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا ۖ ﴿۶۷﴾ قَالَ إِنَّكَ

پیروی کروں تیری اس (شرط) پر کہ سکھائے تو مجھے اس سے جو سکھایا گیا تو ہدایت اس نے کہا یقیناً

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ﴿۶۸﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ

ہرگز نہیں طاقت رکھے گا ساتھ میرے صبر کی اور کیونکر تو صبر کرے گا اس بات پر کہ نہیں احاطہ کیا تونے

بِهِ خُبْرًا ۶۱ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي

جس کا علم سے کہا ضرور پابند رہے گا تو مجھے اگر چاہا اللہ نے صبر کرنے والا اور نہ نافرمانی کو نہ

لَكَ أَمْرًا ۶۲ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ

میں تیرے حکم کی اس نے کہا پس اگر پیروی کی ہے تو نہ میری تو نہ پوچھو مجھ سے کسی بات کے تعلق یہاں تک کہ

أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۶۳ فَإِن طَلَقْتَهُ حَتَّىٰ إِذَا رَجَبًا فِي

کروں میں تیرے لیے اس کا ذکر پس دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے

السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ

کشتی میں اس نے توڑ دیا اسے کہا کیا توڑا ہے تو نے اسے تاکہ غرق کرے لوگوں کو اس کے یقیناً یقیناً

حَدَّثَ شَيْئًا مَّرًّا ۶۴ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

کی ہے تو نے بات خطرناک اس نے کہا کیا نہیں کہا میں نے کہ تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا ساتھ میرے

صَبْرًا ۶۵ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ

صبر کی کہا نہ مواخذہ کر مجھ سے اس لیے کہ بھول گیا میں اور نہ ڈال مجھ پر

أَمْرِي عُسْرًا ۶۶ فَإِن طَلَقْتَهُ حَتَّىٰ إِذَا الْبِقِيََا غُلْمًا فَاقْتَلَهُ لَقَالَ

معاذ سے میرے تنگی پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ طے ایک لڑکے کو پس قتل کر دیا اسے کہا

أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَحِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۶۷

کیا قتل کی ہے تو نے ایک جان بے گناہ بغیر جان کے یقیناً یقیناً کی ہے تو نے بات بُری



قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۶۷﴾

اس نے کہا کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھے کہ تو ہرگز نہیں طاقت رکھتا ساتھ میرے صبر کی

قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ

کہا اگر پوچھوں میں تجھے متعلق کسی بات کے بعد اس کے تو نہ ساتھ رکھو مجھے یقیناً

بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا ﴿۶۸﴾ فَإِنْ طَلَقْنَاكَ حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَ أَهْلَكَ

پہنچ چکا ہے تو طرف سے میری عذر کو پس دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب آئے ایک گاؤں

قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَبِأَوَّانٍ يُضَيِّفُوهُمْ مَا فُجِدَا

دلوں کے پاس کہا نا مانگا دونوں نے باشندوں سے اسکے پس انکار کیا انہوں نے کہ سہانہ نوبتی کریں انہی پس انہوں نے

فِيهَا جَدًّا رَآ يَأْتِيهِمْ أَجْرًا لِيَبْغُوا ۚ فَاتَّخَذَتْ

پائی اس میں ایک دیوار جو چاہتی تھی کہ گھرے پس کھڑا کر دیا اس نے اسے کہا اگر چاہتا تو

لَتَّخَذَتْ عَلَيْهِ جِزًّا ﴿۶۹﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ

البتہ لیتا تو اس پر مزدوری اس نے کہا یہ جدائی ہے درمیان میرے اور درمیان تیرے

سَأَنْبِتُكَ بِنَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿۷۰﴾ أَمْ

مزدور گا کہہ دینگا میں تجھے اصل حالت سے اس کی کہ نہیں طاقت رکھی تو نے جس پر صبر کی

السَّفِينَةَ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتْ أَنْ

کشتی ؟ تو وہ تھی مسکینوں کی جو کام کرتے تھے سمندریں پس چاہا میں نے کہ

أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿۷۱﴾

عیب دار کر دے اور ہے آگے ان کے ایک بادشاہ جو لے لیتا ہے ہر کشتی بچھین کر اور

أَمَّْا الْغُلْمَ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا

رٹکا ؟ سوچتے ماں باپ اسکے مومن پس ڈرے ہم کہ وہ چڑھالایگا ان دونوں

طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿۷۲﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

پر سرکشتی اور کفر پس چاہا ہم نے کہ بدل کریں دے ان دونوں کو رب ان کا بہتر

مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿۷۳﴾ وَأَمَّْا الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ

اس سے پاکیزگی اور قریب رحم میں اور دیوار ؟ سوچتی وہ دو لڑکوں

يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ

یتیموں کی اس شہر میں اور تھا نیچے اس کے خزانہ ان کا اور تھا

أَبُوهُمَا صَالِحًا ۖ فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ

باپ ان کا نیک پس چاہا رب نے تیرے کہ دونوں پہنچیں اپنی جوانی کو اور

يَسْتَخْرِجَا عَنْزُومًا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ

نکال میں خزانہ اپنا رحمت کے طور پر طرف رب کے تیرے اور نہیں کیا میں نے یہ

أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ وَ

حکم سے اپنے یہ حقیقت ہے اس کی کہ نہیں طاقت رکھی تونے جس پر صبر کی اور

يَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ ۚ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ

پوچھتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق تو کہہ میں پڑھوں گا تم پر اس کا

ذِكْرًا ۗ إِنَّمَا مَعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

ذکر یقیناً ہم نے طاقت دی تھی اُسے زمین میں اور دیا تھا ہم نے اُسے ہر ایک قسم کا

سَبَبًا ۗ فَاتَّبَعَهُ سَبْبًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

اسباب پس وہ پیچھے ہڑا ایک سبب کے یہاں تک کہ جب وہ پہنچا غروب ہونے کی جگہ سورج کے

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

تو پایا اُسے کہ غروب ہوتا ہے چشمہ کچھ بدبودار میں اور اس نے پالی پاس اس کے ایک قوم

قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَّخَذُ فِيهِمْ

ہم نے کہا اسے ذوالقرنین یا تو عذاب دے تو اور یا یہ ہے کہ ان میں

حُسْنًا ۗ قَالَ إِنَّمَا أَنْتَ تُظَلَمُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ

نیکی اس نے کہا جس نے ظلم کیا تو ضرور عذاب دینگے ہم اسے پھر وہ لوٹایا جائیگا طرف

رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا ۗ وَإِنَّمَا أَنْتَ أَمْرٌ

اپنے رب کی پس عذاب دینگا اُسے عذاب بُرا اور جو ایمان لایا اور کی

صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ بِالْحُسْنَىٰ ۚ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا

نیکی تو اس کے لیے بدلہ ہے اچھا اور ضرور ہم کہیں گے اس کیلئے حکم سے اپنے

يُسْرًا ۱۸۹ ثُمَّ اتَّبِعْ سَبِيلَ ۱۹۰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ

بات آسان پھر وہ پیچھے لگا ایک اور سبب کے یہاں تک کہ جب وہ پہنچا طلوع ہونے کی جگہیں سورج کی

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّهُمْ مِنْ دُونِهَا

تو پایا اُسے طلوع ہوتا ہوا ایک قوم پر کہ نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے در سے اس کے

سِتْرًا ۱۹۱ ۱۹۲ وَكَذَٰلِكَ ۱۹۳ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۱۹۴ ثُمَّ

کوئی پردہ اسی طرح تھا اور یقیناً گیلے ہم نے اُسے جو پاس تھا اس کے علم سے پھر وہ

اتَّبِعْ سَبِيلًا ۱۹۵ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ

پیچھے لگا ایک اور راہ کے یہاں تک کہ جب وہ پہنچا درمیان دو دروں کے پانی اُس نے

دُونَهُمَا قَوْمًا ۱۹۶ لَا يَعَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۱۹۷ قَالُوا يَا

در سے ان کے ایک قوم کو نہ قریب تھے کہ سمجھیں بات انہوں نے کہا اے

الْقَرْنَيْنِ ۱۹۸ إِنَّا يَا جُوجَ ۱۹۹ وَمَا جُوجَ ۲۰۰ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

دو القرنین یقیناً یا جوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

پس کیا بناویں ہم تیرے لیے جیکس اس (شرط) پر کہ تو بنا دے درمیان ہمارے اور درمیان انکے

سَدًّا ۲۰۱ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ

ایک دیوار اس نے کہا وہ (مال) کہ طاقت دی ہے مجھے جس میں رب میرے نے بہتر ہے پس مدد کرو میری ساتھ طاقت کے

أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۲۰۲ أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

بناؤں گا میں درمیان تمہارے اور درمیان انکے ایک دیوار دو مجھے مہکڑے لوہے کے

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۲۰۳ حَتَّىٰ

یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس نے درمیان دو پہاڑوں کے کہا دھونکو یہاں تک کہ

إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُّونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۲۰۴ فَمَا

جب کر دیا اُسے آگ کہا دو مجھے ڈالوں میں اس پر گھلا ہوا تانبہ پس نہ

اسْطَاعُوا ۲۰۵ أَن يَظْهَرُوا ۲۰۶ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۲۰۷ قَالَ

طاقت پائی انہوں نے کہ چڑھ جاویں اس پر اور نہ طاقت پائی اس کو نقب لگانے کی کہا

هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، وَ

رحمت ہے (رف سے رب کے میرے پھر جب آئے گا وعدہ رب میرے کا کر دیکھا اُسے ٹکڑے ٹکڑے اور

كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿۹۹﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجًا

ہے وعدہ رب کا میرے سچا اور چھوڑ دیں گے ہم بعض کو ان کے اُس دن کہ موجیں ماریں گے

فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿۱۰۰﴾ وَعَرَضْنَا

بعض میں اور پھونکا جاویگا بھل پس جمع کر دیں گے ہم انکو اچھی طرح جمع کرنا اور سامنے کرینگے ہم

جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرَضًا ﴿۱۰۱﴾ وَالَّذِينَ كَانَتْ

جہنم اس دن کافروں کے لیے خوب سامنے کرنا وہ لوگ کہ تھیں

أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاةٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ

آنکھیں ان کی پردہ میں ذکر سے میرے اور تھے وہ کہ نہیں طاقت رکھتے

سَمْعًا ﴿۱۰۲﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي

سننے کی کیا پس خیال کیا ہے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنالیں گے بندوں کو میرے

مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ نَزْلًا ﴿۱۰۳﴾

سوائے میرے دوست یقیناً ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے نہمانی

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿۱۰۴﴾ الَّذِينَ ضَلَّ

تو کہہ کیا آگاہ کریں ہم تم کو نقصان اٹھانے والوں پر اعمال میں وہ لوگ کہ ضائع گئی

سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

کوشش ان کی زندگی دنی میں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھی کرتے ہیں

صُنْعًا ﴿۱۰۵﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا رَبِّي وَالْقَائِلُ

کارروائی یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا آیات کا اپنے رب کی اور طے کا اس سے

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿۱۰۶﴾

پس جھٹ ہو گئے عمل ان کے پس نہ قائم کریں گے ہم ان کے لیے بروز قیامت کچھ بھی وزن

ذَلِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَ

پر بدلہ ہے ان کا جہنم سبب اسکے کہ کفر کیا انہوں نے اور بنایا انہوں نے آیات کو میری اور

رُسُلِي هُزُوا ۱۰۷ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ

رسولوں کو میرے ہنسی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں ہیں

لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۱۰۸ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ

ان کے لیے باغات فردوس نعمانی رہ پڑنے والے ہیں اس میں نہ چاہیں گے

عَنْهَا حِوَلًا ۱۰۹ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ

ان سے منتقل ہونا تو کدے اگر ہوں سمندر سیاہی واسطے باتوں کے رب کی میرے

لِنَفْسٍ اَبْحَرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَعَكَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ

البتہ نفع ہو جائیں سمندر پہلے اس کے کہ نفع ہوں باتیں میرے رب کی اور اگرچہ لاویں ہم مانند اس کی اور

مَدَدًا ۱۱۰ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنْمَآءُ الْكُفْرِ

سیاہی تو کدے سوائے اسکے نہیں کہ میں انسان ہوں مانند تمہاری وحی کی جاتی ہے طرف میری کہ سوائے اسکے نہیں کہ جو تمہارا

اِلَهٍ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ

موجود ہے ایک پس جو شخص کو ہے امید رکھتا ملنے کی اپنے رب کو تو چاہیے کہ کرے

عَمَلًا صٰلِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ۱۱۱

عمل نیک اور نہ شریک کرے عبادت میں اپنے رب کی کسی کو

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

كٰفِيْعًا ۲ ذَكَرْ رَحْمٰتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۳ اِذْ

کافی۔ حایا۔ عین۔ میں ذکر ہے رحمت کا رب کی تیرے اپنے بندے زکریا پر جب

نَادٰى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۴ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهِنَ الْعَظْمِ

پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا آہستہ کہا اے رب میرے یقیناً میں ایسا ہوں کہ کمزور ہو گئیں ہڈیاں

مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمَّا كُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ

میری اور شعلے مارتا ہے سر بڑھاپے سے اور نہیں ہوں میں دعائیں تجھ سے اے رب میرے

شَقِيًّا ۵ وَرَأَيْتُ خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وُدِّ آئِي وَكَانَتْ

بدبخت اور یقیناً میں ڈرتا ہوں وارثوں سے اپنے بعد اور ہے

أَمْرًا يَ عَا قِرَاءُ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَرِيًّا ۶ يَرْثُنِي

یہی میری بانجھ پس بخش واسطے میرے اپنی جناب سے وارث جو وارث ہو میرا

وَيَرِثُ مِنْ أَلِ يَعْقُوبَ ۷ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۸ اِزْكَرِيًّا

اور وارث ہو خاندان یعقوب کا اور بنا جو اُسے اے رب میرے پسندیدہ اے زکریا

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ

یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی نام جس کا یحییٰ ہوگا نہیں بنایا ہم نے اس کیلئے

قَبْلُ سَمِيًّا ۹ قَالَ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ

پہلے اُسے کوئی نام اس نے کہا اے رب میرے کیونکر ہوگا میرے لیے لڑکا اور ہے

أَمْرًا يَ عَا قِرَاءُ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۱۰ قَالَ

یہی میری بانجھ اور یقیناً پہنچ گیا ہوں میں بڑھاپے بے حد کو فرمایا

كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ

اسی طرح ہے فرمایا ہے رب نے تیرے کردہ مجھ پر آسان ہے اور یقیناً پیدا کیا میں نے تجھے پہلے

وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۱۱ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ

حالا کہ نہ تھا تو کچھ بھی اس نے کہا اے رب میرے بنا میرے لیے کوئی نشان فرمایا نشان تیرا یہ ہے کہ

أَلَّا تَكُلِمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۱۲ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

نہ بولے گا تو لوگوں سے تین راتیں برابر پس وہ نکلا اپنی قوم پر

مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۱۳

جائے عبادت سے پس اشارہ سے کہا انھیں کہ تسبیح کرو صبح اور شام

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۱۴ وَ

اے یحییٰ پکڑ کتاب مضبوطی سے اور دیا ہم نے اسے حکم بچپن میں اور

حَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿۱۳﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

(دی ہم نے) رحمدلی اپنی جناب سے اور پاکیزگی اور تقواہ متقی اور فرمانبردار اپنے ماں باپ کا

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ

اور نہ تقواہ ظالم سرکش اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن

يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿۱۵﴾ وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَابِ مَرِيَمَ

وہ مرے گا اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے اور ذکر کر اس کتاب میں مریم کا

إِذْ أَنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِ مَكَا نَا شَرْقِيًّا ﴿۱۶﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ

جبکہ وہ دور چلی گئی اپنے گھروالوں سے جگہ مشرق میں پس بنایا اس نے

دُونِهِمْ جَبَا بَاءً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا

دوسے ان کے پردہ پھر بھیجا ہم نے طرف ان کی اپنا فرشتہ پس وہ مجسم ہو گیا اسکے لیے

بَشَرًا سَوِيًّا ﴿۱۷﴾ قَالَتْ رَبِّ انِّي عُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ

انسان پورا اس نے کہا یقیناً میں پناہ مانگتی ہوں رحمن کی تجھ سے اگر

كُنْتَ تَقِيًّا ﴿۱۸﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

ہے تو متقی اس نے کہا سوائے اسکے نہیں کہ میں بھیجا ہوا ہوں رب کا تیرے تاکہ بخشوں تجھے

عِلْمًا زَكِيًّا ﴿۱۹﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي

لڑکا پاک اس نے کہا کیونکہ ہوگا مرے لیے لڑکا حالانکہ نہیں چھوا مجھے

بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿۲۰﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ

کسی انسان نے اور نہیں ہوں میں بدکار اس نے کہا اسی طرح ہے فرمایا رب نے تیرے وہ مجھ پر

هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا

آسان ہے اور تاکہ بنا دیں ہم اُسے نشان لوگوں کیلئے اور رحمت طرف سے اپنی اور ہے یہ معاملہ

مَقْضِيًّا ﴿۲۱﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿۲۲﴾

فیصلہ شدہ پس محل میں لیا اس نے پس دور لے گئی اسے جگہ دور میں

فَإِجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي

پس لے گیا اسے درد زہ طرف تنہ کھجور کے اس نے کہا اے کاش میں

مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ سِبْيَانًا ۚ فَنَادَاهَا مِن

مرحانی پہلے اس کے اور ہوتی میں بھولی بسری پس پکارا اسے

تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۚ وَ

بیچے سے اس کے کہ نہ غم کھا یقیناً بنایا ہے رب نے تیرے نیچے تیرے ایک چشمہ اور

هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْرِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۚ

ہلا طرف اپنی تنہ اس کھجور کا وہ گراتے گی تجھ پر تازہ کھجوریں پکی ہوتی

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ

پس کھا اور پنی اور ٹھنڈی کر آنکھ پھر اتر دیکھے تو انسانوں میں سے

أَحَدًا إِلَّا فُقُولًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ

کسی کو پس کیسوں کو میں نے نذر مانی ہے رحمن کے لیے روزہ کی پس ہرگز نہیں کلام کروں گی

الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۚ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلَهُ ۚ قَالُوا

میں آج کسی انسان سے پس وہ لانی اسے اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے اسے انہوں نے کہا

يَمْرُئِمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۚ يَا خُتُّ هَارُونَ مَا كَانَ

اسے مریم یقیناً یقیناً کیا ہے تو نے کام بڑا اسے بن ہارون کی نہ تھا

أَبُوتِ إِيمَانَ آدَى بَرَا أَوْرَنْ قَهَى مَالِ تَيْرِي بَدَكَارِ ۚ فَاشارَتْ

باپ تیرا آدمی بڑا اور نہ تھی مال تیری بدکار پس اشارہ کیا اس نے

إِلَيْهِ ۚ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْهِدِ صَبِيًّا ۚ قَالَ

طرف اسکی انہوں نے کہا کیوں کر بات کریں ہم اس سے جو ہے گود میں بچہ اس نے کہا

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۚ إِنِّي كُتِبَ عَلَيَّ نَبِيًّا ۚ وَجَعَلَنِي

یقیناً میں بندہ ہوں اللہ کا دی ہے اس نے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی اور بنایا ہے مجھے

مُبَارَكًا إِنِّي مَأْكُونٌ ۚ وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا

پاک جہاں کہیں ہوں میں اور تاکید کی ہے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی جب

دُمْتُ حَيًّا ۚ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ۚ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ

تک رہوں میں زندہ اور فرمانبردار اپنی ماں کا اور نہیں بنایا مجھے ظالم بدبخت

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝۳۴

اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا میں اور جس دن مر جاؤں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝۳۵

یہ عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے بات ہے سچی وہ کہ جس میں وہ شک کرتے ہیں

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا

نہیں ہے اللہ کیلئے کہ بنارے کوئی بیٹا پاک ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی معاملہ کا

فَاتِمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۳۶ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

زور اٹھے اسے کہتا ہے اسے ہو جاؤ پس وہ ہو جاتا ہے اور یقیناً اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا

فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۳۷ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ

پس عبادت کرو اسکی یہ ہے راہ سیدھی پس اختلاف کیا قوموں نے

مَنْ بَيْنَهُمْ ۚ قَوْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۳۸

آپس میں پس افسوس ہے ان لوگوں کے بے خبر ہونے کے کہ کیا حاضر ہونے سے دن بڑے میں

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ ۚ يَوْمَ يَأْتُ تَوَنَّاكِنَ الظَّالِمُونَ

کیا ہی خوب سنیں گے وہ اور کیا ہی خوب دیکھیں گے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس لیکن ظالم

الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳۹ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ

آج گمراہی کھلی کھلی میں ہیں اور ڈرا انہیں دن حسرت کے سے جبکہ

قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۴۰ إِنَّا

فیصلہ کیا جاوے گا معاملہ کا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں ایمان لاتے یقیناً

نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ۝۴۱ وَإِذْ كُرِّ

ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور انکے جو اس پر ہیں اور طرف ہماری ہی وہ لوٹائے جائیں گے اور ڈلو کر

فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۴۲ إِذْ

اس کتاب میں ابراہیم کا یقیناً وہ تھا بہت سچا اور نبی جب

قَالَ لَا يَبِيهَ يَا بَتِّ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَ

کہا اس نے اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں عبادت کرتا ہے تو اسکی جو نہیں سُنتا اور نہ دیکھتا ہے اور

لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۳۳ يَا بَتِّ رَبِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ

نہ کام آتا ہے تیرے کچھ بھی اے باپ میرے تحقیق میں ایسا ہوں کہ آیا ہے میرے پاس علم میں سے

مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۳۴ يَا بَتِّ

وہ کہ نہیں آیا تیرے پاس پس پیروی کر میری دکھاؤں گا تجھے راہ درست اے باپ میرے

لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۳۵

نہ عبادت کر شیطان کی یقیناً شیطان ہے رحمان کا نافرمان

يَا بَتِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ

اے باپ میرے یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ پہنچے تجھے عذاب طرف سے رحمن کی پھر ہو جاویگا تو

لِلشَّيْطَانِ وَرَبِّيَا ۳۶ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا بَرِّهَيْمُ

شیطان کا دوست اس نے کہا کیا متنفر ہے تو مجبوروں سے میرے اے ابراہیم؟

لَيْسَ لَمْ تَنْتَهَ لَا زَجْمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۳۷ قَالَ

مذور اگر نہ باز آیا تو تو ضرور ضرور پھرو کر دوں گا تجھے اور چھوڑ تجھے کچھ عرصہ اس نے کہا

سَلِّمْ عَلَيْكَ ۳۸ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۳۹

سلامتی ہو تجھ پر ضرور بخشش مانگوں گا واسطے تیرے اپنے رب سے یقیناً وہ ہے مجھ پر بہت حرمان

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي بِ

اور الگ ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جن کو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو

عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۴۰ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا

امید ہے کہ نہ ہوں گا میں دعا میں اپنے رب سے بدبخت پس جب وہ جدا ہوا ان سے اور جن کی

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے عطا کیا ہم نے اسے اسحق اور یعقوب

وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۴۱ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا

اور سب کو نبیا بنا دیا ہم نے نبی اور عطا کی ہم نے انکو اپنی رحمت اور کر دیا ہم نے

لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۴۲ وَإِذْ كُفِّرْنَا الْكُتُبَ مَوْسَىٰ

ان کا ذکر خیر اعلیٰ درجہ کا اور ذکر کر اس کتاب میں موسیٰ کا

إِنَّهٗ كَانَ مُخْلِصًا ۖ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿۵۲﴾ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ

یقیناً وہ تھا ، چنا ہوا اور تھا رسول نبی اور پکارا ہم نے اُسے

جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ۖ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿۵۳﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ

کنارہ سے طور کے دائیں اور مقرب کیا ہم نے اُسے راز کی باتیں کرنے سے اور عطا کیا ہم نے اُسے

مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿۵۴﴾ وَإِذْ كُنَّا فِي الْعَتَبِ

اپنی رحمت سے بھال اس کا ہارون نبی اور ذکر کرا اس کتاب میں

إِسْمَاعِيلَ ۖ إِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ۖ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿۵۵﴾

اسماعیل کا یقیناً وہ تھا سچا وعدہ کا اور تھا رسول نبی

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ

اور وہ تھا حکم دیتا اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کا اور تھا نزدیک اپنے رب کے

مَرْضِيًّا ﴿۵۶﴾ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ آدِرِينَ ۖ إِنَّهٗ كَانَ صَدِيقًا

پسندیدہ اور ذکر کرا اس کتاب میں ادریس کا یقیناً وہ تھا سچا (اور)

نَبِيًّا ﴿۵۷﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿۵۸﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

نبی اور بلند کیا ہم نے اُسے مرتبہ بلند پر یہ لوگ وہ ہیں کہ انعام کیا اللہ نے

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ ۖ مِنَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ ۖ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

ان پر نبیوں میں سے اولاد سے آدم کی اور (اولاد سے) ان لوگوں کی جنکو ہمارے حکام نے

نُوحٍ ۖ وَمِمَّنْ ذُرِّيَّةَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْرَائِيلَ ۖ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا

ساتھ نوح کے اور اولاد سے ابراہیم اور یعقوب کی اور ان لوگوں سے جنکو ہدایت دی ہم نے

وَأَجْتَبَيْنَا ۖ إِذْ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمٰنِ خَرْدًا ۖ

اور چن لیا ہم نے جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات رحمن کی وہ گرجاتے ہیں

سُجَّدًا ۖ أَوْ بُعِيًّا ﴿۵۹﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا

سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے پھر جانشین ہوئے بعد ان کے ایسے جانشین کہ ضائع کر دی انہوں نے

الصَّلَاةَ ۖ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿۶۰﴾ إِلَّا

نماز اور پیچھے لگے خواہشات کے پس ضرور پادیں گے (نتیجتاً) مگر اہی کو۔ مگر

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کی نیکی تو یہ لوگ داخل ہوں گے

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿۶۱﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ

جنت میں اور نہ ظلم کئے جائیں گے کچھ بھی باغات ہیں ہمیشہ کے وہ جن کا وعدہ کیا

الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿۶۲﴾

رحمن نے اپنے بندوں سے ساتھ غیب کے یقیناً بات یہ ہے وعدہ اس کا لایا جانے والا ہے

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا

نہ سنیں گے وہ اس میں یہود و بات مگر سلام (سنیں گے) اور ان کیلئے رزق ہوگا ان کا اس میں

بُخْرًا وَعَشِيًّا ﴿۶۳﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا

صبح اور شام یہ جنت وہ ہے جن کا وارث کریں گے ہم اپنے بندوں میں سے

مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿۶۴﴾ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ

اس جو ہے متقی اور نہیں اترتے ہم مگر حکم سے رب کے تیرے اکی کا ہے جو آگے ہے

أَيْدِينَا وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

ہمارے اور جو پیچھے ہے ہمارے اور جو درمیان ہے اس کے اور نہیں ہے رب تیرا

نَسِيًّا ﴿۶۵﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ

بھولنے والا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو درمیان ہے ان کے پس عبادت کرا سکی

وَأَصْطِرِبِرْ لِعِبَادٍ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿۶۶﴾ وَيَقُولُ

اور قائم رہ عبادت پر اس کی کیا جانتا ہے تو اس کا کون ہم نام اور کتا ہے

الْإِنْسَانُ عَرَاذًا مَاتُ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا ﴿۶۷﴾ وَلَا يَذْكُرُ

انسان کیا جب میں مر جاؤں گا البتہ ضرور نکالا جاؤں گا زندہ کر کے کیا نہیں یاد کرتا

الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿۶۸﴾ فَوَرَبِّكَ

انسان یقیناً ہم نے پیدا کیا اسے پہلے اور نہ تھا وہ کچھ بھی پس قسم ہے رب کا تیرے

لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

ضرور اکٹھا کریں گے ہم ان کو اور شیطانوں کو پھر البتہ حاضر کریں گے ان کو گرد

جَهَنَّمَ جَنَّتًا ۶۱ ثُمَّ لَنَزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ آيَهُمْ

جہنم کے سینوں کے بل پھر ضرور جدا کریں گے ہم ہر گروہ سے ان کو جو

أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَرِيًّا ۶۲ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ

زیادہ سخت ہے رحمن پر سرکشی میں پھر ضرور ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ

هُمَ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۶۱ وَإِنْ مِنْكُمْ لَوَالِدٌ هَادٍ هَادٍ كَانَ

جو زیادہ لائق ہیں اس میں جنے کے اور نہیں تمہیں سے (کوئی) مگر وارد ہوگا اس پر ہے یہ

عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۶۲ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

رب پر ترے ضروری (وعدہ) فیصلہ شدہ پھر نجات دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا

نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتًا ۶۳ وَإِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو اس میں سینوں کے بل اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری

بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

کھلی کھلی کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ کون دونوں فریقوں میں سے

خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۶۴ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ

بہتر ہے مقام کے لحاظ سے اور زیادہ اچھا ہے مجلس کے لحاظ سے اور کتنی ہی ہلاک کیں ہم نے پہلے ان کے

قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْمًا وَرَدِيًّا ۶۵ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَاةِ

توہیں گروہ بہتر تھیں اسباب اور نمود میں تو کہہ دے جو ہو گرا ہی میں

فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۶۶ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ

پس مہلت دیکھا اس کے لیے رحمن خوب مہلت بہانک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا وہ وعدہ دیتے جاتے ہیں

إِنَّمَا الْعَذَابُ وَرِمًا السَّاعَةَ ۶۷ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ

خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے بُرا

مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۶۸ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا

رتبہ کے لحاظ سے اور کون زیادہ کمزور ہے لشکر کے لحاظ سے اور بڑھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی

هُدًى ۶۹ وَالْبَقِيَّةُ الصَّلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ

ہدایت میں اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں نزدیک تیرے رب کے بدلہ کے لحاظ سے اور

خَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿۸۵﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ

بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے کیا ہیں تو نے دیکھا اس کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور کہا کہ ضرور میں دیا جاؤں گا

مَالًا وَوَلَدًا ﴿۸۶﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ آتَاهُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

مال اور اولاد کیا اسے اطلاع ہے غیب کی یا اس نے یہاں پاس رحمن کے

عَهْدًا ﴿۸۷﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ

عہد ہرگز نہیں ضرور لکھیں گے ہم جو وہ کہتا ہے اور بڑھائیں گے اس کے لیے عذاب

مَدًّا ﴿۸۸﴾ وَنَرِيئُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿۸۹﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ

بہت بڑھانا اور وارث کریں گے ہم اسے اسکا جو وہ کہتا ہے اور آجنگا ہمارے پاس آکیلا اور انہوں نے بنایا ہے ہیں

دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿۹۰﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ

سوائے اللہ کے معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا باعث ہرگز نہیں عقرب وہ انکار کریں گے

بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿۹۱﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا

ان کی عبادت سے اور وہ ہوں گے ان کے مخالف کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ہم نے بھیجا ہے

الشَّيْطَانِ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤْوُهُمْ أَزْوَٰجًا ﴿۹۲﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ

شیطانوں کو کافروں پر وہ اکٹھے ہیں انکو خوب گسان پس نہ جلدی کرتو ان پر

إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴿۹۳﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ

سوائے انہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ان کیلئے گنتی جس دن اکٹھا کریں گے ہم متقیوں کو طرف رحمن کی

وَفْدًا ﴿۹۴﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿۹۵﴾ لَا يَمْلِكُونَ

مہمانوں کی طرح اور ہٹ کر بھیجیں گے ہم مجرموں کو طرف جسم کی پیاسے نہ اختیار رکھیں گے وہ

الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۹۶﴾ وَقَالُوا

سفارش کی سوائے اس کے جس نے یا ہوگا رحمن کے حضور عہد اور کہا انہوں نے

اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿۹۷﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿۹۸﴾ تَكَادُ

اختیار کیا ہے رحمن نے بیٹا یقیناً یقیناً کی تم نے بات بڑی بڑی قریب ہیں

السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ

آسمان کو پھٹ جاویں اس سے اور پھٹ جاوے زمین اور گر جاویں پہاڑ

هَذَا ۱۱۱ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۱۱۲ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ

کانپ کو اس سے کہ پکارا انہوں نے واسطے رحمن کے بیٹا حالانکہ نہیں لائق رحمن کے لیے

أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۱۱۳ إِنْ كَلَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا

کہ بناوے بیٹا نہیں ہر شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر

أَبِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۱۱۴ لَقَدْ أَحْضَرْتُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۱۱۵

آنے والا ہے رحمن کے پاس بندہ ہو کر یقیناً یقیناً اس نے گن لیا ہے انہیں اور شمار کر لیا ہے انہیں خوب شمار کرنا

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۱۱۶ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

اور ہر ایک ان میں سے آجگا اسکے پاس بروز قیامت اکیلا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۱۱۷ فَإِنَّمَا

اور کہیں نیکیاں ضرور کرے گا ان سے رحمن محبت - پس سوائے اسکے نہیں

يَسِّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِيُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ

کہ آسان کیا ہے ہم نے اسے زبان پر تیری تاکہ بشارت دے تو ساتھ اس کے متقیوں کو اور ڈراوے ساتھ اسکے

قَوْمًا ۱۱۸ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ

لوگوں جھگڑنے والوں کو اور کتنی ہی ہلاک کیں ہم نے پہلے ان کے قویں کیا

تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۱۱۹

تو تجھ کوں کرتا ہے ان میں سے کسی کو یا تو سنتا ہے ان کی آہٹ بھی

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

طه ۲ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۳ إِلَّا

طا - ہاء - نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن تاکہ مشقت میں پڑے تو مگر

تَذِكْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿۳﴾ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ

نہایت کے طور پر اس کیلئے جو ڈرتا ہے (اس قرآن کا) آنا ہے طرف سے اکی جس نے پیدا کیا زمین

وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿۴﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿۵﴾

اور آسمانوں بند کو رحمن عرش پر ٹھیک قائم ہوا

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا

اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو درمیان انکے ہے اور جو

تَحْتَ الثَّرَى ﴿۶﴾ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ

نیچے ہے جھلی مٹی کے اور اگر تو اونچی کے بات تو یقیناً وہ جانتا ہے

السِّرِّ وَالْأَخْفَى ﴿۷﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ

پوشیدہ اور اس سے زیادہ پوشیدہ کو اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی خدا سوائے اسکے اسی کے لیے ہیں نام

الْحُسْنَى ﴿۸﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿۹﴾ إِذْ دَارًا نَّارًا

اچھے اور کیا آئی تیرے پاس بات موسیٰ کی جب دیکھی اس نے آگ

فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ

تو کہا اپنے گھروالوں کو ٹھہر جاؤ یقیناً میں نے دیکھی ہے آگ امید ہے کہ میں لاؤں تمہارے پاس

مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجْدَعُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿۱۰﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ

اس سے کوئی انگارہ یا پاؤں آگ پر رہنمائی پس جب وہ آیا اسکے پاس آواز دیا گیا

يَمُوسَى ﴿۱۱﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْنَمِ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ

اے موسیٰ یقیناً میں ہی رب ہوں تیرا پس اتار اپنی دونوں جوتیاں یقیناً تو وادی

الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۲﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿۱۳﴾

مقدس طوی میں ہے اور میں نے چن لیا ہے تجھے پس سن جو وحی کی جاتی ہے

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

یقیناً میں ہی اللہ ہوں نہیں کوئی خدا سوائے میرے پس عبادت کر میری اور قائم کر نماز

لِذِكْرِي ﴿۱۴﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتَجْزِي أَكْ

میری یاد کے لیے یقیناً قیامت آنے والی ہے قریب ہوں میں ظاہر کروں اسے تاکہ بدل دیا جائے ہر

نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۱۶ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا

نفس اس کا جوہ کوکشش کرتا ہے پس نہہرگز روکے تجھے اس سے وہ جو نہیں ایمان لاتا اس پر

وَاتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَرْدَى ۱۷ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ۱۸

اور اس نے ہیردی کی اپنے خواہش کی درندہ تو بلاگ ہو جاوے گا اور کیا ہے یہ دائیں ہاتھ میں تیرے اے موسیٰ

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيَّهَا وَأَمْشِي بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي

کہا یہ سونٹا ہے میرا سہارا لگا تا ہوں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بھریوں پر

وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ۱۹ قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى ۲۰

اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں اور بھی فرمایا زمین پر ڈال دے اسے اے موسیٰ۔

فَأَلْقَاهَا فِإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۲۱ قَالَ خُذْهَا وَلَا

پس ڈال دیا اس نے اے نرزا جانک وہ سانپ تھا دوڑتا فرمایا پکڑ لے اسے اور نہ

تَخَفْ إِنَّهُ سَنَعِيدُهُ بِسَيْرَتِهَا الْأُولَىٰ ۲۲ وَأَضْمُ مِئِدَكَ

ڈر ضرور دوبارہ کر دیں گے ہم اسے حالت پر اس کی پہلی اور لگا ہاتھ اپنا

إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيِّضًا مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٍ

طرف اپنے بازو کے نکلے گا سفید (بِزاق) بے عیب بطور نشان کے

أُخْرَىٰ ۲۳ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۲۴ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ

دوسرے تاکہ دکھا دیں ہم تجھے اپنے نشانات میں سے بڑے جا طرف

فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۲۵ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۲۶

فرعون کے یقیناً وہ سرکش ہوا کہا اے رب میرے کھول دے میرے لیے سینہ میرا

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۲۷ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۲۸

اور آسان کر دے میرے لیے معاملہ میرا اور کھول دے گزہ میری زبان سے

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۲۹ وَاجْعَلْ لِّي ذَرْئًا مِّنْ أُمَّلِي ۳۰ هَارُونَ

وہ سمجھیں بات میری اور بنا میرے لیے بوجھ بنانے والا میرے گھر والوں میں سے ہارون

أَخِي ۳۱ أَشَدُّ بِهِ أَذْرِي ۳۲ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۳۳

بھائی میرے کو مضبوط کر اس کے ساتھ طاقت میری اور شریک کر اسے معاملہ میں میرے

كِي نُسِبَحَكَ كَثِيرًا ۳۳ وَنَذُرَكَ كَثِيرًا ۳۵ نَكَ كُنْتَ

تاکہ ہم پاکیزگی بیان کریں تیری بہت اور ذکر کریں تیرا بہت یقیناً تو ہے

بِنَا بَصِيرًا ۳۶ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ۳۷

ہمیں خوب دیکھنے والا فرمایا تحقیق دیا گیا تو اپنا سوال اے موسیٰ

وَلَقَدْ مَنَّاْ عَلَیْكَ مَرَّةً أُخْرٰی ۳۸ اِذْ اَوْحٰیْنَآ اِلٰی اُمِّكَ

اور یقیناً یقیناً احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک دفعہ اور جب وحی کی ہم نے طرف ماں تیری کی

مَا یُوحٰی ۳۹ اِنْ اَقْذِیْهِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِیْهِ فِی

جو وحی کی جاتی ہے کہ ڈالے اسے صندوق میں پھر ڈال دے اس (صندوق) کو

الْبَیْرِ فَلَیْلِقَهُ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَاْخُذُهٗ عَدُوُّیْ وَ

دریا میں پس چاہیے کہ ڈالے اُسے دریا ساحل پر لے گا اسے دشمن میرا اور

عَدُوُّوْهُ ۴۰ وَالْقَبِیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّیْ ۴۱ وَتَتَّصِنَعُ عَلٰی

دشمن اس کا اور ڈال میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے اور تاکہ پرورش کیا جاوے تو

عَیْنِیْ ۴۲ اِذْ تَمْشِیْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ مَلْ اَدْ لَکُمْ عَلٰی مَنْ

آنکھ کے سامنے میری جب چلتی تھی بہن تیری پس وہ کہتی تھی کیا آگاہ کروں میں تم کو ان لوگوں پر جو

یَكْفُلُهٗ ۴۳ فَرَجَعْنَا اِلٰی اُمِّكَ كِیْ تَقْرَعِیْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۴۴

پالیں اسے پس لوٹا دیا ہم نے تجھے طرف تیری ماں کی تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اسکی اور نہ غم کھاوے وہ

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّیْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ۴۵

اور قتل کی تو نے ایک جان پس نجات دی ہم نے تجھے غم سے اور آزمایا ہم نے تجھے خوب آزمانا

فَلَبِثْتَ سِنِیْنَ فِیْ اَهْلِ مَدِیْنَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ

پھر ٹھہرا رہا تو کئی سال اہل مدین میں پھر آیا ایک اندازہ پر

یَمُوسٰی ۴۶ وَاَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِیْ ۴۷ اِذْ هَبَّ اَنْتَ وَاخُوْكَ

اے موسیٰ اور چُن لیا میں نے تجھے اپنے لیے جا تو اور بھائ تیرا

بِاٰیَتِیْ وَلَا تَنیَا فِیْ ذٰکُرِیْ ۴۸ اِذْ هَبَّا اِلٰی فِرْعَوْنَ

ساتھ آیات کے میری اور نہ سستی کرنا یاد میں میری دونو جاؤ طرف فرعون کی

إِنَّهُ طَغَىٰ ۗ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ

یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے پس دونوں کو اسے بات نرم تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا

يَخْشَىٰ ۗ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا

ڈر جاوے دونوں نے کہا اے رب ہمارے تحقیق ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے ہم پر

أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۗ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَ

یابہ کہ سرکش کرے فرمایا نہ ڈرو یقیناً میں ساتھ تم دونوں کے سنتا ہوں اور

أَرَىٰ ۗ فَاتِيهِ فَقَوْلَا إِنَّا دَرَسُوا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا

دیکھتا ہوں پس جاؤ پاس اس کے پھر کہو کہ ہم بیچھے ہوئے ہیں رب کے تیرے ہیں بھیج ساتھ ہمارے

بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ يَا إِلَهَ

بنی اسرائیل کو اور نہ عذاب دے انہیں یقیناً لائے ہیں ہم نشان

مَنْ رَبِّكَ ۗ وَالسَّلْمُ عَلَيَّ مِنَ اتِّبَاعِ الْمُدَىٰ ۗ إِنَّكَ أَقْدَرُ

ظن سے رب کے تیرے اور سلام ہے اس پر جس نے پیروی کی ہدایت کی یقیناً ہم وہ ہیں کہ

أَرْحَمِي إِلَيْنَا إِنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۗ قَالَ

یقیناً وہی کی گئی ہے طرف ہماری کہ یقیناً عذاب اس شخص پر ہے جس نے تکذیب کی اور پھر گیا اس نے کہا

فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ۗ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ

پس کون ہے رب تمہارا اے موسیٰ اس نے کہا رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو

خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۗ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۗ

پیدا آتش اسکی پھر راہ دکھائی اس نے کہا پس کیا حال ہے قوموں پہلوں کا

قَالَ عِلْمُهُمْ عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۗ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ ۗ

فرمایا علم ان کا پاس ہے رب کے میرے ایک کتاب میں نہیں گمراہ ہوتا رب میرا اور نہ بھولتا ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا

وہ جس نے بنائی تمہارے لیے زمین بچھونا اور چلائے تمہارے لیے اس میں

سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۗ فَخَرَجْنَا بِهِ أَرْوَاجًا

راستے اور اتارا بادل سے پانی پس نکالے ہم نے ساتھ اس کے جوڑے

مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ۵۳ كَلُوا وَاذَعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

نباتات مختلف کے کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو یقیناً اس میں

لَا يَتَرَكُوْنَ اُولَى النَّهْيِ ۵۴ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ

البتہ نشانات ہیں عقول والوں کے لیے اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰى ۵۵ وَاَلْقَدَّ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا

اور اسی سے نکالیں گے ہم تم کو ایک بار اور اور یقیناً دکھائے ہم نے اسے اپنے نشانات

كُلَّمَا فَعَدَّبْ وَاَبٰى ۵۶ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ

سب کے سب پس تکذیب کی اس غا اور نکار کیا اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہاں تاکہ نکالے تو ہمیں

اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ۵۷ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ

زمین سے ہماری اپنے جادو سے اے موسیٰ! پس ضرور ہم لاویں گے تیرے ہاں جادو مانند اس کی

فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اَلَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَا

پس بنا درمیان ہمارے اور درمیان اپنے مقررہ وقت کو نہ خلاف کریں اس کا ہم اور نہ

اَنْتَ مَكَانًا سُوٰى ۵۸ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ

تو جگہ برابر فرمایا مقررہ وقت تمہارا دن زینت کا ہے اور یہ کہ

يُحْشِرُ النَّاسُ ضَحٰى ۵۹ فَتَوَلٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ

اکٹھے کئے جاویں لوگ چاشت کے وقت پس پھر گیا فرعون پھر جمع کی اس نے اپنی تدبیر

ثُمَّ اٰتٰى ۶۰ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيَلٰكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰى اللّٰهِ

پھر آیا کہا ان کو موسیٰ نے افسوس تم پر نہ گھڑو اللہ پر

كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ ۶۱ وَقَدْ خَابَ مِنْ اِفْتَرٰى ۶۲

بھوٹ ورنہ ہلاک کر دے گا تم کو ساتھ عذاب کے اور یقیناً ناکام ہوا جس نے افتراء کیا

فَتَنَّا زَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسْرُوْا التَّجْوٰى ۶۳ قَالُوْا

پس بھگڑے وہ اپنے معاملہ میں آپس میں اور پلوشیدہ کیا مشورہ انہوں نے کہا

اِنَّ هٰذٰلِكَ لَسِحْرٌ يُّرِيْدُنْ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ

یقیناً یہ دونو البتہ جادو گر ہیں چاہتے ہیں کہ نکالیں تم کو

أَرْضَكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذُحِبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلِّ ۱۶۳

مک سے تمہارے اپنے جادو سے اور لے جاویں طریقہ تمہارا اعلیٰ

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًّا وَكَذَافَةً

پس پوری کر اپنی تدبیر پھر آؤ صف باندھ کر اور یقیناً کامیاب ہو گیا

الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۱۶۵ قَالُوا يَمْوَسِيٰ اِمَّا اَنْ تُلْقِيَا وَ

آج وہ جو غالب آیا انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو یہ کہ تو ڈالے اور

اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَىٰ ۱۶۶ قَالَ بَلْ اَلْقُوا ۱۶۷ فَاِذَا

یا یہ کہ ہم ہوں پہلے وہ جو ڈالیں فرمایا بلکہ تم ڈالو پس اچانک

جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ

رسیاں ان کی اور سونٹے ان کے خیال ڈالاجاتا تھا طرف ان کی ان کے جادو کی وجہ سے

اَتَهَا تَسْعَىٰ ۱۶۸ فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۱۶۹

کہ وہ چلتے ہیں پس محسوس کیا اپنے دل میں ڈر موسیٰ نے

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَىٰ ۱۶۶ وَالْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ

ہم نے کہا نہ ڈر یقیناً تو ہی غالب ہے اور ڈالے جو دائیں ہاتھ میں ہے تیرے

تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ اَكْبَرُ سِحْرِهِمْ وَلَا يَفْلِحُ

وہ نکل جاوے گا جو بنایا ہے انہوں نے سوائے انکے نہیں کہ نہائی انہوں نے تدبیر جادو کی اور نہیں کامیاب ہوتا

السَّحْرِ حَيْثُ اَتَىٰ ۱۷۰ فَاَلْقَى السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا اَمَّا

جادوگر جہاں جائے پس گرا دیئے گئے جادوگر سجدہ میں انہوں نے کہا ایمان لائے ہم

بِرَبِّ هٰرُونَ وَمُوسَىٰ ۱۷۱ قَالَ اَمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اَدْنٰ

رب پر ہارون اور موسیٰ اس نے کہا ایمان لائے تم اس پر پہلے انکے کہ اجازت دوں میں

لَكُمْ دَايَةٌ لَّكِبْرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السَّحْرَ فَلَا قَطْعَنَّ

تم کو یقیناً وہ البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے سکھا یا تم کو جادو پس ضرور کاٹوں گا

اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ فِي

ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے مقابل طرف سے اور ضرور صلیب دوں گا تم کو

جُدُوعِ النَّخْلِ : وَلَتَعْلَمَنَّ آيُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَآبَقِي ۴۲

تنوں پر کھجوروں کے اور ضرور تم جان لوگے کہ کون ہے تم میں سے زیادہ سخت دینے والا عذاب اور زیادہ باقی رہنے والا عذاب

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي

انہوں نے کہا ہرگز نہیں مقدم کریں گے ہم تجھے اس پر جو آئے ہیں ہمارے پاس دلائل اور اس پر جس نے

فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ

پیدا کیا ہم کو پس فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنا والا ہے سوائے اسکے نہیں کہ تو فیصلہ کر سکتا ہے اس

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۴۳ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَاخُطِينَا وَ

زندگی اور میں یقیناً ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمیں غلطیاں ہماری اور

مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۴۴ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۴۴

اور وہ کہ مجبور کیا تو نے ہمیں جس پر یعنی جادو پر اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ

یقیناً بات یہ ہے کہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر یقیناً اس کے لیے جہنم ہے نہ مرے گا

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۴۵ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ

اس میں اور نہ زندہ رہے گا اور جو آئے گا اسکے پاس مومن ہو کر یقیناً کی ہوں گی نیکیاں

قَالُوا لِيكَ لَهُمُ الْمَدْرَجَةُ الْعُلَىٰ ۴۶ جَنَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي

تو یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے درجے ہیں بلند باغات ہیں ہمیشہ کے بہتی ہوئی

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۴۷ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ

پہنچے ان کے نہیں رہ پڑنے والے ان میں اور یہ بدلہ ہے اسکا جس نے

تَزَكَّىٰ ۴۸ وَلَقَدْ آوَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ أَنْ أَسْرِبِعْبَادِي

پاکیزگی حاصل کی اور یقیناً وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے کہ رات کو بے چل بندوں کو میرے

فَأَضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا

پس بنا ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک نہ ڈرے گا تو بچڑے جانے

وَلَا تَخْشَىٰ ۴۹ فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنَ يَجْنُودُهُ فَخَشِيَهُمْ مِّنْ

سے اور نہ خوف کریگا پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے ساتھ اپنے لشکروں کے پس ڈھانکا انہیں

الْيَوْمَ مَا غَشِيَهُمْ ۗ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۙ

سندریں جسے جس نے ڈھانکا انہیں اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ ہدایت دی

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكَ

اے بنی اسرائیل یقیناً نجات دی ہم نے تم کو دشمن سے تمہارے اور وعدہ کیا تم سے

جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۙ

کنارہ پر طور کے دائیں اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوی

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ

کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو دیں ہم نے تم کو اور نہ سرکشگی کرو اس میں ورنہ اترے گا

عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۗ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۙ

تم پر غضب میرا اور جو شخص اس پر غضب میرا تو یقیناً وہ گویا اور

إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۙ

یقیناً میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کی نیکی پھر ہدایت پائی

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۙ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ

اور کونسی بات جلدی لائی تجھے قوم سے تیری اے موسیٰ کہا وہ لوگ میرے

أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۙ قَالَ فَإِنَّا قَدْ

پچھے ہیں اور جلدی کی میں نے طرف تیری اے رب میرے تاکہ توراغنی ہو فرمایا پس یقیناً اسرائیل

فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۙ فَرَجَعَ

میں ڈالا ہے ہم نے تیری قوم کو بعد تیرے اور گمراہ کیا ان کو سامری نے پس لوٹا

مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۗ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ

موسیٰ طرف اپنی قوم کی غصہ میں افسوس سے کہا اے قوم میری کیا نہ

يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ أَحْسَنَاءُ أَفْطَالَ عَلَىٰ كُمُ الْعَمْدِ أَمْ

وعدہ کیا تھا تم سے رب نے تمہارے وعدہ اچھا کیا پھر لمبی ہو گئی تم پر عمد کی مدت یا

أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ

ارادہ کیا تم نے کہ اترے تم پر غضب من سے رب کے تمہارے پس خلاف کیا تم نے

مَوْعِدِي ۸۸ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَعِنَّا

میرے عہد کا انہوں نے کہا نہیں خلاف کیا ہم نے عہد کا تیرے اپنے اختیار سے و لیکن ہم

حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ

اٹھائے گئے بوجھ زبور کا لوگوں کے پس پھینکا ہم نے اسے اسی طرح

أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۸۹ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ

ڈالا سامری نے پس نکالا ان کے لیے پھڑا جسم واسطے اسکے گائے کی آواز کی

فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ هٰ فَنَسِيَ ۹۰ أَفَلَا يَرَوْنَ

پس کہا انہوں نے یہ مجھ سے تمہارا اور معبود موسیٰ کا پس بھول گیا وہ کیا پھر نہیں دیکھتے وہ

أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا

کرتیں لوٹانا طرف ان کی بات اور نہ طاقت رکھتا ہے ان کے لیے ضرر اور نہ

نَفْعًا ۹۱ ۚ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا

نفع کی اور یقیناً یقیناً کہا تھا ان کو ہارون نے پہلے سے اے قوم میری سوائے اسکے نہیں کہ

فَتِنْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا

آزمائے گئے ہو تم اس کے ذریعہ اور یقیناً رب تمہارا رحمن ہے پس پیروی کرو میری اور اطاعت کرو

أَمْرِي ۹۲ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ

میرے حکم کی انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہٹیں گے ہم اس پر قائم رہنے سے یہاں تک کہ لوٹے

إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۹۳ قَالَ يَهُودُ مَا مَنَّكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا

طرف ہماری موسیٰ (موسیٰ نے اگر) کہا اسے ہارون کس نے روکا تجھے جب دیکھا تو نے انہیں کہ گمراہ ہو گئے

أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۹۴ قَالَ يَبْنَؤُمْ وَلَا تَأْخُذْ

کہ نہ پیروی کرے تو میری کیا پس نافرمانی کی تو نے حکم کی میرے کہا اسے بیٹے میری ماں کے نہ پکڑ

بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

داڑھی میری اور نہ سر میرا یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تفرقہ ڈال دیا تو نے درمیان

بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْرَائِيلَ ۚ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۹۵ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ

بني اسرائيل کے اور نہ انتظار کیا تو نے بات کامیری کہا پس کیا ہے اصل بات تیری

يَسْأَلِي ۱۶۱ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ

اے سامی اس نے کہا دیکھا میں نے وہ کہ نہیں دیکھا انہوں نے جسے پس یا میں نے

قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي

کچھ حصہ نقش قدم سے رسول کے پھر پھینک دیا میں نے اسے اور اس طرح تجویز کی میرے لیے

نَفْسِي ۱۶۲ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا

دل نے میرے فرمایا پس جا پس یقیناً تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ کہے تو نہ

مَسَاسٍ مَّوَدَّاتٍ لَّكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفُهُ ۚ وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ

چھوڑ (بچھے) اور یقیناً تیرے لیے ایک ميعاد ہے برگزینے تجھے چھوڑا جا ہیگا تو اس کے اور دیکھ طرف اپنے معبود کے

الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَافَاءً لَّنْ حَرَّقَتْهُ ثُمَّ لِنَنْسِفَنَّهُ فِي

وہ کہ رہا تو جس پر عذاب ہوا ضرور جلا دیں گے ہم اُسے پھر ضرور اڑا دیں گے ہم اُسے

الْيَمِّ نَسْفًا ۱۶۳ نَمَّا إِلْهُكُمْ إِلْهُ الَّذِي لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ

سمندر میں خوب اڑانا سولے اسکے نہیں کہ معبود تمہارا اللہ ہے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اسکے اس نے احاطہ

كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۱۶۴ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ

کر لیا ہے ہر چیز کا علم کی رو سے اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر خبریں اس کی جو یقیناً

سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۱۰۰ مَنَ أَعْرَضَ عَنْهُ

گذر چکا اور یقیناً دیا ہم نے تجھے اپنی جناب سے ذکر جس نے اعراض کیا اس سے

فَاتَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۱۰۱ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ

تو یقیناً وہ اٹھاوے گا بروز قیامت بوجھ رہ پڑنے والے ہیں اس میں اور بڑا ہے

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۱۰۲ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ

ان کے لیے بروز قیامت بوجھ جس دن پھونکا جا ہیگا بگل میں اور ہم اکٹھا کریں گے

الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۱۰۳ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ

مجرموں میں اس دن نیلا آنکھوں والے آہستہ باتیں کریں گے آپس میں کہ نہیں

لَيْسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۱۰۴ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ

رہے تم مگر دس (دن) ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ کہیں گے جب کہے گا

أَمْثَلَهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْسَتْ إِلَّا يَوْمًا ۝۱۰۵ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

اعلیٰ ان میں سے طریقہ والا کو نہیں رہے تم مگر ایک دن اور پوچھتے ہیں تجھے متعلق

الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝۱۰۶ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝۱۰۷

پہاڑوں کے پس تو کدے اڑا دیگا انہیں رب میرا خوب اُڑانا پس کر دیگا انہیں میدان صاف

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝۱۰۸ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ

نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی نشیب اور نہ فراز اس دن پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے

لَاعِوَجَ لَهُ ۝ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ

نہیں کجی (دہنگی) اس کیلئے اور نیچی ہوں گی آوازیں (خدا کے) رحمن کے لیے پس نہ سنے گا تو

إِلَّا هَمْسًا ۝۱۰۹ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

مگر آہستہ آواز اس دن نہیں نفع دیکھی سفارش سوائے اس کے کہ اجازت دے جس کے

الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۱۰ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

یہ رحمن اور پسند کرے اس کی بات وہ جانتا ہے جو آگے ہے ان کے اور جو

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۱۱ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ

پیچھے ہے انکے اور نہیں وہ احاطہ کرتے اس کا علم کی روشنی اور جھک گئے پھرے (انکے) زندہ (اور مردوں)

الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۲ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ

کو (تو) قائم رکھنے والے کیلئے اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے اٹھایا ظلم اور جو کرے گا

الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۱۳ وَ

نیکیاں اور وہ مومن ہوگا تو نہ ڈرے گا وہ ظلم سے اور نہ حتیٰ تلفی سے اور

كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ

اس طرح اتارا ہم نے اسے قرآن عربی میں اور بار بار لائے ہم اس میں

الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۱۴ فَتَعَلَىٰ

عذاب کے وعدے تاکہ وہ تقویٰ کریں یا وہ پیدا کرے ان کے لیے نصیحت پس بلند ہے

اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۝ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

اللہ بادشاہ سچا اور نہ جلدی کر ساتھ قرآن کے پہلے اس کے کہ

يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۱۵ وَلَقَدْ

پوری کی جاوے طرف تیری وحی اس کی اور کہ اے رب میرے بڑھانے علم میں اور یقیناً یقیناً

عَهْدًا نَأْتِي آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيٍّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۱۶

تا کہیری حکم دیا تھا ہم نے آدم کو پہلے سے پس بھول گیا وہ اور نہ پایا ہم نے اس کے لیے عزم

وَأَذَقْنَا لِلْمَلَكَةِ أَشْجُدًا وَالْأَدَمَ فَسَجَدُ وَالْإِبْلِيسَ ۝

اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے

أَبَى ۝۱۱۷ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا

اس نے انکار کیا، پس کہا ہم نے اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے تیرا اور بیوی کا تیری پس نہ

يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝۱۱۸ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا

نکال دے تم دونوں کو جنت سے پس تو شقت میں پڑیگا یقیناً تیرے لیے یہ نہ کہ نہ بھوکا ہوگا تو اس میں

وَلَا تَعْرَىٰ ۝۱۱۹ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝۱۲۰ فَوَسْوَسَ

اور نہ تنگ ہوگا اور یقیناً تو نہ پیاسا ہوگا اس میں اور نہ دھوپ پاویگا پس وسوسہ ڈالا

إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ

اُسے شیطان نے اس نے کہا اے آدم کیا آگاہ کروں میں تجھ کو درخت

الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يَبُلُ ۝۱۲۱ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا

خلد پیر اور ملک پر جو نہ بوسیدہ ہوگا پس کھا لیا دونوں نے اس سے پس ظاہر ہو گئیں ہان دونوں کیلئے

سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرَقِ الْجَنَّةِ ۝

شرگاہیں ان کی اور گئے وہ چپکانے اپنے اوپر پتے جنت کے

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝۱۲۲ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ

اور نہ فرمانی کی آدم نے اپنے رب کی پس بے راہ ہوا پھر چن لیا اُسے رب نے اس کے پس فضل سے متوجہ ہوا

عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝۱۲۳ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ

اس پر اور ہدایت دی فرمایا (تو دونوں گروہ) اس سے سب کے سب بعض تمہارے

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝۱۲۴ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ۝۱۲۵ فَمَنِ اتَّبَعَ

بعض کے دشمن ہیں پس اگر آوے تمہارے پاس طرف سے میری ہدایت پس جس نے پیروی کی

هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۱۳۳ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنَّا

ہدایت کی میری پس نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا اور جس نے اعراض کیا

ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

ذکر سے میرے پس یقیناً اس کیلئے زندگی ہے تنگ اور اٹھائیں گے ہم اُسے بروز قیامت

أَعْمَى ۱۳۵ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۱۳۶

اندھا کہے گا اے رب میرے کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا حالاً کہ یقیناً تھا میں بینا

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ۱۳۷

فرمایا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس آیات ہماری پس تو بھول گیا تھا اور اسی طرح آج تو بھلایا جاوے گا

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ؕ وَ

اور اسی طرح ہم بدل دیتے ہیں اسے جس نے اسراف کیا اور نہ ایمان لایا آیات پر اپنے رب کی اور

لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۱۳۸ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا هَلَكْنَا

البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے کیا پس نہیں ہدایت دی انہیں (اس بات نے کہ اتنی ہلاک ہوئے ہیں

قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

پہلے ان سے تو ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں گھروں میں ان کے یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں

لِأُولِي النُّهَى ۱۳۹ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا

غفلوں والوں کے لیے اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی طرف سے رب کے تیرے نافرور ہوتا (عذاب) لازم

وَاجِلٌ مُّسَمًّى ۱۴۰ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

اور (اگر نہ ہوتی) مباد مقررہ پس صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور تسبیح کر ساتھ حمد کے

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ

اپنے رب کی پہلے چڑھنے سورج کے اور پہلے ڈوبنے کے اس کے گھڑیوں میں

الْبَيْتِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۱۴۱ وَلَا تَمُدَّنَّ

رات کی پس تسبیح کر اور طرفوں میں دن کی تاکہ تو راضی ہو اور نہ لمبی کر

عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ

اپنی دونوں آنکھیں طرف اسکی کہ سامان دیا ہم نے ساتھ اس کے جوڑوں کو ان میں سے زینت زندگی

الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۗ ﴿۱۳۳﴾ وَأُمِرْ

ورلی کی تاکہ آزما دیں ہم ان کو اس میں اور رزق رب کا تیرے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور حکم کر

أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ

اپنے گمراہوں کو نماز کا اور قائم رہ اس پر نہیں مانگتے ہم تجھ سے رزق ہم

نَزْرُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۗ ﴿۱۳۴﴾ وَقَالُوا الْوَالُوَا يَأْتِينَا

رزق دیتے ہیں تجھے اور انجام تقویٰ کے لیے ہے اور کہا انہوں نے کیوں نہیں وہ لاتا ہمارے پاس

بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ

کوئی نشان طرف سے اپنے رب کے کیا نہیں آئی ان کے پاس دلیل اس کی جو کتابوں میں ہے

الْأُولَىٰ ۗ ﴿۱۳۵﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا

پہلی اور اگر ہم ہلاک کرتے ان کو عذاب سے پہلے اس کے ضرور کہتے

رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا سَأَلْنَا عَنْ آيَاتِكَ مِن

اسے رب ہمارے کیوں نہیں بھیجا تو نے طرف ہماری کوئی رسول پس ہم بیروی کرتے آیات کی تیری

قَبْلِ أَنْ تَذِلَّ وَنَخْزِي ۗ ﴿۱۳۶﴾ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۚ

پہلے اس کے کہ ذلیل ہوتے ہم اور رسوا ہوتے تو کہہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے پس انتظار کرو

فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۗ ﴿۱۳۷﴾

پس عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہیں والے راہ سیدھی کے اور کس نے ہدایت پائی



سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۱

تربیب آگیا لوگوں کے لیے حساب ان کا اور وہ غفلت میں

مُعْرَضُونَ ۲ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ

اعراض کرینوالے ہیں نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت طرف سے ان کے رب کے

مُحَدِّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۳ لَاهِيَةً

نئی مگر سنتے ہیں اسے اور وہ کھیلتے ہیں غافل ہیں

قُلُوبُهُمْ ۴ وَأَسْرُ وَالنَّجْوَى ۵ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۶

دل ان کے اور پوشیدہ کی انہوں نے سرگوشی وہ جنہوں نے ظلم کیا کہ

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ ۷ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ ۸

نہیں ہے یہ بلکہ انسان مانند تمہاری کیا پس آتے ہو تم جادو کی طرف اور

أَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۹ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ

تم دیکھتے ہو اس نے کہا رب میرا جانتا ہے بات کو آسمان میں

وَالْأَرْضِ رَوْهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۱۰ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ

اور زمین میں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے بلکہ کہا انہوں نے کہ (یہ) پیرا گندہ

أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَسَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۱۱ فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ

خوابیں ہیں بلکہ افترا کیا ہے اس نے بلکہ یہ شاعر ہے پس چاہیے کہ لادے ہمارے ہاں کوئی نشان

كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۱۲ مَا آمَنْتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ

جیسا کہ بھیجے گئے پہلے نہیں ایمان لائے پہلے ان سے کوئی بستی

أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يَوْمِئِذٍ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ

ہلاک کیا ہو ہم نے جسے کیا پھر وہ ایمان لادیں گے اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے

إِلَّا رِجَالًا تَوْحِيًا إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ

سوائے مردوں کے وحی کرتے تھے ہم طرف ان کی پس پلو چھو ذکر والوں سے اگر

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۵ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلَا

ہو تم نہیں علم رکھتے اور نہیں بنایا تھا ہم نے ان کو ایسا جسم کہ نہ

يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۶ ثُمَّ

کھاتے ہوں کھانا اور نہ تھے وہ رہ پڑنے والے پھر

صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا

سچا کیا ہم نے ان سے وعدہ پس نجات دی ہم نے انہیں اور جنہیں ہم چاہتے تھے اور ہلاک کر دیا ہم نے

الْمُسْرِفِينَ ۷ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

حد سے بڑھنے والوں کو یقیناً یقیناً اتاری ہم نے طرف تمہاری ایک کتاب جس میں نصیحت ہے تمہاری

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۸ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ

کیا پھر نہیں عقل کرو گے تم اور کتنی ہی ہلاک کیں ہم نے بستیاں جو تھیں

ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۹ فَلَمَّا

ظالم اور بنائے ہم نے پیچھے ان کے لوگ دوسرے پس جب

أَحْسَبُوا بِأَسْنَانِهِمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۱۰ لَا تَرَكَضُوا

محسوس کیا انہوں نے غذاب ہمارا اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے نہ بھاگو

وَأَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنُهُمْ لَعَلَّكُمْ

اور لوٹو طرف اس کی کہ آرام دینے گئے تم جس میں اور طرف اپنے گروں کی تاکہ تم

تُسْأَلُونَ ۱۱ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۱۲ فَمَا

پوچھے جاؤ انہوں نے کہا اے افسوس ہم پر یقیناً ہم ہی تھے ظالم پس

زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا

رہی یہی پکار ان کی یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹے ہوئے

خَامِدِينَ ﴿۱۷﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

مجھے ہونے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو درمیان ان کے

لِعِبَادِنَا ﴿۱۸﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتٍ لَوَلَّوْنَا

ہے کھینٹتے ہوتے اگر چاہتے ہم کہ بناویں مشغلہ البتہ بناتے ہم

مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿۱۹﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى

اپنی طرف سے اگر ہوتے ہم کرنے والے بلکہ ڈالتے ہیں ہم حق

الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمْ الْوَيْلُ

باطل پر پس وہ کھیل دیتا ہے اسے پس اچانک وہ بھاگنے والا ہوتا ہے اور تمہارے لیے افسوس ہے

مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۲۰﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

اس سے جو تم بیان کرتے ہو اور اسی کے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا

اور وہ جو پاس میں اس کے نہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے عبادت سے اس کی اور نہ

يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۲۱﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۲﴾

تھکتے ہیں (عبادت سے) وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن نہیں ٹھکتے

أَمْ آتَاخُذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿۲۳﴾ لَوْ

کیا بنا لیتے ہیں انہوں نے معبود زمین سے وہ پیدا کرتے ہیں اگر

كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ

ہوتے ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں کئی معبود سوائے اللہ کے البتہ دونوں تباہ ہو جاتے پس پاک ہے اللہ

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۴﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ

رب عرش کا اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں نہیں پوچھا جاتا وہ متعلق اسکے جو وہ کرتا ہے اور

هُمْ يُسْأَلُونَ ﴿۲۵﴾ أَمْ آتَاخُذُوا مِن دُونِهِ إِلَهًا ۚ قُلْ

وہ پوچھے جاویں گے کیا بناتے ہیں انہوں نے سوائے اس کے معبود تو کہدے

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِيَ وَذِكْرٌ

لاؤ دلائل اپنی یہ نصیحت ہے ان کی جو ساتھ ہیں میرے اور نصیحت ہے

مَنْ قَبْلِي، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ الْحَقُّ فَهُمْ

ان کی جو پہلے تھے مجھ سے بلکہ اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے حق کا پس وہ

مُعْرَضُونَ ۝ ۲۵ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا

اعراض کر نواہے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے کوئی رسول مگر

نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ ۲۶ ۝ وَقَالُوا

ہم وحی کرنے تھے ظن اس کی کہ بات یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے پس عبادت کرو میری اور کہا انہوں نے

اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ ۲۷ ۝

بنایا رحمن نے بیٹا پاک ہے وہ بلکہ (وہ) بندے ہیں معزز

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ ۲۸ ۝

نہیں سبقت کرتے اس سے بات میں اور وہ حکم پر اس کے عمل کرتے ہیں

يَحْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ

وہ جانتا ہے جو آگے ہے اُن کے اور جو پیچھے ہے ان کے اور نہیں وہ سفارش کرتے

إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصُرَ ۝ ۲۹ ۝ وَهُوَ يَشْفِقُونَ ۝ ۳۰ ۝

مگر جس کے لیے وہ راضی ہوا اور وہ ڈرے اس کے ڈرنے والے ہیں اور

مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّمَّنْ دُونِهِ فَذَلِكْ نَجْرِيهِ

جو کہے گا ان میں سے کہ میں خدا ہوں سوائے اس کے پس وہ ایسا ہے کہ جو بدلہ میں دیں گے ہم

جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ ۳۱ ۝ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ

آئے جہنم اسی طرح بدلہ دیں گے ہم ظالموں کو کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں

كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین دونوں تھے بند پس کھولا ہم نے انہیں

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝ ۳۲ ۝ وَأَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ ۳۳ ۝

اور کی ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ کیا پس نہیں ایمان لاویں گے وہ اور

جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۝ ۳۴ ۝ وَجَعَلْنَا

بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ کہ غذا دیں انہیں اور بناٹے ہم نے

فِيهَا فَجَا جَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۲﴾ وَجَعَلْنَا

اس میں چوڑے راستے تاکہ وہ ہدایت پاویں اور بنایا ہم نے

السَّمَاءَ سَفَافًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِمَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾

آسمان کو چھت محفوظ اور وہ نشانات سے اسکے اعراض کرنے والے ہیں

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالنُّجُومَ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُسَبِّحُ

اور وہی ہے جس نے پیدا کی رات اور دن اور سورج اور

الْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ

چاند سب (اپنے اپنے) محور میں تیرنے ہیں اور نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے

مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَأَنْتَ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۳۵﴾

بے پہلے تجھ سے ہمیشگی کیا پس اگر مر گیا تو تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَ

ہر نفس کھنڈنے والا ہے موت اور آزمائیں گے ہم تم کو ساتھ بُرائی اور

الْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا رَأَىٰ

بھلائی کے بطور امتحان کے اور طرف ہماری تم لوٹائے جاؤ گے اور جب دیکھتے ہیں تجھے

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلهًا وَّهَذَا

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں پکڑتے تجھے مگر ہنسی میں کیا ہے

الَّذِي يَذُكُرُكُمْ ۖ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَكُم بِأَسْمَاءِ اللَّهِ

وہ جو ذکر کرتا ہے مجھ سے اور وہ ذکر سے رحمن کے ہی

الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِنَّكَ لَرَءِیٰ

منکر ہیں پیدا کیا گیا انسان جلد باز عنقریب میں دکھاؤنگا تم کو

أَلَدٍ لَّكَ ۚ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ ۖ وَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ

اپنی آیات پس نہ جلدی جاہو مجھ سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہے یہ وعدہ

إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۷﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اگر ہونم سچے کاش جان میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ

جبکہ نہ روک سکیں گے وہ اپنے چہروں سے آگ اور نہ اپنی

ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۱﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً

پیشوں سے اور نہ وہ مدد دینے جائیں گے بلکہ وہ آویگی ان کے پاس اچانک

فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۳۲﴾

پس مبہوت کر دے گی انہیں پس نہ وہ طاقت رکھیں گے ٹوٹانے کی اسکے اور نہ وہ حملت دینے جائیں گے

وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ

اور یقیناً یقیناً ہنسی کی لگتی رسولوں سے پہلے تجھ سے پس گھبرایا ان لوگوں کو جنہوں نے

سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ

ہنسی کی تھی ان میں سے اس (غذاب) نے کہ تھے جس پر وہ ہنسی کرتے تو کہدے

مَنْ يَكَلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ

کون حفاظت کرنا ہے تمہاری رات اور دن کو رحمن سے بلکہ

هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۴﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ

وہ یاد سے اپنے رب کی اعراض کرنے والے ہیں کیا ان کے لیے معبود ہیں

تَمْنَعُهُمْ مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ

جو حفاظت کریں ان کی سوائے ہمارے نہیں طاقت رکھتے وہ مدد کی اپنی جانوں کی

وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۵﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هُوَ لَا وَ

اور نہیں وہ مقابلہ میں ہمارے زناقت کئے جاویں گے بلکہ فائدہ پہنچایا ہم نے ان کو اور

آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ

باپ دادا کو ان کے یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر کیا پس نہیں دیکھتے وہ کہ

أَتَأْتِيَ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ

ہم آتے ہیں زمین کی طرف کم کرتے ہوئے اسے کناروں سے اس کے کیا پس وہ

الْغَلِبُونَ ﴿۳۶﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنزِلَ كُتُبِي بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ

غالب ہونے والے ہیں تو کہدے صرف میں ڈراتا ہوں تم کو ساتھ وحی کے اور نہیں سنتے

الصُّمُّ الدُّعَاءُ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۷﴾ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ

برے پکار کو جبکہ وہ ڈرائے جاویں اور یقیناً اگر چھوٹے ان کو

نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا

بپٹ عذاب کی رب کے تیرے تو ضرور کہیں گے اے افسوس ہم پر یقیناً

كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۸﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ

ہم ہی تھے ظالم اور ہم رکھیں گے ترازو (یعنی) انصاف بروز

الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

قیامت پس نہ ظلم کیا جائیگا کون نفس کچھ بھی اور اگر ہو ہموزن دانہ

مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ

رائی کے لاویں گے ہم اسے اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے اور یقیناً یقیناً

آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا

دیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت نامہ

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴۰﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ

متقیوں کے لیے وہ جو کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ اور

هُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۴۱﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَرِّكٌ

وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں اور یہ نصیحت نامہ برکت والا ہے

أَنْزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا

اُتارا ہے ہم نے اسے کیا پس تم اس کے منکر ہو اور یقیناً یقیناً دی ہم نے

إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿۴۳﴾ إِذْ

ابراہیم کو ہدایت اس کی پہلے سے اور تھے ہم اسے جاننے والے جب

قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي

کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہ کیا ہیں یہ تَمَاتِیل

أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا

تم جن پر قائم ہو انہوں نے کہا پاپا ہمارے باپ دادا کو ان کو

تَمَاتِیل

عِبَادِينَ ﴿۵۴﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي

پوجنے والے اس نے کہا یقیناً یقیناً ہو تم اور باپ دادا تمہارے

صَلِّي مُبِينٍ ﴿۵۵﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ

گمراہی کھلی میں کہا انہوں نے کیا لایا ہے تو ہمارے پاس حق یا تو

الطَّاعِينَ ﴿۵۶﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کیلئے والوں میں سے ہے اس نے کہا بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا

الَّذِي قَطَرَهُمْ أَثْقَالًا وَآتَا عَلَىٰ ذِكْمِهِم مِّنَ الشَّهَادِينَ ﴿۵۷﴾

وہ جس نے پیدا کیا ہے انہیں اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں

وَتَأْتُوا لَآكِيحِدَنَّ أَصْنَاكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولَّوْا

اور قسم ہے اللہ کی ضرور تدبیر کروں گا بتوں کی تمہارے بعد اس کے کہ پھرتے

مُدْبِرِينَ ﴿۵۸﴾ فَجَعَلَهُمْ جَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ

پیٹھ پھرتے ہوئے پس کر دیا اس نے انہیں بکڑے ٹکڑے سوائے بڑے کے ان کے

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۵۹﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا

تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں انہوں نے کہا کس نے کیا یہ

بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۶۰﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى

معبودوں سے ہمارے یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہے انہوں نے کہا سنا تھا ہم نے ایک جوان کو

يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۱﴾ قَالُوا قَاتِلُوْا

ذکر کرتا تھا ان کا کہا جاتا ہے جسے ابراہیم انہوں نے کہا پس لاؤ

بِهِ عَلَىٰ آعِينَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۲﴾ قَالُوا

اسے روبرو لوگوں کے تاکہ وہ دیکھیں انہوں نے کہا

ء أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا إِلَهَنا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۳﴾ قَالَ

کیا تو نے کیا ہے یہ معبودوں سے ہمارے اے ابراہیم؟ اس نے کہا

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوْهُمْ إِنْ كَانُوا

بلکہ کیا ہے اُسے بڑے ان کے اس نے پس پوچھو ان سے اگر ہیں وہ

يَنْطِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمُ

بات کرتے ہیں لوٹے وہ طرف اپنی جانوں کے پس کہا انہوں نے یقیناً تم

أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿۶۴﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ

ہی ظالم ہو پھر اونڈھے کئے کئے اپنے سروں پر یقیناً یقیناً

عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ

جان لیا ہے تو نے کہ نہیں یہ بولا کرتے اس نے کہا کیا پس تم عبادت کرتے ہو

مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾

سوائے اللہ کے جو نہیں نفع دیتا تم کو کچھ بھی اور نہ نقصان دیتا ہے تم کو

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ

تعم ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے کیا پس نہیں

عَقْلُكُمْ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ

عقل کرو گے تم انہوں نے کہا جلا دو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر

كُنْتُمْ فاعِلِينَ ﴿۶۸﴾ قُلْنَا إِنَّا لُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا

ہو تم کرنے والے ہم نے کہا اسے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ہے

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ

ابراہیم پر اور ارادہ کیا انہوں نے ساتھ اس کے ایک تدبیر کا پس کر دیا ہم نے انہیں

الْأَخْسَرِينَ ﴿۶۹﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي

ناکام اور نجات دی ہم نے اسے اور لوط کو طرف اس زمین کے کہ

بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۷۰﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ

برکت دی تھی ہم نے اس میں تمام دنیا کے لیے اور بخشا ہم نے اسے اسحق اور

يَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۷۱﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ

یعقوب پلوتا اور سب کو بنایا ہم نے نیک اور بنایا ہم نے انہیں

أَيْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ

امام ہدایت دیتے تھے ساتھ حکم کے ہمارے اور وحی کی ہم نے طرف ان کی کرنے کی

الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا

نیکیاں اور قائم کرنے کی نماز اور دینے کی زکوٰۃ اور تھے وہ

لَنَا عِبْدِينَ ﴿۴۳﴾ وَلَوْ طَأَّ تَمِينُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ

ہماری عبادت کرنے والے اور لو ط کو دیا ہم نے اسے حکم اور علم اور نجات دی ہم نے

مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۖ إِنَّهُمْ

اسے اس بستی سے کہ تھی کرتی بدیاں یقیناً وہ

كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فُوسِقِينَ ﴿۴۴﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا

تھے لوگ بُرے (اور) فاسق اور داخل کیا ہم نے اسے اپنی رحمت میں

إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۵﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ

یقیناً وہ نیکیوں میں سے تھا اور ہم نے نوح کو جب پکارا اس نے پہلے سے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَانجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ

پس قبول کر لی ہم نے اس کی (دُعا) پس نجات دی ہم نے اُسے اور اس کے گھر والوں کو گھبراہٹ

الْعَظِيمِ ﴿۴۶﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا

بڑی سے اور مدد دی ہم نے اسے بمقابلہ ان لوگوں کے جنہوں نے تکذیب کی

بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَقْنَاهُمْ

آیات کی ہماری یقیناً وہ تھے لوگ بُرے پس غرق کر دیا ہم نے انہیں

أَجْمَعِينَ ﴿۴۷﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ

سب کو اور (ہم نے) داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں فیصلہ کرتے تھے کھیتی کے متعلق

إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ

جبکہ چر گئیں اس میں بکریاں لوگوں کی اور تھے ہم بوقت ان کے حکم کے

شَهِدِينَ ﴿۴۸﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا

موجود پس سمجھادی ہم نے وہ بات سلیمان کو اور سب کو دیا ہم نے حکم

وَعِلْمًا زَوْسَخَرْنَا مَعَهُ دَاوُدَ الْجَبَّالَ يُسَبِّحُنَ وَ

اور علم اور کام میں لگا دیا ہم نے ساتھ داؤد کے پہاڑ کو تسبیح کرتے تھے وہ اور

الطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿۸۰﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ

پرندوں کو اور تھے ہم کرنے والے اور سکھایا ہم نے اُسے بنانا زردہوں کا

لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۱﴾

تمہارے لیے تاکہ بچاؤ میں تم کو جنگ سے تمہاری پس کیا تم شکر کرنے والے ہو

وَسَلِّمْنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهِ إِلَى

اور (ہم نے کام میں لگادی) سیماں کیلئے ہوا تیز چلتی تھی ساتھ اسکے حکم کے طرف

الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۸۲﴾

اس زمین کے کہ برکت دی تھی ہم نے جس میں اور ہیں ہم ہر چیز کو جاننے والے

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا

اور بعض سرکش وہ تھے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے اور کرتے تھے کام

دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿۸۳﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ

سوائے اس کے اور تھے ہم ان کی حفاظت کرنے والے اور (ہم نے ہایت دی) ایوب کو جب اس نے پکارا

رَبِّهِ أَيُّوبُ الْمَسْرُورِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۸۴﴾

اپنے رب کو کہ مجھے پہنچتی ہے تکلیف اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ

پس قبول کر لی ہم نے اس کی (دعا) پس دور کر دی ہم نے جو تھی اسے تکلیف اور دیتے ہم نے اُسے

أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ

گھر والے اس کے اور مانند ان کی ساتھ ان کے رحم سے اپنے پاس سے اور نصیحت کیلئے

لِلْعَابِدِينَ ﴿۸۵﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۚ كُلٌّ

دائے عبادت کرنے والوں کے اور (ہم نے ہایت دی) اسماعیل کو اور ادریس اور ذوالکفل کو سب

مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ

صبر کرنے والوں میں سے تھے اور داخل کیا تھا ہم نے انہیں اپنی رحمت میں یقیناً وہ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۷﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا

نیکیوں میں سے تھے اور مچھلی والے کو جبکہ وہ گیا غصہ ہو کر

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن

پس اس نے خیال کیا کہ ہرگز نہ تنگ کریں گے ہم اس پر پس پکارا اس نے اندھیروں میں

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۸﴾

کہ میں کوئی خدا سوائے تیرے پاک ہے تو یقیناً ہوں میں ظالموں میں سے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي

پس قبول کر لی ہم نے اسکی (دعا) اور نجات دی ہم نے اُسے غم سے اور اسی طرح نجات دیتے ہیں ہم

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۹﴾ وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي

ایمانداروں کو اور ذکر کیا کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے

فَرْدًا وَإِنِّي أَخَافُ الْوَرْثِينَ ﴿۹۰﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَجَّيْنَاهُ

اکیلا اور تو بہتر ہے تمام وارثوں سے پس قبول کر لی ہم نے اسکی (دعا) اور

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَاثِلِينَ ﴿۹۱﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا

عطا کیا ہم نے اسے بیچنی اور درست کر دی ہم نے اس کے لیے بیوی اس کی یقیناً وہ

كَانُوا يُسْرِئُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا

تھے جلدی کرتے نیکیوں میں اور پکارتے ہمیں رغبت

وَرَهْبًا وَكَانُوا آتِنَا خَشْيَةَ ﴿۹۲﴾ وَالَّتِي أَحْصَانَا

اور ڈر سے اور خوف وہ ہم سے ڈرنے والے اور وہ عورت جس نے حفاظت کی

فَرَجَهَا فَتَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَ

شرکاء کی اپنی پس چھوٹی ہم نے اس میں روح اپنی اور بنایا ہم نے اسے اور

ابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۳﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

بیٹے کو اس کے نشان تمام دنیا کے لیے یقیناً یہ امت تمہاری امت

وَإِحْدَةً مِنْ أُمَّةٍ قَدِ انقَضَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ كَثِيرَةٌ

ایک ہے اور میں رب ہوں تمہارا پس عبادت کرو میری اور ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے اپنا معاملہ

بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿۹۴﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ

آپس میں سب طرف ہماری لوٹنے والے ہیں پس جو کرے گا

الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَ

نیکیاں اور وہ ایماندار ہوگا تو نہیں انکار کوشش کا اس کی اور

إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۵۵﴾ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

یقیناً ہم اسے لکھنے والے ہیں اور حرام ہے کسی بستی پر کہ ہلاک کیا ہم نے اسے

أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۵۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا جُوجُ

یقیناً وہ نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ جب کھولے جاویں گے یا جوج

وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۵۷﴾ وَاقْتَرَبَ

اور ما جوج اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے آویں گے اور قریب آجائے گا

الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ

وعدہ سچا پس اچانک بات یہ ہوگی کھلی ہوں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے

كَفَرُوا دِيْوَابٌ مُّتَنَابِقَةٌ كُتَّابِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ

کفر کیا (وہ کہیں گے) لے انہوں ہم پر یقیناً تھے ہم غفلت میں اس سے بلکہ

كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۵۸﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تھے ہم ظالم یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے

حَصْبُ جَهَنَّمَ دَأْنَتْمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿۵۹﴾ لَوْ كَانَ

ایندھن ہیں جہنم کا تم اس پر وارد ہونے والے ہو اگر ہوتے

هُؤُلَاءِ إِلَهَةً مَا وَرَدُوا وَمَاءٌ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۶۰﴾

یہ خدا تو نہ وارد ہوتے اس پر اور سب اس میں رہ پڑنے والے ہیں

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۶۱﴾ إِنَّ

ان کے لیے اس میں چلانا ہوگا اور وہ اس میں نہیں سنیں گے یقیناً

الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا

وہ لوگ کہ پہلے سے ہو چکی جن کے لیے طرف سے ہماری بھلائی یہ لوگ اس سے

مُبْعَدُونَ ﴿۶۲﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا، وَهُمْ فِي مَا

دور رکھے جانے والے ہیں نہ سنیں گے آہٹ اس کی اور وہ اس میں جو

اَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خُلْدًا وَاَنْ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ

چاہیں گے ان کے جی رہ پڑنے والے ہیں نہ گھبراہٹ میں ڈالے گی انہیں گھبراہٹ

الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمْ

سب سے بڑی اور میں گے ان سے فرشتے (یہ کہتے ہوئے کہ) یہ دن ہے تمہارا

الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝۱۱۳ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

جس کا تھے تم وعدہ دیتے جاتے جس دن پھینکیں گے ہم آسمان کو

كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ هٰذَا

مانند پھینکنے طومار کے نوشتوں کو جیسا کہ شروع کی تھی ہم نے پہلی پیدائش دوبارہ کریں گے ہم اسے

وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَعٰلِيْنَ ۝۱۱۵ وَاَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي

وعدہ ہے ہم پر یقیناً ہم کرنے والے ہیں اور یقیناً یقیناً لکھا تھا ہم نے

الزَّبُورِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اِنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

زبور میں بعد تورات کے کہ زمین وارث ہونگے اسکے بندے میرے

الصَّٰلِحُوْنَ ۝۱۱۶ اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ غٰبِيْنَ ۝۱۱۷ وَ

صلاحت والے یقیناً اس میں البتہ تبلیغ ہے واسطے لوگوں عبادت کرنیوالوں کے اور

مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۱۸ قُلْ اِنَّمَا يُوحٰى

نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر رحمت تمام دنیا کے لیے تو کہے صرف وحی کی جاتی ہے

اِلَيَّ اِنَّمَا الْمُكْمَلُ اِلَيْهِ وَاٰجِدُ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۱۱۹

طرف میری کہ صرف معبود تمہارا معبود ہے ایک پس کیا تم فرمانبردار ہو گے

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ وَاِنْ اَدْرِيْ

پھر اگر وہ منہ پھریں تو تو کہے اطلاع دیدی ہے میں نے تم کو یکساں اور نہیں جانتا میں

اَقْرَبُكُمْ اَمْ بَعِيْدُ مَا تُوعَدُونَ ۝۱۲۰ اِنَّهٗ يَعْلَمُ

کیا قریب ہے یا دور ہے جس کا تم وعدہ دیتے جاتے ہو یقیناً وہ جانتا ہے

الْجَهْرَ مِنْ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝۱۲۱ وَاِنْ اَدْرِيْ

ظاہر بات کو اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور نہیں جانتا میں

لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۳﴾ قُلْ رَبِّ

شاید وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانا تا ایک وقت اس نے کہا اے رب میرے

أَحْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ

فیصلہ کر ساتھ حق کے اور رب ہمارا رحمن مدد مانگا جانے والا ہے اس پر

مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۴﴾

جو تم بیان کرتے ہو

تفسیر

سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

اے لوگو ڈرو اپنے رب سے یقیناً زلزلہ قیامت کا

شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿۲﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْمَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

بات ہے بڑی جس دن تم دیکھو گے اُسے بھول جاوے گی ہر دودھ پلانے والی

عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ

اے جسے دودھ پلایا اس نے اور جن دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو اور

تَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَهُمُ بِسُكْرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ

تو دیکھے گا لوگوں کو مست حالانکہ نہ ہوں گے وہ ہرگز مست و لیکن عذاب

اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿۳﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ

اللہ کا سخت ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں بارے میں اللہ کے

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿۴﴾ كُتِبَ

بغیر علم کے اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی لکھا گیا ہے

عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ

اس پر کہ جس نے دوستی کی اس سے تو یقیناً وہ گمراہ کر دیگا اسے اور راہنمائی کرے گا

إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي

اس کی طرف عذاب جلنے کا اے لوگو اگر ہو تم

رَيْبٍ مِّنَ الْبَحْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ

شک میں دوبارہ اٹھنے سے تو یقیناً ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر

مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ

نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کے ٹکڑے سے پیدا شدہ سے

وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ

اور نہ پیدا شدہ سے تاکہ کھول کر بیان کریں ہم تمہارے لیے اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں

مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

جو چاہتے ہیں تا ميعاد مقررہ پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر

ثُمَّ لِيَتَّبِعُوا أَشَدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَ

پھر تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی کو اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو وفات دیتے جاتے ہیں اور

مِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِن

بعض تم میں سے وہ ہیں جو لوٹاٹے جاتے ہیں طرف بدترین عمر کے تاکہ نہ جانے

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا

بعد جاننے کے کچھ بھی اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک پس جب

أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۚ وَأَنْبَتَتْ

اُتارتے ہیں ہم اس پر پانی ہتی ہے اور بڑھتی ہے اور اگاتی ہے

مِن كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيحٍ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

ہر جوڑا پر رونق یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

اور یقیناً وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور یقیناً وہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور

أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ

یقیناً قیامت آنے والی ہے نہیں کوئی شک اس میں اور یقیناً اللہ اٹھائے گا

مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ

انہیں جو قبروں میں ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں بارے میں اللہ کے

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۚ تَارِي

بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے مورثے والا ہے

عَظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَهُ فِي الدُّنْيَا

اپنا پہلو تاکہ گمراہ کرے راہ سے اللہ کی اس کے لیے دُنیا میں

خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ

ذلت ہے اور پکھاویں گے ہم اسے بروز قیامت عذاب جلنے کا

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ

بشعبہ اس کے ہے جو آگے بھیجا دونوں ہاتھوں نے ترے اور یقیناً اللہ نہیں ہے ہرگز ظالم

لِّلْعَبِيدِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ

بندوں کے لیے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارہ میں

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَمَّأَتْ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

بہیں اگر پہنچے اُسے بھلائی مطمئن ہو جاتا ہے اس پر اور اگر پہنچے اُسے

فِتْنَةٌ يَنْقَلِبْ عَلَى وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذَلِكَ

آزمائش لوٹ جاتا ہے اپنے چہرہ کے بل ناکام ہوا دُنیا اور آخرت میں یہ

هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ ۚ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

ہی ناکامی ہے کھلی کھلی پکارتا ہے سوائے اللہ کے اسے جو نہیں

يُضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۗ ذَلِكَ هُوَ الضَّلُّ الْبَعِيدُ ۚ

نقصان پہنچاتا اُسے اور جو نہ نفع دے سکتا ہے اُسے یہ ہی گمراہی دُور کی ہے

يَدْعُوا مَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۗ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ

پکارتا ہے اس کو کہ نقصان جس کا زیادہ قریب ہے نفع سے اس کے البتہ کیا ہی بُرا ہے دوست

وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۱۴ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اور البتہ کیا ہی بڑا ہے ساتھی یقیناً اللہ داخل کریگا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

کیں نیکیاں باغات میں بہتی ہیں نیچے جن کے نہریں

اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۱۵ مَن كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ

یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے جو شخص ہے گمان کرتا کہ ہرگز نہ

يَنْصُرُهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ

مدد دے گا اُسے اللہ دنیا میں اور آخرت میں پس چاہیے کہ وہ لمبی کرے ایک رسی

اِلَى السَّمٰوٰتِ ثُمَّ لِيَقْطَعَنَّ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبُ كَيْدَهُ

طرف آسمان کی پھر چاہیے کہ کاٹ دے پس چاہیے کہ دیکھے کیا بے جاویدگی تدبیر اس کی

مَا يَخِیْظُ ۱۶ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لَّا وَاَنَّ

جو غصہ دلاتا ہے اُسے اور اسی طرح اتاری ہم نے آیات کھلی کھلی اور یقیناً

اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ۱۷ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور

الَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِغِيْنَ وَالتّٰصُرٰى وَالْمَجُوْسَ

وہ جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی اور مجوسی

وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے بروز

الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۸ اَلَمْ تَرَ

قیامت یقیناً اللہ ہر بات پر نگران ہے کیا نہیں دیکھا تو نے

اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

کہ اللہ وہ ہے کہ سجدہ کرتے ہیں اُسے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور

الدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ

جاندار اور بہت سے لوگ اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت ہو گیا ان پر

العَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ

عذاب اور جسے ذلیل کرے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی عزت دینے والا یقیناً

اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ ﴿١٩﴾ هَذَانِ حَصَمِ احْتَصَمُوا

اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا

فِي رَبِّهِمْ ۗ قَالُوا لَئِن كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن

بارے میں اپنے رب کے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاٹ ڈالے گئے ان کے لیے کپڑے

تَارِدٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۗ ﴿٢٠﴾ يُصْهَرُ

آگ کے ڈالا جاوے گا اوپر سروں کے ان کے پانی گرم جلا یا جاوے گا

بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۗ ﴿٢١﴾ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّن

ساتھ اسکے جو پیٹوں میں ہے ان کے اور کھالیں اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں

حَدِيدٍ ۗ ﴿٢٢﴾ كَلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ

لوہے کے جب کبھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس سے کسی غم سے

أَعْيَدُوا فِيهَا ۗ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۗ ﴿٢٣﴾ إِنَّ

لومٹھے جاویں گے اس میں اور دکھا جائیگا جھکو عذاب جلنے کا یقیناً

اللَّهُ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں

جَنَّتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا

باغات میں کہ بہتی ہیں نیچے سے ان کے نہریں پہنائے جاویں گے ان میں

مِنَ آسَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَّوَرَبَاسًا سُمُّ فِيهَا

کڑے سونے کے اور موتی اور لباس ان کا اس میں

حَرِيرٌ ۗ ﴿٢٤﴾ وَهُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَر

ریشم ہوگا اور وہ راہنمائی کئے جاویں گے طرف پاکیزہ بات کے اور

هُدًوَا إِلَىٰ صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿۲۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

رہنمائی کئے جاویں گے طرف راہ تعریفوں والے (خدا) کی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور روکتے ہیں راہ سے اللہ کی اور مسجد الحرام سے

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً بِالْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِي

وہ کہ بنایا ہے ہم نے جسے لوگوں کیلئے برابر ہے مقیم اس میں اور باہر کا

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ

اور جو چاہے گا اس میں بے دینی ظلم سے چکھاویں گے ہم اُسے عذاب

الْإِيمِ ﴿۲۶﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِآبَائِهِم مَّكَانَ الْبَيْتِ

دردناک اور جب مقرر کی ہم نے واسطے ابراہیم کے جگہ کعبہ کی (یہ کہتے ہوئے)

أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

کہ نہ شریک بناؤ ساتھ میرے کسی کو اور پاک رکھو گھر کو میرے واسطے طواف کرنے والوں

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۲۷﴾ وَإِذْ نَفَخْنَا فِي السَّمَاءِ

اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنیوالوں (اور) سجود کرنیوالوں کے اور اعلان کر دے لوگوں میں

بِالْحَبِّ يَا تُورَكَ رَجُلًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ

رُجْ کا وہ آویں تیرے پاس پیدل اور ہر ڈیلے اونٹ پر جو (اونٹ) آئینگے

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿۲۸﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

ہر راستہ دور کے سے تاکہ حاضر ہوں فائدہ میں اپنے اور

يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ

یاد کریں نام اللہ کا دنوں مقررہ میں اس (احسان) پر کہ انہوں نے دئیے انہیں

مِّنْ بَهِيمَةٍ آلَا نِعَامِهِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ

میشی چار پالیوں میں سے پس کھاؤ ان سے اور کھلاؤ بھوکے

الْفَقِيرَ ﴿۲۹﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ

غریب کو پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میں کچیل اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نذریں

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۳۱﴾ ذَلِكُمْ ۚ وَمَنْ يُعْظِمْ

اور چاہیے کہ طواف کریں گھر آزاد کا یہ اور جو تعظیم کرے گا

حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَأَجَلْتُ لَكُمْ

قابل احترام باتوں اللہ کی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے نزدیک رب کے اسکے اور حلال کئے گئے تمہارے لیے

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ

چار پائے سوائے انکے جو پڑھے جاتے ہیں تم پر پس بچو پیدیا سے

الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿۳۲﴾ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ

بتوں کی اور بچو بات جھوٹی سے موحد ہو کر اللہ کے لیے نہ

مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ

شریک کرتے ہوئے ساتھ اسکے اور جو شریک بناوے گا ساتھ اللہ کے تو گویا وہ گرا

السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي

آسمان سے پس اچکتے ہیں اُسے پرندے یا گرا دیتی ہے اُسے ہوا

مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿۳۳﴾ ذَلِكُمْ ۚ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

جگہ دُور میں یہ اور جو تعظیم کریگا نشانیوں کی اللہ کی تو یقیناً یہ

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿۳۴﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ آجَلٍ

تقویٰ سے ہے دلوں کے تمہارے لیے ان (چار پاؤں) میں منافع ہیں تا میعاد

مُقَرَّرَةٍ ثُمَّ مَجَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۳۵﴾ وَكُلِّ

مقررہ پھر حلال ہونے کی جگہ انکی طرف گھر آزاد کے اور واسطے ہر

أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا

امت کے مقرر کی ہم نے قربانی تاکر یاد کریں نام اللہ کا اس پر جو

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ

اس نے دیئے انہیں مولیٰ چار پاؤں میں سے پس معبود تمہارا معبود ایک ہے

فَلَهُ أَشْلَمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۶﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ

سوا اس کے لیے فرمانبردار ہو ، اور بشارت دے عاجزی کرنے والوں کو وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے

اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّيْرِيْنَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَ

اللہ کا ڈر جاتے ہیں دل ان کے اور صبر کرنے والے اس پر جو پہنچے انہیں اور

الْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۗ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَالْبُدَانَ

تاقم کرنے والے نماز اور اس سے جو دیا ہم نے انہیں خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے اونٹ

جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ

بنایا ہم نے انہیں تمہارے لیے نشانیوں میں سے اللہ کی تمہارے لیے ان میں بہتری ہے

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَاِذَا وَجَبَتْ

پس ذکر کرو نام اللہ کا ان پر پاؤں باندھ کر پس جب گرجاویں

جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْفَقِيْرَ ۗ وَالْمُعْتَرَةَ

اپنے پھلوں پر تو کھاؤ ان سے اور کھلاؤ نہ سوال کرنیوالے اور سوال کرنیوالے کو

كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۳۷﴾ لٰكِن يَّتَنَالُ

اسی طرح کام میں لگا دیا ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر کرو ہرگز نہیں پہنچیں گے

اللَّهُ لِحُومِهَا وَاَوْلَادٍ مَّا وُهَا وَلٰكِن يَّتَنَالُهُ التَّقْوٰى

اللہ کو گوشت انکے اور نہ خون ان کے دیکھیں پہنچے گا اُسے تقویٰ

مِنْكُمْ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوْا بِاللَّهِ عَلَى مَا

طرف سے تمہاری اسی طرح کام میں لگایا اس نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر کہ

هٰذِكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۸﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ

ہدایت دی اس نے تمکو اور خوشخبری دے احسان کرنیوالوں کو یقیناً اللہ ممانعت کرتا ہے

عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿۳۹﴾

طرف سے ان لوگوں کی جو ایمان لائے یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا ہر بڑے خیانت کرنیوالے بڑے ناشکرے کو

اِذِْنَ الَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ظلم کئے گئے اور یقیناً اللہ

نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴿۴۰﴾ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

مدد پر ان کی بہت قدرت رکھنے والا ہے وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

مَدَدٍ ۗ

بَغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا دَفَعُ

بغیر حق کے مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے اور اگر نہ دفع کرنا ہوتا

اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ

اللہ کا لوگوں کو بعض کو ان کے ساتھ بعض کے توفیر و گرا دیئے جاتے راہب خانے

وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ

اور گرجے نصاریٰ کے اور گرجے یہود کے اور مسجدیں کہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں نام اللہ کا

كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

بہت اور البتہ ضرور مدد کریگا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اسکی یقیناً اللہ البتہ قوی

عَزِيزٌ ﴿۳۱﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا

عزت والا بنے وہ لوگ کہ اگر طاقت دیں ہم انہیں زمین میں تو قائم کریں

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم دیں مناسب بات کا اور منع کریں

عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَبِاللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۳۲﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

ناپسندیدہ بات سے اور اللہ ہی کیلئے ہے انجام تمام باتوں کا اور اگر وہ جھٹلاویں تجھے

فَقَدْ كَذَّبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿۳۳﴾ وَ

تو یقیناً تکذیب کی پہلے ان سے قوم نوح اور عاد اور ثمود نے اور

قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ لُوطٍ ﴿۳۴﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ

قوم ابراہیم اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے

وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ

اور تکذیب کی گئی موسیٰ کی پس ہمت دی میں نے کافروں کو پھر پڑا میں نے انہیں

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۵﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَ

پس کیسا تھا میرا عذاب پس کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے جنہیں جبکہ

هِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مَعْطَلَةٌ

وہ ظالم تھیں پس وہ گڑی ہوئی تھیں اپنی چھتوں پر اور کونٹیں بے کار

وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿۳۶﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُوا

اور محل پختہ پر کیا پس نہیں چلے وہ زمین میں کہ ہوتے

لَهُمْ قُلُوبٌ يَّعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا

ان کے دل وہ عقل کرتے جن سے یا کان وہ سنتے جن سے

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي

کیونکہ بات یہ ہے کہ نہیں ہوئیں اندھی آنکھیں و لیکن اندھے ہوتے ہیں دل جو کہ

فِي الصُّدُورِ ﴿۳۷﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ

سینوں میں ہیں اور جلد چاہتے ہیں تجھ سے عذاب اور ہرگز نہ خلاف کریگا

اللَّهُ وَعَدَةٌ دَرَجَاتٍ يَوْمَ مَا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ

اللہ اپنے وعدہ کا اور یقیناً ایک دن نزدیک رب کے تیرے مانند ہزار سال کے لیے

مِمَّا تَعْدُونَ ﴿۳۸﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُمْ لَهَا وَ

اس سے جو تم شمار کرتے ہو اور کتنی ہی بستیاں حملت دی میں نے انہیں جبکہ

هِيَ ظَالِمَةٌ لِنَفْسِهَا فَسَاءَ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ

وہ ظالم تھیں پھر پکڑو میں نے ان کو اور طرف میری ٹھکانا ہے تو کہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نَزِيراً مُبِيناً ﴿۴۰﴾ فَأَلَّذِينَ

اے لوگو صرف میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا پس وہ لوگ جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۱﴾

ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیکیاں ان کیلئے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی آیات میں ہماری عاجز کرتے ہوئے یہ لوگ

الْجَحِيمِ ﴿۴۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ

دوزخ والے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے کوئی رسول اور

لَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ

نہ نبی مگر جب وہ آرزو کرتا ہے روک ڈالتا ہے شیطان آرزو میں اسی کی

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ

پھر دور کر دیتا ہے اللہ اُسے جو ڈالتا ہے شیطان پھر محکم کرتا ہے اللہ اپنی آیات

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۳﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً

اور اللہ بہت جاننے والا حکمت والا ہے تاکہ کرے وہ جو ڈالتا ہے شیطان آزمائش

لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

ان لوگوں کے لیے کہ دلوں میں جن کے بیماری اور سخت ہیں دل ان کے

وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۴﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ

اور یقیناً ظالم ضرور مخالفت میں ہیں دور کی اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو

أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ

دیئے گئے علم کو وہ حق ہے طرف سے رب کی تیرے پس وہ ایمان لادیں اس پر

فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْآزِينَ أَمَنُوا

پھر جھک جاویں اس کیلئے دل ان کے اور یقیناً اللہ ضرور بہت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۵﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

طرف راہ سیدھی کی اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ

شک میں طرف سے اسکی بھانٹک کہ آوے انکے پاس قیامت اچانک یا آوے انکے پاس

عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ﴿۵۶﴾ أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ

عذاب دن منحوس کا سلطنت اس دن اللہ کی ہوگی وہ فیصلہ کریگا

بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ

درمیان ان کے پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں باغات میں ہوں گے

النَّعِيمِ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ

نعمتوں والے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی آیات کی ہماری پس یہ لوگ ایسے ہیں کہ

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ

ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنیوالا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی راہ میں

اللَّهُ ثُمَّ قَاتِلُوا أَوْ مَا تَوَالَيْزُ قَتَمَهُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا

اللہ کی پھر قتل کئے گئے یا مر گئے ضرور رزق دیکھا نہیں اللہ رزق اچھا

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ﴿۶۹﴾ لِيُدْخِلَهُمْ مَدِينًا خَلًّا

اور یقیناً اللہ ہاں ضرور وہی بہتر ہے رزق دینے والوں سے ضرور داخل کرے گا انہیں ایسی مدینہ داخل ہونے کی جگہ

يَرْضَوْنَ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۷۰﴾ ذَلِكَ وَمَنْ

میں کو وہ پسند کرے گا اسے اور یقیناً اللہ بہت جاننے والا اور بارگاہی ہے اور جو

عَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْتَهُ

بدلے مانند اس کی کہ تکلیف دی گئی اسے ساتھ اس کے پھر سرکشی کی گئی اس پر البتہ ضرور مدد دیکھا اُسے

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿۷۱﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ

اللہ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ داخل کرتا ہے

الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَإِنَّ اللَّهَ

رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور یقیناً اللہ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۷۲﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَإِنَّ مَا

نوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی سچی ہے اور یقیناً جسے

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

وہ پکارتے ہیں سوائے اس کے وہی باطل ہے اور یقیناً اللہ ہی بہت بلند

الْكَبِيرُ ﴿۷۳﴾ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

(اور) بڑا ہے کیا نہیں دیکھا تو نے یقیناً اللہ نے اتارا بادل سے پانی

فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۷۴﴾ لَهُ

پس ہو جاتی ہے زمین سبز یقیناً اللہ مہربان ہے اور بہت خبر رکھنے والا ہے اسی کا

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ

ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور یقیناً اللہ البتہ وہی بے پروا

الْحَمِيدُ ﴿۷۵﴾ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

خوبیوں والا ہے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے جو زمین میں ہے

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

اور کشتیوں کو بھی جو بہتی ہیں سمندر میں ساتھ حکم کے اس کے اور وہ تھامتا ہے آسمان کو

أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ

گرنے سے زمین پر بغیر حکم کے اس کے یقیناً اللہ ساتھ لوگوں کے

لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۶﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ

البتہبت مہربان بہت رحم کرنیوالا ہے اور وہی ہے جس نے زندہ کیا تم کو پھر

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۶۷﴾

مارے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو یقیناً انسان البتہبت کفر کرنیوالا ہے

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۗ فَلَا يُنَازِعُنَكَ

ہر امت کے لیے بنائی ہم نے قربانی وہ کرتے ہیں اُسے پس نہ جھگڑیں وہ تجھ سے

فِي الْأَمْرِ ۗ وَإِذْ أَوْأَدُّ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶۸﴾

اس معاملہ میں اور بلا طرف اپنے رب کی یقیناً تو البتہ ہدایت سیدھی پر ہے

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۹﴾ ۗ اللَّهُ

اور اگر وہ جھگڑیں تجھ سے تو کہے اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو اللہ

يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ

فیصلہ کریگا درمیان تمہارے بروز قیامت اس میں کہ ہو تم جس میں

تَخْتَلِفُونَ ﴿۷۰﴾ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ

اختلاف کرتے کیا نہیں جانتا تم نے کہ اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے

وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ

اور زمین میں یقیناً یہ کتاب میں ہے یقیناً یہ اللہ پر

يَسِيرٌ ﴿۷۱﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ

آسان ہے اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے اس کی کہ نہیں اتاری اس نے اس کی

سُلْطَانًا ۗ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

کوئی دلیل اور اس کی کہ نہیں انہیں اس کا کوئی علم اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی

نَصِيرٍ ﴿۴۱﴾ وَإِذْ أَتْتَنِي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ

مددگار اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری کھلی کھلی تو پہچانتا ہے

فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ

چہروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ناپسندیدگی کو قریب ہیں کہ حملہ کر دیں

بِالَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُمْ بِشَرِّ

ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر آیات ہماری تو کہہ دے کیا پس آگاہ کروں میں تم کو زیادہ بری بات

مَنْ ذَلِكُمْ وَالنَّارُ وَعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

پر اس سے بھی (وہ) آگ ہے وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا

وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿۴۲﴾ أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا

اور کیا ہی بڑا ہے نکلنا اسے لوگو بیان کی جاتی ہے ایک مثال پس غور سے سنو

لَهُ دَرَاتُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا

اُسے یقیناً وہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے ہرگز نہ پیدا کر سکیں وہ

ذُبَابًا وَلَا يَجْتَمِعُوا لَهُ دَرَاتُ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ

کوئی مکھی اور اگرچہ جمع ہو جاویں وہ سب اس کیلئے اور اگر چھین لے ان سے مکھی

شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ

کچھ تو نہیں چھڑا سکیں گے اُسے اس سے کمزور ہوا طالب

وَالْمَطْلُوبِ ﴿۴۳﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ

اور مطلوب نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق قدر کرنے کی یقیناً اللہ

لَقَوِيَّ عَزِيزًا ﴿۴۴﴾ اللَّهُ يُضْطَرِّفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمَنْ

قوی ہے عزت والا ہے اللہ چنا کرتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور

النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۴۵﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

انسانوں میں سے یقیناً اللہ خوب سنتے والا خوب دیکھنے والا ہے وہ جانتا ہے جو آگے ہے ان کے

وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۴۶﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ

اور جو پیچھے ہے ان کے اور طرف اللہ کی لوٹاٹے جاتے ہیں تمام حالات اسے لوگو جو

أَمَنُوا أَذْكَوًّا وَاشْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی اور کرو

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۱۸﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ

نیکی تاکہ تم کامیاب ہو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں حتیٰ

جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ

جہاد کرنے کا کہ اسی نے چنا تم کو اور نہیں بنایا اس نے تم پر دین میں

مِنْ حَرَجٍ مِّمَّةٍ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِعَكُمْ

کوئی تینگی مذہب باپ تمہارے ابراہیم کا اسی نے نام رکھا تمہارا

الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُونُ الرَّسُولُ

مسلمان پہلے سے اور اس میں تاکہ ہو رسول

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بِ

شہدان تم پر اور تم ہو شہدان لوگوں پر

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ

پس قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور مضبوط چکڑو اللہ کو

هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۱۹﴾

وہ آقا ہے تمہارا پس کیا ہی اچھا ہے آقا اور کیا ہی اچھا ہے مددگار



سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھنا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۲ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہ کہ جو نماز میں اپنی

خَاشِعُونَ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۴ وَ

خشوع کرتے ہیں اور وہ کہ جو لغو سے اعراض کر نوالے ہیں اور

الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ قٰعِلُونَ ۵ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ

وہ کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی

حِفْظُونَ ۶ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

حفاظت کر نوالے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہوئے ہیں دایں ہاتھ ان کے (یعنی

فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْكُوْمِیْنَ ۷ فَمَنْ اَبْتٰغٰی وَّرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

نوندیاں) ہیں یقیناً وہ نہ طاقت کئے جانے والے ہیں پس جس نے چاہا علاوہ اس کے تو وہ لوگ

مُمَّا عٰدُوْنَ ۸ وَالَّذِينَ هُمْ لِامْتِنٰتِهِمْ وَّعٰهْدِهِمْ

ہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی

رَاعُونَ ۹ وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِيْهِمْ رٰحِفِظُونَ ۱۰

رعایت رکھنے والے ہیں اور وہ کہ جو نمازوں پر اپنی حفاظت کرتے ہیں

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُونَ ۱۱ الَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ

یہ لوگ ہی وارث ہونوالے ہیں وہ جو کہ وارث ہوں گے فردوس کے

مِمَّ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۱۲ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ

وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں اور یقیناً یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو

الغیر

وقد افلح

سُلَّةٍ مِّن طِينٍ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

خلائد سے کچھڑ کے پھر بنایا ہم نے اُسے نطفہ ٹھہرنے کی جگہ

مَكِينٍ ﴿۱۴﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

مقبوط میں پھر بنایا ہم نے نطفہ سے خون کا لوتھڑا پھر بنایا ہم نے خون کے لوتھڑے کو

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ

گوشت کا ٹکڑا پھر بنایا ہم نے گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں پھر بنایا ہم نے ہڈیوں کو

لَحْمًا ثُمَّ أَنشأناه خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللهُ أَحْسَنُ

گوشت پھر بنایا ہم نے اسے پیدائش اور (قسم) میں پس برکت والا ہے اللہ جو زیادہ اچھا ہے

الْخَالِقِينَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ إِنَّا كَرَّمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمَيْتُونَ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ

تمام بنانے والوں سے پھر یقیناً تم بعد اس کے البنمرنے والے ہو پھر

إِنَّا كَرَّمْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَعْتُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ

یقیناً تم بروز قیامت اٹھائے جاؤ گے اور یقیناً یقیناً پیدا کئے ہم نے اوپر تمہارے

سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۸﴾ وَأَنْزَلْنَا

سات راستے اور نہیں ہم مخلوق سے غافل اور اُنارا ہم نے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَّقْدِرُ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ مَدَائِنًا

بادل سے پانی اندازہ سے پس رکھا ہم نے اسے زمین میں اور یقیناً

عَلَى ذَمَائِبٍ بِهِ لَقَدِرُونَ ﴿۱۹﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ

ہم نے جلنے پر اس کے ضرور قادر ہیں پس پیدا کئے ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس کے باغات

مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحٍ كَثِيرَةٌ وَ مِنهَا

کھجوروں اور انگوروں کے تمہارے لیے ان میں میوے ہیں بہت اور انہیں

تَأْكُلُونَ ﴿۲۰﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ

تم کھاتے ہو اور (اگایا) ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے اگتا ہے

بِالَّذِي هُنَّ وَصَبِغٍ لِّلْأَعْلِينَ ﴿۲۱﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ

ساتھ چکنائی اور لازمہ سے کھانپوں کے لیے اور یقیناً تمہارے لیے چارپالوں میں

وقد افلاح

لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

البتہ عبرت ہے ہم پلاتے ہیں تم کو وہ جو بیٹوں میں ہے ان کے اور تمہارے لیے ان میں منافع ہیں

كَثِيرَةً وَمِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۲۲﴾ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۲۳﴾

بہت اور بعض ان سے تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کئے جاتے ہو

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے نوح کو طرف اسکی قوم کے پس کہا اس نے اے قوم میری عبادت کرو اللہ کی

مَا لَكُمْ مِّنْ آلِهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۴﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ

نہیں تمہارے لیے کوئی خدا سوائے اس کے کیا پس تم نہیں تقویٰ کرتے پس کہا سرداروں نے

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا قوم میں سے اس کی نہیں یہ مگر انسان مانند تمہاری

يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَيْكُمْ وَكُوشًا ۗ وَاللَّهُ لَا نَزَلَ مَلَائِكَةً

یہ چاہتا ہے کہ فقیلت حاصل کرے تم پر اور اگر چاہتا اللہ البتہ اتارتا فرشتے

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ

نہیں سنی ہم نے یہ بات اپنے باپ دادا پہلوں سے نہیں یہ مگر ایسا آدمی کہ

بِهِ جَنَّةٌ فَرَّ بَصُورِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۲۶﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي

اسے جنوں ہے پس تم انتظار کرو ساتھ اس کے کچھ وقت تک اس نے کہا اے رب میرے مدد کر میری

بِمَا كَذَّبْتُونِ ﴿۲۷﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

ایسے کہ گدزیب کی انہوں نے میری پس وحی کی ہم نے طرف اس کی یہ کہ بنا کشتی سامنے آنکھوں کے ہماری اور

وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۗ فَاسْلُكْ فِيهَا

(ساتھ) وحی کے ہماری پس جب آئے حکم ہمارا اور جوش مارے تندور تو داخل کر اس میں

مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ

ہر چیز سے جوڑے کے دونوں اور گھروالوں کو اپنے سوائے اس کے کہ گذر چکی اس پر

الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ

بات ان میں سے اور نہ مخاطب ہو مجھ سے بارے میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا یقیناً وہ

مُعْرَقُونَ ﴿۲۸﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ

عرق کئے جانوالے ہیں پس جب ٹھیک بیٹھ جاوے تو اور جو ساتھ ہیں تیرے کشتی پر

فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّسَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾

پس تو کہدے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نجات دی ہمیں لوگوں ظالموں سے

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۳۰﴾

اور تو کہدے اے رب میرے اتار مجھے اُترنے کی جگہ مبارک پر اور تو بہتر ہے تمام اتارنے والوں سے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۳۱﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ

یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں اور یقیناً ہم ہیں البتہ امتحان لینے والے پھر پیدا کئے ہم نے

بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

بعد ان کے لوگ اور پس بھیجا ہم نے ان میں رسول ان میں سے

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۳﴾

کو عبادت کرو اللہ کی نہیں تمہارے لیے کوئی خدا سوائے اس کے کیا پس نہیں تم تقویٰ کرو گے

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور کہا سرداروں نے قوم میں سے اس کی وہ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا اور تکذیب کی تھی ملنے کی

الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لَمَّا هَدَّيْنَا

آخرت کو اور آسودگی دی تھی ہم نے انکو زندگی دہلی میں نہیں یہ مگر

بَشَرًا مِثْلَكُمْ ۖ لَا يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا

انسان مانند تمہاری کھاتا ہے اس سے کہ تم کھاؤ جس سے اور پیتا ہے جس سے

تَشْرَبُونَ ﴿۳۴﴾ وَلَئِن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِذًا

تم پیتے ہو اور ضرور اگر اطاعت کی تم نے ایک انسان کی مانند اپنی یقیناً تم تب تو

لَخَسِرُونَ ﴿۳۵﴾ أَلَيْسَ لَكُمْ وَعْدُ كَذَّبْتُمْ ۖ فَتَسْتَرْفِتُونَ ۗ لَمَّا

البتہ گھانا پانیوالے ہو گے کیا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ تم جب مرو گے اور ہو جاؤ گے مٹی

وَعِظَامًا ۖ إِنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ﴿۳۶﴾ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا

اور ہڈیاں یقیناً تم نکالے جانے والے ہو دور ہے دور ہے وہ کہ جس کا

۲

تُوَعَدُونَ ﴿۳۶﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاةُنَا اَلدُّنْيَا نَمُوتُ وَ

تم وعدہ کئے جاتے ہو نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری اور تم مرتے ہیں اور

نَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۷﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِاَفْتَرَىٰ

زندہ ہوتے ہیں اور نہیں ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی گھڑیا ہے اس نے

عَلَىٰ اَللّٰهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبِّ

اللہ پر جھوٹ اور نہیں ہیں ہم اس کو ہرگز ماننے والے اس نے کہا اے رب

اِنصُرْنِي بِمَا كَذَبْتَنِي ﴿۳۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصِحَّ

برے مدد کر میری اس لیے کہ تم کذب کی انہوں نے میری فرمایا تھوڑی دیر کو ضرور ضرور ہو جاؤں گے وہ

نِدْمِيْنَ ﴿۴۰﴾ فَآخَذَتْهُمْ الصَّبِيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ

پشیمان پس پکڑا انہیں عذاب نے ساتھ حق کے پس کر دیا ہم نے انہیں

غُتَّاءَ ۗ فَبُعْدَ اِلِّقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۴۱﴾ ثُمَّ اَنشَاْنَا مِنْ

کوڑا کرکٹ پس ہلاکت ہو لوگوں ظلم کرنے والوں کے لیے پھر پیدا کی ہم نے

بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿۴۲﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلًا

بعد ان کے قریب اور نہیں آگے بڑھتی کوئی امت اپنی میعاد سے

وَمَا يَسْتَاخِرُوْنَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۗ كُلَّمَا

اور نہ وہ پیچھے ہونے ہیں پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پلے درپلے جب کبھی

جَاءَ اُمَّةٌ رَّسُوْلَهَا كَذَّبُوْهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ

آیا کسی امت کے پاس رسول اس کا تمکذب کی انہوں نے اس کی پس پیچھے کیا ہم نے بعض کو ان میں سے

بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ اٰحَادِيْثًا ۗ فَبُعْدَ اِلِّقَوْمِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۴۴﴾

بعض کے اور کر دیا ہم نے انہیں باتیں پس ہلاکت ہو واسطے لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاٰخَاهُ هٰرُوْنَ ؕ هَا بَايْتُنَا وَسُلْطٰنِ

پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور بھائی اس کے ہارون کو ساتھ اپنی آیات کے اور غلبہ

مُبِيْنٍ ﴿۴۵﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَاِئِمَّتِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا

کھلکھلے کے طرف فرعون کی اور سرداروں کے اسکی پس تکبر کیا انہوں نے اور تھے وہ

قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۶﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلِنَا

لوگ سرکش ہیں کہا انہوں نے کیا ہم ایمان لادیں دو انسانوں پر مانند ہمارے

وَقَوْمُهُمَّا لَنَا عَبْدُونَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ

اور قوم (کے لوگ) ان کی ہمارے غلام ہیں پس جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو پس ہو گئے

الْمُكَلِّينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُ

ہلاک کئے ہوؤں میں سے اور یقیناً یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ

يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا

ہدایت پاویں اور بنایا ہم نے ابن مریم اور ماں کو اس کی نشان اور پناہ دی ہم نے ان دونوں

إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ

کو طرف ایک نیلے ٹھہرنے والے اور چشمہ والے کے اے رسولو

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو نیک یقیناً میں اُسے جو تم کرتے ہو

عَلِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا

خوب جاننے والا ہوں اور یقیناً یہ امت تمہاری امت ایک ہے اور میں

رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۴۲﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا

رب ہوں تمہارا پس ڈرو مجھ سے پس کاٹ دیا انہوں نے معاملہ اپنا آپس میں جماعتیں بنکر

كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۴۳﴾ فَذَرَهُمْ فِي

ہر جماعت (کے لوگ) اس پر جو پاس ان کے ہے خوش ہیں پس چھوڑ انہیں

عَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۴﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ

غفلت میں ان کی ایک وقت تک کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ چیز کہ ہم مدد کرتے ہیں انہی ساتھ

مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۗ ﴿۴۵﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا

جسکے یعنی مال اور بیٹے ہم جلدی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں (دیں) بلکہ نہیں

يَشْعُرُونَ ﴿۴۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

سمجھتے وہ یقیناً وہ لوگ کہ جو ہیبت سے اپنے رب کی

مُشْفِقُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾

ڈرنے والے ہیں اور وہ لوگ کہ جو آیات پر اپنے رب کی ایمان لاتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۶۰﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ

اور وہ لوگ کہ جو ساتھ اپنے رب کے نہیں شریک بناتے اور وہ لوگ کہ جو کرتے ہیں

مَا اتَّوُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَتَّهُمْ لِي رَبِّهِمْ رَجْعُونَ ﴿۶۱﴾

جو (کام) وہ کرتے ہیں ایسے حال میں کہ دل انکے ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ طرف اپنے رب کی لوٹنے والے ہیں

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۲﴾

یہ لوگ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں اور وہ ان میں سبقت لے جاتے ہیں

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وَّلَا وُسْعًا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ

اور نہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہم کسی نفس کو مگر مطابق طاقت کے اسکی اور پاس ہمارے کتاب ہے جو بولتی ہے

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ

ساتھ حق کے اور وہ نہ ظلم کئے جاویں گے بلکہ دل ان کے غفلت میں ہیں

هَذَا وَاُولَٰئِكَ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴿۶۴﴾

اس سے اور ان کے لیے کام ہیں خلافت اس کے کہ وہ لوگ جن (اعمال) کو کر رہے ہیں

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿۶۵﴾

یہاں تک کہ جب پکڑا ہم نے ان کے مالداروں کو ساتھ عذاب کے اچانک وہ چلاتے ہیں

لَا تَجْرُوا وَالْيَوْمَ هَدَانِكُمْ مِّنَّا لَا تَنْصَرُونَ ﴿۶۶﴾ قَدْ كَانَتْ

نہ چلاؤ آج یقیناً تم مقابل میں ہمارے نہ مدد دینے جاؤ گے یقیناً تمہیں

آيَاتِي تُثَلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ﴿۶۷﴾

آیات میری پڑھی جاتیں تم پر پس تھے تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے

مُسْتَكْبِرِينَ ﴿۶۸﴾ قَبِيحٌ سِيمًا تَهْجُرُونَ ﴿۶۹﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا

تکبر کرتے ہوئے ساتھ اس کے قصہ کوئی کہتے ہوئے یہودہ کہتے تھے کیا پھر نہیں تدبیر کیا انہوں نے

الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۷۰﴾ أَمْ

بات میں یا آیا ہے ان کے پاس جو نہیں آیا باپ دادا ان کے پہلوں کے پاس کیا

لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵۰﴾ أَمْ يَقُولُونَ

نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو بس وہ اس کا انکار کر نیوالے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ

بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَآكْثَرُ هُمْ لِلْحَقِّ

اسے جنون ہے (بہیں) بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق اور اکثر ان میں سے حق کو

كٰرِهُونَ ﴿۵۱﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

ناپسند کر نیوالے ہیں اور اگر پیروی کرتا خدا ان کی خواہشات کی ضرور بگڑ جاوین

السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ

آسمان اور زمین اور وہ جو ان میں ہے بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس نصیحت انہی

فَلَمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۵۲﴾ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا

پس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں کیا مانگتا ہے تو ان سے اجرت

فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرًا ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَاِنَّكَ

پس اجرت رب کی تیرے بہتر ہے اور وہ بہتر ہے تمام رزق دینے والوں سے اور یقیناً تو

لَتَدْعُوهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا

البتہ بلاتا ہے انہیں طرف راہ سیدھی کے اور یقیناً وہ لوگ جو نہیں

يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا كٰبِرُونَ ﴿۵۵﴾ وَلَوْ

ایمان لاتے آخرت پر راہ سے البتہ ہٹنے والے ہیں اور اگر

رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَابِ طَغِيٰنِهِمْ

رحم کریں ہم ان پر اور دور کر دیں جو ان پر ہے یعنی تکلیف ضرور گئے رہیں اپنی سرکشی میں

يَعْمَمُونَ ﴿۵۶﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنَا مِنْهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكْبَرُوْا

بھیٹتے ہوئے اور یقیناً یقیناً پڑا ہم نے انہیں ساتھ عذاب کے پس نہ گرد گرائے وہ

لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۵۷﴾ حَتّٰى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ

اپنے رب کیلئے اور نہ وہ عاجزی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب کھولا ہم نے ان پر

بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿۵۸﴾ وَهُوَ

دروازہ عذاب کا سخت اچانک وہ اس میں ناامید ہونے والے ہیں اور وہی ہے

بج

بج

الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ

جس نے بناشے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

کم ہی تم شکر کرتے ہو اور وہی ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں

وَأَلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴿۹۰﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ

اور طرف اسکی تم اٹھنے کئے جاؤ گے اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسکی

اِخْتِلَافُ الْيَبِلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۹۱﴾ بَدَّ قَالُوا

یہ ہے آگے پیچھے آنا رات اور دن کا کیا پس نہیں تم عقل کرو گے (نہیں) بلکہ کہا انہوں نے

مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۹۲﴾ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

ماند اسکی جو کہا پہلوں نے انہوں نے کہا تھا کیا جب مر جاویں گے ہم اور ہو جاویں گے مٹی

وَعِظًا مَّاءٍ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۹۳﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَ

اور بڑیاں کیا یقیناً ہم اٹھائے جانے والے ہیں یقیناً یقیناً وعدہ کئے گئے ہم اور

أَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۹۴﴾

باپ دادا ہمارے اس کا پہلے سے نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی

قُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾

تو کہدے کس کی ہے زمین اور وہ جو اس میں ہے اگر ہو تم جانتے

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۹۶﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ

مزدورہ کہیں گے اللہ کی ہے تو کہہ کیا پھر نہیں نصیحت پڑو گے تم تو کہدے کون ہے رب آسمانوں

السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۹۷﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ قُلْ أَفَلَا

سات کا اور رب عرش بڑے کا مزدورہ کہیں گے اللہ کے ہیں تو کہہ کیا پھر نہیں

تَتَّقُونَ ﴿۹۸﴾ قُلْ مَنْ مَلَائِكَةُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ يُجِيرُ

تقویٰ کرو گے تم تو کہدے کون ہے کہ ہاتھ میں اسکے حکومت ہے ہر چیز کی اور وہ پناہ دیتا ہے

وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۹﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۗ قُلْ

اور نہیں پناہ دی جاتی خلاف اس کے اگر ہو تم جانتے مزدورہ کہیں گے اللہ کی ہے تو کہہ

فَإِن تَسْحَرُونَ ۙ **۹۱** بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۙ **۹۱**

پھر کس طرح جادو کئے جاتے ہو بلکہ لائے ہوا ان کے پاس حق اور یقیناً وہ البتہ جھوٹے ہیں

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا

نہیں بنایا اللہ نے کوئی بیٹا اور نہ ہے ساتھ اس کے کوئی خدا تب تو

لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

ضرورے جاتا ہر خدا اسے جو پیدا کیا اس نے اور البتہ غالب آجاتا بعض ان کا بعض پر

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۙ **۹۲** عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا

فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۙ **۹۳** قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُنِي

پس بلند ہے اس سے جسے وہ شریک بتاتے ہیں تو کہہ دے اے رب میرے اگر تو دکھا دے مجھے جہاں وعدہ کئے جاتے ہیں

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۙ **۹۵** وَإِنَّا عَلَىٰ

اے رب میرے تو نہ بنا تیو مجھے لوگوں ظالموں میں سے اور یقیناً ہم اس پر کہ

تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدَرُونَ ۙ **۹۶** وَإِذْ قَعَبْنَا بِتِي هِي

دکھائیں تھے جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے البتہ قادر ہیں دُور کرنا تھا اس کے جو

أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۙ **۹۷** نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۙ **۹۷** وَقُلْ رَبِّ

زیادہ بہتر ہو بدی کو ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ بیان کرتے ہیں اور تو کہہ دے اے رب

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ۙ **۹۸** وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ

میرے پناہ مانگتا ہوں تیری وسوسوں سے شیطانوں کے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری اے رب میرے

يَحْضُرُونَ ۙ **۹۹** لَحْشَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

اس سے کہ وہ آویں میرے پاس یہاں تک کہ جب آتی ہے کسی کو ان میں سے موت کہتا ہے اے رب میرے

ارْجِعُونِ ۙ **۱۰۰** لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلِمًا إِنَّهَا

واپس بھیج دے مجھے تاکہ میں کروں نیکی اس جگہ کہ چھوڑ آیا ہوں میں ہرگز نہیں یقیناً یہ

كَلِمَةٌ مَوْقَاتٌ لِّمَاءٍ ۙ **۱۰۱** وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ بِرُزْخٍ إِلَىٰ يَوْمِ

ایک بات ہے کہ وہ کہنے والا ہے جسے اور پیچھے ان کے روک ہے تا اس دن کہ

يُبْعَثُونَ ۱۱۱ فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

وہ اٹھائے جائیں گے پس جب بجایا جاوے گا بگل پس نہ رشتہ داریاں ہوں گی آپس میں ان کے

يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۱۱۲ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے پھر جو شخص کو بوجھل ہونے نول انکے ذکیب (مٹل کے)

فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۱۱۳ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں اور جو شخص کھلے ہوئے نول ان کے

فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۱۱۴

تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے گھائے میں ڈالا اپنی جانوں کو جنم میں رہ پڑنے والے ہیں

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۱۱۵ أَلَمْ تَكُنْ

جھلس دجھی چروں کو ان کے آگ اور وہ اس میں سکرے ہوئے ہونگے کیا نہ تھیں

أَيَّتِي تُتَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ۱۱۶ قَالُوا

آیات میری بڑھی جاتیں تم پر پس تھے تم ان کی تکذیب کرتے انہوں نے کہا

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۱۱۷

اے رب ہمارے غالب آگئی ہم پر بد بختی ہماری اور ہوشے ہم لوگ گمراہ

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۱۱۸ قَالَ

اے رب ہمارے نکال، ہمیں اس سے پس اگر پھر کریں گے ہم تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے فرمایا

أَخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ۱۱۹ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ

دور ہو جاؤ اس میں اور نہ بات کرو مجھ سے یقیناً یہ بات ہے ایک گروہ کی

عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ

بندوں میں سے میرے وہ کہتے تھے اے رب ہمارے ایمان لائے ہمیں بخش ہمیں اور رحم کر ہم پر اور تو بہتر ہے

خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۱۲۰ فَاتَّخَذَتْهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم

تمام رحم کرنیوالوں میں سے پس بنا لیا تھا تم نے انہیں ہنسی یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دی تھیں

ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۱۲۱ إِنِّي جَزَيْتُمُ

یاد میری اور تھے تم ان سے ہنسی کرتے یقیناً میں نے بدلہ دیا انہیں

الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۗ إِنَّهُمْ لَافْقَارُونَ ﴿۱۱۳﴾ قَدْ كُفِّرْنَا

آج اس کا جو صبر کرتے تھے کردہ ہی کامیاب ہیں فرمایا کہ

لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَّةَ سِنِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا

ٹھہرے تم زمین میں گنتی سالوں کی انہوں نے کہا ٹھہرے ہم ایک دن

أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ قَدْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا

یا حصہ دن کا پس بوجھ شمار کر نیوالوں سے فرمایا نہیں ٹھہرے تم مگر

قَلِيلًا لَّوْ أَن تَكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۶﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا

تھوڑا کاش تم ہوتے جانتے کیا پس گمان کیا تھا تم نے کہ

خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمُ الْيُنَا لَا تُرْجِعُونَ ﴿۱۱۷﴾ فَتَعَلَىٰ

پیدا کیا ہے تم کو بے فائدہ اور یہ کہ تم طرف ہماری نہیں لوٹاے جاؤ گے پس بلند ہے اللہ

الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۱۸﴾

بادشاہ سچا نہیں خدا سوائے اُس کے رب ہے عرش معزز کا

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۗ

اور جو پکارے گا ساتھ اللہ کے معبود دوسرا کہ نہیں کوئی دلیل واسطے اس کے

فَأِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۱۹﴾

تو سوائے اُس کے نہیں کہ حساب اس کا پاس رب کے ہو گا اُس کے یقیناً بات یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے کافر

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۲۰﴾

اور تو کہہ اے رب میرے بخش اور رحم کر اور تو بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں سے



۱۲۰

سُورَةُ التُّورِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور) رحیم ہے

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ

یہ ایک سورہ ہے اتارا ہے ہم نے اسے اور فرض کیا ہے ہم نے اسے اور اتاریں ہم نے اس میں آیتیں

بَيَّنَّتْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۲ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

تکلی تکلی تاکہ تم نصیحت پکڑو زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا

فَأَجْلِدُ وَاوَّلَ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا

پس مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے سو کوڑے اور نہ

تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

پکڑے تم کو حق میں ان کے نرمی قانون میں اللہ کے اگر ہو تم ایمان لاتے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ

اللہ پر اور روز آخر پر اور چاہیے کہ موجود ہو سزا کے وقت ان کے ایک گروہ

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۳ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

مومنوں کا زنا کرنے والا نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی یا

مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحَرَّمَ

مشک عورت سے اور زنا کرنے والی نہیں نکاح کرتا اس سے مگر زنا کرنے والا یا مشرک اور حرام نکاح

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۴ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

ہے یہ مومنوں پر اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاکدامن عورتوں پر

ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَوْ هُمُ ثَمَنِينَ

پھر نہیں لاتے چار گواہ تو مارو ان کو اسی

جَلَدَةٌ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ

کوڑے اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی اور یہ لوگ ہی

الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

فاسق ہیں مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی بعد اس کے اور اصلاح کر لی

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَ

تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ لوگ جو تمہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور

لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

نہیں ہیں ان کیلئے گواہ سوائے اپنے آپ کے پس گواہی ایک کی ان میں سے

أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ لِأَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۚ وَالْخَامِسَةُ

چار بار گواہیاں ہیں ساتھ قسم کے اللہ کی کہ وہ ضرور سچوں میں سے ہے اور پانچویں

أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۗ وَيَدْرَأُ

یہ کہ لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے اور دور کر دیا

عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ لِأَنَّهُ

اس عورت سے سزا کو یہ کہ وہ گواہی دے چار گواہیاں ساتھ قسم کے اللہ کی کہ وہ مرد

لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۙ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ

ضرور جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں یہ کہ غضب ہو اللہ کا اس عورت پر اگر

كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

ہے وہ مرد سچوں میں سے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی

وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ

اور یہ کہ اللہ بہت نفل سے متوجہ ہوتا ہوا حکمت والا ہے یقیناً وہ لوگ جو لائے بہتان

عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ

ایک جماعت ہے تم میں سے نہ سمجھو اسے بُرا اپنے لیے بلکہ وہ بہتر ہے

لَكُمْ رِكْلٌ مِمَّنْ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَنْثَىٰ وَلَا

تمہارے لیے ہر شخص کے لیے ان میں سے وہ ہے جو کھایا اس نے گناہ سے اور

الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا إِذْ

وہ جو متولی ہوا بڑے حصہ کا اسکے ان میں سے اس کیلئے عذاب ہے بڑا کیوں نہ جب

سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ

سنا تھا تھے اُسے گمان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے متعلق اپنے لوگوں کے (گمان)

خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ ﴿۱۳﴾ لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ

اچھا اور کیوں نہ کہا انہوں نے یہ بہتان ہے کھلا کھلا کیوں نہیں وہ لائے اس پر

بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ، فَاذْلَمُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ

چار گواہ پس جبکہ نہیں لائے وہ گواہ تو یہی لوگ

عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۱۴﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

نزدیک اللہ کے ہیں جھوٹے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور

رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ

رحمت اس کی دُنیا اور آخرت میں ضرور پہنچتا تم کو اس میں کہ بڑے تم جس میں

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِ كُمْ وَتَقُولُونَ

عذاب بڑا جب تم لیتے تھے اُسے زبانوں پر اور کہتے تھے تم

بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا يَه

مومنوں سے اپنے وہ کہ نہ تھا تمہیں جس کا کوئی علم اور تم گمان کرتے تھے اُسے معمول بات

وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا

حالانکہ وہ نزدیک اللہ کے بڑی بات ہے اور کیوں نہ جب سنا تم نے اسے کہا تم نے نہیں ہے

يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكِلَ بِهَذَا نَصِيبِكُمْ هَذَا بُهْتَانٌ

ہمارے لیے کہ بولیں ہم یہ بات پاک ہے تو یہ بہتان ہے

عَظِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ

بڑا نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ کہ پھر نہ کرو مانند اس کے کبھی بھی اگر ہو تم

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۹﴾

مومن اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ

یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو

أَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ

ایمان لائے ان کیلئے عذاب ہے دردناک دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

جاتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی

وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۙ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا

اور یقیناً اللہ بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہونے پیروی کرو

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ

قدموں کی شیطان کے اور جو پیروی کریگا قدموں کی شیطان کے تو یقیناً وہ

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

حکم دیتا ہے بے حیائی اور ناپسندیدہ بات کا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور

رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي

رحمت اس کی نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی دیکھیں اللہ پاک کرتا ہے

مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ

جسے چاہتا ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور نہ قسم کھاویں بزرگی والے

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ

تم میں سے اور وسعت والے کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں اور مسکینوں اور

الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَيَعْفُوا وَيَلِيغُوا ۗ أَلَيْسَ فَحْشًا وَلَا

ہجرت کرنے والوں کو راہ میں اللہ کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا نہیں

تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ إِنَّ

تم پسند کرتے کہ بخشے اللہ تم کو اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے یقیناً

الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِحُنُوقِ

وہ لوگ جو نشان لگاتے ہیں پاکدامن بے خبر مومن عورتوں پر وہ لغت کئے گئے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ

دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا جس دن گواہی دیں گے

عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيُّدِيهِمْ وَأَجْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾

خلاف ان کے زبانیں ان کی اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے اس کی جوتھے وہ عمل کرتے

يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ

اس دن پلوری پلوری دیکھا انہیں اللہ جزاء ان کی سچی اور جان لیں گے کہ اللہ

هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ

ہی حق ہے کھلا کھلا گندگیاں واسطے گندوں کے اور گندے

لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ

واسطے گندگیوں کے اور پاکیزہ باتیں واسطے پاکوں کے ہیں اور پاکیزہ لوگ واسطے پاکیزہ بانوں کے ہیں

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ

یہ لوگ بڑی ہیں اس سے جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق

كَرِيمٌ ﴿۲۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

باعزت اسے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ داخل ہو گھروں میں سوائے

بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا ۖ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ

اپنے گھروں کے یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کرو رہنے والوں پر اس کے

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا

بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو پس اگر نہ پاؤ اس میں

أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ

کسی کو تو نہ داخل ہو اس میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں اور اگر کہا جائے تمہیں کہ

ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَذْكَىٰ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ یہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو

عَلَيْكُمْ ﴿۲۸﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

نوب جاننے والا ہے نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ داخل ہو تم گھروں بے

مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

آباد ہیں جن میں سامان ہے تمہارا اور اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو تم

وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

اور جو چھپاتے ہو تم تو کہدے مومن مردوں کو کہ سنبھی رکھیں اپنی آنکھیں

وَيَحْفَظُوا أَفْرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَّهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی یہ ہے بہت پاکیزہ ان کے لیے یقیناً اللہ بہت خبر رکھنے والا ہے اکی

يَصْنَعُونَ ۚ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ

جو وہ کرتے ہیں اور تو کہدے مومن عورتوں کو کہ سنبھی رکھیں اپنی آنکھیں اور

يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی مگر جو ظاہر ہواں سے

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

اور چاہیے کہ ڈالیں اوڑھنیاں اپنی اپنے گریبانوں پر اور نہ ظاہر کریں زینت اپنی

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

مگر اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے باپ دادا کیلئے یا باپوں اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے

أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

یا بیٹوں اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کیلئے یا اپنے بھانجوں کے لیے یا

بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ

اپنے بھتیجیوں کے لیے یا اپنی عورتوں کے لیے یا ان کیلئے کہ مالک ہوئے (بٹکے) دائیں ہاتھ ان کے یا

التَّكَاثُرِ ۚ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْوَالِدِ

ساتھ رہنے والوں کیلئے جو نہیں حاجت والے مردوں میں سے یا بچوں میں سے

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يُضْرَبْنَ

وہ جو کہ نہیں آگاہ ہوئے پوشیدہ باتوں پر عورتوں کی اور نہ ماریں

بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ وَتُوبُوا إِلَىٰ

اپنے پاؤں (زمین پر) تاکہ جانی جاوے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت سے اور توبہ کرو طرف

اللَّهُ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۲﴾ وَأَنْكِحُوا

اللہ کی سب کے سب اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو اور نکاح کر دو

الْأَيَّامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

بیواؤں کا اپنے میں سے اور نیکوں کا اپنے غلاموں میں سے اور اپنی لونڈیوں میں سے

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

اگر وہ ہوں گے غریب غنی کر دیگا انہیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ وسعت والا

عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ وَلَيْسَتَعْتَوِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ

خوب جتنے والا ہے اور چاہیے کہ پاکدامن رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح یہاں تک کہ

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ

غنی کر دے انہیں اللہ اپنے فضل سے اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کتاب

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاكْتَبُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

ان میں سے کہ مالک ہوئے (بچے) دائیں ہاتھ تمہارے تو مکتوبت کر دو ان سے اگر جانو تم ان میں

خَيْرًا ۖ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا

بمطلاتی اور دو ان کو مال میں سے اللہ کے وہ جو اس نے دیا تم کو اور نہ

تُكْرَهُمْ وَافْتَبَيْتُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَ ۗ لَتَبْتَغُوا

مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بیکاری پر اگر وہ چاہیں پاکدامنی تاکہ طلب کرو تم

عِزًّا ۗ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرَمَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ

سازان زندگی داری کا اور جو مجبور کرے گا انہیں تو یقیناً اللہ

بَعْدَ إِكْرَامِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ

بعد مجبوری کے ان کی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنیوالا ہے اور یقیناً یقیناً آہری ہم نے تمہاری آیات

مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنْ خَلَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً

کھول کر بیان کرنیوالی اور حالت ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں پہلے تم سے اور نصیحت

لِلْمُتَّقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مِثْلُ نُورِ

واسطے متقیوں کے اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا مثال نور کی اس کے

۳۲

كَمْشَكُوۡةٍ فِیۡهَا مُصۡبَاۡرٌ ۭ وَالْمُصۡبَاۡرُ فِیۡ رُجَاۡجٍ ۭ وَالرُّجَاۡجُ

ماندھاق کے ہے جس میں ایک چراغ ہو وہ چراغ شیشہ میں ہو وہ شیشہ ایسا ہے

كَأَنۡهَا كَوۡكَبٌ دُرِّیُّ یُوۡقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبۡرَكَةٍ زَیۡتُوۡنَةٍ

گویا کہ وہ ستارہ ہے روشن وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے درخت برکت والے زیتون سے

لَا شَرۡقِیَّةٍ ۭ وَلَا غَرۡبِیَّةٍ ۭ اَیَّكَادُ زَیۡتُمَا یُضِیۡءُ ۭ وَلَوۡلَہٗ

جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی قریب ہے تیل اس کا کہ روشن ہو جاوے اور اگرچہ نہ

تَمۡسِسُہٗ نَادٌ نُّوۡرٌ عَلٰی نُّوۡرٍ یَّهۡدِیۡ اللّٰهُ لِنُوۡرِہٖۭ مِّنۡ یَّشَآءُ ۭ

چھوٹے اُسے آگ نور پر نور ہے ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی جسے چاہتا ہے

وَيَضۡرِبُ اللّٰهُ الْاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ ﴿۳۶﴾

اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے اور اللہ ہر بات کو خوب جانتے والا ہے

فِیۡ بُیُوۡتِ اٰذِنِ اللّٰهُ اَنَّ تَرَفَعَ ۭ وَیَذۡكُرۡ فِیۡهَا اسۡمُہٗ ۭ

(وہ نور) گھروں میں ہے حکم دیا ہے اللہ نے کہ وہ بلند کئے جائیں اور ذکر کیا جاوے ان میں نام اس کا

یُسَبِّحُ لَہٗ فِیۡهَا بِالۡغَدُوِّ ۭ وَالۡاَصۡلٰٓءِ ۭ رَجَالَ ۭ لَا تَلۡمِیۡہِمۡ

تسبیح کرتے ہیں اس کی ان میں صبح اور شام وہ مرد کہ نہیں غافل کرتی انہیں

تِجَارَۃً ۭ وَلَا بَیۡعٌ ۭ عَنِ ذِکۡرِ اللّٰهِ ۭ وَاِقَامِ الصَّلٰوۃِ ۭ وَاِیۡتَآءِ

کوئی تجارت اور نہ خرید و فروخت یاد سے اللہ کی اور قائم کرنے سے نماز اور دینے سے

الرَّکُوۡةِ ۭ اِیۡحَافُوۡنَ یَوۡمًا تَتَّقَلۡبُ فِیۡہِ الْقُلُوۡبُ ۭ وَ

زکوٰۃ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ بدل جاویں گے جس میں دل اور

الۡاَبۡصَارُ ﴿۳۷﴾ لَیۡجۡزِیۡہُمَا اللّٰهُ اَحۡسَنَ مَا عَمِلُوۡا ۭ وَاِیۡزِیۡدُہُمَا

آنکھیں تاکہ بدل دے انہیں اللہ بہتر اس سے جو عمل کئے انہوں نے اور زیادہ دیکھا انہیں

مِّنۡ فَضۡلِہٖ ۭ وَاللّٰهُ یَرۡزُقُ مِّنۡ یَّشَآءُ ۭ بِغَیۡرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ وَ

اپنے فضل سے اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اور

الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ۭ اَعۡمَالُہُمۡ کَسَرَابٌ بِقِیَعَةٍ یَّحۡسِبُہٗ

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اعمال ان کے مانند سراب کے ہیں جو پھیل میدان میں ہو سمجھتا ہے اُسے

الظَّمَانُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ

پیاسا پانی یہاں تک کہ جب آتا ہے اس کے پاس نہیں پاتا اسے کچھ بھی اور

وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ

وہ پاتا ہے اللہ کو پاس اس کے پھر وہ پورا دیکھا اسے حساب اس کا اور اللہ جلد لینے والا ہے

الْحِسَابِ ۚ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ

حساب یا مانند اندھیروں کے سمندر گہرے میں ڈھانچتی ہے اسے موج

مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۗ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا

اوپر سے اس کے اور موج اوپر سے اس کے بادل اندھیرے ہیں بعض ان کے

فَوْق بَعْضٍ ۗ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرُهَا ۗ وَمَنْ

اوپر بعض کے جب نکالتا ہے ہاتھ اپنا نہیں قریب کر دیکھے اسے اور جو

لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

نہیں بنایا اللہ نے اس کیلئے نور تو نہیں اس کے لیے کوئی نور کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ وہ ہے

يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ ۗ كُلُّ

کرتبیج بیان کرتے ہیں اس کیلئے وہ چھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہر ایک نے

قَد عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ

یقیناً جان لی ہے نماز اپنی اور تسبیح اپنی اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں

وَرَبُّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ أَلَمْ

اور اللہ ہی کی ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی اور طرف اللہ کی ٹھکانا ہے کیا نہیں

تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ

دیکھا تو نے کہ اللہ چلاتا ہے بادل پھر ملاتا ہے اسے پھر

يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ وَيُنزِلُ

کر دیتا ہے اسے تہہ تہہ تو دیکھتا ہے بارش کو نکلتی ہے درمیان سے اس کے اور آتا ہے

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن

بادل سے پہاڑوں سے جن میں اولے ہوتے ہیں پس پہنچاتا ہے اسے جسے

يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنًا بَرْقُهُ يَذْهَبُ

چاہتا ہے اور پھیر لیتا ہے اُسے جس سے چاہتا ہے قریب ہے چمک بجلی کی اس کی کہے جاوے

بِالْأَبْصَارِ ۳۳ يُقَلِّبُ اللَّهُ الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ

آنکھیں پھیریتا ہے اللہ رات اور دن یقیناً اس میں

لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۳۵ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ

البنۃ عبرت ہے واسطے آنکھوں والوں کے اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار

مَاءٍ ۶ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۶ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي

پانی سے پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں

عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۶ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ آذَانِهِ يَخْلُقُ اللَّهُ

دو پاؤں پر اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پر پیدا کرتا ہے اللہ

مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۳۶ لَقَدْ أَنْزَلْنَا

جو چاہتا ہے یقیناً اللہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یقیناً آتا رہے ہم نے

آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۶ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ

آیات کھول کھول کر بیان کرنیوالی اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف راہ

مُسْتَقِيمٍ ۳۷ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَنتَ

سیدھی کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور

أَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۶ وَمَا أُولَٰئِكَ

اعامت کی ہم نے پھر پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے بعد اس کے اور نہیں ہیں وہ لوگ

بِالْمُؤْمِنِينَ ۳۸ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ

ہرگز مومن اور جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ وہ فیصلہ کرے

بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۳۹ وَإِن يَكُنْ لَهُمُ

درمیان ان کے اچانک ایک فریق کے لوگ ان میں سے اعراض کرنیوالے ہوتے ہیں اور اگر ہو ان کا

الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِمْ مُذْعِنِينَ ۴۰ إِنِّي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۶

حق آتے ہیں طرف اس کی مطیع ہو کر کیا دلوں میں ان کے بیماری ہے یا

اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَّحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَّرَسُوْلَهُ

تک یک انہوں نے یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور رسول اس کا

بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۵۱﴾ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(ہیں) بلکہ یہ لوگ ہی ظالم ہیں سوائے انکے نہیں کہتے بات مومنوں کی

اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَّرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا

جب وہ بلائے جاویں طرف اللہ اور رسول اسکی تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان انکے یہ کہ وہ کہتے ہیں

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَاَمَنْ يُّطِيعِ اللّٰهُ

سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں اور جو اطاعت کرے اللہ

وَّرَسُوْلَهُ وَيَخْشِ اللّٰهَ وَيَتَّقْهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰئِزُوْنَ ﴿۵۳﴾

اور اس کے رسول کی اور ڈرے گا اللہ سے اور تقویٰ کرے گا ان کا تو یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لِيَنْ اَمْرَتَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ

اور قسم کھا کر کہا انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اپنی کو ضرور اگر تو حکم کرے گا انہیں تو ضرور وہ نکلیں گے اجماع کے

قُلْ لَا تَقْسَمُوْا طَاعَةً مَّعْرُوْفَةً اِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌ مِّمَّا

یہ تو کہہ نہ قسم کھاؤ اطاعت ہے مناسب یقیناً اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اسی جو

تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۴﴾ قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ

تم کرتے ہو تو کہہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پس اگر تم

تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ

پھر جاؤ تو سوائے اس کے نہیں کہ اس پر ہے جو اٹھایا گیا وہ اور تم پر ہے جو اٹھائے گئے تم اور اگر

طِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَاَمَّا عَلَی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۵۵﴾

تم اطاعت کرو گے اسی ہدایت پاؤ گے اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا کھلا کھلا

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَّعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کیں نیکیاں

لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کہ اہل ضرور خلیفہ بناوے گا انہیں زمین میں جیسا کہ اس نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو پہلے تھے ان سے

۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

اور البتہ ضرور قائم کر دیگا انکے واسطے دین ان کا جو اس نے پسند کیا ان کے لیے اور البتہ ضرور بدل دے گا

مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

انہیں بعد ان کے خوف کے امن سے وہ عبادت کریں گے میری نہ شریک کرینگے میرے ساتھ کسی کو

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۵۱﴾ وَأَقِيمُوا

اور جس نے انکار کیا بعد اس کے تو وہ لوگ ہی فاسق ہیں اور قائم کرو

الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۲﴾

نماز اور دو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم رحم کئے جاؤ

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا وَرَآهُمُ

نہ گمان کر تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عاجز کر دینے والے (الہی سسوں کو) زمین میں اور ٹھکانا ان کا

النَّارُ وَلَيَسَّ الْمَوْتِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاذِنَكُمْ

آگ ہے اور یقیناً کیا ہی بڑا ہے ٹھکانا اے لوگو جو ایمان لائے ہو چاہیے کہ اجازت میں تم سے

الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ

وہ لوگ کہ مالک ہوئے (رکھے) وائیں ہاتھ تمہارے اور وہ لوگ کہ نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ

تین دفعہ (۱) پہلے نماز فجر سے اور (۲) جب تم اتار دیتے ہو

رِثَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ

پرلے اپنے دوپہر کو اور (۳) بعد نماز عشاء تین

عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ

پر وہ کیونکہ تمہارے لیے نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ بعد ان کے

طَوَافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ

گھومنے والے ہیں تم پر بعض تمہارے بعض پر اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے

الْاٰیٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۳﴾ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ

لیے آیات اور اللہ خوب جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور جب پہنچ جاویں بچے تم میں

الْحُلْمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

بوخت کو پس چاہئے کہ وہ اجازت میں جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو پہلے ان سے

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۷۰﴾

اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات اپنی اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ

اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے وہ جو کہ نہیں امید رکھتی نکاح کی تو نہیں ہے

عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

ان پر کوئی گناہ کہ وہ اتار رکھیں کپڑے اپنے نہ نمود کرنے والیاں

بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

سنگھار کی اور یہ کہ وہ بچیں بہتر ہے ان کے لیے اور اللہ خوب سننے والا

عَلِيمٌ ﴿۷۱﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ

نوب جاننے والا ہے نہیں نابینا پر کوئی تنگی اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی

وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا

اور نہ بیمار پر کوئی تنگی اور نہ خود تم پر یہ کہ کھاؤ تم

مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ

اپنے گھروں میں یا گھروں سے اپنے باپ دادا کے یا گھروں سے اپنی ماؤں کے یا

بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ

گھروں سے اپنے بھائیوں کے یا گھروں سے اپنی بہنوں کے یا گھروں سے اپنے چچوں کے

أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ

یا گھروں سے اپنی چچو بھیبوں کے یا گھروں سے اپنے ماموں کے یا گھروں سے اپنی خالوں کے

أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

یا وہ کہ مالک ہوئے تم کھنجیوں کے ان کی یا اپنے دوستوں سے نہیں ہے تم پر کوئی گناہ

أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا

یہ کہ کھاؤ تم سب مل کر یا الگ الگ پس جب داخل ہو تم گھروں میں

فَسَلِّمُوا عَلٰۤیْ اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۙ

تو سلام کرو آپس میں مقررہ دعا طرف سے اللہ کی بابرکت پاکیزہ

كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۳﴾ اِنَّمَا

اسی طرح کھونکر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات تاکہ تم عقل کرو سوائے

الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا

انکے نہیں کہ مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب وہ ہوتے ہیں

مَعَهُ عَلٰۤیْ اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ اِنَّ

ساتھ اس کے کسی معاملہ جمع کرنیوالے پر نہیں جاتے یہاں تک کہ اجازت لیتے ہیں اس سے یقیناً

الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وہ لوگ جو اجازت لیتے ہیں تجھ سے یہی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر

وَرَسُوْلِهِ ۗ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَاۡئِنِهِمْ فَاذْنِ لِمَنْ

اور انکے رسول پر پس جب اجازت مانگیں تجھ سے کسی اپنے کام کے لیے تو اجازت دے جس کو

سِئْتًا مِّنْهُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَرٰحِيْمٌ ۭ اَلَا

چاہے تو ان میں سے اور بخشے ان کے لیے اللہ سے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے نہ

تَجْعَلُوْا دُعَاۗءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۗءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

بناؤ پکارنا رسول کا آپس میں مانند پکارنے کے بعض تمہارے کا بعض کو

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذَاۗءٍ فَلْيَحْذَرِ

یقیناً جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو نکل جاتے ہیں تم میں سے نظر بچا کر پس چاہیے کہ ڈریں

الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنۢ اَمْرٍ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ

وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم سے کہ پہنچے انہیں کوئی فتنہ یا

يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۴﴾ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ

پہنچے انہیں عذاب دردناک آگاہ ہو جاوے کہ اللہ کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور

الْاَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۗ وَيَوْمَ يَرْجِعُوْنَ اِلَيْهِ

زمین میں یقیناً وہ جانتا ہے اس حالت کو کہ تم جس پر ہو اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف اسکی

فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۵﴾

پس وہ آگاہ کرے گا انہیں اس پر جو کیا انہوں نے اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (رحم) رحمن (اور) رحیم ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

بارک ہے وہ جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو ناما دنیا کے لیے

نَذِيرًا ﴿۲﴾ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ

ڈرانے والا وہ کہ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور نہیں بنا یا اس نے

وَلَدًا ۗ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

بیٹا اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک حکومت میں اور اس نے پیدا کی ہر چیز

فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿۳﴾ ۗ أَلَا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۗ لَّا يَخْلُقُونَ

پس اندازہ کیا اس کا اچھی طرح اندازہ اور بنائے انہوں نے سوائے اکے معبود کہ نہیں وہ پیدا کرتے

شَيْئًا ۗ وَهُمْ يَخْلُقُونَ ۗ وَلَا يَمْلِكُونَ ۗ لَا نَفْسِهِمْ ضَرًّا ۗ وَلَا

کچھ بھی اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں اور نہیں مالک ہوتے اپنی جانوں کے لیے ضرر کے اور نہ

نَفْعًا ۗ وَلَا يَمْلِكُونَ ۗ مَوْتًا ۗ وَلَا حَيَوَةً ۗ وَلَا نَشُورًا ﴿۴﴾ وَقَالَ

نفع کے اور نہیں وہ مالک ہوتے موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھانے کے اور کہا

الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا فِكْرٌ ۗ وَاعْتَنَاهُ عَلَيْهِ

ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں یہ مگر جھوٹ جو گھڑ لیا ہے اس نے اور مدد کی اس پر

قَوْمًا ۗ آخَرُونَ ۗ فَقَدْ جَاءُوا ظِلْمًا وَزُورًا ﴿۵﴾ وَقَالُوا ۗ أَسَاطِيرُ

لوگوں دوسروں نے پس یقیناً وہ لائے ہیں ظلم اور جھوٹ اور کہا انہوں نے کہانیاں ہیں

الْأَوَّلِينَ اٰكْتَتَبَهَا فِيْهَا تُمَلِّ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا ﴿۶﴾ قُلْ

پہلوں کی اس نے لکھی ہیں پس وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام تو کہے

اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرْفِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ

اُتارا ہے اس نے جو جانتا ہے بھید کو آسمانوں اور زمین میں یقیناً وہ ہے

عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۷﴾ وَقَالُوْا مَا لِيْ هٰذَا الرَّسُوْلُ يٰ اَكُلُ الطَّعَامَ

بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا اور کہا انہوں نے کیا ہے اس رسول کو کہ کھاتا ہے کھانا

وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنُ مَعَهٗ

اور چلتا ہے بازاروں میں کیوں نہیں اُتارا گیا طرف ان کی فرشتہ پس وہ ہوتا ساتھ اس کے

بٰذِيْرًا ﴿۸﴾ اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاكُلُ

ڈرانے والا یا ڈالا جاتا طرف اس کی خزانہ یا ہوتا اس کا باغ کو وہ کھاتا

مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۹﴾

جس سے اور کہا ظالموں نے نہیں پیروی کرتے تم سوائے آدمی جادو کئے ہوئے کے

اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَبِيْعُوْنَ

دیکھ کس طرح وہ بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں پس وہ گمراہ ہو گئے پس نہیں طاقت رکھتے

سَبِيْلًا ﴿۱۰﴾ تَبٰرَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ

راہ کی بابرکت ہے وہ جو کہ اگر چاہے بناوے تیرے لیے بہتر اس سے

جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُوْرًا ﴿۱۱﴾

باغات چلتی ہوں نیچے جن کے نہریں اور بناوے تیرے لیے محلات

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدُوْا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ

بلکہ تم نے سبک دیا قیامت کی اور تیار کی ہم نے اس کیلئے جس نے تکذیب کی قیامت کی

سَحِيْرًا ﴿۱۲﴾ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا مَا تَخْفٰى

آگ جب وہ دیکھے گی انہیں جگہ دُور سے سنیں گے اس کا جوش

وَزَفِيْرًا ﴿۱۳﴾ وَاِذَا الْقُؤٰبُ مِمَّا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَنِيْنَ

اور خروش اور جب ڈالے جاویں گے اس میں سے جگہ تنگ میں خوب جگڑے ہوئے

دَعُوا هُنَا لِكَ ثُبُورًا ۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَا

پکاریں گے اس جگہ ہلاکت (کہا جائیگا) نہ پکارو آج ہلاکت ایک اور

ادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۱۴ قُلْ اَذَلِكْ خَيْرًا مِّنْ جَنَّةِ الْخُلْدِ

پکارو ہلاکتیں بہت تو کدے کیا یہ بہتر ہے یا جنت ہمیشہ کی

الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّ مَصِيرًا ۱۶ لَهُمْ

جس کا وعدہ کئے گئے ہیں متقی وہ ہے ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانا ان کیلئے

فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ؕ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ۱۷

اس میں وہ ہے جو وہ چاہیں گے رہ پڑنے والے اس میں ہے یہ رب تیرے پر وعدہ پوچھا جانے والا

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ

اور جس دن اکٹھا کرنے کا انہیں اور ان کو جن کی عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے پھر فرماوے گا

ءَا أَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هُوَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۱۸

کیا تم نے گمراہ کیا بندوں کو میرے ان کو یا وہ خود گمراہ ہوئے راہ سے

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُشْبِعِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ

وہ کہیں گے پاک ہے تو نہیں تھا مناسب ہمارے لیے کہ ہم بناتے سوائے تیرے

مِن أَوْلِيَاءَ وَلٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ

کوئی کارساز دیکھن فائدہ پہنچایا تو نے انہیں اور باپ دادا کو ان کے یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت

وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۱۹ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ؕ لَٰمًا

اور ہو گئے لوگ ہلاک ہونے والے یقیناً یقیناً تم کو کذب کر کے تیری اس کی جو تم کہتے ہو پھر نہ

تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ؕ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نَذِقْهُ

طاقت رکھیں گے (عذاب کو) پھر دینے کی اور نہ مدد کی اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم دکھادیں گے

عَذَابًا كَبِيرًا ۲۰ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ؕ اٰلَا

اسے عذاب بڑا اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے رسولوں میں سے مگر

إِنَّهُمْ لِيَٰٓأَكْلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا

یقیناً وہ البتہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں اور بنا یا ہم نے

بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٌ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿۲۱﴾

بعض تمہارے کو واسطے بعض کے آزمائش کیا تم صبر کرتے ہو اور ہے رب تیرا خوب دیکھنے والا

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَفَنُزِّلُ

اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ملاقات کی ہماری کیوں نہیں اتارے گئے

عَلَيْنَا الْمَلِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي

ہم پر فرشتے یا دیکھتے ہم اپنے رب کو یقیناً یقیناً تکبر کیا انہوں نے اپنے

أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿۲۲﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا

نفسوں میں اور سرکش ہوئے سرکشی بڑی جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو نہیں

بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا

خوشخبری ہوگی اس دن مجرموں کے لیے اور وہ کہیں گے (اسے اللہ کر دے درمیان ہمارے)

مَّحْجُورًا ﴿۲۳﴾ وَقَدْ مَنَّآلِى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ

روک روک گئی اور آویں گے ہم ظن اسکی جو کیا انہوں نے کوئی عمل پس کر دینگے ہم اسے

هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿۲۴﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا

ذرے پراگندہ جنت والے اس دن بہتر ہونگے ٹھہرنے کے لحاظ سے

وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿۲۵﴾ وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاوَاتُ بِالْغَمَامِ

اور زیادہ اچھے ہونگے دو برابر کر کے لحاظ سے، اور جس دن پھٹے گا آسمان ساتھ بادل کے

وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿۲۶﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ

اور اتارے جا دینگے فرشتے خوب اتارا جانا سلطنت اس دن واقعی

لِلرَّحْمَنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿۲۷﴾ وَ

رحمان کے لیے ہے اور ہے وہ دن کافروں پر مشکل اور

يَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي اتَّخَذْتُ

جس دن کانٹے کا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر کے گے اسے کاش میں نے اختیار کی ہوتی

مَعَ الرَّسُولِ سَيْئَلًا ﴿۲۸﴾ يُوَيْلِي لِيَتَّعِنِي لِمَ اتَّخَذْتُ فُلَانًا

ساتھ رسول کے راہ اسے انہوں مجھ پر کاش میں نہ بنانا فلان شخص کو

خَلِيلًا ﴿۲۹﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، وَ

دوست یقیناً یقیناً اس نے گمراہ کیا مجھے نصیحت سے بعد اسکے کہ وہ آئی میرے پاس اور

كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿۳۰﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ

ہے شیطان انسان کو بہت ذلیل کر نیوالا اور کہے گا رسول

يُرِيكَ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿۳۱﴾ وَ

لے رہے ہیں یقیناً قوم نے میری بنایا اس قرآن کو چھوڑا ہوا اور

كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِرِجْلِ نَبِيِّ عَدُوٍّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ، وَكَفَى

اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے اور کافی ہے

بِرِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿۳۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ

رب تیرا ہدایت دینے والا اور مددگار اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں

لَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ ۗ

نہیں اتارا گیا اس پر قرآن اکٹھا ایک بار اسی طرح (اتارا ہم نے)

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۳۳﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ

تیرا مضبوط کر میں ساتھ اسکے دل تیرا اور پڑھا ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر اور نہیں لاؤں گے تیرے پاس

بِمَثَلِ الْآجِنَّكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۳۴﴾ الَّذِينَ

کوئی مثال (بطور اعتراض) مگر لاتے ہیں ہم تیرے پاس حق اور زیادہ اچھا کھول کر بیان کرنے میں وہ جو کہ

يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سَرْمَكَنَاوُ

اکٹھے کئے جاویں گے اپنے چہروں پر طرف جہنم کی یہ لوگ برسے ہیں مرتبہ اور

أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ

بہت گمراہ ہیں راہ سے اور یقیناً یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا ہم نے ساتھ اسکے

أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيْرًا ﴿۳۶﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ

بھائی اس کے ہارون کو بوجھ بنانے والا پس کہا ہم نے دونوں جاؤ طرف ان لوگوں کی جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿۳۷﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ

تکذیب کی آیت کی ہماری پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں اچھی طرح اور قوم نوح کو

لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ سُلُكًا

جب تکذیب کی انہوں نے رسولوں کی فرق کر دیا ہم نے انہیں اور بنایا ہم نے انہیں لوگوں کے لیے

آيَةً ۱۰۰ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا لَيْمًا ۱۰۱ وَعَادًا وَثُمُودًا

نشان اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک اور عادی اور ثمود کو

وَأَصْحَابِ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۱۰۲ وَكُلًّا

اور کوئیں والوں کو اور قوموں کو درمیان اس کے بہتوں کو اور سب کے لیے

صَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ زَوْكَلًا تَبَرْنَا تَثْبِيرًا ۱۰۳ وَلَقَدْ

بیان کیں ہم نے اس کیلئے شاخیں اور سب کو ہلاک کیا ہم نے اچھی طرح اور یقیناً

أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا فَلَمْ

وہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جو کہ برساتی گئی بارش بڑی کیا پس نہیں

يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۱۰۴ وَ

ہیں وہ دیکھتے اُسے بلکہ ہیں وہ کہ نہیں امید رکھتے (دوبارہ جی) اٹھنے کی اور

إِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلهًا زُورًا ۱۰۵ هَذَا الَّذِي

جب دیکھتے ہیں تجھے نہیں بناتے تجھے مگر ہنسی کیا یہ ہے وہ جسے

بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ۱۰۶ إِنَّكَ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْمَرْتَنَاءِ لَوْلَا

بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر نہیں قریب تھا یہ کہ گمراہ کر دے ہیں معبودوں سے ہمارے اگر نہ ہوتا

أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهِمْ ۱۰۷ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ

یہ کہ قائم رہتے ہم ان پر اور عنقریب جان لیں گے وہ جب دیکھیں گے

العَذَابِ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۱۰۸ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ

عذاب کون ہے زیادہ گمراہ راہ سے کیا دیکھا تو نے اُسے جس نے بنایا اپنا خدا

هُوَ لَهُ إِفَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۱۰۹ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ

اپنی خواہش کو کیا پس تو ہے اس پر کارساز کیا تو گمان کرتا ہے کہ

أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْهَدُونَ ۱۱۰ إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ

اکثر ان میں سے سنتے ہیں یا عقل کرتے ہیں نہیں ہیں یہ مگر مانند چارپایوں کے

بَلْ هُمْ آضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۵﴾ لَمْ تَرَالِي رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّ

بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں راہ سے کیانہیں دیکھا تو نے طرف اپنے رب کی کس طرح پھیلا یا

الظَّلِّ، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ

اس نے سایہ اور اگر چاہتا البتہ کر دیتا اُسے ٹھہرا ہوا پھر بنایا ہم نے سورج

عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿۳۶﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿۳۷﴾ وَهُوَ

اس کا رہنا پھر سمیٹ لیتے ہیں ہم اُسے اپنی طرف آہستہ آہستہ اور وہی ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ

جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام اور بنایا

النَّهَارَ نُشُورًا ﴿۳۸﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ

دن کو وقت منتشر ہونے کا اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں

يَدَي رَحْمَتِهِ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۳۹﴾

پہلے اپنی رحمت کے اور اتارا ہم نے بادل سے پانی پاک کرنے والا

لِنُنْحِي بِئِي بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا

تاکہ زندہ کر دیں ساتھ اس کے شہر مردہ کو اور پلاویں ہم وہ (پانی) ان کو جو پیدا کئے ہم نے جانور

وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ﴿۴۰﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا رَّبِّ

اور آدمی بہتوں کو اور یقیناً یقیناً طرح طرح سے بیان کیا ہم نے اُسے درمیان انکے تاکہ نصیحت پکڑیں

فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿۴۱﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا

پس انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے اور اگر چاہتے ہم البتہ بھیجتے ہم

فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَزْيِيرًا ﴿۴۲﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ

ہر گاؤں میں ڈرانے والا پس نہ اطاعت کر کافروں کی اور جہاد کر ان سے

بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿۴۳﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا

ساتھ اس (قرآن) کے جہاد بڑا اور وہی ہے جس نے ملائے دو دریا۔ یہ

عَذْبًا فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

میٹھا ہے پیاس بچھانے والا اور یہ نملین کر دوا اور بنائی اس نے درمیان انکے روک

وَجَجْرًا مَّحْجُورًا ۵۳ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

اور ادٹ روکی ہوئی اور مری ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۵۴ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۵۵ وَيَعْبُدُونَ

پھر بنایا اُسے نسب اور سسرال اور ہے رب تیرا بہت قدرت والا اور وہ عبادت کرتے ہیں

مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۵۶ وَكَانَ الْكَافِرُ

سوائے اللہ کے جو نہیں نفع دیتا انہیں اور نہ نقصان پہنچاتا ہے انہیں اور ہے کافر مقابل

عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۵۷ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۵۸

اپنے رب کے مددگار اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ

تو کہے نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر مگر جو چاہے کہ اختیار کرے

إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۵۹ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

طرف اپنے رب کی راہ اور بھروسہ کر اس زندہ پر جو کہ نہیں مرے گا

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۖ وَكُنْ بِهٖ بِذُنُوبٍ عَابِدًا ۖ خَيْرًا ۶۰

اور تسبیح کر ساتھ حمد کے اس کی اور کالی ہے وہی گناہوں کی اپنے بندوں کی خوب خبر رکھے والا

بِالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

وہ جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین اور جو درمیان ہے انکے چھ

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ

دقتوں میں پھر قرار پکڑا عرش پر (یہ) رحمن ہے پس پوچھ اس کے متعلق

خَيْرًا ۶۱ وَإِذْ أُنزِلَتْ لَهُمُ السُّجُودُ وَالرَّحْمَنُ قَالُوا

خوب واقف سے اور جب کہا جاتا ہے انہیں سجدہ کرو رحمن کو کہتے ہیں اور

مَا الرَّحْمَنُ ۖ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۶۲

کیا ہے رحمن؟ کیا ہم سجدہ کریں اُسے جس کا تو حکم دیتا ہے ہمیں اور بڑھادیا انہیں اس بات نے نفرت میں

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا

بارکت ہے وہ جس نے بنائے آسمان میں ستارے اور بنائے اس میں

سِرْجًا وَقَمَرًا نِيرًا ﴿۷۳﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

پہرے (یعنی سورج) اور چاند روشن اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو

خَلْفَهُ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۷۴﴾ وَعِبَادُ

انکے پیچھے آیا اللہ اس کیلئے جو چاہے کہ نسیحت حاصل کرے یا چاہے شکر کرنا اور بندے

الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًَا وَإِذَا

رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر فروتنی سے اور جب

خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿۷۵﴾ وَالَّذِينَ يَسْتَيْتُونَ

مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل وہ کہتے ہیں سلام اور وہ جو کہ رات بسر کرتے ہیں

لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۷۶﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ

اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور کھڑے ہوتے اور وہ جو کہ کہتے ہیں اے رب ہمارے پھیر دے

عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۷۷﴾ إِنَّهَا

ہم سے عذاب جہنم کا یقیناً عذاب اس کا ہے لازم ہونے والا یقیناً

سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۷۸﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ

وہ بُری ہے ٹھہرنے میں اور قیام کرنے میں اور وہ جو کہ جب خرچ کرتے ہیں نہیں

يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿۷۹﴾ وَالَّذِينَ

اسراف کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں اور ہے درمیان اس کے اعتدال اور وہ جو کہ

لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي

نہیں پکارتے ساتھ اللہ کے معبود دوسرا اور نہیں قتل کرتے وہ جان کو جسے

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

حرام کیا ہے اللہ نے مگر ساتھ حق کے اور نہیں زنا کرتے اور جو کرے گا یہ کام

يَلْقَ أَثَامًا ﴿۸۰﴾ يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ

پاویگا گناہ بڑھایا جاویگا اس کے لیے عذاب بروز قیامت کے اور

يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿۸۱﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا

رہ پڑیگا اس میں ذلیل ہو کر مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیا کام

صَاحِقًا فَاُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ

نیک تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ بدل ڈالتا ہے اللہ بدیالی ان کی بھلائیوں سے اور ہے

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱۱ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَاحِقًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ

اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا اور جس نے توبہ کی اور کی نیکی تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے

إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝۱۱۲ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا

طرف اللہ کے رجوع کرنا اور وہ جو کہ نہیں گواہی دیتے جھوٹی اور جب گزرتے ہیں

بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝۱۱۳ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

غلو پر گزرتے ہیں شریفانہ اور وہ کہ جب انہیں نصیحت کی جاوے ساتھ آیات کے انکے رب

لَمْ يَخْزُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝۱۱۴ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

کی نہیں رگرتے ان پر برسے اور اندھے ہو کر اور وہ جو کہ کہتے ہیں

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

اے رب ہمارے عطا فرما ہمیں طرف سے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ٹھنڈک آنکھوں کی اور بنا ہمیں

لِلْمُتَّقِينَ ۖ إِنَّمَا مَا ۝۱۱۵ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا

متقیوں کے لیے امام یہ لوگ بدل میں دیئے جائیں گے بالا جانے بسبب اسکے کہ صبر کیا انہوں نے

وَيُلْقُونَ فِيهَا تَاحِيَةً وَسَلْمًا ۝۱۱۶ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ حَسَنَتْ

اور پہنچائے جاویں گے اس میں دعا اور سلام رہ پڑنے والے ہیں اس میں اچھی ہے

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۱۱۷ قُلْ مَا يُحِبُّوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَادُعَاؤُكُمْ ۗ

وہ مستقل اور عارضی رہائش کی جگہ تو کہہ نہیں پڑواہ کرتا تمہاری رب میرا اگر نہ ہو دعا تمہاری

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝۱۱۸

پس یقیناً تمکذیب کی تم نے پس عقوبت ہوگا (وہاں اس کا) لگ جائیوالا



سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

طَسْمًا ۲ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۳ لَعَلَّكَ بَآخِعٌ نَّفْسَكَ

طاسین سیم یہ آیتیں ہیں کتاب کھلی کھلی بیان کرنے والی کی۔ شاید کہ تو ہلاک کر نیوالا ہے اپنے آپ کو

أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۴ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ

کرتیں ہوتے وہ مومن اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے

آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۵ وَمَا يَأْتِيهِمْ

کوئی نشان پس ہو جاویں گرزیں ان کی اس کیلئے نیچی اور نہیں آتی ان کے پاس

مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحَدَّثِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۶

کوئی نصیحت طرف سے رحمن کے نئی مگر ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۷

پس یقیناً تکذیب کی انہوں نے پس عفریب آویں گی ان کے پاس خبریں اسکی کہتے وہ ساتھ جس کے ہنسی کرتے

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۸

کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف زمین کی کہ کتنے ہی لگاتے ہیں ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے نفیس

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۹ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۰ وَإِنَّ

یقیناً اس میں البتہ نشان ہے اور نہیں ہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے اور یقیناً

رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۱۱ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ

رب تبار البتہ وہ غالب (اور) بہت رحم کر نیوالا ہے اور جب پکارا رب نے تیرے موسیٰ کو

إِن آتَيْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۱۲ قَوْمٌ فَرَعُونَ ۱۳ أَلَّا يَتَّقُونَ ۱۴

کہ جا پاس قوم ظالم کے پاس قوم فرعون کے کیا نہیں وہ تقویٰ کرتے

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿۱۳﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي

کہا اے رب میرے یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلائیں گے مجھے اور تنگی کرتا ہے سینہ میرا

وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ﴿۱۴﴾ وَ لَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ

اور نہیں چلتی زبان میری پس بھیج (وہیغام) طرف ہارون کے اور ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے

فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿۱۵﴾ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ

پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے فرمایا ہرگز نہیں پس دونوں جاؤ ساتھ آیت کے ہماری یقیناً ہم ساتھ ہیں

مُسْتَمِعُونَ ﴿۱۶﴾ فَآتِيَافِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ

تمہارے سننے والے پس دونوں جاؤ پاس فرعون کے پس کہو کہ یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں رب

الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۸﴾ قَالَ أَلَمْ

عالمین کے کہ بھیج ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو اس نے کہا کیا نہیں

نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا أَوْلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿۱۹﴾

پالا ہم نے تجھے اپنے میں بچپن میں اور ٹھہرا تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۲۰﴾ قَالَ

اور کیا تو نے اپنا کام وہ جو کیا تو نے اور تو ناشعروں میں سے ہے اس نے کہا

فَعَلْتُمْ إِذْ أَوْأْنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۲۱﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا

کیا تمہیں نے وہ کام جبکہ میں اس کے نتیجے سے ہناوا تقول میں سے تھا پس بھاگا میں تم سے جب

خَفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۲﴾

ڈرا میں تم سے پس بخشا مجھے میرے رب نے حکم اور بنایا اس نے مجھے رسولوں میں سے

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۲۳﴾ قَالَ

اور یہ نعمت کہ احسان جتا ہے تو اسکا مجھ پر یہ کہ غلام بنا کر رکھا تو نے بنی اسرائیل کو کہا

فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۴﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

فرعون نے اور کون ہے رب تمام دنیا کا کہا رب آسمانوں اور زمین کا

وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا

اور ان کا جو درمیان ان کے ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے اس نے کہا انہیں جو ارد گرد تھے اس کے کیا نہیں

تَسْتَمْعُونَ ﴿۳۶﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ

سننے تم کہا (موسیٰ نے) رب تمہارا اور رب باپ دادا کا تمہارے پہلوں کا اس نے کہا

إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبُّ

یقیناً اگر تمہارا وہ جو کہ بھیجا گیا طرف تمہاری البتہ مجنون ہے کہا (موسیٰ نے) رب

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾ قَالَ

مشرق کا اور مغرب کا اور انکا جو درمیان ہے ان دونوں کے، اگر ہوتم عقل کرتے اس نے کہا

لَئِن آتَّخَذَتِ الْأَعْيُرِي لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿۴۰﴾

یقیناً اگر بنایا تو نے کوئی خدا سوائے میرے مزد بنائوں گا میں تجھے قیدیوں میں سے

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۴۱﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ

کہا (موسیٰ نے) کیا اگرچہ لاؤں میں تیرے پاس بات کھلی کھلی (اپنی صداقت کی) اس نے کہا تو لا اسے اگر

كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿۴۲﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ

ہے تو سچوں میں سے پس اس نے رزمین پر ڈال دیا اپنا سونٹا پس اچانک وہ اژدھا تھا

مُبِينٌ ﴿۴۳﴾ وَنَزَعْنَا مِنْهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّلنَّظِيرِينَ ﴿۴۴﴾

کھلا کھلا اور نکالا ہاتھ اپنا پس اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي نَزَعْتُ مِنْهَا لَكُمْ آيَاتٍ هَذِهِ السَّحَرَةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُرِيدُونَ ﴿۴۵﴾

(فرعون نے) کہا مرداروں کو جو ارد گرد تھے اسکے یقیناً یہ البتہ جادوگر ہے ماہر وہ جانتا ہے کہ

يُخْرِجُكُمْ مِنَ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۴۶﴾

نکلے تم کو زمین سے تمہاری اپنے جادو سے پس کیا حکم کرتے ہوتم

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۴۷﴾

انہوں نے کہا مہلت دے اسے اور بھائی کو اسکے اور بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿۴۸﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ

جولائی تیرے پاس ہر بڑا جادوگر ماہر پس جمع کئے گئے جادوگر مقررہ وقت پر

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۴۹﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴿۵۰﴾

بروز مقررہ اور کہا گیا لوگوں کو کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۳۱﴾ فَلَمَّا

تاکر ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر ہوں وہ غالب ہیں جب

جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ

آئے جادوگر کہا انہوں نے فرعون کو کیا یقیناً ہمارے لیے اجر ہوگا ضرور اگر ہوش

نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۳۳﴾

ہم غالب ہیں کہا ہاں اور یقیناً تم تب ضرور مقربین میں سے ہو گے

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ أَمَنْتُمْ مَلِكُونَ ﴿۳۴﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ

کہا انہیں موسیٰ نے ڈالا جو تم ڈالنے والے ہو پس ڈالیں انہوں نے رسیاں اپنی

وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِحِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۵﴾

اور اپنے سونٹے اور کہا انہوں نے ساتھ اقبال فرعون کے یقیناً البتہ ہم ہی غالب ہیں

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۳۶﴾

پس ڈالا موسیٰ نے سونٹا اپنا پس اچانک وہ نکلنے لگا وہ جو جھوٹ بناتے تھے

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا ﴿۳۷﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾

پس ڈالے گئے جادوگر سجدہ میں انہوں نے کہا ایمان لائے ہم رب العالمین پر

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿۳۹﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ

رب پر موسیٰ اور ہارون کے کہا (فرعون) نے ایمان لائے ہو تم پہلے اس کے کہ اجازت دوں

لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَسَوْفَ

میں تم کو یقیناً وہ ضرور بڑا ہے تمہارا جس نے سکھایا ہے تمہیں جادو پس ضرور عنقریب

تَعْلَمُونَ هَلْ أَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ

جان لو گے تم البتہ کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے بالمقابل سے

وَلَا وَصَلَبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا

اور ضرور صلیب دوں گا میں تم سب کو انہوں نے کہا کوئی مضائقہ نہیں یقیناً ہم طرف اپنے رب کی

مُنْقَلِبُونَ ﴿۴۱﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا

لوٹنے والے ہیں یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ بخشے گا ہمیں رب ہمارا غلطیاں ہماری اس لیے کہیں ہم

أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۲﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِنَا

پہلے مومن اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کی کرات کو لے پہل بندوں کو میرے

إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿۵۳﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۴﴾

یقیناً تم پیچھا کئے جانو گے ہو پس بھیجے فرعون نے شہروں میں اٹھے کرنے والے

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۵﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۵۶﴾

یقیناً یہ لوگ البتہ جماعت ہیں تھوڑے سے اور یقیناً وہ ہمیں ضرور ناراض کر نیوالے ہیں

وَأَنَّا لَجَمِيعٌ خَيْرٌ لِّدُونِ ﴿۵۷﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۵۸﴾

اور یقیناً ہم البتہ سب کے سب ڈرنے والے ہیں پس ہم نے نکالا انہیں باغوں اور چشموں سے

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۹﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي

اور خزانوں اور مقام عزت والے سے اسی طرح اور وارث کیا ہم نے بنی

إِسْرَائِيلَ ﴿۶۰﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿۶۱﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ

اسرائیل کو سو پیچھا کیا انہوں نے ان کا سورج چڑھتے پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا

الْجَمْعِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿۶۲﴾ قَالَ

دونوں لشکروں نے کہا ساتھیوں نے موسیٰ کے یقیناً ہم پکڑے جانو گے ہیں کہا ربوہی نے

كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۶۳﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ

ہرگز نہیں یقیناً ساتھ میرے ہے رب میرا وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری پس وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے

إِنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلِقْ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ

کہ مار اپنا سونٹا سمندر میں پس وہ پھٹ گیا پس ہو گیا ہر حصہ

كَالطُّورِ الْعَظِيمِ ﴿۶۴﴾ وَأَزَلْنَا تَمَّ الْأَخْرِينَ ﴿۶۵﴾ وَأَنجَيْنَا

مانند ٹیلے بڑے کے اور قریب کیا ہم نے وہاں دوسروں کو اور نجات دی ہم نے

مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۶۶﴾ ثُمَّ غَرَقْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۶۷﴾

موسیٰ اور انکو جو ساتھ اسکے تھے سب کو پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۶۸﴾

یقیناً اس میں البتہ نشان ہے اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۷۹﴾ وَآتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأًا

اور یقیناً رب تیرا (اور) رحم کرنے والا ہے اور پڑھ ان پر خبر

إِبْرَاهِيمَ ﴿۸۰﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا

ابراہیم کی جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کس کی عبادت کرتے ہو تم انہوں نے کہا

نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظُرُ لَهَا غَافِلِينَ ﴿۸۲﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ

ہم عبادت کرتے ہیں تمہوں کی پس رہتے ہیں ہم ان پر معترف اس نے کہا کیا وہ سنتے ہیں تمہاری

إِذْ تَدْعُونَهُمْ ﴿۸۳﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿۸۴﴾ قَالُوا بَلَىٰ

جب تم بلاتے ہو یا نفع دیتے ہیں تمہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ

وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۸۵﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا

پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے تھے اس نے کہا کیا پس دیکھا تم نے جن کی

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۸۶﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ أَلاَ قَدُمُونَ ﴿۸۷﴾ فَأَنهَمُ

ہو تم عبادت کرتے تم اور باپ دادا تمہارے پہلے پس یقیناً وہ

عَدُوٌّ لِّيَ ۖ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۸﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۸۹﴾

دشمن ہیں میرے سوائے رب العالمین کے وہ جس نے پیدا کیا مجھے پس وہ ہدایت دیتا ہے مجھے

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۹۰﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

اور وہ کہ جو کھلاتا ہے مجھے اور پلاتا ہے مجھے اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی

يَشْفِينِ ﴿۹۱﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۹۲﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ

شفا دیتا ہے مجھے اور وہ جو موت دیکھا مجھے پھر زندہ کر گیا مجھے اور وہ کہ امید رکھتا ہوں

أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿۹۳﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا

کہ بخش دے میرے لیے غلطی میری بروز قیامت اسے رب عطا کر مجھے حکم

وَالْحَقِّيْنِ ﴿۹۴﴾ وَالصَّالِحِينَ ﴿۹۵﴾ وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

اور ملا مجھے ساتھ نیکوں کے اور بنا میرے لیے زبان سچی

الْآخِرِينَ ﴿۹۶﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿۹۷﴾ وَأَغْفِرْ

پچھلوں میں اور بنا مجھے وارثوں میں سے جنت نعمتوں والی کے اور بخش

لَا بِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۸۸﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ

باپ کو میرے یقیناً وہ ہے گمراہوں میں سے اور نہ رسوا کیجیو مجھے جس روز

يُبْعَثُونَ ﴿۸۹﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۹۰﴾ إِلَّا مَنْ آتَىٰ

وہ اٹھائے جاوے گا جس دن نہ نفع دیکھا مال اور نہ بیٹے سوائے اسکے جو آیا

اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۹۱﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۹۲﴾ وَبُرِّزَتِ

اللہ کے پاس ساتھ قلب سلیم کے اور قریب کی جاوے گی جنت متقین کے لیے اور ظاہر کی جاوے گی

الْجَحِيمِ لِلْغَوِيں ﴿۹۳﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيُّكُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۹۴﴾

دوزخ گمراہوں کے لیے اور کہا جائے گا انہیں کہاں ہیں وہ تھے تم جن کی عبادت کرتے

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۹۵﴾ فَلَئِنْ كُنْتُمْ

سوائے اللہ کے کیا وہ مدد کرتے ہیں تمہاری یا خود اپنی مدد کرتے ہیں پس اونٹھے گئے

فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿۹۶﴾ وَجُنُودٌ أَيْلِسَ أَجْمَعُونَ ﴿۹۷﴾ قَالُوا

گئے اس میں وہ اور سرکش اور لشکر ایلیس کے سب کے سب وہ کہیں گے

وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۸﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۹۹﴾

بیکہ وہ اس میں جھگڑتے ہونگے قسم ہے اللہ کی یقیناً تھے تم ضرور گمراہی گھل گھل میں

إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۰﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۰۱﴾

جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تم کو رب العالمین کے اور نہ گمراہ کیا تھا ہم کو مگر مجرموں نے

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿۱۰۳﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا

پس نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے اور نہ کوئی دوست بگرا پس کاش کہ ہمارے لیے

كَرَّةٌ فَذَكَوْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۴﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا

لوٹنا ہو (دنیا میں) پس ہو جاویں ہم مومنوں میں سے یقیناً اس میں البتہ نشان ہے اور نہیں

كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۵﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۶﴾

پس اکثر ان میں سے ایما نذر اور یقیناً رب تیرا البتہ وہی غالب راور رحم کرنے والا ہے

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ بِالْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰۷﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ

جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو جب کہا انہیں بھائی ان کے

نُوحٌ إِلَّا تَتَّقُونَ ﴿۱۱۴﴾ رَبِّي لَكُم دَسُؤْلٌ أَمِينٌ ﴿۱۱۵﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ

نوح نے کیا نہیں تعزیر کرتے تم یقیناً میں تمہارے لیے رسول امین ہوں پس ڈرو اللہ سے

وَاطِيعُونَ ﴿۱۱۶﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

اور اطاعت کرو میری اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں اجر میرا مگر

عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۷﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿۱۱۸﴾ قَالُوا أَلْوَيْلٌ

ذمے رب العالمین کے پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لادیں

لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴿۱۱۹﴾ قَالَ وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا

تجھ پر اور پیرو بننے میں تیرے بہت رذیل لوگ اس نے کہا اور نہیں ہے علم مجھے اس کا جو تھے وہ

يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۰﴾ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿۱۲۱﴾

عمل کرتے نہیں حساب ان کا مگر ذمہ رب میرے کے کاش تم سمجھو

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۲﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۲۳﴾

اور نہیں ہوں میں (خچیر سمجھکر) دھتکارنے والا مومنوں کو نہیں میں مگر ڈرانے والا کھلا کھلا

قَالُوا لَيْن لَّمْ تَنْتَه يَنْوُحٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿۱۲۴﴾

انہوں نے کہا یقیناً اگر نہ باز آیا تو اسے نوح ضرور ہوگا تو پتھراؤ کئے ہوؤں میں سے

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ ﴿۱۲۵﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

اس نے کہا اسے رب میرے یقیناً قوم میری نے تکذیب کی میری پس فیصلہ فرما درمیان میرے اور درمیان انکے

فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۶﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ

خوب فیصلہ کرنا اور نجات دے مجھے اور انکو جو ساتھ ہیں میرے مومنوں میں سے پس نجات دی ہم نے اسے اور انہیں

مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۲۷﴾ ثُمَّ أَعْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿۱۲۸﴾

جو ساتھ تھے اس کے کشتی بھری ہوئی میں پھر غرق کر دیا ہم نے بعد میں باقیوں کو

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۹﴾ وَ

یقیناً اس میں البتہ نشان ہے اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے مومن اور

إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۳۰﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۱﴾

اور یقیناً رب تیرا البتہ وہی غالب (اور) رحیم کریم والا ہے تکذیب کی عادت نے رسولوں کی

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودًا أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۵﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

جب کہا ان کو بھائی ان کے ہود نے کیا نہیں تقویٰ کرتے تم یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں

أَمِينٌ ﴿۱۲۶﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۲۷﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

امانت دار پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی

أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۸﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ

اجر نہیں اجر میرا مگر ذمہ رب العالمین کے کیا بناتے ہو تم ہر اونچی جگہ پر

آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿۱۳۰﴾

یادگار بے فائدہ کام کرتے ہو اور بناتے ہو تم کارخانے تاکہ تم ہمیشہ رہو

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿۱۳۱﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۳۲﴾

اور جب پکڑتے ہو تم پکڑتے ہو کرش ہو کر پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۳﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ

اور ڈرو اس سے جس نے امداد کی تمہاری اس سے جو تم جانتے ہو اس نے امداد کی تمہاری ساتھ جانوروں

وَبَنِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَجَنَّتْ وَعْيُونُ ﴿۱۳۵﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

اور بیٹوں کے اور باغوں اور چشموں کے یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے

يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۳۶﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ

دن بڑے کے انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر خواہ دھسے یا نہ

تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۷﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَ

ہوا تو دھسے کرنے والوں میں سے نہیں ہے یہ مگر عادت پہلوں کی اور

مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۳۹﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

نہیں ہم ہرگز عذاب دینے والوں میں سے پس تکذیب کی انہوں نے اکی پس ہلاک کیا ہم نے انہیں یقیناً اس میں

لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

البتہ نشان ہے اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے مومن اور یقیناً رب تیرا البتہ وہی ہے

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۱﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۲﴾ إِذْ قَالَ

غالب (اور) رحم کرنے والا تکذیب کی ثمود نے رسولوں کی جب کہا

لَمَّا أَخُوهُمُ صَلِحًا إِلَّا تَتَّقُونَ ﴿۱۳۳﴾ رَبِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۳۴﴾

اپس ان کے بھائی صالح نے کیا نہیں تقویٰ کرتے تم یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۳۵﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی

أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۶﴾ أَتُشْرِكُونَ

اجر نہیں ہے اجر میرا مگر ذمہ رب العالمین کے کیا تم چھوڑے جاؤ گے

فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ﴿۱۳۷﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱۳۸﴾ وَزُرُوعٍ وَ

اس میں جو یہاں ہے امن سے باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور

نَخْلٍ طَلَعَهَا هَضِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

بجھروں میں کہ خوشہ کن کا ٹوٹا پڑتا ہے اور تم تراش کر بناتے ہو پہاڑوں میں سے گھر

فَرِهِينَ ﴿۱۴۰﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۴۱﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ

اتراٹے ہوئے پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری اور نہ اطاعت کرو حکم کی

الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۴۲﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۱۴۳﴾

حد سے بڑھنے والوں کی وہ جو کہ فساد کرتے ہیں زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۴۴﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

کہا انہوں نے سوائے اگے نہیں کہ تو جادو کئے ہوؤں میں سے نہیں ہے تو مگر انسان مانند ہماری

فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۴۵﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ

پس لا کوئی نشان لگے تو یہوں میں سے اس نے کہا یہ اونٹنی ہے

لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۱۴۶﴾ وَلَا تَمْسُوهَا

اس کیلئے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے پانی پینے کی باری ہے بوقت مقررہ اور نہ پہنچاؤ اسے

بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿۱۴۷﴾ فَعَقَرُوها مَا فَاصَبَحُوا

کوئی برائی ورنہ پکڑے گا تم کو عذاب دن بڑے کا پس انہوں نے کوچیں کاٹ دیں اس کی پس

نَدِمِينَ ﴿۱۴۸﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

ہو گئے پشیمان پس پکڑا انہیں عذاب نے یقیناً اس میں البتہ نشان ہے اور

مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۹﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

نہیں ہیں اکثر ان میں سے مومن اور یقیناً رب تیرا البتہ وہی ہے غالب (اور)

الرَّحِيمُ ﴿۱۶۰﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۱﴾ إِذْ قَالَ

رحم کرنے والا تکذیب کی قوم لوط نے رسولوں کی جب کہا

لَهُمْ أَخْوَهُمْ لُوطٌ أَلَّا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۲﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۳﴾

ان سے ان کے بھائی لوط نے کیا نہیں تقویٰ کرتے تم یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۶۴﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں

أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۵﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ

ہے اجر میرا مگر ذمہ رب العالمین کے کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس

الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۶﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ

دنیا میں سے اور تم چھوڑتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے رب تمہارے نے بیویوں میں سے تمہاری

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۷﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ

بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو کہا انہوں نے البتہ اگر نہ باز آیا تو اسے لوط فرور ہو گا تو

مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۶۸﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۶۹﴾ رَبِّ

(قوم سے) نکلے گئے ہوؤں میں سے اس نے کہا یقیناً میں کام سے تمہارے بیزار ہوں اے رب میرے

نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷۰﴾ فَنجَّيناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷۱﴾

نجات دے مجھے اور گھروالوں کو میرے اس سے جو وہ کرتے ہیں پس نجات دی ہم نے اُسے اور اس کے گھروالوں کو سب کو

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿۱۷۲﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِيسَ ﴿۱۷۳﴾ وَ

سوائے ایک بڑھیا کے پیچھے رہنے والوں میں پھر ہلاک کیا ہم نے دوسروں کو اور

أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۷۴﴾ وَإِنَّ فِي

برساتی ہم نے ان پر بارش پس بڑی ہوئی بارش ڈراٹے ہوؤں کی یقیناً

ذَلِكَ لآيَةٌ لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۵﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

اس میں البتہ نشان ہے اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے مومن اور یقیناً رب تیرا البتہ وہی ہے

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۸۶﴾ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۸۷﴾

غائب (اور) رحم کرنے والا تکذیب کی بن والوں نے رسولوں کی

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۸۸﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۸۹﴾

جب کہا انہیں شعیب نے کیا نہیں تقویٰ کرتے تم یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانتدار

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَّ اللَّهِ ﴿۱۹۰﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۱﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا

نہیں ہے اجر میرا مگر ذمہ رب العالمین پر پورا کرو ماپ اور نہ ہو

مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۹۲﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۹۳﴾ وَلَا

کم دینے والوں میں سے اور تولو ساتھ ترازو درست کے اور نہ

تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۹۴﴾

کم دو لوگوں کو چیزیں ان کی اور نہ فساد کرو زمین میں مفسدین کو

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ ﴿۱۹۵﴾ قَالُوا إِنَّمَا

اور ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا تم کو اور خلقت پہلی کو انہوں نے کہا سوائے

أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿۱۹۶﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ

اس کے نہیں کو تو جادو کئے ہوؤں میں سے ہے اور نہیں تو مگر انسان مانند ہماری اور یقیناً گمان کرتے ہیں ہم

لِمَنْ الْكُذِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿۱۹۷﴾ فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ

تجھے البتہ جھوٹوں میں سے پس گرا ہم پر ٹکڑا آسمان سے اگر ہے

مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۹۸﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹۹﴾ فَكَذَّبُوهُ

تو سچوں میں سے اس نے کہا رب میرا خوب جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو پس تکذیب کی انہوں

فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ ﴿۲۰۰﴾ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ

نے اسکی پس پڑا انہیں عذاب نے دن ساٹھان والے کے یقیناً وہ تھا عذاب دن

عَظِيمٍ ﴿۲۰۱﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴿۲۰۲﴾ وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۰۳﴾

بڑے کا یقیناً اس میں البتہ نشان ہے اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے ایماندار

وَاتَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۲﴾ وَآتَهُ لَتَنَزِيلُ رَبِّ

اور یقیناً رب تیرا البتہ وہی ہے غالب (اور) رحم کرنے والا اور یقیناً یہ البتہ اتارا ہوا ہے رب

الْعَلَمِينَ ﴿۱۹۳﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۹۴﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ

العالین کا اتارا ہے اسے روح الامین نے دل پر تیرے تاکہ ہو تو

مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۹۵﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۹۶﴾ وَآتَهُ لَفِي زُبُرِ

ڈرانے والوں میں سے زبان عربی کھلی کھلی میں اور یقیناً وہ البتہ کتابوں میں

الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۷﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمَ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي

ہے پہلوں کی کیونکہ ہوا ان کے لیے نشان کہ جانتے ہیں اسے علماء بنی

إِسْرَائِيلَ ﴿۱۹۸﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۹۹﴾ فَقَرَأَهُ

اسرائیل اور اگر اتارتے ہم اسے کسی غیر عرب پر پھر وہ پڑھتا

عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۰۰﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ

اسے ان پر نہ ہوتے اس کو ماننے والے اسی طرح چلائی ہے ہم نے یہ بات دلوں میں

الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۰۱﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۲۰۲﴾

مجرموں کے نہیں ایمان لائیں گے اس پر یہاں تک کہ دیکھیں عذاب دردناک

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۰۳﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ

پس وہ آجگائے پاس اچانک اور وہ نہ سمجھتے ہوں گے پس وہ کہیں گے کیا ہم

مَنْظُرُونَ ﴿۲۰۴﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۲۰۵﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ

سنت دینے جائیں گے کیا پس عذاب ہمارے کی جلدی کرتے ہیں کیا پس دیکھا تو نے کو اگر فائدہ پہنچائیں ہم انہیں

سِنِينَ ﴿۲۰۶﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۲۰۷﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ

کئی سال پھر آئے انکے پاس وہ جس کا ہیں وہ وعدہ دینے جاتے تو نہ کام آئے گا انہیں

مَا كَانُوا يُمَتِّعُونَ ﴿۲۰۸﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا هَا

جو تھے وہ فائدہ پہنچائے جاتے اور نہ ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کیلئے

مُنذِرُونَ ﴿۲۰۹﴾ ذِكْرِي ثُمَّ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۱۰﴾ وَمَا نَنْزَلُكَ بِهِ

ڈرانے والے تھے نصیحت کیلئے اور نہ تھے ہم ظالم اور نہیں اتارا اسے

الشَّيْطَانِ ۱۳۱۱ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۱۳۱۲ تَهُمُ عَنِ
شیطانوں نے اور نہ مناسب تھا ان کیلئے اور نہ طاقت رکھتے تھے یقیناً وہ

السَّمْعِ لَمَعَزُؤْلُونَ ۱۳۱۳ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ
سننے سے البتہ روکے گئے ہیں پس نہ پکار ساتھ اللہ کے معبود دوسرا ورنہ تو ہو جاویگا

مِنَ الْمُعَدِّبِينَ ۱۳۱۴ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۱۳۱۵ وَ
عذاب دیئے ہوؤں میں سے اور ڈرا اپنے قبیلہ نزدیکوں کو اور

أَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۱۳۱۶ فَإِنْ
جھکا بازو اپنا ان کے لیے جنہوں نے پیروی کی تیری مومنوں میں سے پھر اگر

عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۱۳۱۷ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ
وہ نافرمانی کریں تیری تو کہہ دے یقیناً میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو اور بھروسہ کر عزت والے

الرَّحِيمِ ۱۳۱۸ الَّذِي يَزِيحُ جِبْنَ حَيْثُ تَقُومُ ۱۳۱۹ وَتَقَلُّبِكَ فِي
بہت رحم کرنے والے پر وہ جو کہ دیکھتا ہے تجھے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور پھر تیرا

السَّجْدِينَ ۱۳۲۰ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۱۳۲۱ هَلْ أَنْتُمْ كُفْرًا
سجدہ کرنے والوں میں یقیناً وہ ہی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے کیا آگاہ کروں میں تم کو

عَلَى مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانِ ۱۳۲۲ تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَقَالِكِ آثِيمٌ ۱۳۲۳
ان پر کہ جن پر اترتے ہیں شیاطین اترتے ہیں ہر بہت جھوٹے گنہگار پر

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ۱۳۲۴ وَالشُّعْرَاءُ
رکھتے ہیں کان اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں اور شاعر کہ

يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۱۳۲۵ لَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ ۱۳۲۶
پیروی کرتے ہیں ان کی گمراہ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں ہیں

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۱۳۲۷ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ
اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو نہیں وہ کرتے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا ۱۳۲۸
کیں نیکیاں اور یاد کیا انہوں نے اللہ کو بہت اور بدلہ لیا انہوں نے

بَعْدَ مَا ظَلَمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
 بعد اسکے کہ ظلم کیا گیا ان پر اور عنقریب جانیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کونسی پھرنے کی جگہ

يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۸﴾

وہ پھریں گے

سُورَةُ التَّمَلُّمِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

طَسَّ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۲﴾ هُدًى وَ
 طا-سین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب کھل کھل کی ہدایت اور

بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 خوشخبری (بشارت) مومنوں کے لیے وہ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا
 زکوٰۃ اور وہ کہ آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو نہیں

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵﴾
 ایمان لاتے آخرت پر خوبصورت کر کے دکھلائے ہم نے ان کیلئے اعمال انکے پس وہ بھٹک رہے ہیں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
 یہ لوگ وہ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں ہال دہی

الْآخَسْرُونَ ﴿۶﴾ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ
 ناکام ہونیوالے ہیں اور یقیناً تو البتہ سکھایا جاتا ہے قرآن طرف سے حکمت والے بہت

عَلَيْهِمْ ﴿۷﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا مِنْ سَاتِرِكُمْ
 جاننے والے کے جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو یقیناً میں نے دیکھی ہے آگ عنقریب میں لاؤں گا میں

مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسَ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۸﴾

تمہارے پاس اس سے کوئی خبر یا لاؤں گا تمہارے پاس انگارا سلگتا ہوا تاکہ تم تپاؤ

فَلَمَّا جَاءَهُمَ نُودِي أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ

پس جب وہ آیا اس کے پاس آواز دیا گیا کہ برکت والا ہے وہ جو آگ کی تلاش میں ہے اور جو ارد گرد ہے اسکے

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۹﴾ يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ

اور پاک ہے اللہ رب العالمین اسے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں اللہ عزت والا

الْحَكِيمُ ﴿۱۰﴾ وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ

حکمت والا ہوں اور ڈال (زمین پر) سونٹا اپنا پس جب دیکھا اس نے اسے ہلتا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے

وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ

مڑا پیٹھ دیتا ہوا اور نہ مڑ کر دیکھا اسے موسیٰ نہ ڈر یقیناً میں ایسا ہوں کہ نہیں ڈرتے

لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۱﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ

خواب میں میری رسول مگر جس نے ظلم کیا پھر بدلے میں لایا نیکی بعد

سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾ وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ

برائی کے تو میں بہت بخشنے والا ہوں بہت رحم کرنے والا ہوں اور داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں

تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ تَدْرِي تَشِعْ أَيْتِي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

وہ نکلے گا سفید بغیر برائی کے تو نشانات طرف فرعون کی

وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۱۳﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

اور اسکی قوم کی یقیناً وہ تھے لوگ فاسق پس جب آئیں ان کے پاس

أَيُّنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا إِسْمَرٌ مِّبِينٌ ﴿۱۴﴾ وَجَعَدُوا بِهَا

نشانیوں ہماری بصیرت پیدا کرنے والی کہا انہوں نے یہ جادو ہے کھلا کھلا اور انکار کیا انہوں نے ان کا

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کا دلوں نے ان کے ظلم اور سرکشی سے پس دیکھ کس طرح ہوا

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا

انجام مفسدوں کا اور یقیناً یقیناً دیا ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ

اور دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے فیصلت دی ہمیں بہتوں پر اپنے بندوں

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

مومنوں میں سے اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا اور کہا اس نے اے لوگو

عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً هَذَا هُوَ

ہمیں سب کچھ معلوم ہے بولی پرندوں کی اور دینے گئے ہیں ہم ہر چیز یقیناً یہ اللہ ہی

الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿۱۷﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ

فضل ہے کھلا کھلا اور اکٹھے کئے گئے سلیمان کے لیے لشکراس کے جنوں

وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۸﴾ حَتَّىٰ إِذَا تَوَاعَىٰ

اور انسانوں اور پرندوں میں سے ہیں وہ جدا جدا کئے گئے یہاں تک کہ جب وہ آئے وادی پر

النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ هَلَا

چیونٹیوں کی کہا ایک چیونٹی نے اے چیونٹیو داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں نہ

يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۹﴾ فَتَبَسَّ

کچل دے تمہیں سلیمان اور لشکراس کے اور وہ نہ جانتے ہوں پس مسکرایا وہ

ضاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

ہنستے ہوئے بات سے اس کی اور کہا اے رب میرے توفیق بخش مجھے کہ میں شکر کروں نعمت کا تیری

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

جو انعام کی تو نے مجھ پر اور والدین پر میرے اور یہ کہ عمل کروں میں نیک راضی ہو تو جن سے

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۰﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ

اور داخل کر مجھے ساتھ اپنی رحمت کے اپنے بندوں نیکوں میں اور حاضر فی لی اس نے پرندوں کی

فَقَالَ مَا لِي لَأَرَىٰ الْهُدَىٰ هَدًى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿۲۱﴾

پس کہا کیا ہوا مجھے کہ نہیں دیکھتا ہد ہد کو یا ہے وہ غیر حاضر لوگوں میں سے

لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ أَوَّلًا أَذْبَحْتَهُ أَوْلِيَاءَ تَبِيَّتِي

ضرور عذاب دوں گا اسے عذاب سخت یا ضرور ذبح کروں گا میں اسے یا وہ لاوے میرے پاس

بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۲۲ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ

دیل کھلی کھلی پس اس نے دیر کی تھوڑی سی پس اس نے کہا معلوم کیا ہے میں نے وہ کہ نہیں

تُحِطُ بِهِ وَحِثُّكَ مِنْ سَبَأٍ نَبِيًّا يَقِينٍ ۲۳ إِنِّي وَجَدْتُ

معلوم کیا آپ نے اُسے اور لایا ہوں میں تیرے پاس سبأ سے خبر یقینی یقیناً میں نے پالی ہے

امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ

ایک عورت حکومت کرتی ہے ان پر اور وہ دیکھتی ہے ہر چیز اور اس کا تخت ہے

عَظِيمٌ ۲۴ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ

بڑا اور پایا میں نے اُسے اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہیں سورج کو

دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

سوائے اللہ کے اور خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے پس روک دیا ہے انہیں

عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۲۵ أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي

راہ سے پس وہ نہیں ہدایت پاتے کہ سجدہ کریں اللہ کو جو

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ

کھاتا ہے چھپی چیز آسمانوں سے اور زمین سے اور جانتا ہے جو چھپاتے ہیں

وَمَا تُعْلِنُونَ ۲۶ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۲۷

اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی خدا مگر وہ ہے رب تخت بڑے کا۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۲۸ إِذْ هَبَّ

کہا ہم دیکھیں گے کیا سچ بولا تو نے یا ہے تو جھوٹوں میں سے لے جا

بِكُتَيْبٍ هَذَا فَاَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا

خط میرا یہ پس ڈال دے اسے طرف ان کی پھر پھر جا ان سے پس دیکھ کیا

يَرْجِعُونَ ۲۹ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِيَّتْ إِلَى كِتَابِ

جواب دیتے ہیں اس عورت نے کہا اے سردارو! یقیناً ڈالا گیا ہے طرف میری ایک خط

كَرِيمٍ ۳۰ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

عزت والا یقیناً وہ طرف سے ہے سلیمان کی اور یقیناً وہ ساتھ نام اللہ (رحمن) اور

الرَّحِيمِ ۳۱ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلِيَّ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ ۳۲ قَالَتْ

رحیم کے ہے کونہ سرکش کر دو مجھ پر اور میرے پاس آؤ فرمانبردار ہو کر اس نے کہا

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي، مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

اے سردارو جواب دو مجھے معاملہ میں میرے نہیں میں طے کرنیوالی کوئی معاملہ

حَتَّى تَشْهَدُونِ ۳۳ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو الْقُوَّةِ وَأَوْلُوا بِأَس

یہاں تک کہ تم حاضر ہو انہوں نے کہا ہم طاقت والے اور جنگ

شَدِيدَةٍ ۳۴ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۳۵

سخت والے ہیں اور حکم طرف تیری ہے پس غور کر تو جو حکم کرتی ہے تو

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ

اس نے کہا یقیناً بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی پر خراب کر دیتے ہیں اسے اور

جَعَلُوا أَعْرَازَهُمْ أَهْلًا أَذَلَّةً، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۳۶

کر دیتے ہیں معزز باشندوں کو اس کے ذلیل اور اسی طرح یہ کہیں گے

وَرَأَى مُرْسَلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظَرَتْ بِمَيْرِجَمٍ

اور یقیناً میں بھیجنے والی ہوں طرف ان کی ایک تحفہ پس دیکھتی ہوں کیا جواب لاتے ہیں

الْمُرْسَلُونَ ۳۷ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أُمِدُّونِي بِمَالٍ

قاصد پس جب آیا (قاصد) سلیمان کے پاس کہا کیا تم لوگ مدد دیتے ہو مجھے ساتھ مال کے

فَمَا آتَيْتَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَيْتَكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ

پس جو دیا ہے مجھے اللہ نے بہتر ہے اس سے جو دیا ہے اس نے تم کو بلکہ تم اپنے تحفہ پر

تَفَرَّحُونَ ۳۸ إِزْجَمِ إِلَيْهِمْ فَلَنَّا تِيَّتَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ

خوش ہونے ہو لوٹ جا طرف ان کی پس ضرور لادیں گے ہم انکے پاس ایسے لشکر کہ نہیں مقابلہ ہو سکے گا

لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَهُمْ مِنْهَا أَذَلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ۳۹

ان سے ان کا اور ضرور ضرور نکالیں گے ہم انہیں اس رستی سے ذلیل کر کے اور وہ رسوا ہوں گے

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَا تَيْبِي بَعْرَشَهَا قَبْلَ أَنْ

کہا اے سردارو کون تم میں سے لاویگا میرے پاس تخت اس کا پہلے اس کے کہ

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ عَفْرَيْتُكَ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ

وہ آویں میرے پاس فرمانبردار ہو کر کہا ایک بڑے کام کو نوا نے جنوں میں سے میں لاؤں گا تیرے پاس

قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿۳۲﴾

اسے پہلے اس کے کہ اٹھے تو اپنی جگہ سے اور یقیناً میں اس پر ضرور قوی امانت دار ہوں

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ

کہا اس نے کہ پاس تھا اس کے علم کتاب کا میں لاؤں گا تیرے پاس اسے

قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفَكَ ، فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا

پہلے اس کے کہ پھرے طرف تیری نظر تیری پس جب دیکھا اُسے ٹھہرا ہوا

عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرَ أَمْ

پاس اپنے کہا یہ فضل سے ہے رب کے میرے تاکہ آزماوے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا

أَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ

ناشکری کرتا ہوں اور جس نے شکر کیا تو سوائے اسکے نہیں کہ وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً

رَبِّي عَنِّي كَرْيَمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَ نَعْبُدُ الْمَاءَ عَرَشَهَا نَنْظُرُ

رب میرا ہے پر وہ عزت والا ہے کہا شکل بدل دو تخت کی اس کے تاکہ ہم دیکھیں

أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۳۲﴾ فَلَمَّا

کیا ہدایت پاتی ہے وہ یا ہوتی ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں ہدایت پاتے پس جب

جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ ، قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ، وَأُوتِينَا

وہ آئی کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے تخت تیرا کہا اس نے گویا کہ یہ وہی ہے اور دیتے گئے ہیں ہم

الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ

علم پہلے سے اس کے اور ہیں ہم فرمانبردار اور اس نے روکا اسے جسکی وہ تھی عبادت کرتی

مِنْ دُونِ اللَّهِ ؕ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۳۴﴾ قِيلَ لَهَا

سوائے اللہ کے یقیناً وہ تھی قوم میں سے کافروں کی کہا گیا اسے

ادْخُلِي الصَّرْحَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ

داخل ہو محل میں پس جب اس نے دیکھا خیال کیا اس نے اُسے گرا پانی اور زنگلی کیس

سَأَيُّهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَہُ قَالَتْ

اپنی دونوں پندریاں کہاں سلیمان نے یقیناً یہ عمل ہے جڑا ہو شیثوں سے وہ بولی

رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ

لے رب میرے یقیناً میں نے ظلم کیا تھا اپنی جان پر اور فرمانبردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ رب

الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۹﴾ وَاَلْقَدَارُ سَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ ضٰلِحًا اِنْ

عالمین کے لیے اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے طرف ثمود کی بھائی ان کا صالح یہ کہ

اَعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿۲۰﴾ قَالَ يٰقَوْمِ

عبادت کرو اللہ کی پس اچانک وہ دو گروہ جھگڑنے لگے اس نے کہا اے قوم میری

لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا

کیوں تم جلدی چاہتے ہو برائے پہلے بھلائی کے کیوں نہیں

تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۱﴾ قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ

بخشش مانگتے اللہ سے تاکہ تم رحم کئے جاؤ انہوں نے کہا نوحیت میں بڑگئے ہم سبب

وَيَمٰنَ مَعَكَ ؕ قَالَ طَيَّرَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ

تیرے اور سبب ان کے جو ساتھ ہیں تیرے اس نے کہا نوحیت تمہاری پاس ہے اللہ کے بلکہ تم لوگ

تُفْتَنُونَ ﴿۲۲﴾ وَاَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِي

مذابھیٹے جاؤ گے اور تھے اس شر میں نو (۹) شخص فساد کرتے تھے

الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۲۳﴾ قَالُوا تَقٰ سَمُوٰا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ

زمین میں اور نہ اصلاح کرتے تھے انہوں نے کہا قسمیں کھاؤ آپس میں اللہ کی کہبتہ شیخون ماریں گے ہم کہا

وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَمْلِكًا اَهْلِهٖ

پر اور گھروالوں پر اسکے پھر ضرور کہیں گے ہم وارث کو اس کے کو نہیں موجود تھے ہم ہلاکت کے وقت گھروالوں کی رائے

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَاَمَكْرُوْا مَكْرًا وَاَمَكْرُنَا مَكْرًا وَاَهْمَلَا

اور یقیناً ہم البتہ سچے ہیں اور تدبیر کی انہوں نے (برے) تدبیر اور تدبیر کی ہم نے تدبیر (اچھی) اور وہ نہیں

يَشْعُرُوْنَ ﴿۲۵﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ لَا اَنَّا

جانتے تھے پس دیکھ کیسا ہوا انجام تدبیر کا ان کی کہ ہم نے

دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۲﴾ فَبَلَكَ بِيُوتِهِمْ خَاوِيَةً

ہلاک کر دیا انہیں اور قوم کو ان کی سب کو پس یہ گھر ان کے خالی ہیں

بِمَا ظَلَمُوا إِيَّاكَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَخْلُمُونَ ﴿۵۳﴾ وَ

اس لیے کہ ظلم کیا انہوں نے یقیناً اس میں البتہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور

أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۴﴾ وَلَوْ طَارَ إِذْ

نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے تعویٰ کرتے اور (بھیجا ہم نے) لوٹو کو

قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۵﴾

جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ

کیا ضرور تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے سوائے عورتوں کے

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۵۶﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

بلکہ تم لوگ جہالت کرتے ہو پس نہ ہوا جواب قوم کا اس کی

إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ

مگر یہ کہ کہا انہوں نے نکال دو خاندان لوط کو اپنے گاؤں سے یقیناً یہ

أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۷﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ز

لوگ پاکیزہ بنتے ہیں پس نجات دی ہم نے اسے اور گھر والوں کو اس کے سوائے بیوی کے اس کی

قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿۵۸﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۗ

مقرر کیا ہم نے اُسے پیچھے رہنے والوں میں سے اور برسائی ہم نے ان پر (پتھروں کی) بارش

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۹﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ

پس بُری ہوئی بارش ڈرائے ہوؤں کی تو کہہ دے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہے

عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۰﴾

بندوں پر اس کے جنہیں اس نے چن لیا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک بناتے ہیں



الْحَجَرِ ۲۰

اَمِّنْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ

یا کس نے پیدا کئے ہیں آسمان اور زمین اور اتارا تمہارے لیے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَانْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

بادل سے پانی پھرا گئے ہم نے ساتھ اس کے باغیچے رونق والے

مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ

نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم لگاؤ درخت ان کے کیا کوئی خدا ہے ساتھ اللہ کے

بَلْ مُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿۱۱۱﴾ اَمِّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ

(نہیں) بلکہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور

جَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا ۙ جَعَلَ لَهَا رَواسِي ۙ وَجَعَلَ بَيْنَ

بنائیں درمیان ان کے نہریں اور بنائے اس کے لیے پہاڑ اور بنائے درمیان

الْبَحْرَيْنِ ۙ اِنْ جَزَاةٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ

دوسمندروں کے روک کیا کوئی خدا ہے ساتھ اللہ کے (نہیں) بلکہ اکثر ان میں سے

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱۲﴾ اَمِّنْ يُّحْيِي الْمَيِّتَ اِذَا دَعَا وَّ

نہیں علم رکھتے یا کون ہے جو قبول کرتا ہے (دعا) مفرط کی جبکہ وہ کہتا ہے اسے اور

يَكْشِفُ السُّوءَ ۙ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ۗ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ

دور کرتا ہے تکلیفیں اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین میں کیا کوئی خدا

مَعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيلاً ۗ مَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۱۳﴾ اَمِّنْ يَهْدِيكُمْ فِي

ہے ساتھ اللہ کے کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو یا کون ہے جو ہدایت دیتا ہے تم کو

ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۙ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيْحَ بُشْرًا

اندھیروں میں خشکی اور تری کے اور کون بھیجتا ہے ہوا میں خوشخبری کے طور

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ ۗ تَعَلَّى اللّٰهُ عَمَّا

پر آگے اپنی رحمت کے کیا کوئی خدا ہے ساتھ اللہ کے بلند ہے اللہ اس سے جسے

يُشْرِكُونَ ﴿۱۱۴﴾ اَمِّنْ يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ وَ مَنْ

وہ شریک بناتے ہیں یا کون ہے جو پہلی بار کرتا ہے پیدائش پھر دوبارہ کرتا ہے اسے اور کون ہے جو

يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ وَءَايَاتُهُ مَعَهُ اللَّهُ ۗ

رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے کیا کوئی خدا ہے ساتھ اللہ کے

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُفْرِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۵﴾ قُلْ لَا

توکدے لاؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچے تو کدے نہیں

يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ ۗ

جاننے وہ کہ جو آسمان اور زمین میں ہیں غیب سوائے اللہ کے اور

مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۶۶﴾ بَلْ إِذْ ذَكَرَ عِلْمُهُمْ

نہیں جانتے وہ کہ کب اٹھائے جاویں گے وہ بلکہ ختم ہو گیا ہے علم ان کا

فِي الْآخِرَةِ ۗ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۗ بَلْ هُمْ مِّنْهَا

بارہ میں آخرت کے بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے بلکہ وہ اس سے

عَمُونَ ﴿۶۷﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِذَا كُنَّا تُرَابًا

اندھے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور

أَبَاءُ وَّنَا أَنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿۶۸﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا

باپ دادا ہمارے کیا ضرور ہم البتہ نکالے جانے والے ہیں یقیناً یقیناً وعدہ دیا گیا ہمیں اس کا

نَحْنُ وَآبَاءُ وَّنَا مِن قَبْلُ ۗ إِن هَذَا إِلَّا سَاطِرٌ

ہمیں اور باپ دادا کو ہمارے پہلے سے نہیں ہے یہ مگر کہانیاں

الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۹﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

پہلوں کی تو کدے سیر کرو زمین میں پھر دیکھو کیسا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۷۰﴾ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَ

ہوا انجام مجرموں کا اور نہ غم کھا ان پر اور

لَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۷۱﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى

نہ ہو تنگی میں اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کب ہے

هَذَا الْوَعْدُ ۗ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۲﴾ قُلْ عَسَىٰ أَن

یہ وعدہ اگر ہو تم سچے تو کدے ممکن ہے کہ

۵۵۴

يَكُونُ رَدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۷﴾

ہو پیچھے لگا ہوا تمہارے بعض وہ جسے تم جلدی چاہتے ہو اور

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرْتُمُ

یقیناً رب تیرا البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر ویسے اکثران میں سے

لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

نہیں شکر کرتے اور یقیناً رب تیرا البتہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اپنے ان کے

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۳۹﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۴۰﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي

مگر کتاب بیان کرنے والی میں ہے یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی

إِسْرَائِيلَ يَلْ أَكْثَرِ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۴۱﴾

اسرائیل پر اکثر وہ لوگ جس میں اختلاف کرتے ہیں اور

إِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۲﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي

یقیناً یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے یقیناً رب تیرا فیصلہ کرے گا

بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۴۳﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

درمیان ان کے ساتھ اپنے حکم کے اور وہ عزت والا بت جاننے والا ہے پس بھروسہ کر

اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿۴۴﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ

اللہ پر یقیناً تو حق پر کھلے کے ہے یقیناً تو نہیں سنا سکتا مردوں کو

وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَدَ ۖ إِذَا دَاوُلُوا مُدِيرِينَ ﴿۴۵﴾

اور نہ تو سنا سکتا ہے بھروسہ کو پکار جبکہ وہ پھریں پیٹھ پھرتے ہوئے

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْحُمَىٰ عَنِ ضَلَّتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمِعُ

اور نہیں تو ہرگز راہ دکھانے والا اندھوں کو گمراہی سے ان کی نہیں تو سنا سکتا

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۴۶﴾ وَإِذَا دَاوَقَعُ

مگر اسے جو ایمان لانا ہے آیات پر ہماری پس وہ فرمانبردار ہیں اور جب واقع ہوگی

الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ

بات ان پر نکالیں گے ہم ان کے لیے جانور زمین سے

تُكَلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۳﴾

جو کلمے گا انہیں اس لیے کہ لوگ تھے آیات پر ہماری نہیں یقین رکھتے

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ

اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر جماعت میں سے ایک گروہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی

بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۴﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَقَالَ أَكْذِبْتُمْ

آیات کی ہماری پس وہ الگ الگ کئے جاویں گے یہاں تک کہ جب وہ آویں گے فرمایا گیا تکذیب کی تم نے

بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا مَّاذَا كُنْتُمْ

آیات کی میری حالانکہ احاطہ کیا تم نے ان کا علم سے یا کیا تھے تم

تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا

کرتے اور واقع ہوئی بات ان پر اس لیے کہ ظلم کیا انہوں نے پس وہ ہیں

يَنْطِقُونَ ﴿۸۶﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَئِلهَ لِيَسْكُنُوا

بات کریں گے کہ انہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے بنایا رات کوتا کہ وہ آرام پائیں

فِيهِ وَالتَّهَارِ مُبْصِرَاتٍ فِي ذَلِكَ لَا يَتْلَقُونَ

اس میں اور دن کو روشن یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں ان لوگوں کیلئے

يَوْمَئِذٍ ﴿۸۷﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَنْ فِي

جو ایمان رکھتے ہیں اور جس دن پھونکا جاوے گا بھل میں پس بھول جاویں گے وہ جو

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَ

آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں مگر جسے چاہے اللہ اور

كُلُّ آتَوَةٍ دَاخِرِينَ ﴿۸۸﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا

سب آویں گے اس کے پاس فرمانبردار ہو کر اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو گمان کرتا ہے تو انہیں

جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي

جھے ہوئے حالانکہ وہ چلیں گے چلنا بادلوں کا کاری کزی اللہ کی جس نے

أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِذْ دُرِّبَهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۸۹﴾ مَنْ جَاءَ

علم بنایا ہر چیز کو یقیناً وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اسکی جو تم کرتے ہو جو لاوے گا

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، وَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يَوْمِيذٍ

نیکی تو اس کے لیے بہتر (بدلہ) ہوگا اس سے اور وہ سمجھنا اس سے اس روز

أَمِنُونَ ﴿۹۰﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي

بے خوف ہوں گے اور جو لاوے گا بدی پس اونڈھے کئے جاویں گے چہرے ان کے

النَّارِ هَلْ تُجْرَدُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾ إِنَّمَا أُمِرْتُ

آگ میں نہیں بدلہ دینے جاؤ گے تم مگر اس کا جو تم عمل کرتے سوائے اسکے نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا

أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَ مَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِذْ

ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے وہ کہ جس نے حرام کیا ہے اسے اور اس کیسے ہر چیز ہے

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۲﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ،

اور حکم دیا گیا ہے کہ ہوں میں فرمانبرداروں میں سے اور یہ کہ میں پڑھوں قرآن

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ

پس جس نے ہدایت پائی پس سوائے اسکے نہیں کہ ہدایت پاوے گا وہ اپنے نفس کیلئے اور جو گمراہ ہوا تو تو کہہ دے

إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۹۳﴾ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِيكُمْ

سوائے اسکے نہیں کہ میں ڈرلنے والوں میں سے ہوں اور تو کہہ دے سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں عنقریب وہ دکھاویگا تم کو

أَيْتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾

پہنشنات پس تم پہچانو گے انہیں اور نہیں ہے رب تیرا ہرگز غافل اس سے جو تم کام کرتے ہو



سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

طَسْمَةً ۲ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۳ نَتَلَّوْا عَلَيْكَ

طَسْمَةً یہ آیات ہیں کتاب کھول کر بیان کرے والی کی ہم پڑھتے ہیں تجھ پر

مِنْ نَبِيٍّ مُّوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۴ اِنَّ

نمبر موسیٰ اور فرعون کی ساتھ حق کے ان لوگوں کیلئے جو ایمان رکھتے ہیں یقیناً

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلًا لِشِيْعًا يَسْتَضْعِفُ

فرعون نے سرکشی کی زمین میں اور اس نے بنائے باشندے اس کے کئی گروہ کرور کرتا تھا

طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ۵

ایک گروہ کو ان میں سے ذبح کرتا تھا بیٹوں کو ان کے اور زندہ رکھتا تھا عورتوں کو ان کی

اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۶ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ

یقیناً وہ تھا مفسدوں میں سے اور ہم چاہتے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو

اسْتَضْعَفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجَعْلَهُمْ اُمَّةً وَنَجَعْلَهُمْ

ضعیف سمجھے گئے تھے زمین میں اور بنا دیں ہم ان کو پیشوا اور بنا دیں ہم انہیں

الْوَارِثِيْنَ ۷ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيْ فِرْعَوْنَ

وارث اور طاقت دیں انہیں زمین میں اور دکھادیں ہم فرعون

وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۸

اور ہامان اور لشکروں کو ان کے ان کی طرف سے وہ جس سے تھے وہ ڈرتے

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِمِّ مُّوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۹ فَاِذَا اخْفَتِ

اور وحی کی ہم نے طرف والدہ موسیٰ کی کہ دودھ پلا اسے پس جب تو ڈرے

عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا

اس پر پس ڈال دے اسے دریا میں اور نہ ڈرو اور نہ غم کھا یقیناً ہم

رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاءَ عُلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۘ

لڑانے والے ہیں اسے طرف تیری اور بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے

فَأَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ

پس اٹھایا اسے خاندان فرعون نے تاکہ ہو وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۙ

یقیناً فرعون اور ہامان اور لشکر ان کے تھے خطا کار

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِي لِئِذَا دَلَا

اور کہا عورت نے فرعون کی (یہ) ٹھنڈک ہے آنکھ کی میرے لیے اور تیرے لیے نہ

تَقْتُلُوهُ بِعَاسِيٍّ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ

قتل کرو اسے قریب ہے کہ نفع دے ہمیں یا بناویں ہم اسے بیٹا اور وہ

لَا يَشْعُرُونَ ۙ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا ۖ إِن

نہیں سمجھتے تھے اور ہو گیا دل والدہ موسیٰ کا خالی یقیناً

كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَّ قُلُوبَهُمْ لَتَكُونُ

قریب تھی کہ وہ ظاہر کرے اسے اگر نہ مضبوط کرتے ہم دل کو اس کے تاکہ ہو وہ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۙ وَقَالَتِ لَأُخْتِيهِ قُصِيهِ رَبِّصْرَتْ

ایمانداروں میں سے اور اس نے کہا: بہن کو اس کی پیچھے پیچھے جائے پس اس نے دیکھا

بِهِ عَنِ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۙ وَحَرَّمَ نَاعِيَهُ

اسے دُور سے اور وہ نہیں سمجھتے تھے اور حرام کر دیں ہم نے اس پر

الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ

دائیاں پہلے سے پس کہا اس نے کیا آگاہ کروں میں تم کو ایک گھروالوں پر

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۙ فَرَدَدْنَاهُ

جو پرورش کریں اسکی تمہارے لیے اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں پس لوٹا دیا ہم نے اسے

إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ

طرف مال کے اس کی تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی اور نہ غم کھاوے اور تاکہ جان لے کر یقیناً

وَعَدَا اللّٰهُ حَقًّا ۚ وَلٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَمَّا

وعدہ اللہ کا سچ ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے اور جب

بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَاسْتَوَىٰ ۖ أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذٰلِكَ

وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور کامل ہوا دیا ہم نے اسے حکم اور علم اور اسی طرح

نَجَزَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَىٰ حِينٍ

ہم بدل دیتے ہیں محسنوں کو اور وہ داخل ہوا شہر میں بوقت

غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ۙ

غفلت باشندوں کے اکلے پس اس نے پائے اس میں دو آدمی آپس میں لڑتے ہوئے

هٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ ۖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَخَاثَهُ

یہ گروہ میں سے تھا اس کے اور یہ دشمنوں میں سے تھا اس کے پس فریاد کی اس سے

الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَّرَهُ

اس نے جو گروہ میں سے تھا اس کے خلاف اس کے جو دشمنوں میں سے تھا اس کے پس مٹکا مارا اسے

مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۗ

موسا نے پس نام لڑوایا اس کا کام کہا یہ کام سے ہے شیطان کے

إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

یقیناً وہ دشمن ہے گراہ کر نیوالا کھلا کھلا اس نے کہا اے رب میرے یقیناً میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر

فَاغْفِرْ لِيْ ۖ فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۷﴾

پس معاف فرما مجھے پس اس نے معاف کر دیا اسے یقیناً وہ ہی بہت بخشنے والا بہت رحم کر نیوالا ہے

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظٰهِرًا

اس نے کہا اے رب میرے اس لیے کہ انعام کیا تو نے مجھ پر پس ہرگز نہ ہوں گا میں مددگار

لِلْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۸﴾ فَاصْبِرْ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ

مجرموں کے لیے پس وہ صبح کو گیا شہر میں ڈرتا ہوا خبر لیتا ہوا

فَاذِ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

پس اچانک وہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے کل پکار رہا ہے اسے

قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۹﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ

کہ اس کو موسیٰ نے یقیناً تو البتہ گمراہ ہے کھلا کھلا پس جب اس نے ارادہ کیا

أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَى

کہ وہ پکڑے اسے کہ وہ دشمن تھا ان دونوں کا اس نے کہا اے موسیٰ

أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ بِإِذْنِ

کیا تو چاہتا ہے کہ قتل کرے مجھے جیسا کہ قتل کی تو نے ایک جان کل نہیں

تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ

چاہتا تو مگر یہ کہ ہو تو سرکش زمین میں اور نہیں چاہتا تو کہ

تَكُونَ مِنَ الْمُضِلِّينَ ﴿۲۰﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا

ہو تو اصلاح کرنیوالوں میں سے اور آیا ایک شخص بابل طرف سے

الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ آمَدُونَ بِكَ

شہر کی دوڑتا ہوا اس نے کہا اے موسیٰ یقیناً سردار مشورہ کرتے ہیں تیرے متعلق کہ

لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿۲۱﴾ فَخَرَجَ

قتل کریں تجھے پس نکل جا یقیناً میں ہوں تیرے خیر خواہوں میں سے پس وہ نکلا

مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ

اس سے ڈرتا ہوا خبر لینا ہوا اس نے کہا اے رب میرے نجات دے مجھے لوگوں

الظَّالِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى

ظالموں سے اور جب اس نے رخ کیا طرف مدین کی کہا قریب ہے

رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۲۳﴾ وَلَمَّا وَرَدَا مَاءَ

رب میرا کہ رہنمائی کرے میری درست راہ کو اور جب وہ وارد ہوا پانی پر

مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هُوَ

مدین کے پایا اس پر ایک گروہ لوگوں میں سے پلاتے تھے پانی اور

۵۶۱

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؟

پائیں در سے ان کے دو عورتیں تھامے ہوئے تھیں (اپنے جانور) (موسیٰ نے) کہا کیا حال ہے تمہارا

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّقَ الرَّعَاءُ سُدًّا وَأَبُونَا

دونوں عورتوں نے کہا نہیں ہم پانی بلاتیں یہاں تک کہ لوٹ جاویں چرواہے اور باپ ہمارا

شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿۲۳﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ

بوڑھا ہے بڑا پس اس نے پانی بلایا ان دونوں کے لیے پھر پھر گیا طرف سایہ کے پس کہا

رَبِّ رَبِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۲۴﴾ فَجَاءَتْهُ

اے رب میرے یقیناً میں اسکا جو تو اتارے طرف میری کوئی بھلائی محتاج ہوں پس آئی کے پاس

أَحَدٌ مِمَّا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ز قَالَتْ إِنَّ أَبِي

ایک عورت ان دونوں میں سے چلتی تھی شرم سے اس نے کہا یقیناً باپ میرا

يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءَهُ

بلاتا ہے تجھے تاکہ بدریں دے تجھے اجرا اس کا کہ بلایا تو نے پانی ہمارے لیے پس جب وہ آیا اسکے پاس

وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ ، قَالَ لَا تَخَفْ ، إِنَّ اللَّهَ نَجَّوْتُ مِنْ

اور اس نے بیان کیا اس پر ماجرا اس نے کہا نہ ڈر نجات پا گیا تو

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ إِحَدٌ مِمَّا يَأْتِيَنَّ اسْتَأْجِرُهُ

لوگوں ظالموں سے کہا ایک نے ان دونوں میں سے اے باپ ہمارے نوکر رکھ لے اسے

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾ قَالَ رَبِّي

یقیناً بہتر وہ شخص جسے تو نوکر رکھے قوی (اور) امانت دار ہے اس نے کہا یقیناً میں

أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي

چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تیرا ایک سے اپنی بیٹیوں میں سے ان دونوں میں سے اس (شرط) پر کہ تو نوکر کرے میری

ثَمَنِي جَجِجَ ، فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ، وَ

آٹھ برس پس اگر پورے کرے تو دس (برس) تو طرف سے تیری ہوگا اور

مَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

نہیں چاہتا میں کہ شنت ڈالوں تجھ پر ضرور پادے گا تو مجھے اگر چاہا اللہ نے

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۸﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيِّنَاتٍ وَبَيْنَتٌ أَيْمَانًا

نیکیوں میں سے اس نے کہا یہ عمدہ ہے درمیان میرے اور درمیان ہے تیرے جو کسی بھی

الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا

دونوں میعادوں میں سے میں پوری کروں تو نہ زیادتی ہوگی مجھ پر اور اللہ اس پر جو

نَقُولُ وَكَيْدٌ ﴿۲۹﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ

ہم کہتے ہیں ضامن ہے پس جب پوری کی موسیٰ نے میعاد اور چلا

بِأَهْلِيهِ أَسَىٰ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِيهِ

ساتھ اپنے گھر والوں کے اس نے دیکھی کنارہ سے طور کے آگ اس نے کہا اپنے گھر والوں کو

أَمْكُثُوا رَبِّي أَنسَتْ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ

ٹھہرو یقیناً میں نے دیکھی ہے آگ تاکہ میں لاؤں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر

أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۳۰﴾ فَلَمَّا

یا انگارہ آگ کا تاکہ تم تاپو پس جب آیا

أَتَمَّكَ نُودِيٍّ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ

اس کے پاس تو آواز دیا گیا کنارہ سے میدان دائیں کے زمین

الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يُمُوسَىٰ رَبِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ

بارک میں درخت سے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ رب

الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ

عالمین ہوں اور یہ کہ ڈال دے سونٹا اپنا پس جب اس نے دیکھا اسے ہلتا ہوا

كَأَنَّهُ جَانٌّ وَلِي مُدَبَّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يُمُوسَىٰ

گویا کہ وہ سانپ ہے پھر گیا پیٹھ پھیرتا ہوا اور نہ مڑ کر دیکھا (ہم نے کہا) اے موسیٰ

أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۗ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۳۲﴾ أَسْأَلُكَ يَدَكَ

آگے آ اور نہ ڈر یقیناً تو اس والوں میں سے ہے ڈال ہاتھ اپنا

فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ وَأَضْمُ

اپنے گریبان میں وہ نکلے گا سفید بغیر کسی بُرائی کے اور ملاے

۲۸

إِيَّاكَ جَنَّا حَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوكَ بُرْهَانِي

طرف اپنی بازو اپنا ڈرسے پس یہ دو دبلیں ہیں

مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ مَا اتَّخَذُوا قَوْمًا

طرف سے رب کے تیرے طرف فرعون اور سرداروں کے اسکے یقیناً وہ تھے لوگ

فَاسِقِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ

فاسق اس نے کہا کہ رب میرے یقیناً میں نے قتل کیا تھا ان میں سے ایک نفس پس ڈرتا ہوں کہ وہ

يَقْتُلُونِ ﴿۳۳﴾ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْتُهُ

تل کر دوں گے مجھے اور بھائی میرا ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں پس بھیج اسے

مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي زَيْنًا أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿۳۴﴾ قَالَ

ساتھ میرے دو دینے والا تصدیق کرے میری یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ کذب کریں گے میری۔ کہا

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا

مزدور کریں گے مضبوط ہم بازو تیرا ساتھ بھائی کے تیرے اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے دلیل پس نہ

يَصْلُوٰنَ إِلَيْكُمَا ۖ بَايِعْتُنَا ۖ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا

پہنچیں گے طرف تم دونوں کی ساتھ ہماری آیات کے تم دونوں اور وہ جنہوں نے پیروی کی تم دونوں کی

الْغٰلِبُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا

غالب آنے والے ہو پس جب آیا ان کے پاس موسیٰ ساتھ آیات ہماری کے کھلی کھلی کے انہوں نے کہا

مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا

نہیں ہے یہ مگر جادو جھوٹ بنایا ہوا اور نہیں سنا ہم نے یہ اپنے باپ دادا

الْأَوَّلِينَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْمُدَىٰ

پہلوں میں اور کہا موسیٰ نے رب میرا خوب جانتا ہے اسے جو لایا ہے ہدایت

مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا

پاس سے اس کے اور وہ کہ ہو گا جس کے لیے انجام (آخری) گھر کا یقیناً بات یہ ہے کہ

يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَمَا

نہیں کامیاب ہوتے ظالم اور کہا فرعون نے اے سردارو نہیں

لَقَدْ

عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ آلِهِ غَيْرِي، فَأَوْقَدِي يَهَامُنْ

جانتا میں تمہارے لیے کوئی خدا سوائے میرے پس آگ جلا میرے لیے اسے یہا مان

عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى آلِهِ

مٹی پر پس بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانکوں طرف معبود

مُوسَى، وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿۳۱﴾ وَاسْتَكَبَرَهُو

موسیٰ کے اور یقیناً میں البتہ گمان کرتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے اور تکبر کیا اس نے

وَجُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا

اور لشکروں نے اس کے زمین میں نا حق اور خیال کیا انہوں نے کہ وہ طرف ہماری

لَا يُرْجَعُونَ ﴿۳۲﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي

نہیں لوٹائے جائیں گے پس پکڑا ہم نے اسے اور لشکروں کو اس کے پھر پھینکا ہم نے انہیں

الْيَمِّ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾ وَ

سمندر میں پس دیکھ کس طرح ہوا انجام ظالموں کا اور

جَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعُونَ إِلَى الْتَارِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

بنایا ہم نے انہیں پیشوا وہ بلا تے تھے طرف آگ کی اور بروز قیامت

لَا يُنصَرُونَ ﴿۳۲﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً،

نہ مدد دیتے جائیں گے وہ اور پیچھے کی ہم نے ان کے اس دُنیا میں لعنت

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا

اور بروز قیامت وہ بڑی حالت والوں میں سے ہوں گے اور یقیناً یقیناً دی ہم نے

مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہلاک کیں ہم نے توہیں پہلی

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾

دلیلیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت پڑیں

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى

اور نہ تھا تو کنارہ مغربی پر جبکہ بھیجا ہم نے طرف موسیٰ کی

الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۳۵﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا

حکم اور نہ تھا تو گواہوں میں سے لیکن ہم نے پیدا کیے

قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي

قروں میں بس لمبی ہو گئی ان پر عمر اور نہ تھا تو رہنے والا

أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلَوَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، وَلَكِنَّا كُنَّا

اہل مدین میں کر پڑھتا تو ان پر آیات ہماری لیکن ہم ہیں

مُرْسَلِينَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَ

بھیجنے والے اور نہ تھا تو کنارہ پر طور کے جب پکارا، ہم نے و

لَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ

لیکن بطور رحمت طرف سے تیرے رب کی تاکہ ڈرانے تو ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس

مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۷﴾ وَلَوْ

کوئی ڈرانے والا پہلے تجھ سے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور مبادا

لَأَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

پہنچے ان کو کوئی مصیبت بسبب ان کے کر آگے بھیجا ہاتھوں نے ان کے

فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

تو وہ کہیں اے رب ہمارے کیوں نہیں بھیجا تو نے طرف ہماری کوئی رسول پس پیروی کرتے ہم

آيَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

آیات کی تیرے اور ہوتے ہم مومنوں میں سے پس جب آیا ان کے پاس

الْحَقُّ مِن عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا آؤدِي مِثْلَ مَا آؤدِي

حق پاس سے ہمارے کہا انہوں نے کیوں نہیں وہ دیا گیا مانند اس کی جو دیا گیا

مُوسَىٰ، أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آؤدِي مِثْلَ مَا آؤدِي مِثْلَ

موسیٰ کو کیا نہیں کفر کیا تھا انہوں نے اس کا جو دیا گیا موسیٰ کو

قَبْلُ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ

پہلے سے کہا انہوں نے دو جادوگر ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ اور کہا انہوں نے یقیناً ہم سب کے

كُفِرُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ
 منکر ہیں تو کہہ پس لاؤ کوئی کتاب پاس سے اللہ کے جو

أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۰﴾
 زیادہ ہدایت دینے والی ہوں دونوں (قرآن و تورات) سے کہیں اتباع کروں جس کی اگر ہو تم سچے

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ
 پس اگر نہ قبول کریں تیری بات تو جان لے کہ سوائے اے کے نہیں کو وہ اتباع کرتے ہیں

أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِخَيْرِ
 اپنی خواہشات کی اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی بغیر

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنْ لَّا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾
 ہدایت کے طرف سے اللہ کی یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیتا لوگوں ظالموں کو

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۲﴾ الَّذِينَ
 اور یقیناً یقیناً پے درپے کئی ہم نے انہیں بات تاکہ وہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ کہ

اتَّبَعُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۳﴾
 دی ہم نے انہیں کتاب پہلے اس (قرآن) کے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں

وَإِذَا يَثُلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ
 اور جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر یقیناً وہ حق ہے

مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۴۴﴾ أُولَٰئِكَ
 طرف سے رب کی ہمارے یقیناً ہم تھے پہلے اس کے فرمانبردار یہ لوگ

يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَإِذْ رَأَوْنَا
 دیتے جاویں گے اجر اپنا دو دفعہ اس لیے کہ صبر کیا انہوں نے اور وہ دور کرتے ہیں

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمَا زَكَّنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۴۵﴾ وَ
 ساتھ نیکی کے بدی کو اور اس سے جو دیا ہم نے انہیں خرچ کرتے ہیں اور

إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا عَمَلْنَا
 جب سنتے ہیں لغوات کنہار کشتی کرتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں ہمارے لیے اعمال ہیں ہمارے

۵۸

۵۹

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ زَسَلْمٌ عَلَيْكُمْ وَلَا نَبْتَعِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۶﴾

اور تمہارے لیے اعمال ہیں تمہارے سلام ہو تم پر نہیں چاہتے ہم جاہلوں کو

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۷﴾ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ

یقیناً تو نہیں ہدایت دیتا جسے تو چاہے لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے

الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُفُ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوْلَمْ نَمُكِّنْ

چاہتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو اور کہا انہوں نے اگر ہم اتباع کریں

لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ ثُمَّ رُتُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ

ان کے لیے حرم امن والے میں کہ لائے جاتے ہیں طرف اس کی پھل ہر چیز کے

رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۸﴾ وَ

بطور رزق کے حضور سے ہمارے اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے اور

كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ

کتنی ہی ہلاک کی ہیں بستیوں جو اتر گئی تھیں اپنے گزارہ پر پس

مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَ

گھر ہیں ان کے نہیں بسائے گئے بعد ان کے مگر کم اور

كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۹﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ

ہم ہی باقی رہنے والے ہیں اور نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا

الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ سُوْلًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ

بستیوں کو یہاں تک کہ مبعوث کرے ان (بستیوں) کے مکرزیں رسول جو پڑھے ان پر

أَيَّتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿۶۰﴾

آیت ہماری اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر جبکہ رہنے والے اس کے ظالم ہوں

وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاءُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

اور جو دینے گئے ہو تم کوئی چیز سوسامان ہے زندگی دنی کا اور

وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاءُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

اور جو دینے گئے ہو تم کوئی چیز سوسامان ہے زندگی دنی کا اور

زَيْنَتُهَا. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۱﴾

زینت ہے اسکی اور جو پاس ہے اللہ کے زیادہ بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے کیا پھر نہیں عقل کرو گے تم

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ

کیا میں جو شخص کو وعدہ کیا ہے ہم نے اس سے وعدہ اچھا پس وہ ملنے والا ہے اسے مانند اس شخص کی

مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کرمساں دیا ہم نے اسے مسلمان زندگی اور لی کا پھر وہ بروز قیامت

مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ﴿۶۲﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ

حاضر کیے ہوؤں میں سے ہو گا اور جس دن وہ پکارے گا انہیں پس کہے گا کہاں ہیں

شُرَكَاءِ يَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۶۳﴾ قَالَ الَّذِينَ

شریک میرے وہ جن کو تھے تم گمان کرتے کہیں گے وہ لوگ کہ

حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا

ثابت ہو گئی ان پر بات اسے رب ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جن کو گمراہ کیا ہم نے

أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا

ہم نے گمراہ کیا ان کو جیسا کہ گمراہ ہوئے ہم ہم بیزاری ظاہر کرنے میں طرف تیری تھے یہ

إِيَّانَا يَحْبُدُونَ ﴿۶۴﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ

ہماری عبادت کرتے اور کہا جاوے گا پکارو اپنے شریکوں کو

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ

پس وہ بلائیں گے انہیں پس نہ وہ جواب دیں گے انہیں اور وہ دیکھیں گے عذاب

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿۶۵﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

کاش کروہ ہوتے ہدایت پاتے اور جس دن وہ پکاریں گے انہیں

فَيَقُولُ مَاذَا جِئْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۶﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ

پس کہے گا کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو پس پوشیدہ ہو جاویں گی ان پر

الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۶۷﴾ فَأَمَّا مَنْ

خبریں اس دن پس وہ نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے پس جس نے

تَابَ وَامِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ

توبہ کی اور ایمان لایا اور کی نیکی پس قریب ہے کہ وہ ہو

الْمُفْلِحِيْنَ ﴿۶۸﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ

کامیابوں میں سے اور رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰی عَمَّا

نہیں ہے ان کے لیے اختیار پاک ہے اللہ اور بلند ہوا اس سے جو

يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۹﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا

وہ شریک بناتے ہیں اور رب تیرا جانتا ہے اسے جو چھپاتے ہیں سینے ان کے اور جو

يُعْلِنُوْنَ ﴿۷۰﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِي

وہ ظاہر کرتے ہیں اور وہ اللہ ہے نہیں کوئی خدا سوائے اسکے اس کیلئے ہے سب تعریف

الْاٰوَّلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْحُكْمُ ۗ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۷۱﴾

دنیا اور آخرت میں اور اس کے لیے ہے حکومت اور طرف اسکی تم لوٹائے جاؤ گے

قُلْ اَدْعٰۤیْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ الْاَيْلَ سَرْمَدًا اِلٰی

تو کہدے بتاؤ تو سہی اگر کر دے اللہ تم پر رات ہمیشہ

یَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يٰۤاَتِيْكُمْ بِضِيَاۤءٍ ۗ

روز قیامت کونسا خدا سوائے اللہ کے لاوے گا تمہارے پاس روشنی

اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿۷۲﴾ قُلْ اَدْعٰۤیْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ

کیا پس نہیں تم سنتے تو کہدے بتاؤ تو سہی اگر کر دے اللہ

عَلَیْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰی یَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ مِّنْ اِلٰهٍ

تم پر دن ہمیشہ تمہارے پاس رات قیامت کونسا خدا ہے

غَيْرِ اللّٰهِ يٰۤاَتِيْكُمْ بِلَیْلِ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۗ اَفَلَا

سوائے اللہ کے لاوے گا تمہارے پاس رات کہ آرام کر دو تم اس میں کیا پس نہیں

تُبْصِرُوْنَ ﴿۷۳﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ

تم دیکھتے اور اپنی رحمت سے اس نے بناٹے تمہارے لیے رات اور دن

لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تاکہ آرام پاؤ تم اس میں اور تاکہ چاہو تم فضل اس کا اور تاکہ تم

تَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي

شکر کرو اور جس دن پکارے گا انہیں پس کہے گا کہاں ہیں شریک میرے

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۴﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

وہ کہ جن کو تھے تم گمان کرتے اور نکالیں گے ہم ہر امت میں سے

شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّنَا

ایک گواہ پھر کہیں گے ہم لاؤ اپنی دلیل پس وہ جان لیں گے کہ

الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَكَانُوا يُفْتَرُونَ ﴿۴۵﴾ إِنَّ

حق اللہ کے لیے ہے اور کھویا جاوے گا ان سے جو تھے وہ افترا کرتے یقیناً

قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ

قارون تھا قوم میں سے موسیٰ کی پس زیادتی کی اس نے ان پر اور دیا تھا ہم نے

مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَىٰ

اسے خزانوں میں سے اس قدر کہ یقیناً کنجیاں اس کی البتہ تنھکا دیتی تھی جماعت

الْقُوَّةَ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا

طاقت والی کو جب کہا اسے قوم نے اس کی نہ کرے یقیناً اللہ نہیں

يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۴۶﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ

پسند کرتا کرنے والوں کو اور طلب کر اس میں جو دیا تجھے اللہ نے گھر

الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

آخری اور نہ بھول حصہ اپنا دنیا سے اور احسان کر جیسا کہ

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ

احسان کیا اللہ نے تجھ پر اور نہ چاہ فساد زمین میں یقیناً

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۷﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ

اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو اس نے کہا سوائے اسکے نہیں کہ میں دیا گیا ہوں وہ (مال)

عَلِمَ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ

جو علم کے جو سب سے ہاں ہے کیا نہیں اس نے جانا کہ اللہ نے یقیناً ہلاک کیا

قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ

پہلے اس کے قوموں میں سے انہیں کہ جو زیادہ سخت تھے اس سے قوت میں اور زیادہ تھے

جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۹﴾ فَخَرَجَ

جمعیت میں اور نہ پوچھے جائیں گے متعلق اپنے گناہوں کے مجرم بس وہ نکلا

عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ

اپنی قوم پر اپنی زینت میں کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَةً لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ ۚ

زندگی دنیوی اسے کاش ہو ہمارے لیے مانند اس کی جو دیا گیا قارون

إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۹۰﴾ وَقَالَ الَّذِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

یقیناً وہ البتہ بڑے نصیب والا ہے اور کہا ان لوگوں نے جو دینے گئے علم

وَيَلِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا

افسوس تم پر ثواب اللہ کا ہے بہتر اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور کی نیکی اور نہیں

يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۹۱﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۚ

کھلائی جاتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو پس دھنسا دیا ہم نے اُسے اور گھر کو اس کے زمین میں

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا

پس نہ تھی اس کیلئے کوئی جماعت کہ وہ مدد کرتے اس کی بجز اللہ کے اور نہ

كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿۹۲﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتُّوا

تھا وہ مدد طلب کرنے والوں میں سے اور صبح کی ان لوگوں نے جنہوں نے تمنا کی تھی

مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ

مرتبہ کی اس کے کل کہتے تھے تعجب ہے اللہ کشادہ کرتا ہے

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا

رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے اگر نہ ہوتا

أَنْ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاءُ وَيَكَاثُهُ لَا يُفْلِحُ

یہ کہ احسان کیا اللہ نے ہم پر البتہ ضا دیتا ہمیں تعجب ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے

الْكَافِرُونَ ﴿۸۳﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلَهَا لِلَّذِينَ

کافر کا گھر پہنچلا ہم بناتے ہیں اسے ان لوگوں کے لیے جو

لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ

نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ فساد اور انجام

لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۴﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَد

متقین کے لیے ہے جو شخص لائے گا نیکی تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہے اس سے اور

مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ

جو شخص لائے گا بدی تو نہ بدلہ دیا جائیگا ان لوگوں کو جنہوں نے کیں بدیاں

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

مگر اس کا جو تجھے وہ کرتے یقیناً وہ جس نے فرض کیا تجھ پر

الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ

قرآن البتہ لو مانے والا ہے تجھے طرف مگر کی تو کہہ رب میرا زیادہ جانتا ہے اسے جو لایا

بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۸۶﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو

ہدایت اور اسے جو گمراہی کھلی کھلی میں ہے اور نہ تھا تو امید رکھتا

أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ فَلَا

کہ اتاری جاوے گی طرف تیری کتاب مگر رحمت طرف سے رب کی تیرے پس نہ

تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ

ہوتو ہرگز مددگار کافروں کا اور نہ روکیں وہ تجھے

آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَآذَعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَ

آیات سے اللہ کی بعد اس کے کہ اتاری گئیں طرف تیری اور بلا طرف اپنے رب کی اور

لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۸﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

نہ ہوتو ہرگز مشرکوں میں سے اور نہ پکار ساتھ اللہ کے کوئی خدا

مفاد
الثبوت

أَخْرَجَهُم مِّنْهَا لَمَّا نَهَاوْنَهُمْ حُلَّ شَيْءٍ مَّا كَانَتْ آيَاتِهِمْ لَخَالِكَهَا لَسُوءًا وَّ كِبْرًا ۚ

دوسرا نہیں کوئی مٹا سوائے اسکے ہر چیز ہلاک ہونیوالی ہے سوائے ذات کے اس کی

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۹﴾

اس کیلئے حکومت ہے اور طرف اسکی لوٹانے جاؤ گے تم

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ﴿۲﴾

الضلام میں کیا گمان کیا لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیتے جاویں گے اس پر کہ وہ کہیں کہ ہم

أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خِزْيٌ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا عَاكِفِينَ ﴿۳﴾

ایمان لائے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے اور یقیناً یقیناً آزمایا ہم نے ان کو جو

قَبْلَهُمْ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنْ دُونِ اللَّهِ يُشْرِكُونَ بِهِ ۚ

پہلے تھے ان سے پس ضرور جان لے گا اللہ انہیں جنہوں نے پیچ بولا اور البتہ ضرور جان لیگا وہ

الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ﴿۴﴾

جھوٹوں کو کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو کرتے ہیں بدیاں

أَن يَسْبِقُونَهُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ﴿۵﴾

کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے برابے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں جو شخص کہے امید رکھتا

لِقَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶﴾

ملاقات کی اللہ کی تو یقیناً میعاد اللہ کی البتہ آنے والی ہے اور وہ خوب سننے والا

الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ﴿۷﴾

خوب جاننے والا ہے اور جس نے جہاد کیا تو سوائے اسکے نہیں کہ وہ جہاد کرتا ہے اپنی جان کے لیے

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۹﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

یقیناً اللہ بے پوراہ ہے تمام دنیا سے اور وہ لوگ جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ

اور کیں نیکیاں البتہ دور کر دیں گے ہم ان سے بریائی ان کی اور

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾ وَوَصَّيْنَا

البتہ بدل دیں گے ہم انہیں اچھا اس سے جو تھے وہ کرتے اور تاکید کی حکم دیا ہم

الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ

نے انسان کو ماں باپ کے متعلق نیکی کا اور اگر جھگڑیں وہ تجھ سے تاکہ شریک بنائے تو

بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

ساتھ میرے اسے کہ نہیں تھے جس کا کوئی علم نوزد اطاعت کیجیو ان کی طرف میری لوٹنا ہے تم کو

فَأَنْتُمْ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ

پس میں آگاہ کروں گا تم کو اس سے کہ تھے تم عمل کرتے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿۱۲﴾ وَمِنَ

کیں نیکیاں البتہ ضرور داخل کریں گے ہم انہیں نیکیوں میں اور بعض

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ

لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر پس جب اُسے ایذا دی گئی بارہ میں اللہ کے

جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ

قرار دیا عذاب کو لوگوں کے مانند عذاب کے اللہ کے اور یقیناً اگر آئے مدد

مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ

طرف سے رب کی تیرے ضرور وہ کہیں گے یقیناً ہم تھے ساتھ تمہارے کیا نہیں ہے اللہ

بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ

بہت جاننے والا ہے جو سینوں میں ہے تمام دنیا کے اور جان لے گا اللہ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿۱۴﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

انہیں جو ایمان لائے اور البتہ جان لے گا منافقوں کو اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے

كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلِنَحْمِلْ

کفر کیا ان کو جو ایمان لائے پیروی کرو راہ ہماری کی اور اٹھائیوں گے ہم

خَطِيئَتَهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

غلطیاں تمہاری حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے غلطیاں ان کی کچھ بھی

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۳ وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ

یقیناً وہ البتہ جھوٹے ہیں اور ضرور وہ اٹھادیں گے اپنے بوجھ اور بوجھ ساتھ

أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا

اپنے بوجھوں کے اور ضرور وہ پوچھے جائیں گے بروز قیامت اس سے جو تھے وہ

يَفْتَرُونَ ۝۱۴ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ

افترا کرتے اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے نوح کو طرف قوم کے اس کی پس وہ ٹھہرا

فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ

ان میں ہزار سال بجز پچاس سال کے پس پکڑا انہیں

الطُّوفَانَ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝۱۵ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ

طوفان نے جبکہ وہ ظالم تھے پس نجات دی ہم نے اُسے اور

السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝۱۶ وَإِذْ بَرْهَيْمُ

کشتی والوں کو اور بنایا ہم نے انہیں ایک نشان تمام دنیا کے لیے اور (بھیجا) ابراہیم کو

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

جب کہا کرنے اپنی قوم کو عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے یہ بہتر ہے

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۷ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے سوائے اسکے نہیں کرتے عبادت کرتے ہو سوائے

اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ

اللہ کے بتوں کی اور بناتے ہو تم جھوٹ یقیناً وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

سوائے اللہ کے نہیں قدرت رکھتے وہ تمہارے لیے رزق کی پس طلب کرو

عِنْدَ اللَّهِ الرَّزْقُ وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ

پاس سے اللہ کے رزق اور عبادت کرو اس کی اور شکر کرو اس کا طرف اس کی

تُرْجَعُونَ ﴿۱۸﴾ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمٌ مِّنْ

تم لوٹائے جاؤ گے اور اگر تم تکذیب کرو تو یقیناً تکذیب کی قوموں نے

قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۱۹﴾ أَوَّ

پہلے تم سے اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا کھلا کھلا کیا

لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ

نہیں دیکھا انہوں نے کہ کس طرح ابتداء کرتا ہے اللہ پیدائش کی پھر دوبارہ کرے گا اسے یقیناً

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۲۰﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

یہ اللہ پر آسان ہے تو کہو سفر کرو زمین میں

فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ

پھر دیکھو کس طرح شروع کی پیدائش پھر اللہ پیدا کرے گا

النَّشْأَةَ الْأُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۱﴾

پیدائش پھیلے یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ

عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اور طرف اس کی

تُقَلَّبُونَ ﴿۲۲﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

تم پھیرے جاؤ گے اور نہیں تم ہرگز عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ

السَّمَاءِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۲۳﴾

آسمان میں اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ مددگار

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آیات کا اللہ کی اور ملنے کا انکے یہ لوگ

يَسْئَلُونَ مِنْ رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۴﴾

نا امید ہو گئے رحمت سے میری اور یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک

۲۹

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ

پس نہ تھا جواب توہم کا اس کی مگر بیکر کہا انہوں نے قتل کروو اسے یا

حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

جلا دو اسے پس نجات دی اُسے اللہ نے آگ سے یقیناً اس میں

لَايَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۵﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم

البتہ نشان ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور کہا اس نے سوائے اسکے نہیں کرنا یہ پل تم نے

مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ

سوائے اللہ کے بُت محبت کے طور پر آپس میں زندگی

الدُّنْيَا، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

دول میں پھر بروز قیامت انکار کریگا بعض تمہارا بعض کا

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا رَّوَّاءُ كُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم

اور لعنت کریگا بعض تمہارا بعض پر اور ٹھکانا تمہارا آگ ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارے

مِّن تَصْرِيحٍ ﴿۲۶﴾ فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ

لیے کوئی مددگار پس ایمان لایا اس پر لوط اور کہا اس نے یقیناً میں ہجرت کرنا والا ہوں

إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ وَوَهَبْنَا

طرف اپنے رب کی یقیناً وہ ہی عزت والا حکمت والا ہے اور بخشا ہم نے

لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ

اسے اسحق اور یعقوب اور بنائے ہم نے اولاد میں اس کی نبوت

وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي

اور کتاب اور دیا ہم نے اُسے اجر اس کا دنیا میں اور یقیناً وہ

الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۸﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

آخرت میں البتہ نیکوں سے ہوگا اور (بھیجا ہم نے) لوط کو جب اُن نے کہا اپنی قوم کو

إِنكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ

یقیناً تم البتہ کرتے ہو بے حیائی نہیں پہلے ہوا تم سے اس میں

وقالوا

أَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ ۗ [۶۱] أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ

کوئی نہ تھا دنیا میں سے کیا ضرور تم آتے ہو مردوں کے پاس اور

تَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيِكُمُ الْمُنْكَرَ

کاٹتے ہو راستہ اور کرتے ہو اپنی مجلس میں بات ناپسندیدہ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا

پس نہ تھا جواب قوم کا اس کی مگر یہ کہ کہا انہوں نے لاؤ ہمارے پاس

بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۗ [۶۲] قَالَ رَبِّ

عذاب اللہ کا اگر ہے تو سچوں میں سے اس نے کہا اے رب میرے

انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۗ [۶۳] وَكَمَا جَاءَتْ

مدد کر میری بمقابل لوگوں مفسدوں کے اور جب لائے

رُسُلَنَا بِزَهْمِمْ بِالْبُشْرَىٰ لَقَالُوا إِنَّا مُمْلِكُوا أَهْلَ

بھیجے ہوئے ہمارے ابراہیم کے پاس خوشخبری انہوں نے کہا یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں باشندوں کو

هَذِهِ الْقَرْيَةَ، إِنْ أَهْلَمَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۗ [۶۴] قَالَ إِنْ

اس بستی کے یقیناً باشندے اس کے ہیں ظالم اس نے کہا یقیناً

فِيهَا لُوطًا ۗ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ

اس میں لوط ہے انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں انہیں جو اس میں ہیں ضرور ہی ہم نجات دیں گے

وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ ۗ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۗ [۶۵] وَ

اُسے اور گھروالوں کو اسکے سوائے بیوی کے اس کی ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں اور

لَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ

جب کہ آئے بھیجے ہوئے ہمارے لوط کے پاس بڑا گناہ اُسے اور تنگ ہوا ان سے

ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُواكَ

دل میں اور کہا انہوں نے نہ ڈر اور نہ غمگین ہو یقیناً ہم نجات دینے والے ہیں تجھے

وَأَهْلِكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۗ [۶۶] إِنَّا

اور گھروالوں کو تیرے سوائے بیوی کے تیری ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں یقیناً ہم

۲۹

مُنزَلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْرًا مِّن

اتارنے والے ہیں باشندوں پر اس بستی کے عذاب

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا

آسمان سے اس لیے کہ ہیں وہ فسق کرتے اور یقیناً چھوڑا ہم نے اس سے

آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۶﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ

ایک نشان گھلا گھلا لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں اور (بھیجا ہم نے) مدین کی بھانڈی ان کا

شُعَيْبًا، فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاذْجُوا الْيَوْمَ

شعیب پس اس نے کہا اے قوم میری عبادت کرو اللہ کی اور امید کرو روز

الْآخِرِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۲۷﴾ فَكَذَّبُوهُ

آخر کی اور نہ فساد کرو زمین میں مفسدین کو پس تکذیب کی انہوں نے

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

اچھی پس پکڑا انہیں زلزلے سے ہیں ہو گئے وہ اپنے گھر میں

جُثْمِينَ ﴿۲۸﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن

گھٹنوں کے بل اور ہم نے ہلاک کیا عاد اور ثمود کو اور یقیناً ظاہر ہیں تمہارے لیے بعض

مَسْكِنِهِمْ فَوَزَّيْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ

گھر ان کے اور خوبصورت کر کے دکھائے تھے انہیں شیطان نے کام ان کے

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۲۹﴾

پس روک دیا اس نے انہیں (سیدھی) راہ سے اور تھے وہ دیکھنے والے

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ

اور قارون اور فرعون اور ہامان کو اور یقیناً یقیناً لایا انکے پاس موسیٰ

بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا

کھلے دلائل پس تکبر کیا انہوں نے زمین میں اور نہ تھے وہ

سَابِقِينَ ﴿۳۰﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ، فَمِنْهُمْ مَّن

انکے بڑھنے والے پس ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے بوجھ انکے گناہ کے پھر بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ

بیمچا ہم نے ان پر پتھراؤ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ پکڑ لیا ان کو

الصَّيْحَةَ، وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، وَمِنْهُمْ

سخت آواز نے اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ وحسا دیا ہم نے انہیں زمین میں اور بعض ان میں سے

مَنْ أَعْرَقْنَا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ

ایسے ہیں کہ غرق کر دیا ہم نے انکو اور نہ تھا اللہ کہ ظلم کرے ان پر ولکن

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۱﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِذْ

سوائے اللہ کے دوست مانند مثال۔ مگڑی کی ہے

اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ

بنایا جس نے گھر اور یقیناً سب سے کمزور گھر گھر ہے

الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

مگڑی کا کاش ہوں وہ جانتے یقیناً اللہ جانتا ہے اسے

مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ

جسے وہ پکارتے ہیں سوائے اس کے کچھ بھی اور وہ عزت والا

الْحَكِيمُ ﴿۳۳﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، وَ

حکمت والا ہے اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے اور

مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۳۴﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ دُ

نہیں سمجھتے انہیں مگر جاننے والے پیدا کیا اللہ نے آسمان اور

الْأَرْضَ بِالْحَقِّ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾

زمین کو سادہ حق کے یقیناً اس میں البتہ نشان ہے مومنوں کے لیے



أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

پڑھ جو وحی کیا گیا طرف تیری کتاب میں اور قائم کر نماز

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناپسندیدہ بات سے اور البتہ ذکر اللہ کا بہت

أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ

بڑی بات ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور نہ جھگڑو اہل

الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

کتاب سے مگر سافطراکے کہ جو زیادہ بہتر ہو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے

وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ

اور کہو ایمان لائے ہم اس پر جو اُتارا گیا طرف ہماری اور اُتارا گیا طرف تمہاری اور

إِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَكَذَلِكَ

معبود ہمارا اور معبود تمہارا ایک ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں اور اس طرح

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

اُتاری ہم نے تیری طرف یہ کتاب پس وہ لوگ کہ دی ہم نے جنہیں کتاب

يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ

ایمان لاتے ہیں اس پر اور بعض ان لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور نہیں انکار کرتے

بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكٰفِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ

آیات کا ہماری سوائے کافروں کے اور نہ تھا تو پڑھتا پہلے اس کے کوئی

كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أَلَا رَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۹﴾

کتاب اور نہ لکھتا تھا اسے دائیں ہاتھ سے پنے تب تو ضرور شک کرتے باطل والے

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ

رنہیں بلکہ وہ آیات ہیں کھلی کھلی سینوں میں ان لوگوں کے جو دیکھے گئے علم

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۴۰﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ

اور نہیں انکار کرتے آیات کا ہماری مگر ظالم اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اُتاری گئیں

عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَ

اس پر آیات طرف سے رب کے ایک تو کدے سوائے ان کے نہیں کہ آیات پاس ہیں اللہ کے اور

إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

سوائے ان کے نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا کیا نہیں کافی ہوا انہیں کہ ہم نے اتاری تجھ پر

الْكِتَابِ يُثَلَّى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا

یہ کتاب پڑھی جاتی ہے ان پر یقیناً اس میں البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

داسطے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں تو کدے کافی ہے اللہ درمیان میرے اور درمیان تمہارے

شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ

گواہ وہ جانتا ہے اسے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور وہ لوگ جو

آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ لَا أُولِيكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۚ

ایمان لائے باطل پر اور انکار کیا اللہ کا یہ لوگ ہی کھانا پانے والے ہیں

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ

اور جلدی طلب کرتے ہیں وہ تجھ سے عذاب اور اگر نہ ہوتی میعاد مقررہ البتہ آتا ان کے پاس

الْعَذَابُ ۗ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

عذاب اور البتہ آوے گی ان کے پاس (میعاد مقررہ) اچانک اور وہ نہ جانتے ہوں گے

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ

جلدی طلب کرتے ہیں تجھ سے عذاب اور یقیناً جسم ضروری گھیرنے والی ہے

بِالْكُفْرِينَ ۚ ۗ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ۗ وَ

کافروں کو جس دن ڈھانکے گا انہیں عذاب اوپر سے ان کے اور

مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

نیچے سے پاؤں کے ان کے اور فرمائے گا چکھو جو تھے تم کرتے

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ

اے بندو میرے وہ جو کہ ایمان لائے ہو یقیناً زمین میری وسیع ہے پس میری ہی

فَاعْبُدُونِ ۱۰۸ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا

سو عبادت کرو ہر نفس بچھنے والا ہے موت کا مزا پھر طرفہ ہماری

تُرْجَعُونَ ۱۰۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تم لوٹائے جاؤ گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیں نیکیاں

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ضرور کچھ دیں گے ہم انہیں جنت میں سے جو باروں میں بہتی ہوں گی نیچے ان کے

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۱۱۰ الَّذِينَ

نہریں رہ پڑنے والے ہیں ان میں کیا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا ان کا جنوں نے

صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۱۱۱ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا

مہر کیا اور رب پر اپنے وہ توکل کرتے ہیں اور کتنے ہی جاندار ہیں نہیں

تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ

اٹھاتے رزق اپنا اللہ رزق دیتا ہے انہیں اور تم کو اور وہ خوب سننے والا

الْعَلِيمُ ۱۱۲ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

خوب جاننے والا ہے اور البتہ اگر پوچھے تو ان سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۱۱۳

اور کام میں لگائے سورج اور چاند البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے پس کہاں وہ اٹھائے جاتے ہیں

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

اللہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے بندوں میں سے اپنے اور تنگ کرتا ہے اس کیلئے

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۱۱۴ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ

یقیناً اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے اور البتہ اگر پوچھے تو ان سے کس نے اتارا

السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

آسمان سے پانی پس زندگی ساٹھا اسکے زمین بعد موت کے اس کی البتہ ضرور کہیں گے

اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۱۱۵ وَ

اللہ نے تو کدے سب تعریف واسطے اللہ کے ہے بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے اور

مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ

نہیں یہ زندگی دلی سوائے غفلت اور کھیل کے اور یقیناً گھر

الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَاةُ حَقًّا مَلُوكًا نُوَاعِلْمُونَ ﴿۶۵﴾ فَاِذَا

آخرت کا البتہ وہی ہے زندگی کاشن ہوتے وہ علم رکھتے ہوتے پس جب

رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَاؤُا لِلّٰهِ مُخْلِصِينَ لَهُ

سوار ہوتے ہیں کشتی میں پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے

الذِّينَ ؕ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۶۶﴾

اطاعت کو پس جب نجات دیتا ہے انہیں طرف خشکی کے اچانک وہ شریک بنانے لگتے ہیں

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ ۗ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۗ فَسَوْفَ

تا کہ وہ انکار کریں اس کا جو دیا ہم نے انہیں اور تا کہ وہ فائدہ اٹھائیں پس عنقریب وہ

يَعْلَمُونَ ﴿۶۷﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنْ اٰمِنًا وَّيَتَخَفُّ

جان میں گئے کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بنایا ہم نے حرم کو امن والا جبکہ اچھے جاتے ہیں

النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ

لوگ ارد گرد سے کیا پس باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں اور نعمت کا

اللّٰهِ يَكْفُرُونَ ﴿۶۸﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ

اللہ کی انکار کرتے ہیں اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے گھڑ لیا اللہ پر

كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ

جھوٹ یا اس نے جھٹلایا حق کو جب آیا اسکے پاس کیا نہیں جنم میں

مَثْوٰى لِّلْكَافِرِيْنَ ﴿۶۹﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِئِنَّا لَنُهْدِيْهِمْ

ٹھکانا کافروں کے لیے اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے بارے میں ضرور ہدایت دیں گے ہم انہیں

سُبُلَنَا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۷۰﴾

راہوں سے اپنی اور یقیناً اللہ البتہ ساتھ ہے محسنوں کے



سُورَةُ الرَّؤْمِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْم ۲ غُلِبَتِ الرَّؤْمُ ۳ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ

الف۔ لام۔ ییم مغلوب کئے گئے رومی قریب کی سرزمین میں اور وہ

بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۴ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۵ اللَّهُ الْأَمْرُ

بعد مغلوبیت کے اپنی عنقریب غالب آویں گے چند سالوں میں واسطے اللہ کے ہے معاملہ

مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدِهِ وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْفَادُ ۶

پہلے بھی اور پیچھے بھی اور اس دن خوش ہوں گے مومن

يُنْصِرُ اللَّهُ ۷ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۸ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۹

ساتھ مدد کے اللہ کی وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہ عزت والا بہت رحم کرنے والا ہے

وَعَدَا اللَّهُ ۹ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

وعدہ ہے اللہ کا نہیں خلاف کرتا اللہ وعدہ کا اپنے دیکھ کر لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ۱۰ يَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۱۱

نہیں جانتے وہ جانتے ہیں ظاہری بات زندگی دہری سے اور

هُم عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۱۲ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي

وہ آخرت سے غافل ہیں کیا نہیں سوچا انہوں نے

أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

دلوں میں اپنے نہیں پیدا کئے اللہ نے آسمان اور زمین اور جو درمیان ان دونوں

إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۱۳ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

کے مگر ساتھ حق کے اور ميعاد مقررہ کے اور یقیناً بہت سے لوگ

بَلَقَاءِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ ﴿۱۱﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

بلاقات کی رپ کے اپنے منکر ہیں کیا نہیں پھرے وہ زمین میں

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا

کہ وہ دیکھتے کیوں کر ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے ان سے وہ تھے

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ

زیادہ سخت ان سے قوت میں اور پھاڑا تھا انہوں نے زمین کو اور آباد کیا تھا انہوں نے اسے زیادہ

مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا

اس سے جو آباد کیا انہوں نے اسے اور لائے ان کے پاس رسول ان کے دلائل پس نہ

كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۲﴾

تھا اللہ کہ ظلم کرے ان پر لیکن تھے وہ جانوں اپنی پر ظلم کرتے

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَاءُ وَالسُّوْءِ أَنْ كَذَّبُوا

پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے بُرائی کی بہت بُرا یہ کہ تکذیب کی تھی

بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۳﴾ اللَّهُ يَبْدَأُ

انہوں نے آیات کی اللہ کی اور تھے وہ ان سے ہنسی کرتے اللہ شروع کرتا ہے

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۴﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ

پیدائش پھر دوبارہ کر لگائے پھر طرف اس کی تم لوٹائے جاؤ گے اور جس دن قائم ہوگی

السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ

قیامت مایوس ہو جائیں گے مجرم اور نہ ہوں گے ان کے واسطے

شُرَكَائِهِمْ شَفْعًا وَكَانُوا إِشْرَاقًا لَهُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۶﴾ وَيَوْمَ

انکے شرکار میں سے سفارشی اور وہ ہوں گے شرکار سے اپنے منکر اور جس دن

تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ ﴿۱۷﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

قائم ہوگی قیامت اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے پس وہ جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۸﴾

ایمان لائے اور جنہوں نے کی تمہیں نیکیاں پس وہ باغ میں آراستہ کئے جائیں گے

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ

اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آیات کو ہماری اور ملنے کو آخرت کے

فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿۱۸﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ

تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کئے جانے والے ہیں پس پاک ہے اللہ جب تم

تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ

شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو اور واسطے اس کے ہے سب تعریف آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۲۰﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

اور زمین میں اور شام کے وقت اور جب تم دوپہر کرتے ہو وہ نکالتا ہے زندہ کو

الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد

مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۲۱﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ

موت کے اسکی اور اسی طرح تم نکالے جاو گے اور نشانات سے اسکی یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو

مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۲۲﴾ وَمِن

مٹی سے پھر اچانک تم انسان (بنکر) پھیل جاتے ہو اور

آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

نشانات سے اسکی یہ کہ پیدا کیا اس نے واسطے تمہارے جانوں سے تمہاری بیویاں تاکہ آرام پاؤ

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

طرف انکی اور بناؤ درمیان تمہارے محبت اور رحمت یقیناً اس میں

لَايَةٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ

البتہ نشانات میں واسطے لوگوں کے جو غور و فکر کرتے ہیں اور نشانات میں سے اس کے پیدا شدہ ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۗ

آسمانوں کی اور زمین کی اور اختلاف زبانوں کا تمہاری اور رنگوں کا تمہارے

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۲۴﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ

یقیناً اس میں البتہ نشانات میں جاننے والوں کے لیے اور نشانات میں سے اس کے سونا ہے تمہارا

بِأَيِّلٍ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءَ وَكُمِّ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي

رات کو اور دن کو اور تلاش کرنا ہے تمہارا فضل اس کا یقیناً

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿۲۳﴾ وَمِن آيَاتِهِ يُرِيكُمْ

اس میں البتہ نشانات ہیں واسطے لوگوں کے جو سنتے ہیں اور نشانات میں سے اپنے وہ دکھاتا ہے تم کو

الْبَرْقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

بجلي خوف پیدا کرتے ہوئے اور طبع دلاتے ہوئے اور اتارتا ہے بادل سے پانی

فِيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

سوزندہ کرتا ہے ساتھ اسکے زمین بعد موت کے اسکی یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾ وَمِن آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ

ان لوگوں کیلئے جو عقل کرتے ہیں اور نشانات میں سے اسکے یہ ہے کہ قائم ہوتا ہے آسمان اور

الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَاعَاكُمْ دَعْوَةَ مِّنَ الْأَرْضِ

زمین حکم سے اس کے پھر جب بلاوے گا تم کو بلانا زمین سے

إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۲۵﴾ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اجانک تم نکل جاؤ گے اور واسطے اس کے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

كُلِّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿۲۶﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ

سب اس کے فرمانبردار ہیں اور وہی ہے جو شروع کرتا ہے پیدائش پھر

يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي

دوبارہ کرے گا اسے اور یہ آسان ہے اس پر اور اس کے لیے مثال ہے اعلیٰ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ ضَرَبَ

آسمانوں اور زمین میں اور وہ عزت والا حکمت والا ہے بیان کی اس نے

لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ

تمہارے لیے ایک مثال جانوں سے تمہاری کیا ہے واسطے تمہارے ان سے کہ مالک ہوئے

أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآرَزِقِكُمْ فَإِنَّمَا

دائیں ہاتھ تمہارے کوئی شریک اس میں جو دیا ہم نے تم کو پس ہو تم

فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ

اس میں برابر ڈرتے ہو ان سے جیسا کہ ڈرتا ہے تمہارا جانوں سے اپنی اسی طرح

نُقْضِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۹﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ

ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیات واسطے ان لوگوں کے جو عقل کرتے ہیں بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے

ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ

جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے پس کون ہدایت دیوے جس کو

أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۰﴾ فَأَقْمَرُوجْهَكَ

گمراہ کیا اللہ نے اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار پس قائم رکھ اپنی توجہ کو

لِلَّذِينَ حَنِيفًا فطرت الله التي فطر الناس عليها

دین کے لیے فرمانبردار بن کر فطرت ہے اللہ کی جس نے پیدا کیا لوگوں کو اس پر

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ

نہیں تبدیلی اللہ کی مخلوق میں یہ دین ہے قائم رہنے والا ولکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا

اکثر لوگ نہیں جانتے جھکنے والے اس کی طرف اور اسی کا تقویٰ کرو

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ وَمِنَ

اور قائم رکھو نماز اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے ان

الَّذِينَ فَزَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا كُلٌّ جَزِيءٌ بِمَا

لوگوں میں سے جنہوں نے ٹھٹھے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے کئی گروہ ہر گروہ (کے لوگ) ساتھ اسکے جو

لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ

ان کے پاس ہے خوش ہیں اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف پکارتے ہیں اپنے رب کو

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا

جھکتے ہوئے اس کی طرف پھر جب چکھائی ان کو اپنی طرف سے رحمت جھٹ

فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۴﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

ایک گروہ (کے لوگ) ان میں سے رب کا اپنے شرک کرتے ہیں نتیجہ یہ ہو گا کہ ناشکری کریں گے اسکی جو دیا ہم نے انکو

فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ ۱۵۱

سوفائزہ اٹھاؤ سوفروز تم جان لوگے یا اتاری ہم نے اوپر ان کے

سَلَطْنَا فَهُوَيَتَّكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۶﴾ ۱۵۲

دلیل پس وہ باتیں کرتی ہے اس کی جیسے ہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے اور جب

أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

چھائی ہم نے لوگوں کو رحمت خوش ہوتے ہیں اسکے ساتھ اور اگر پہنچتی ہے ان کو بُرائی

بِمَا قَدَّمْتَأْيِدِيهِمْ إِذَآ هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۷﴾ ۱۵۳

انکے بدل میں جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اس وقت وہ ناامید ہو جاتے ہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

بیر اللہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگی کرتا ہے یقیناً اس میں

لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۸﴾ ۱۵۴

البتہ نشانات ہیں واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں پس دے رشتہ داروں کو ان کا حق اور

الْمُسْرِكِينَ ۚ وَابْنُ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّذِينَ

مسکینوں کو اور مسافروں کو یہ بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے جو

يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۹﴾ ۱۵۵

چاہتے ہیں توجہ اللہ کی اور یہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ الْيَزْبُؤَانِي ۖ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا

اور جو دیا تم نے سود تاکہ بڑھے مالوں میں لوگوں کے پس نہیں

يَزْبُؤَانِي ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

بڑھنا پاس اللہ کے اور جو دو تم زکوٰۃ چاہتے ہو تم

وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْحِفُونَ ﴿۴۰﴾ ۱۵۶

رضا مندی اللہ کی پس یہ لوگ ہی دوگنا کرنے والے ہیں اللہ (وہ ہے) جس نے

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ هَلْ مِنْ

پیدا کیا تم کو پھر رزق دیا تم کو پھر مارے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو کیا ہے کوئی

شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ دَسُخْنَهُ

تمہارے شریکوں میں سے جو کرے اس میں سے کچھ بھی پاک ہے وہ

وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور تری میں

بِمَا كَسَبَتْ آيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

دان کا جو ان کی وجہ سے جو کئے ہاتھوں نے لوگوں کے تاکہ چکھا دے ان کو کچھ (نتیجہ) اس کا جو

عَمِلُوا الْعَالَمُ يَرْجِعُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

انہوں نے کام کئے تاکہ وہ لوٹ آئیں تو کہہ سیر کرو زمین میں

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ

پس دیکھو کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے تھے

أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۳﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ

اکثر ان میں سے شرک پس قائم رکھ توجہ اپنی واسطے دین قائم رہنے والے

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا مَرَدَّدًا ۚ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ

کے اس سے پہلے کہ آوے وہ دن کہ نہیں لوٹنا اس کیلئے اللہ سے اس دن

يَصَّدَّعُونَ ﴿۳۴﴾ مَنْ كَفَرَ فَلْيَكْفُرْ ۚ وَمَنْ أَمَلَ صَالِحًا

وہ الگ الگ ہو جائیں گے جو کفر کرے پس اس پر اس کا کفر ہے اور جنہوں نے کی نیکی

فَلَا نَفْسِهِمْ يُمَدِدُونَ ﴿۳۵﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

پس اپنی جانوں کے لیے وہ گوارا تیار کرتے ہیں تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیں

الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَمِنْ

نیکیاں اپنے فضل سے کیونکہ وہ نہیں محبت کرتا کافروں سے اور اس کے

آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ

نشانات سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دینے والیاں اور تاکہ چکھا دے تم کو اپنی

رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

رحمت سے اور تاکہ چلا دے کشتیاں اپنے حکم سے اور تاکہ تم تلاش کرو

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

فضل اس کا اور تاکہ تم شکر کرو اور یقیناً یقیناً بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے

رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقِمْنَا

رسول طرف ان کی قوم کے پس لائے وہ انکے پاس کھلے دلائل پس انتقام لیا ہم نے

مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

ان لوگوں سے جنہوں نے قطع تعلق کیا اور ہے حق ہم پر مدد کرنا

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

مومنوں کی اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو پس وہ اٹھاتی ہیں بادل

فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَىٰ

پھردہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے اور کر دیتا ہے اسے مکروے پس تو دیکھتا ہے

الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْقِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ

بجلی کو نکلتی ہے اس کے درمیان سے پس جب پہنچتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے

مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ

اپنے بندوں میں سے جھٹ وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں اور یقیناً تھے پہلے اس کے

أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۳۹﴾ فَا نْظُرْ إِلَىٰ

کہ وہ آتا را جائے ان پر پہلے اس سے ضرور نا امید ہونے والے ہیں پس دیکھ طرف

أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ

نشانات رحمت کی اللہ کے کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو پیچھے اس کی موت کے

إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾ وَ

یقیناً یہ (خدا) ضرور ضرور زندہ کرے گا ہر مردوں کو اور وہ اللہ ہر چیز کے بڑا قادر ہے اور

لَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظَّلَوَاتِ مِنْ بَعْدِهِ

اگر بھیجیں ہم ہوا پس وہ دیکھیں اس کو زرد البتہ لگ جائیں اس کے بعد

يَكْفُرُونَ ﴿۴۱﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّةَ

کفر کرنے پس یقیناً تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہ سنا سکتا ہے بہروں کو

الدُّعَاءِ إِذَا دُلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ

پکار جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر اور نہیں تو ہرگز ہدایت دینے والا اندھوں کو

عَنْ ضَلَّتْهُمْ دِرَانٌ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ

ان کی گمراہی سے نہیں تو سنا سکتا مگر اسے جو ایمان لائے ہماری آیت پر پس وہ

مُسْلِمُونَ ﴿۵۴﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِيفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ

قرمانبردار ہیں اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ناتوانی سے پھر کی

بَعْدَ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُحْفًا وَشَيْبَةً ۗ

بعد ناتوانی کے قوت پھر کی بعد قوت کے کمزوری اور بڑھاپا

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۵﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ

وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے اور جس دن قائم ہوگی

السَّاعَةِ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ۗ مَا كُنْتُمْ إِلَّا رِجَالًا حَرُوفًا ۗ

وہ گھڑی تقسیم کھائیں گے مجرم کہ نہیں وہ رہے سوائے ایک گھڑی کے

كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

اسی طرح وہ تھے اٹھائے جاتے اور کہیں گے وہ لوگ جو دیئے گئے تھے علم

وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ

اور ایمان یقیناً ٹھہرے تم اللہ کی کتاب میں تا روز قیامت

فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ۚ وَلَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾

پس یہ ہے دن اٹھائے جانے کا لیکن تم تھے نہیں جانتے

فِيَوْمٍ مِثْلٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ

پس اس دن نہیں نفع دیگی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا معذرت ان کی اور نہ وہ

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ

معدنہ سمجھے جائیں گے اور یقیناً یقیناً بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَكِنْ جِئْتُم بِآيَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ

ہر عمدہ بات اور آئندہ اگر لائے تو ان کے پاس کوئی نشان ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے

كَفَرُوا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۹﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ

کفر کیا نہیں تم مگر جھوٹے اس طرح مرگاتا ہے اللہ

عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ

دلوں پر ان لوگوں کے جو نہیں جانتے پس صبر کر یقیناً وعدہ

اللَّهُ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۱﴾

اللہ کا سچا ہے اور نہ ہلکا کریں تجھے وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے

سُورَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْمَاءِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿۲﴾ هُدًى وَرَحْمَةً

اف۔ لائیم یہ آیت میں کتاب حکمت والی کی ہدایت اور رحمت

لِلْمُحْسِنِينَ ﴿۳﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

واسطے احسان کرنے والوں کے وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۴﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى

زکوٰۃ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہیں

مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن

طرف سے اپنے رب کی اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں اور کوئی لوگوں میں سے ایسا ہے جو

يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ

خریدتا ہے بیہودہ بات تاکہ گمراہ کرے راہ سے اللہ کی بغیر

عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ وَ

علم کے اور تاکہ بناوے اسے ہنسی یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا اور

إِذْ أَتَى عَلَىٰ آيَاتِنَا وَأُولَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَتْ

جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیات ہماری پھر مانتا ہے تکبر کرتا ہوا گویا کہ نہیں سنا اس نے گویا کہ

فِي آذَانِهِ وَقَرَّاهُ فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۸ إِنَّ الَّذِينَ

دونوں کانوں میں اسکے بہرہ پن ہے پس بشارت دے اُسے عذاب دردناک کی یقیناً وہ لوگ جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝۹ خَالِدِينَ

ایمان لائے اور کیں نیکیاں ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں کے رہنے والے ہیں

فِيهَا وَعَدَا اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۰ خَلَقَ

اس میں وعدہ اللہ کا سچا ہے اور وہ عزت والا حکمت والا ہے اس نے پیدا کیا

السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ

آسمان بغیر ستونوں کے کہ دیکھتے ہو تم جنہیں اور ڈالے زمین میں

رَوَّاسِيٍّ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

چھاڑ کر خوراک دیں تمہیں اور پھیلائے اس میں سب جاندار

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

اور اتارا ہم نے بادل سے پانی پس اگائے ہم نے اس میں سب جوڑے

كَرِيمٍ ۝۱۱ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ

عمرہ یہ پیدائش ہے اللہ کی پس دکھاؤ مجھے وہ جو پیدا کیا ان لوگوں نے جو

مِن دُونِهِ ۝۱۲ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۱۳ وَلَقَدْ

سوائے اسکے ہیں بلکہ ظالم گمراہی کھلی میں ہیں اور یقیناً یقیناً

آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۝۱۴ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا

دی ہم نے لقمان کو حکمت یہ کہ شکر کر اللہ کا اور جو شکر کرے گا تو سوائے اسکے نہیں کہ

يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ ۝۱۵ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۱۶

وہ شکر کرے گا اپنے نفس کے لیے اور جس نے کفر کیا یقیناً اللہ بے پرواہ خوبوں والا ہے

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جبکہ وہ وعظ کر رہا تھا اے بیٹے میرے نہ شریک بناؤ

بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

اللہ کا یقیناً شرک البتہ ظلم ہے بڑا اور تمہاری کہانی نے انسان کو

بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضْلُهُ

متعلق ماں باپ کے اکے حمل میں رکھا اسے ماں نے اس کی کمزوری پر کمزوری سے اور دودھ چھڑانا اس کا

فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ مَا لِيَ الْمَصِيرُ ﴿۱۴﴾

دو سال میں کہ شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا طرف میری ٹھکانا ہے

وَأِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

اور اگر وہ دونوں جھگڑیں تجھ سے اس پر کہ تو شریک بناے میرا کہ نہیں تجھے اس کا کوئی علم

فَلَا تَطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتَّبِعْ

تو نہ اطاعت کیجیو ان دونوں کی اور ساتھ رہ ان دونوں کے دنیا میں مناسب طور پر اور پیروی کر

سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

راہ کی اس شخص کی جو جھگڑا میری طرف پھر طرف میری لوٹتا ہے تمہارا پس آگاہ کروں گا تم کو اس سے جو

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يُبَيِّنُ إِنَّمَا أَنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ

تجھے تم کرتے اسے بیٹے میرے یقیناً اگر ہو تو ہموزن دانہ کے

خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ

رائی کے پھر ہو جاوے پتھر میں یا آسمانوں یا زمین میں

يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ يُبَيِّنُ أَقِمِ الصَّلَاةَ

تولائے گا اُسے اللہ یقیناً اللہ ہر ماں خوب خبر رکھنے والا ہے اے میرے بیٹے قائم کر نماز

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ

اور حکم دے مناسب بات کا اور روک بڑی بات سے اور صبر کر اس پر جو مصیبت پہنچے تم کو

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۷﴾ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

یقیناً یہ بڑے کاموں میں سے ہے اور نہ پھٹلا کمال اپنے لوگوں کے لیے

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

اور نہ چل زمین میں اکر کر یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کسی تکبر کرنے والے

فَخُورًا ۱۹) وَأَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ مِرَاتٍ

ہست فخر کرنے کو اور درمیان روی اختیار کر چال میں اپنی اور نیچی کر آواز اپنی یقیناً

أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ ۲۰) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

سب سے بُری آوازوں میں سے البتہ آواز گدھوں کی ہے کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ نے

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ

کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور پوری کہیں اس نے تم پر

نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۲۱) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي

اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں بارہ ہیں

اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۲۲) وَإِذَا قِيلَ

اللہ کے بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے اور جب کہا جاتا ہے

لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا

ان کے لیے پیروی کرو اس کی جو اتارا اللہ نے کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں اسکی کہ پایا ہم نے

عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَدْلُو كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ

جس پر اپنے باپ دادا کو کیا اگرچہ ہے شیطان بلاتا انہیں طرف عذاب

السَّعِيرِ ۲۳) وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ

اگ کے اور جو سونپے گا اپنی توجہ طرف اللہ کی اور وہ احسان کرنوالا ہو تو تو یقیناً

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۲۴)

اس نے مضبوط پکڑ لیا کرا مضبوط اور طرف اللہ کی انجام ہے سب کاموں کا

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۲۵) إِنَّا مَرْجِعُهُمْ

اور جس نے کفر کیا تو نہ غم میں ڈالے تجھے کفر ان کا طرف ہماری لوٹنا ہے ان کا

فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۲۶)

پس ہم آگاہ کریں گے انہیں اس پر جو عمل کئے انہوں نے یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو

نَمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ۲۷) وَلَئِن

ہم نامہ پہنچائیں گے انہیں تھوڑا سا پھر مجبور کر کے لیجاویں گے انہیں طرف عذاب سخت کے اور البتہ اگر

سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَقُوْلُوْا لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ ط قُلْ

پوچھے تو ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ضرور کہیں گے اللہ نے تو کہہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں

وَالْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۷﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي

اور زمین میں ہے یقیناً اللہ ہی بے پرواہ خوبیوں والا ہے اور اگر ہوں وہ جو

الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ قَلَمٍ وَالْبَحْرِ يَمْدَةٌ مِنْۢ بَعْدِهِ

زمین میں درخت ہیں نہیں اور سمندر مدد کریں اسکی کہ بعد اس کے

سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفَذَتْ كَلِمَتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ

سات سمندر نہ ختم ہوں باتیں اللہ کی یقیناً اللہ عزت والا

حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ اِلَّا كُنْفُسًا وَّاحِدَةً اِنَّ

حکمت والا ہے نہیں پیدائش تمہاری اور نہ اُٹھانا تمہارا مگر مانند نفس واحد کے یقیناً

اللّٰهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿۲۹﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّجُ الْاَيْلَ فِي

اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو

النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْاَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور کام میں لگا دیا اس نے سورج اور چاند

كُلٌّ يَّجْرِيْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۳۰﴾

ہر ایک چلتا ہے تا میعاد مقررہ اور یقیناً اللہ اسکی جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

یہ سب اکے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ جسے وہ پکارتے ہیں سوائے اس کے

الْبٰطِلُ ؕ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۳۱﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ

باطل ہے اور یقیناً اللہ ہی بلند (اور) بڑا ہے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کشتیاں

تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ط اِنَّ

چلتی ہیں سمندر میں ساتھ نعمت کے اللہ کی تاکہ دکھائے تم کو اپنی آیات سے یقیناً

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۳۲﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ

اس میں البتہ نشانات ہیں ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کیلئے اور جب ڈھانکتی ہے انہیں

مَوْجٌ كَأَنَّ الظُّلُمَ دَعَا إِلَى اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ فَلَمَّا

موج مانند سایہ بادلوں کے پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کیلئے اطاعت کو پس جب

نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا

نجات دیتا ہے انہیں طرف خشکی کی تو بعض ان میں سے میاں روہوتے ہیں اور نہیں انکار کرتا آیات کا ہماری

إِلَّا كَلًّا خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا

مگر ہر دغا باز ناشکر گزار اسے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو

يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ز وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ

اس دن سے نہیں کام آوے گا باپ اپنے بیٹے سے اور نہ بیٹا ہی کام آئے والا ہے

عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

اپنے باپ سے کچھ بھی یقیناً وعدہ اللہ کا ہے سچ پس نہ دھوکہ میں ڈالے تم کو

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۳۴﴾ إِنَّ

زندگی دنیوی اور نہ دھوکہ میں ڈالے تم کو مقابل میں اللہ کے دھوکہ دینے والا یعنی شیطان یقیناً

اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا

اللہ وہ جگہ پاس اس کے علم ہے قیامت کا اور وہ آراتا ہے بارش اور وہ جانتا ہے جو

فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا

رحموں میں ہے اور نہیں جانتا کوئی نفس کیا کماوے گا کل اور نہیں

تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۵﴾

جانتا کوئی نفس کہ کس زمین میں مرے گا یقیناً اللہ خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہے



سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْمَّ۝۲ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۲

الف-لام-میم آتا رہا ہے اس کتاب کا نہیں کوئی شک اس میں طرف سے رب العالمین کے

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ
کیا وہ کہتے ہیں خود گھڑ لیا ہے (نہیں) بلکہ وہ حق ہے طرف سے رب کی تیرے تاکہ ڈراتے تو

قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝۳

ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پہلے تجھ سے تاکہ وہ ہدایت پاویں

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

اللہ وہ ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین اور جو درمیان ان دونوں کے ہے

سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ

چھ دنوں میں پھر ٹھیک ٹھاک ہوا عرش پر نہیں تمہارے لیے

دُوْنِهِ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۴

سوائے اُس کے کوئی دوست اور نہ سفارشی کیا پھر نہ تم نصیحت حاصل کرو گے تدبیر کرتا ہے

الْاَمْرَ مِّنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ اِلَيْهِ فِي

معاملہ کی طرف سے آسمان کی طرف زمین کی پھر چڑھتا ہے طرف اس کی ایسے

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝۵

دن میں کہ ہے مقدار اس کی ہزار سال اس سے جو تم شمار کرتے ہو

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِیْمُ ۝۶

جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا عزت والا بہت رحم کرنے والا ہے وہ جس نے

أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن

عمدہ بنایا ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اُسے اور شروع کیا پیدائش کو انسان کی

طِينٍ ۱۰ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۱۱

کیچڑ سے پھر بناؤ نسل اس کی غلام سے پانی ذلیل سے

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِ رَبِّهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

پھر ایک ٹھکانا کیا اسے اور پھونکی اس میں اپنی رُوح اور بنائے تمہارے لیے کان

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۱۲ وَقَالُوا

اور تمہیں اور دل کم ہی تم شکر کرتے ہو اور کہا انہوں نے

عَرَاذًا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ عَرَانَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۱۳

بب گم ہو جاؤں گے ہم زمین میں کیا یقیناً ہم البتہ پیدائش نئی میں ہوں گے

بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۱۴ قُلْ يَتَوَفَّكُم

بلکہ وہ ملاقات سے اپنے رب کی منکر ہیں تو کہہ دے وفات دے گا تم کو

مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

فرشتہ موت کا وہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر پھر طرف اپنے رب کی

تُرْجَعُونَ ۱۵ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ

وہ لو تیرے جاؤ گے اور اگر تو دیکھے جبکہ مجرم نیچے کئے ہوں گے اپنے سر

عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ

پس اپنے رب کے اسے رب ہمارے دیکھا ہم نے اور سنا ہم نے پس لوٹا ہم کو کریں گے ہم

صَاحِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۱۶ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ

یک کام ضرور ہم یقین کرنے والے ہیں اور اگر چاہیں ہم البتہ دیں ہم ہر نفس کو

هُدًى بَلْ هِيَ لَكِن حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِن

ہدایت اس کی ولیکن واجب ہو گئی بات طرف سے میری ضرور بھر دیں گے ہم جہنم کو

الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۱۷ فَذُوقُوا بَأْسَ نَسِيتُمْ

جنوں اور آدمیوں سے سب سے پس چکھو بسبب اس کے بھول گئے تم

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا، إِنَّا نَسِينُكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ

ملاقات اپنے دن اس کی یقیناً ہم بھول گئے تم کو اور چکھو عذاب

الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا

ہمیشہ کا سبب اسکے جو تھے تم عمل کرتے سوائے اسکے نہیں کو ایمان لاتے ہیں آیات پر ہماری

الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ

وہ لوگ کہ جب نصیحت کئے جاتے ہیں بند رہیں ان آیات کے اگر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور تسبیح کرتے ہیں ساتھ حمد کے

رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۶﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ

اپنے رب کی اور وہ نہیں تکبر کرتے الگ ہو جاتے ہیں پہلو ان کے

عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا زَمِيمًا

بستروں سے پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور طمع سے اور اس سے جو

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۷﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن

دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں پس نہیں جانتا کوئی نفس وہ جو مخفی رکھی گئی ان کے لیے

قَرَّةٍ أَعْيُنٍ، جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ أَفَمَن كَانَ

ٹھنک آنکھوں کی بطور بدلے اسکے جو تھے وہ عمل کرتے کیا ہیں جو شخص کہتے

مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۹﴾ أَمْ أَلِذِينَ

مومن مانند اسکی جو ہے نافرمان نہیں برابر ہوتے وہ وہ لوگ جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا

ایمان لائے اور کہیں نیکیاں پس ان کے لیے باغات ہیں رہائش کے بطور آسائش کے

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ وَأَمْ أَلِذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ

سبب اسکے کہ جو تھے وہ عمل کرتے اور وہ لوگ جو فاسق ہوئے ٹھکانا ان کا

النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا

آگ ہے جب کبھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس سے لوٹائے جائیں گے اس میں

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا

اور کہا جائے گا ان کو چکھو عذاب آگ کا وہ کہ تھے تم جس کی

تُكَذِّبُونَ ﴿۳۱﴾ وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُونَ

تکذیب کرتے اور البتہ ضرور چکھائیں گے انہیں عذاب معمولی پہلے

الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّن

عذاب بڑے کے تاکہ وہ رجوع کریں اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے

ذَكَرَ بَايَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ

جسے نصیحت کی گئی ساتھ آیات کے اپنے رب کی پھر اعراض کیا اس نے ان سے یقیناً ہم

مُنْتَقِمُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِي

انتقام لینے والے ہیں اور یقیناً یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو کتاب پس نہ ہوتو

مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنٰهُ هُدٰى لِّبَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ ﴿۳۴﴾

شک میں لینے سے اس کے اور بنایا تھا ہم نے اُسے ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰيْمَةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَاذ

اور بنائے ہم نے ان میں سے امام ہدایت کرتے تھے حکم سے ہمارے جب صبر کیا انہوں نے

ذَكَرْنَا نُوْبًا بَايَاتِنَا يُوقِنُوْنَ ﴿۳۵﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ

اور تھے وہ آیات پر ہماری یقین رکھتے یقیناً رب تیرا ہی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۳۶﴾ اَوْ لَمْ يَهْدِ

روز قیامت اس میں کہ تھے وہ جس میں اختلاف کرتے کیا نہیں ہدایت دی

لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا مَنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ

انکو اس بات نے کہ کہتے ہی ہلاک کیں ہم نے پہلے ان سے تو میں یہ چلتے پھرتے ہیں

فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۳۷﴾ اَوْ

ان کے گھروں میں یقیناً اس میں ضرور نشانات ہیں کیا پھر نہیں وہ سنتے کیا

لَمْ يَرَوْا اَّا تَاَنَسُوْا اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ

نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم چلاتے ہیں پانی طرف زمین بنجر کی پھر ہم نکالتے ہیں ساتھ ان کے

زَرَءًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿۳۸﴾

کھیتی کہ کھاتے ہیں اس سے چار پائے اور خود وہ کیا پھر نہیں دیکھتے وہ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۱﴾ قُلْ

اور کہتے ہیں کب ہے فتح اگر ہو تم سچے تو کہو گے

يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ

بروز فتح نہیں فائدہ دیگا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایمان ان کا اور نہ وہ

يُنظَرُونَ ﴿۲۲﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانْتَظَرَانَهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿۲۳﴾

ملت دیکھتے جائیں گے پس اعراض کر ان سے اور انتظار کر یقیناً وہ انتظار کرنوالے ہیں

سُورَةُ الْأَحْزَابِ مَدِينَةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ

اے نبی ڈر اللہ سے اور نہ پیروی کیجیو کافروں اور منافقوں کی

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۲﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ

یقیناً اللہ ہے خوب جاننے والا حکمت والا اور پیروی کرو اسکی جو وحی کی جاتی ہے طرف تیری

مِّنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۳﴾ وَتَوَكَّلْ

طرف سے تیرے رب کی یقیناً اللہ ہے اس کی جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا اور بھروسہ کر

عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۴﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ

اللہ پر اور کافی ہے اللہ کارساز نہیں بناٹے اللہ نے کسی آدمی کے

مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْيَتَامَىٰ

دو دل سینہ میں اس کے اور نہیں بنایا یتیموں کو تمہاری وہ کہ

تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ

تم ظہار کرتے ہو جن سے ماںیں تمہاری اور نہیں بنایا لے پاکوں کو

اَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ

تمہارے بیٹے یہ بات ہے تمہاری مومنوں سے تمہارے اور اللہ کہتا ہے

الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ

حق اور وہ ہی ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی پکارو انہیں (نسبت کر کے) طرف انکے باپوں کی یہ

اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

بنت انصاف والی بات ہے نزدیک اللہ کے پس اگر نہ جانو تم باپوں کو ان کے تو بھائی ہیں تمہارے

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

دین میں اور دوست ہیں تمہارے اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس میں کہ

اَخْطَا تُمْ بِهِ ۗ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

خطا کرو تم جس میں ولیکن (ہاں) جو عمداً کریں دن تمہارے اور ہے اللہ

غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ التَّبِيُّ اٰوٰلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا نبی زیادہ حق رکھتا ہے مومنوں پر بہت جازل کے ان کی

وَازْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى

اور بیویاں اس کی مائیں ہیں ان کی اور قرابت والے بعض ان کے زیادہ قریبی ہیں

بَعْضٌ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلَّا

بعض کے کتاب اللہ میں بہ نسبت مومنوں کے اور مہاجرین کے مگر

اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى اَوْلِيٰئِكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِى

یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں سے نیک سلوک یہ ہے

الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَاِذَا اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ

کتاب میں لکھا ہوا اور جب یہ ہم نے نبیوں سے عہد ان کا

وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ

اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے

وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيْظًا ۝ لِّيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ

اور لیا ہم نے ان سے عہد بختہ تاکہ وہ پوچھے سچوں سے

عَنْ صِدْقِهِمْ، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۱﴾

بابت سچائی کے ان کی اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو نعمت اللہ کی اپنے پر

إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا

جبکہ آئے تم پر شکر تو بھیجی ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر کہ نہ

تَرَوْنَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۱۲﴾ إِذْ جَاءَ وَكُم

دیکھنا تم نے جنہیں اور ہے اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا جبکہ وہ آئے تم سے

مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ

اور پر سے تمہارے اور نیچے سے تمہارے اور جبکہ پھر گئیں آنکھیں اور

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿۱۳﴾

پہنچ گئے دل حلق کو اور تم گمان کرتے تھے اللہ پر طرح طرح کے گمان

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلَالًا شَدِيدًا ﴿۱۴﴾

اس جگہ آزمائے گئے مومن اور ہلائے گئے ہلایا جانا سخت

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

اور جب کہتے تھے منافق اور وہ لوگ کہ دلوں میں جن کے بیماری تھی

مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿۱۵﴾ وَإِذْ قَالَتْ

نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے سوائے دھوکے کے اور جب کہا

طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ يَأْتِيكُم مَّقَامِكُمْ فَارْجِعُوا

ایک گروہ نے ان میں سے اے اہل مدینہ نہیں جگر رہنے کی تمہارے لیے پس پھر جاؤ اور

يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا

اجازت مانگتا تھا ایک فریق ان میں سے نبی سے دو کہتے تھے کہ یقیناً گھر ہمارے

عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّ يُرِيدُونَ الْإِفْرَادًا ﴿۱۶﴾ وَلَوْ

خالی ہیں حالانکہ نہ تھے وہ ہرگز خالی نہیں وہ ارادہ کرتے تھے مگر بھاگنے کا اور اگر

دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ

داخل کئے جائیں (شکر) ان پر طرفوں سے اس (مدینہ) کی پھر طلب کیا جائے ان سے فساد

لَا تَوْهًا وَمَاتَلَبْتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝۱۵ وَلَقَدْ كَانُوا

تو وہ کریں اسے اور نہ تو توفت کریں اس میں مگر تھوڑا سا اور یقیناً یقیناً تھا

عَاهِدُوا وَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ إِلَّا ذَبَابًا وَكَانَ

عہد کیا انہوں نے اللہ سے پہلے سے کہ نہ پھیریں گے وہ پنہیں اور ہے

عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُوكًا ۝۱۶ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ

عہد اللہ کا پلوچھا جانے والا تو کدے ہرگز نہیں نفع دیکھا تمہیں بھاگن اگر

فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا

بھاگے تم موت سے یا قتل سے اور تب تم نہ فائدہ دیا جاؤ گے مگر

قَلِيلًا ۝۱۷ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ

تھوڑا سا تو کدے کون ہے جو بچاؤے گا تم کو اللہ سے اگر وہ ارادہ کرے

بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّنْ

متعلق تمہارے بُرائی کا یا ارادہ کرے متعلق تمہارے رحمت کا اور نہ وہ پاویں گے اپنے لیے

دُونِ اللَّهِ وَرَبِّهَا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۸ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ

سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ مددگار یقیناً جانتا ہے اللہ (اور لوں کو) روکنے والوں کو

مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، وَلَا يَأْتُونَ

تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں کے لیے آؤ طرف ہماری اور نہیں آتے وہ

الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۹ أَشْحَةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ

بڑائی میں مگر چند بخیل ہیں تم پر پس جب آئے کوئی ڈر

رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى

دیکھے گا تو انہیں دیکھتے ہیں طرف تیری گھومتی ہیں آنکھیں انکی مانند اس شخص کی کہ غشی آتی ہے

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ

ان پر خوف سے پس جب جاتا رہتا ہے خوف دکھ دیتے ہیں تم کو

بِالسِّنَةِ حِدَادٍ شَحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا
ساتھ زبانوں تیز کے تجیل میں مال پر یہ لوگ نہیں ایمان لاتے

فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۲۰﴾
پس ضائع کر دیتے اللہ نے اعمال ان کے اور ہے یہ اللہ پر آسان

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ
وہ گمان کرتے ہیں فوجوں کو کہ نہیں گئیں اور اگر آئیں فوجیں

يَوَدُّ وَالسَّوَأْتَهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ
وہ چاہیں گے کہ نکاشں کہ وہ جنگل میں رہنے والے ہوتے پوچھا کرتے

أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿۲۱﴾
خبریں تمہاری اور اگر ہوتے تم میں نہ لڑتے مگر تھوڑا

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
یقیناً یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ میں نمونہ نیک اس شخص کیلئے

كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿۲۲﴾
جو ہے ڈرتا اللہ سے اور دن آخر سے اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا
اور جب دیکھیں مومنوں نے فوجیں کہا انہوں نے یہ وہ ہے جکا وعدہ کیا ہے

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
اللہ اور رسول نے اس کے اور سچ کہا اللہ نے اور رسول نے اس کے اور نہیں بڑھایا اس رنجیز نے نہیں مگر

إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿۲۳﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
ایمان اور فرمانبرداری میں مومنوں میں سے وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کیا

مَاعَاهِدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ
وہ کہ عہد کیا انہوں نے اللہ سے جس کا پس بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پورا کر دیا کام اپنا اور

مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿۲۴﴾ لِيَجْزِيَ
بعض ان میں سے ایسے ہیں جو انتظار کرتے ہیں اور نہیں تبدیلی کی انہوں نے کوئی تبدیلی

اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصُدُقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِنْ

اللہ سچوں کو سچ کا انکے اور عذاب دے منافقوں کو اگر

شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۶۵﴾

چاہے یا فضل سے متوجہ ہو ان پر یقیناً اللہ ہے بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَ

اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ انکے غصہ کے نہیں حاصل کی انہوں نے کوئی بھلائی اور

كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا

کافی ہوا اللہ مومنوں سے جنگ میں اور ہے اللہ قوت والا

عَزِيزًا ﴿۶۶﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

غالب اور اتارا اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کی اہل کتاب میں سے

مِنْ صِيًّا صِيَّهُمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

فلعوں سے ان کے اور ڈالا دلوں میں ان کے رعب

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿۶۷﴾ وَأَوْرَثَكُمْ

ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے اور قید کرتے تھے دوسرے فریق کو اور اس نے وارث کیا تم کو

أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوهَا

زمین کا ان کی اور گھروں کا ان کے اور مالوں کا ان کے اور اس زمین کا کہ نہیں قدم رکھا تم نے اس میں

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۶۸﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ

اور ہے اللہ ہر بات پر قادر ہے اے نبی تو کہہ دے

لَا زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

اپنی بیویوں کو اگر ہو تم چاہتے ہو زندگی ورنہ اور زینت اس کی

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُمْ وَأَسْرِحُكُمْ سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿۶۹﴾ وَ

تو اؤ میں کچھ سامان دوں تمہیں اور رخصت کروں تم کو رخصت کرنا اچھا اور

إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ

اگر ہو تم چاہتے ہو اللہ اور رسول اس کا اور گھر یہ بچھلا تو یقیناً

اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۰﴾ يَنْسَاءُ

اللہ نے تیار کیا نیکی کرنے والوں کے لیے تم میں سے اجر سے بڑا اسے بیویوں

النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِمَا حَشَىٰ مَبِينَةً يُضَعَّفُ

نبی کی جو کرے گی تم میں سے کوئی بے حیائی کھلی بڑھایا جائے گا

لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۳۱﴾

اکیسے عذاب دو چند اور ہے یہ اللہ پر آسان



وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكَ بِاللهِ وَدَسُوْلِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو فرمانبرداری کرے گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اور عمل کرے گی نیک

نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۲۲﴾

ہم دیں گے اسے اجر اس کا دو چندان اور نیا رکھیا ہم نے اس کیلئے رزق عزت والا

يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ

اسے بیویوں کی نہیں ہو تم مانند ہر ایک کے عورتوں میں سے اگر تم تقویٰ کرو

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

پس نہ دب کر بات کرو کہ طمع کرے وہ کہ دل میں جس کے بیماری ہے

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿۲۳﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا

اور کہو بات مناسب اور ٹھہری رہو گھروں میں اپنے اور نہ

تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ

دکھائی پھروسنگھار سنگھار دکھانے کی طرح جاہلیت پہلی کا اور قائم کرو نماز اور

آتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ

دو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی اس کے سوائے اسکے نہیں کہ چاہتا ہے

اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

اللہ دور کر دے تم سے پلیدی اے اہل بیت اور پاک کرے تم کو

تَطْهِيرًا ﴿۲۴﴾ ۖ وَاذْكُرْنَ مَا يُثَلَّىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

خوب پاک کرنا اور یاد کرو جو پڑھایا جاتا ہے گھروں میں تمہارے آیات میں سے اللہ کی

وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿۲۵﴾ ۖ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ

اور حکمت یقیناً اللہ ہے مہربان بہت خبر رکھنے والا یقیناً مسلمان مرد

وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ

اور مسلمان عورتیں اور ایمان دار مرد اور ایمان دار عورتیں اور فرمانبردار مرد اور

الْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

فرمانبردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں

۲۲

۲۲

وَالْخُشَعَيْنِ وَالْخُشَعْتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَ

اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں اور حفاظت کرنیوالے اپنی شرمگاہوں کی اور

الْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ

حفاظت کرنیوالیاں اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں تیار کیا ہے

اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمًا ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ

اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر بڑا اور نہیں ہے کبھی مسلمان مرد کے لیے اور

لَا مُؤْمِنَةٍ إِذْ أَقْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

نہ کبھی مسلمان عورت کیلئے کہ جب فیصلہ کریں اللہ اور رسول اس کا کسی معاملہ کا کہ ہو ان کے لیے

الْخَيْرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

اختیار اپنے معاملہ کا اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً وہ

ضَلَّ سُلَالًا مَبِينًا ﴿۳۷﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

گمراہ ہوا مگر ہونا گمراہ گھلا اور جب تو کہتا تھا اُسے کہ انعام کیا اللہ نے جس پر

وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَ

اور انعام کیا تو نے جس پر کر رہے دے اپنے پاس اپنی بیوی اور ڈر اللہ سے اور

تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَ

تو چھپاتا تھا اپنے دل میں وہ کہ اللہ ظاہر کر نیوالا تھا جسے اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے اور

اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

اللہ زیادہ حقتر ہے کہ تو ڈرے اس سے پس جب پلوری کی زید نے اس سے حاجت

زَوَّجْنَاكَهَا لِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

بیابان دیا ہم نے تجھ سے اس کو تاکہ نہ ہو مومنوں پر کونہ تنگی

أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاءُ لَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ

بیویوں میں ان کے لئے پاکوں کی جب وہ پلوری کر لیں ان سے حاجت اور ہے حکم

اللَّهُ مَفْعُولًا ۳۸ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَدٍّ مِنْ فِيمَا فَرَضَ

اللہ کا ہونے والا نہیں ہے نبی پر کوئی چیز اس میں کہ مقرر کیا

اللَّهُ لَهُ سُنَّةٌ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ

اللہ نے اس کیلئے (مقرر کی) سنت اللہ کی ان لوگوں میں جو گزر چکے پہلے سے اور ہے

أَمْرًا لِلَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۳۹ وَالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ

حکم اللہ کا اندازہ پر مقرر کیا ہوا وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام

اللَّهُ وَيَخْشَوْنَهُ ۗ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَى

اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے اور کافی ہے

بِاللَّهِ حَسِيبًا ۴۰ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ

اللہ حساب لینے والا نہیں ہے محمد باپ کسی کا مردوں میں تمہارے

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

دیکھیں رسول اللہ کا اور ہے تمام نبیوں کی اور ہے اللہ ہر

شَيْءٍ عَلِيمًا ۴۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا

بات کو خوب جاننے والا اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کو یاد کرنا

كَثِيرًا ۴۲ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۴۳ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ

بہت اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے

عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَ

تم پر اور فرشتے اس کے تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے طرف نور کی اور

كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۴۴ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ

ہے وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا دعا ان کی جس روز میں گئے اس سے

سَلَامٌ ۚ وَاعْدُوا لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۴۵ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا

سلام ہوگی اور تیار کیا اس نے ان کیلئے اجر عزت والا اے نبی ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۴۶ وَدَاعِيًا إِلَى

بھیجا تجھے گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا طرف

۲۲

اللَّهُ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۳۶﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بَأَنَّ

اللہ کی حکم سے اس کے اور سورج روشنی دینے والا اور خوشخبری دے مومنوں کو کہ یقیناً

لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۳۷﴾ وَلَا تُطِيعِ الْكُفْرِينَ وَ

ان کے لیے اللہ سے اللہ فضل ہے بڑا اور نہ پیروی کر کافروں کی اور

الْمُنَافِقِينَ وَدَعَا أَذْهُمُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

منافقوں کی اور چھوڑ دے ایذا دینا انکا اور بھروسہ کر اللہ پر اور کافی ہے اللہ

وَكَيْلًا ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

کارساز اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے پھر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

طلاق دو تم ان کو پہلے اس سے کہ پاس جاؤ تم ان کے تو نہیں تمہارے لیے ان پر

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا

کوئی عدت کہ گنواؤ تم اُسے پس کچھ سامان دو انہیں اور رخصت کرو انہیں رخصت کرنا

جَمِيلًا ﴿۳۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي

اچھی طرح اے نبی یقیناً ہم نے حلال کیں تیرے لیے بیویاں تیری وہ کہ جنہیں

اتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ

دے چکا ہے ہر ان کے اور وہ کہ جن کا مالک ہوا دایاں ہاتھ تیرا ان میں سے کہ جنہیں غنیمت میں لایا اللہ

عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَ

تیرے لیے اور بیٹیاں تیرے چچا کی اور بیٹیاں تیری چھو پھیوں کی اور بیٹیاں تیرے ماموں کی اور

بَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ زَوَامِرًا مُؤْمِنَةً إِنْ

بیٹیاں تیری خالوں کی وہ جنہوں نے ہجرت کی ساتھ تیرے اور (حلال کی) عورت مسلمان اگر

وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

وہ بخش دے اپنی جان نبی کے لیے اگر ارادہ کرے نبی کہ نکاح کرے اس سے

خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا

صرف تیرے لیے سوائے (اور) مسلمانوں کے یقیناً جان لیا ہم نے جو کچھ فرض کیا ہم نے

عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ

ان پر بارہ میں انہی بیویوں کے اور (بارہ میں) انکے کو جکے مالک بننے والے تھے ان کے ہاتھ ان کے تاکہ نہ ہو

عَلَيْكَ حَرْبٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۱ تَرْجِي مَنْ

تجھ پر کوئی جنگی اور ہے اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا تو پیچھے کر دے جسے

تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۚ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ

تو چاہے ان میں سے اور جگہ دے اپنی طرف جسے تو چاہے اور جسے طلب کرے تو

مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ تَقْرَرَّ

ان میں سے کہ جدا کیا تو نے (جن میں) تو نہیں کوئی گناہ تجھ پر یہ بہت نزدیک ہے انکے کو ٹھنڈی ہوا

أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۚ

آنکھیں ان کی اور نہ غمگین ہوں اور راضی ہو جائیں اس پر جو دیا تو نے انہیں سب کی سب

وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝۱۰۲

اور اللہ جانتا ہے جو دلوں میں ہے تمہارے اور ہے اللہ بہت جاننے والا بڑا دبار

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ

نہیں جائز تیرے لیے عورتیں بعد اس کے اور نہ یہ کہ بدلیں لے تو ان کے

أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۚ

اور بیویاں اور اگرچہ اچھا لگے تجھے حسن ان کا سوائے انکے کہ جن کا مالک ہوا دایاں ہاتھ تیرا

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۝۱۰۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور ہے اللہ ہر بات پر نگہبان اے لوگو جو ایمان لائے ہو

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ

نہ داخل ہو گھروں میں نبی کے مگر یہ کہ اجازت دی جاوے نہیں کھانے کے لیے

غَيْرِ نَظَرٍ ۚ إِنَّهُ ۗ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا

نہ انتظار کرنے والے پکنے کا انکے دیکھیں جب بلائے جاؤ تم تو داخل ہو پھر جب

طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ ۚ إِحْدِيثًا ۚ إِنَّ

کھا چکو تم تو منتشر ہو جاؤ اور نہ لگے رہنے والے بات میں یقیناً

نہ کھا چکو تم تو منتشر ہو جاؤ اور نہ لگے رہنے والے بات میں یقیناً

ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ زَوَالَهُ لَا بَسْتَحْيِي

یہ بات ہے ایذا دیتی نبی کو پس وہ شرماتا ہے تم سے اور اللہ نہیں شرماتا

مِنَ الْحَقِّ ؕ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ

حق بات سے اور جب مانگو تم ان عورتوں سے سامان تو مانگو ان سے پیچھے سے

حِجَابٍ ؕ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ؕ وَمَا

پرده کے بہت پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے اور نہیں

كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا

ہے مناسب تمہارے لیے کہ تم ایذا دو رسول کو اللہ کے اور نہ بیکر نکاح دو

أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ؕ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ

بیویوں سے اسکی بعد اسکے کبھی بھی یقیناً یہ بات ہے نزدیک اللہ کے

عَظِيمًا ۝۳۱ إِنَّ تَبْدُؤَ شَيْءٍ أَوْ تَخْفُؤُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بہت بڑی اگر تم ظاہر کرو کچھ یا تم چھپاؤ اسے تو یقیناً اللہ ہے

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا

ہر بات کو خوب جاننے والا نہیں کوئی گناہ ان پر بارہ میں (سامنے ہونے) اپنے باپوں کے اور نہ

أَبْنَاؤُهُمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا آبْنَاؤُ إِخْوَانِهِمْ وَلَا

اپنے بیٹوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ

أَبْنَاؤُ إِخْوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؕ

اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ ان کے کہ جنکے مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے

وَأَتَّقِينَ اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۳۳

اور ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ ہے ہر بات پر نگہبان

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

یقیناً اللہ اور فرشتے اس کے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر اے لوگو جو

أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝۳۴ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

ایمان لائے ہو درود بھیجو اس پر اور سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا یقیناً جو لوگ ایذا دیتے ہیں

اللَّهُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۗ إِنَّ

اللہ کے اور کون آگاہ کرے تجھے شاید قیامت ہو قریب یقیناً

اللَّهُ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۗ خٰلِدِيْنَ

اللہ نے لعنت کی کافروں پر اور نیا رکھا ان کے لیے دوزخ وہ پڑنے والے ہیں

فِيْهَا اَبَدًا ۗ لَا يَجْدُوْنَ وِلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۗ يَوْمَ تَقْلُبُ

اس میں ہمیشہ نہیں پاویں گے کوئی دوست اور نہ مددگار جس روز اوندھے کئے جاویں گے

وَجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ

موندہ ان کے آگ میں وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور

اَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ۗ وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا

اطاعت کی ہوتی رسول کی اور وہ کہیں گے اے رب ہمارے یقیناً اطاعت کی ہم نے اپنے سرداروں کی

وَكَبِرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلًا ۗ رَبَّنَا اِيْتِهِمْ ضَعْفِيْنَ

اور اپنے بڑوں کی پس گمراہ کر دیا انہوں نے ہمیں راہ سے اے رب ہمارے دے انہیں دوگنا

مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَذَابُ لَعْنَا كَبِيْرًا ۗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

عذاب اور لعنت کر ان پر لعنت بڑی اے لوگو

اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّآهُ اللّٰهُ

جو ایمان لائے ہونے ہونا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے ایذا دی موسیٰ کو پس بری ٹھہرایا اے اللہ نے

مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

اس سے جو کہا انہوں نے اور تھا وہ نزدیک اللہ کے عزت والا اے لوگو جو

اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۗ يُصْلِحْ

ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور کہو بات مضبوط وہ درست کر دیکھا

لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ

تہارے لیے اعمال تمہارے اور بخش دیکھا تمہارے لیے گناہ تمہارے اور جو اطاعت کر دیکھا اللہ کی

وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۗ اِنَّا عَرَضْنَا

اور رسول کی اس کے تو یقیناً وہ کامیاب ہوا کامیابی بہت بڑی یقیناً ہم نے پیش کی

الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پس انہوں نے انکار کیا کہ

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ

اٹھاویں اسے اور ڈر گئے اس سے اور اٹھایا اسے انسان نے یقیناً وہ

كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ

ہے بہت ظلم کرنے والا بہت جوش والا تاکہ عذاب دے اللہ منافقوں مردوں اور

الْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى

منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور فضل سے توبہ ہو اللہ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر اور ہے اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا

سُورَةُ سَبَاٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہ کہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۝ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ يَعْلَمُ

اسی کی سب تعریفیں ہیں آخرت میں اور وہ حکمت والا بہت خبر رکھنے والا ہے جانتا ہے

مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُبُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے اور جو اُترتا ہے

السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ فِيهَا ۝ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝

آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے بہت بخشنے والا

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَ

اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں آوے گی ہم پر قیامت تو کہہ دے کیوں نہیں قسم

رَبِّي لَأَتَايَنَّكُمْ ۚ عَلِيمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

ہے رب کی میرے البتہ ضرور آئے گی تم پر جاننے والا غیب کا نہیں پوشیدہ ہوئی اس سے (کوئی چیز) ہوزن

ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ

ذرہ کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ چھوٹی اسل سے

وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۳﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا

اور نہ بڑی مگر کتاب بیان کرنے والی میں ہے تاکہ وہ بدل دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ

اور انہوں نے عمل کئے نیک یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے اور رزق

كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ

عزت والا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی آیات میں ہماری عاجز کرنا والے ہو کر یہ لوگ وہ ہیں کہ

لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ﴿۴﴾ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا

ان کیلئے عذاب ہے سخت قسم کا دردناک اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جو دیئے گئے

الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۚ وَ

علم کہہ جو اتارا گیا طرف تیری طرف سے رب کی تیرے وہی حق ہے اور

يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

وہ ہدایت دیتا ہے طرف راہ راشد، عزت والے خوبوں والے کی اور کہا ان لوگوں نے جنہوں

كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ

سے کفر کیا ہم آگاہ کریں تم کو ایک شخص پر جو خبر دیتا ہے تمہیں جب ریزہ ریزہ کئے جاؤ گے تم

كُلَّ مُمَرِّقٍ ۚ لَأَنبَأَنَّكُمْ لِفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿۶﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَىٰ

بالکل ریزہ ریزہ کیا جانا یقیناً تم البتہ پیدا کرنا نئی میں ہو گے کیا بانڈھ بیا ہے اس نے

اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اللہ پر جھوٹ یا اسے جنون ہے (نہیں) بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے

بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۙ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ

آخرت پر عذاب میں ہیں اور گمراہی میں دور کی کیا پس نہیں دیکھا تو نے مرنے

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ

اسکی جو آگے ہے اور جو پیچھے ان کے ہے آسمان اور زمین سے

إِن نَّشَاءُ نَحْشِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا

اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ساتھ ان کے زمین یا ہم گرا دیں ان پر ٹھکڑا

مِّنَ السَّمَاءِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۙ

آسمان سے یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں ہر بندے جھکنے والے کے لیے

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۗ يُجِبَالٌ أَوْ يَمَعَهُ

اور یقیناً یقیناً دیا ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل اور حکم دیا اسے پہاڑوں جھلو ساتھ اس کے

وَالطَّيْرَ ۗ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ ۙ ۙ إِن أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدِرٌ

اور پرندے بھی اور نرم کیا ہم نے اس کے لیے لوہا یہ کہ بنا زرہیں پوری اور اندازہ کر

فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

جوڑنے میں اور کرو نیک کام یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوْحُهَا شَهْرٌ ۗ وَ

اور دکا میں لگا دی سلیمان کے لیے ہوا صبح کا سفر اس کا ایک ماہ کا تھا اور شام کو سفر اس کا ایک ماہ کا تھا اور

أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ

بھایا ہم نے اس کے لیے چشمہ چھلے تانبہ کا اور بعض جن ایسے تھے کہ جو کام کرتے تھے آئے

يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغْ مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا

اس کے ساتھ حکم کے اسکے رب کے اور جو انحراف کرے گا ان میں سے حکم سے ہمارے

نُزِقْهُ مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۙ ۙ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ

ہم چکھا دیں گے اُسے عذاب جلنے کا وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا

مِّنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَاتِيْلٍ وَجِجَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ

تقلعوں اور تصویروں اور گنتوں میں سے مانند نالوں کے اور دیگیں اپنی

رَسِيْتٌ ۱۲ اِعْمَلُوا اِلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَّ قَلِيْلٌ مِّنْ

بگودھری رہتے والیاں کرو اے خاندان داؤد شکر اور کم ہیں

عِبَادِي الشُّكُوْرُ ۱۳ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا

بنوں سے میرے شکر گزار پس جب فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا نہیں

دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةَ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْ سَاتِهِ ۚ

آگاہ کیا ان کو موت پر اس کی مگر کیڑے نے زمین کے وہ کھاتا تھا عصا اس کا

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ اَن لَّوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

پس جب وہ گر گیا جان لیا جنوں نے کہ اگر ہوتے وہ جانتے

الْغَيْبِ مَا لِيْتُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۱۵ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا

غیب نہ رہتے عذاب ذلیل کرنے والے میں یقیناً یقیناً ہے سب کے لیے

فِي مَسْكِنِهِمْ اَيَّةٌ ۚ جَنَّتٍ عَن يَمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۚ كُلُوْا

گھروں میں ان کے نشان دوباغ دائیں اور بائیں کھاؤ

مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَ رَبُّ

رزق اپنے رب کا اور شکر کرو اس کا شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے

عَفُوْرٌ ۱۶ فَا عَرَضُوْا فَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ

بت بخشنے والا پس اعراض کیا انہوں نے پس بھیجا ہم نے ان پر سیلاب تیز اور

بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكْلٍ خَمْطٍ وَّ اَثَلٍ

بدل دیں دیتے ہم نے انہیں عوض میں انکے دو باغوں کے دوباغ میوے بد مزہ والے اور جھاڑ

وَّ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۱۷ ذٰلِكَ جَزٰٓئُهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۗ

اور کچھ سدریوں والے یہ بدلہ دیا ہم نے بسبب اس کے کفر کیا انہوں نے

وَمَلَّ نُجْرِي اِلَّا الْكُفُوْرَ ۱۸ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

اور نہیں سزا دیتے ہم مگر ناشکر کو اور بنائی تھیں ہم نے درمیان انکے اور درمیان

الْقُرٰٓى الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا قُرٰٓى ظَاهِرَةً وَّ قَدَرْنَا فِيْهَا

ان بستیوں کے کہ برکت دی ہم نے جن میں بستیاں پاس پاس اور مقرر کیں ہم نے ان میں

السَّيْرُ سَيْرٌ وَفِيهَا لَيْلِي وَآيَاتًا مِّنِي ۚ فَقَالُوا

منزبیں سفر کرو ان میں رات اور دن امن سے پس کہا انہوں نے

رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ

اے ہمارے رب دوری ڈال دے درمیان سفر کے ہمارے اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر پس کر دیا ہم نے انہیں

أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّ مَمْرَقٍ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

افسانے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کرنا یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں

لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۚ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ

ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کیلئے اور یقیناً یقیناً ٹھیک کیا تھا ان پر ابلیس نے اپنا گمان

فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانَ لَهُ

پس پیروی کی انہوں نے انکی سوائے ایک فریق کے مومنوں سے اور نہیں تھا اس کا

عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ۗ مِمَّنْ

ان پر کوئی غلبہ مگر تاکہ ظاہر کر دیں ہم کہ کون ایمان لاتا ہے آخرت پر بمقابلہ اس کے

هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۚ قُلْ

کہ جو متعلق اس آخرت کے شک میں ہے اور رب تیرا ہر بات پر نگران ہے تو کہدے

أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ لَا يَمْلِكُونَ

پکارو ان لوگوں کو کہ جنہیں گمان کیا ہے تم نے سوائے اللہ کے نہیں اختیار رکھتے وہ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن

برابر ذرہ کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہیں ان کے لیے ان دونوں میں کوئی

شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

شرکت اور نہیں اسکے لیے ان میں سے کوئی مددگار اور نہیں فائدہ دیتی سفارش

عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ ۗ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ

اس کے ہاں مگر اس کے لیے کہ اجازت دے اسے یہاں تک کہ جب دور کی جاتی ہے گھبراہٹ دلوں سے انکے

قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ

کہتے ہیں کیا کہا رب نے تمہارے کہتے ہیں حق اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے

۱۲

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْ

تو کہے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے تو کہے اللہ اور یقیناً ہم یا

إِنَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۶﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا

تم البتہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی کھلی کھلی میں تو کہے نہیں پوچھے جاؤ گے تم متعلق اسکے

أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

کے جرم کیا ہم نے اور نہ ہم پوچھے جائیں گے متعلق اسکے جو تم کرتے ہو تو کہے جمع کرے گا ہمیں

رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۸﴾ قُلْ

رب ہمارا پھر فیصلہ کرے گا درمیان ہمارے ساتھ حق کے اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے تو کہے

أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقُّهُمُ بِشُرْكَائِهِمْ ۗ بَلْ هُوَ اللَّهُ

دکھانے دو لوگ کہ جنہیں ملایا ہے تم نے ساتھ اسکے شریک ہرگز نہیں بلکہ اللہ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۹﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

عزت والا حکمت والا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر سب لوگوں کے لیے

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَ

خوشخبری دینے والا اور ڈرنے والا ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور

يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قُلْ

وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے تو کہے

لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً ۚ وَلَا

تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا نہ پیچھے ہو گے تم اس سے ایک گھڑی اور نہ

تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا

آگے بڑھو گے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اس

الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ

قرآن پر اور نہ اس پر جو پہلے اس سے ہے اور کاش دیکھے تو جبکہ

الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ

ظالم کھڑے کئے جائیں گے نزدیک اپنے رب کے پھرے گا بعض ان کے

إِلَىٰ بَعْضٍ بِالْقَوْلِ، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ

طرف بعض کے بات کو کہیں گے وہ لوگ جو کزور سمجھے گئے ان لوگوں کو جنہوں نے

اسْتَكْبَرُوا وَلَا أَنْتُمْ لَكُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ الَّذِينَ

تکبر کیا اگر نہ ہوتے تم البتہ ہوتے ہم ایمان لانے والے کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے

اسْتَكْبَرُوا وَالَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدٌ نَّكْمُ

تکبر کیا ان لوگوں کو جو کزور سمجھے گئے کیا ہم نے روکا تھا تم کو

عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۳﴾ وَقَالَ

ہدایت سے بعد اس کے کہ آئی تمہارے پاس بلکہ تھے تم مجرم اور کہیں گے

الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَلِ

وہ لوگ جو کزور سمجھے گئے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا بلکہ یہ ہدایت میں تھیں رات

وَالنَّهَارِ إِذ تَأْمُرُونَ أَنَّا نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ

دن کی جب کہ تم حکم کرتے تھے ہمیں کہ ہم کفر کریں اللہ کا اور ٹھہرائیں ہم اس کے

أَنذَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ

شریک اور پھپھائیں گے وہ ندامت جب دیکھیں گے عذاب

وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ

اور ڈالیں گے ہم طوق گردنوں میں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نہیں

يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي

بدلہ دینے جاہیں گے مگر اس کا جو تھے وہ عمل کرتے اور نہیں بھیجا ہم نے کسی

قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرًا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُومًا إِنَّا بِمَا

بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہا خوشحالوں نے اس کے یقیناً ہم اسکے کہ

أَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفْرًا ﴿۳۵﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا

بھیجے گئے ہو ساتھ جگے کافر ہیں اور کہا انہوں نے ہم زیادہ ہیں اموال اور

أَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۳۶﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ

اولاد میں اور نہیں ہم ہرگز عذاب دینے جانوالے تو کہے یقیناً رب میرا فراخ کرتا ہے

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ

جانتے اور نہیں مال تمہارے اور اولاد تمہاری وہ کہ جو قریب کرے تم کو

عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

نزدیک ہمارے قرب میں مگر وہ شخص جو ایمان لایا اور عمل کئے نیک تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ

لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ

ان کے لیے بدلے دگنا اس کا جو کیا انہوں نے اور وہ بالا خانوں میں

أَمْنُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ

امن سے ہونگے اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں آیات میں ہماری عاجز کرینگے لیے

أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي بِبَسُطِ

وہ لوگ عذاب میں حاضر کئے جانوالے ہیں تو کہہ دے یقیناً رب میرا فراخ کرتا ہے

الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا

رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا اس کے لیے اور نہیں

أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ

خرچ کر دگے تم کوئی چیز تو وہ بدل دے گا اس کا اور وہ بہتر ہے

الرِّزْقِينَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ

رزق دینے والوں سے اور جس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو پھر کہے گا

لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلًا أَمْ لَا ۚ آيَاتُكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا

فرشتوں کو کیا یہ لوگ تمہاری تھے عبادت کرتے وہ کہیں گے

سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

پاک ہے تو ، تو کار ساز ہے ہمارا سوائے ان کے (نہیں) بلکہ تھے وہ عبادت کرتے

الْحِنِّ ۚ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ

جنوں کی اکثر ان کے ان پر ایمان رکھنے والے تھے پس آج نہیں اختیار رکھتا

۳۳

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ

بعض تمہارا بعض کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے

ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۳۳﴾

ظلم کیا پھسو عذاب آگ کا وہ کہ تھے تم جس کی تکذیب کرتے

وَإِذَا تُثَلِّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا

اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری کھلی کھلی وہ کہتے ہیں نہیں یہ مگر

رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ

ایک مرد جو چاہتا ہے کہ روک دے تم کو اس سے کہ تھے جسکی عبادت کرتے باپ دادا تمہارے

وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَكٌ مُّفْتَرٍ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ

اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گھڑا ہوا اور کہا ان لوگوں نے

كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۴﴾

جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب وہ آیا ان کے پاس نہیں یہ مگر جادو کھلا کھلا

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا

حالانکہ نہیں دی تھیں ہم نے انہیں کوئی کتاب کہ پڑھتے ہوں وہ جنہیں اور نہیں بھیجا ہم نے

إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿۳۵﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

طرف ان کی پہلے تجھ سے کوئی ڈرنے والا اور تکذیب کی ان لوگوں نے جو

قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا بَلَغُوا مَعَ شَرِّ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا

پہلے تھے ان سے حالانکہ نہیں پہنچے دسویں حصہ کو اسکے جو دیا تھا ہم نے ان کو پس تکذیب کی انہوں

رُسُلِي ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۶﴾ قُلْ إِنَّمَا عِظُكُمْ

نے رسولوں کی میرے پس کیسا ہوا عذاب میرا تو کہہ دے سوائے اسکے نہیں کہیں نصیحت نہ کرنا کہو

بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرَادَى ثُمَّ

ایک بات کی یہ کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک پھر

تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا

غور و فکر کرو نہیں ساتھی کو تمہارے کوئی جنوں نہیں ہے وہ مگر

نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۳۷﴾ قُلْ

ڈرانے والے تمہارے لیے آگے عذاب سخت کے تو کہدے

مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى

جو مانگا ہو میں نے تم سے کوئی اجر وہ تمہارے لیے ہے نہیں اجر میرا مگر ذمہ

اللَّهِ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَافِكُفُ

اللہ کے اور وہ ہر چیز پر شہید ہے تو کہدے یقیناً رب میرا ڈان ہے

بِالْحَقِّ ، عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿۳۹﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ

حق خوب جاننے والا ہے غیبوں کا تو کہدے آگیا حق اور نہیں پہلے بار پیدا کرتا

الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ﴿۴۰﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضَلُّ

(معبود) باطل اور نہ دوبارہ پیدا کرتا ہے تو کہدے اگر گمراہ ہو جاؤں میں تو سوائے اسکے نہیں کہ گمراہ ہونگا

عَلَى نَفْسِي ، وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ط

اپنے آپ پر اور اگر ہدایت پاؤں میں تو سبب اس کے کہ وحی کرتا ہے طرف میری رب میرا

رَأَيْتَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۴۱﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَ

یقیناً وہ خوب سننے والا قریب ہے اور کاش دیکھے تو جبکہ وہ گمراہوں کے پس نہ

قُوتٌ وَآخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿۴۲﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ،

بھانگنا ہوگا اور پکڑے جائیں گے مکان قریب سے اور کہیں گے ایمان لائے ہم اس پر

وَإِنِّي لَهُمُ التَّنَادُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۴۳﴾ وَقَدْ كَفَرُوا

حالانکہ کہاں ہوگا ان کے لیے پکڑنا مکان دور سے اور یقیناً کفر کیا انہوں نے

بِهِ مِنْ قَبْلُ ، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ

اس کا پہلے سے اور تیرکتے چلاتے ہیں متعلق غیب کے مکان

بَعِيدٍ ﴿۴۴﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُجِدَ

دور سے اور روک ڈالی گئی درمیان ان کے اور درمیان اسکے جو وہ چاہیں گے جیسا کہ کیا گیا

بِأَشْيَاءِ عَمَّهُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿۴۵﴾

ہم جنسوں سے اس کے پہلے یقیناً وہ تھے شک ہلاک کرنے والے میں

سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنا والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا ہے فرشتوں کو

رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثُلُثٍ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي

پیغام بر پروں والے دودو اور تین تین اور چار چار بڑھاتا ہے

الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

پیدا کر میں جسے چاہتا ہے یقیناً اللہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے جو

يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا

کھول دے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت تو نہیں کوئی بند کرنے والا اسے اور جو

يُمْسِكُ فَلَا مُرْسَلٍ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ

بند کرے تو نہیں کوئی جاری کرنے والا اسے بعد اس کے اور وہ عزت والا

الْحَكِيمُ ۱ يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

حکمت والا ہے اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ کی

عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

اپنے اوپر کیا ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے جو رزق دے تم کو آسمان سے

وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِي تَوْفِكُونَ ۲ وَإِنْ

اور زمین سے نہیں کوئی خدا سوائے اس کے پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو اور اگر

يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ إِلَى اللَّهِ

جھٹلاؤں وہ تجھے تو یقیناً جھٹلانے گئے رسول پہلے تجھ سے اور طرف اللہ کی

تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۱۰ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

پہرے جاتے ہیں سب کام اسے لوگو یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ

پس نہ فریب دے تم کو زندگی دنیوی اور نہ فریب دے تم کو بارہ میں اللہ کے

الْغُرُورُ ۱۱ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

بڑا فریبی (یعنی شیطان) یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے پس سمجھو اسے دشمن

إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۱۲

سوائے ان کے نہیں کہہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جاویں دوزخ والوں سے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ہے سخت اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۱۳ أَفَمَنْ

عمل کئے نیک ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بڑا کیا پس وہ شخص

زِينٌ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ

کمزور صورت کی گنتی اس کیلئے بڑائی اس کے کام کی پس دیکھا اُسے اسے اچھا پس یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ

جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے پس نہ جاتی رہے جان تیری

عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۱۴

ان پر افسوس سے یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے اُسے جو وہ کرتے ہیں

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فاسْقِنَهُ

اور اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو پس وہ اٹھاتی ہیں بادل پھر ہم ہانک کر بیجاتے ہیں

إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ

طرف شہر مردہ کے پس زندہ کرتے ہیں ہم اس سے زمین کو بعد موت کے اس کی

كَذَلِكَ النُّشُورُ ۱۵ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحِزَّةَ فَلِلَّهِ

اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے جو شخص ہے چاہتا عزت تو اللہ کیلئے ہے

الْحِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْعِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ

عزت سب کی سب طرف اس کی چڑھتی ہیں باتیں اچھی اور عمل

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ

نیک بلند کرتا ہے اسے اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بُرائیوں کی ان کے لیے

عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَمَكْرُأُولِئِكَ هُوَ يُبَوِّدُ ۝۱۱۱ وَابِلَهُ

عذاب ہے سخت اور تدبیر ان لوگوں کی ہی اکارت جٹے گی اور اترنے

خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ

پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر نطفہ سے پھر بنایا تم کو

أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ،

جوڑے اور نہیں حمل والی ہوتی کوئی عورت اور نہ وہ جنینی ہے مگر علم سے اس کے

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا

اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا ہوا اور نہ کم کیا جاتا عمر سے اس کی مگر

فِي كِتَابٍ مِّنْ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۱۲ وَمَا يَسْتَوِي

ایک کتاب میں ہے یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے اور نہیں برابر ہونے

الْبَحْرَيْنِ ۚ هَٰذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ

دو دریا یہ بیٹھا خوشذائق خوشگوار ہے پانی اس کا اور

هَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ۚ

یہ نمکین بہت کرپوا اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تازہ اور

تَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ

نکالتے ہو زیور (کی چیزیں) پہنتے ہو تم اسے اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو اس میں

مَوَآخِرٍ لِّتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۱۳

پھاڑنے والیاں رہائی کو تاکہ حاصل کرو تم فضل اس کا اور تاکہ تم شکر گزار بنو

يُؤَلِّجُ الْآيِلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْآيِلِ ۚ لَا

وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

اس نے کامیں لگا دیا سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے تا معیار مقررہ

ذِكْرًا لِلَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

یہی ہے اللہ رب تمہارا اس کی بادشاہی ہے اور وہ لوگ جنہیں پکارتے ہو تم

دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۗ۱۴۱۰ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا

سوائے انکے نہیں وہ اختیار رکھتے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی اگر تم پکارو انہیں نہیں

يَسْمَعُونَ اَدْعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ؕ

سنیں گے پکار تمہاری اور اگر سنیں تو نہ جواب دیں گے تم کو

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ

اور بروز قیامت وہ انکار کریں گے شرک کا تمہارے اور نہ آگاہ کرے گا تجھے

مِثْلُ خَيْرٍ ۗ۱۴۱۱۰ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَىٰ

مانند بہت خبردار کے اسے لوگو تم محتاج ہو

اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ۱۴۱۲۰ اِنْ يَشَاءُ ذَهَبَكُمْ

اللہ کے اور اللہ ہی بے پرواہ خوبوں والا ہے اگر وہ چاہے لے جاوے تمہیں

وَيَا تِ يَخْلُقُ جَدِيدًا ۗ۱۴۱۳۰ وَمَا ذَلِكَ عَلَيَّ اِلَّا بِعَزِيزٍ ۗ۱۴۱۴۰

اور لاشے خلقت نئی اور نہیں یہ اللہ پر ہرگز مشکل

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اٰخْرَىٰ ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَىٰ

اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھائیوالا بوجھ دوسرے کا اور اگر پکارے بوجھ والی طرف

حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ اِنَّمَا

اپنے بوجھ کی نہیں اٹھایا جاوے گا اس سے کچھ بھی اور اگر چہ ہو وہ رشتہ دار سوائے اس کے

تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ۚ وَاَقَامُوا

نہیں کہ تو ڈرتا ہے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ اور قائم کرتے ہیں

الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَاِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَاِلَىٰ

نماز اور جو پاکیزگی حاصل کرے تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے اپنے لیے اور طرف

۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴

اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿۱۹﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۲۰﴾ وَلَا

الشیکی مٹکانا ہے اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا اور نہ

الظُّلْمُتُ وَلَا التُّورُ ﴿۲۱﴾ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ ﴿۲۲﴾ وَمَا

اندھیرے اور نہ روشنی اور نہ سایہ اور نہ دھوپ اور نہیں

يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن

برابر ہوتے زندے اور نہ مڑے یقیناً اللہ سنا دیتا ہے جسے

يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿۲۳﴾ إِنْ أَنْتَ إِلَّا

چاہے اور نہیں تو ہرگز سنانے والا ان کو جو قبروں میں ہیں نہیں تو مگر

نَذِيرٌ ﴿۲۴﴾ تَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ

ڈرانے والا یقیناً ہم نے بھیجا تجھے ساتھ حق کے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور نہیں

مَنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۵﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ

کوئی قوم مگر گزرا ہے اس میں ڈرانے والا اور اگر وہ جھٹلاویں تجھے تو یقیناً

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

جھٹلایا ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے آئے تھے انکے پاس رسول انکے ساتھ دلائل کے

وَبِالزُّبُرِ ۗ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ

اور چھوٹی چھوٹی کتابوں اور کتاب روشن کے پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے

كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۲۷﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ

کفر کیا پس کیسا ہوا عذاب میرا کیا نہیں دیکھا تو نے کو اللہ نے اتارا

السَّمَاءِ مَاءً ۗ فَخَرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۗ

آسمان سے پانی پھر نکالے ہم نے اس سے پھل کہ مختلف ہیں رنگ ان کے

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ۗ

اور پہاڑوں سے ٹکڑے ہیں سفید اور سرخ مختلف ہیں رنگ ان کے

وَعَرَابٍ مِّدْيَانٍ سَوَدٌ ﴿۲۸﴾ ۗ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ

اور کالے سیاہ اور آدمیوں میں سے اور جانوروں میں سے اور چارپایوں میں سے

مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ مَا تَمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ

مختلف ہیں رنگ ان کے اسی طرح صرف ڈرتے ہیں اللہ سے

عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۳۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ

بنوں میں سے ان کے عالم یقیناً اللہ عزت والا بہت بخشنے والا ہے یقیناً وہ جو

يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا

پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿۳۲﴾

دیا ہم نے ان کو پلوں شیدہ اور ظاہر امید رکھتے ہیں اس تجارت کی جو ہرگز نہ تباہ ہوگی

لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ

تاکر وہ پورے دے انہیں اجر ان کے اور زیادہ دے انہیں فضل سے اپنے یقیناً وہ

غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

بہت بخشنے والا قدر دان ہے اور وہ جو وحی کی ہم نے طرف تیری اس کتاب میں سے

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

وہ حق ہے تصدیق کرنیوالی ہے اس کی جو پہلے ہے اس سے یقیناً اللہ

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الَّذِينَ

اپنے بندوں کا اللہ بہت خبردار خوب دیکھنے والا ہے پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں

اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ،

چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے پس کوئی ان میں سے ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ

اور کوئی ان میں سے میانہ رو ہے اور کوئی ان میں سے سبقت لیجا نبوالا ہے نیکیوں میں حکم سے

اللَّهُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۳۵﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ

اللہ کے یہ جنت بڑا بانات ہیں ہمیشگی کے

يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا،

داخل ہوں گے وہ جن میں وہ پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے اور موتی

وَلِبَاسُ مِمَّنْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۳۷﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور لباس ان کے اس میں ریشم ہوگا اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے

أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۸﴾ الَّذِي

دور کیا ہم سے غم یقیناً رب ہمارا البتہ بت بخشنے والا قادر دان ہے جس نے

أَخْلَنَّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۗ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا

اُتارا ہمیں گھر دائمی میں اپنے فضل سے نہیں پہنچتی، ہمیں اس میں

نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

کون تکلیف اور نہ پہنچتی، ہمیں اس میں تکلیف اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۗ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا

ان کے لیے آگ ہے جہنم کی نہ قضا لائی جائے گی ان پر کہ وہ مر جاویں اور نہ

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۴۰﴾

ہلکا کیا جاوے گا ان سے عذاب اس کا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کفر کو نوائے کو

وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا ۗ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

اور وہ چلائیں گے اس میں اے رب ہمارے نکال ہمیں عمل کریں گے ہم نیک

غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ

سوائے ان کے جو تھے ہم کرتے کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تم کو اس قدر کہ نصیحت حاصل کر لیتا

فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ التَّذْوِيرُ فَأَنْزَلْنَا

اس میں وہ جو نصیحت حاصل کرتا اور آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا پس چکھو (عذاب) پس نہیں

لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿۴۱﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَ

ظالموں کے لیے کون مددگار یقیناً اللہ جانتے والا ہے غیب آسمانوں اور

الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۴۲﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ

زمین کا یقیناً وہ خوب جانتے والا ہے بات سینوں والی وہ جس نے بنایا تم کو

خَلْقَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ

جانشین زمین میں پھر جس نے کفر کیا اسی پر ہے کفر اس کا اور نہیں بڑھاتا

الْكَافِرِينَ كَفَرُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ

کافروں کو کفر ان کا نزدیک انکے رب کے مگر ناراضی میں اور نہیں زیادہ کرتا

الْكَافِرِينَ كَفَرُوهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۳۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمْ

کافروں کو کفر ان کا مگر نقصان میں تو کہے۔ تاڑ تو سہی شرکاء تمہارے

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ أَدْرُؤُنِي مَاذَا خَلَقُوا

وہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے دکھاؤ مجھے جو کچھ پیدا کیا انہوں نے

مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ آتَيْنَهُمْ

زمین میں سے یا ان کے لیے شراکت ہے آسمانوں میں یا دی تم نے انہیں

كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنَّ يَعْدُ الظَّالِمُونَ

کتاب کردہ دلیل پر ہیں اس سے بلکہ نہیں وعدہ دیتے ظالم

بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿۳۲﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَ

ایک دوسرے کو سوائے دھوکے یقیناً اللہ تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور

الْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ

زمین کو کر نہ مل جاویں اور اللہ اگر دونوں مل جاویں نہ تھام کے انہیں کوئی

مِّنْ بَعْدِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۳۳﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ

بعد اس کے یقیناً وہ ہے بردبار بہت بخشنے والا اور کھالی ٹھٹھیں انہوں نے اللہ کی

جَهْدًا يَّمَانِيَهُمْ لِيُتُنَّ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُوا هُدًى

پختہ تمہیں اپنی کراگر آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ضرور وہ ہوں گے بہت ہدایت

مِّنْ أَحَدٍ أَلَمْ يَأْتِ الْفُلُوكَ فَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا

والے ہر ایک اُمت سے پس جب آیا انکے پاس کوئی ڈرانے والا نہ زیادہ کیا اس نے نہیں مگر

نُفُورًا ﴿۳۴﴾ يَا سَتِّعْبَارَ فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ ۗ وَلَا يَحِيقُ

نفرت میں تنجبر کی وجہ سے زمین میں اور بوجہ تدبیر بری کے اور نہیں گھبرتی

الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۗ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ

تدبیر بری مگر اپنے کرنے والے کو پس نہیں وہ انتظار کرتے مگر سنت کا

الْأَوَّلِينَ، فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ

پہلوں کی پس ہرگز نہ پاوے گا تو سنت کیلئے اللہ کی کوئی تبدیلی اور ہرگز نہ پاوے گا

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿۳۳﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

سنت کے لیے اللہ کی کوئی تغیر کیا نہیں چلتے پھرتے وہ زمین میں کر دیکھیں وہ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ

کیسا ہوا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے ان سے اور تھے وہ بہت سخت

مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي

ان سے قوت میں اور نہیں ہے اللہ کو عاجز کرے اسے کوئی چیز

السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۳۴﴾

آسمانوں میں اور نہ زمین میں یقیناً وہ ہے بہت جاننے والا بہت قدرت رکھنے والا

وَلَوْ يُوَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى

اور اگر چلائے اللہ لوگوں کو بسبب اس کے جو وہ کما تے ہیں نہ چھوڑے

ظَهْرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

پشت پر اس کی کوئی جاندار و لیکن ملت دیتا ہے انہیں تا میعاد مقررہ

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿۳۵﴾

پس جب آوے گی میعاد ان کی تو یقیناً اللہ ہے بندوں کو اپنے خوب دیکھنے والا

سُورَةُ يَسٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

دریں پڑھنا ہوں ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

يَسٍ ﴿۲﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿۳﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴﴾

یس - قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ یقیناً تو اللہ کے رسولوں میں سے ہے

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

راہ راست پر اُتارنا ہے عزت والے بہت رحم کرنے والے کا

لَتُنذِرَكُمْ وَمَا تُنذِرُ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۝ لَقَدْ

تا کہ تو ڈر دے اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گئے باپ دادا ان کے پس وہ غافل ہیں یقیناً

حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا

مگ چکا ہے فرد جرم اکثر پر ان میں سے پس وہ نہیں ایمان لاتے یقیناً

جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ

ہم نے ڈالے گردنوں میں ان کی طوق پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں پس وہ

مُقَمَّحُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

سراونچا کٹے ہوئے ہیں اور بناں ہم نے آگے ان کے ایک دیوار اور

خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ وَسَاءَ

پہچے ان کے ایک دیوار پس ڈھانکا ہم نے انہیں پس وہ نہیں دیکھتے اور برابر ہے

عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ ءَأَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

ان پر خواہ ڈر لے تو انہیں یا نہ ڈرائے تو انہیں نہیں ایمان لاتے وہ

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ۝

سوائے اسکے نہیں کہ تو ڈراتا ہے اسے جو پیروی کرتا ہے نصیحت کی اور ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ

پس خوشخبری دے اسے بخشش کی اور اجر عزت والے کی یقیناً ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

اور لکھتے ہیں جو آگے بھیجا انہوں نے اور نشانوں کو ان کے اور ہر چیز شمار کر لیا ہے ہم نے اسے

إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝ وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا بِأَصْحَابِ الْقَرِيِّةِ ۝

کتاب ظاہر میں اور بیان کر ان کے لیے مثال بستی والوں کی

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

جس وقت آئے اس میں بھیجے ہوئے جب بھیجے ہم نے طرف ان کی دو

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّوْا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَٰهِيكُمْ

تو جھٹلا یا انہوں نے ان دونوں کو پس قوت دی ہم نے ساتھ تیسرے کے پس کہا انہوں نے یقیناً ہم طرف تمہاری

مُرْسَلُونَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لَوْ مَا

بیجھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا نہیں تم مگر انسان مانند ہماری اور نہیں

أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿۱۶﴾

اتاری رحمن نے کوئی چیز نہیں تم مگر جھوٹ بولتے

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَٰهِيكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۷﴾ وَمَا

انہوں نے کہا رب ہمارا جانتا ہے کہ یقیناً ہم طرف تمہاری البتہ بیجھے ہوئے ہیں اور نہیں

عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾ قَالُوا إِنَّا نَطِيرُ نَابَكُمْ

ذم ہمارے مگر پہنچا دینا کھول کھول کر انہوں نے کہا یقیناً ہم نے: ننگونی ل تم سے

لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوا لَتَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ

البتہ اگر نہ باز آؤ گے تم ضرور سنگسار کریں گے ہم تم کو اور ضرور پہنچے گا تم کو طرف سے ہماری عذاب

إِلَيْكُمْ ﴿۱۹﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنذُكُمْ نَحْنُ بَل

دردناک انہوں نے کہا بدشگونئی تمہاری تمہارے ساتھ ہے کیا اگر نصیحت کئے گئے تم بلکہ

أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۲۰﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ

تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو اور آیا کنارے پرے سے شہر کے

رَجُلٌ يَّسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱﴾

ایک آدمی دوڑتا ہوا اس نے کہا اے قوم میری پیروی کرو بیجھے ہوؤں کی

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مَهْتَدُونَ ﴿۲۲﴾

پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے مزدوری اور وہ راہ پائے ہوئے ہیں



الجزع ۲۳

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾

اور کیا ہوا مجھے کرنے عبادت کروں اس کی جس نے پیدا کیا مجھے اور طرف اسکی تم پھر سے جاؤ گے

أَتَأْتِخُذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً إِنْ يُرَدِّدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا

کیا بنا لوں میں سوائے اس کے معبود اگر چاہے مجھے رحمن نقصان پہنچانا نہ

تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿۳۷﴾ إِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ

کفایت کرے مجھے سفارش ان کی کچھ بھی اور نہ چھڑا سکیں گے وہ مجھے یقیناً میں اس وقت البتہ

ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾ إِنْ يَأْمُرُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوا إِنِ كُنْتُمْ

گراہی کھلی کھلی میں ہونگا یقیناً میں ایمان لایا رب پر تمہارے پس سنو میری کہا گیا اس سے

أَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ بِمَا

داخل ہو جا جنت میں اس نے کہا اے کاش کہ قوم میری جانتی اس کو کہ

عَفَرِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۴۰﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا

بخشا مجھے رب نے میرے اور بنایا مجھے معززین میں سے اور نہیں اتارا ہم نے

عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

قوم پر اس کی بعد اس کے کوئی لشکر آسمان سے اور نہیں تھے ہم

مُنزِلِينَ ﴿۴۱﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

اتارنے والے نہ تھی مگر آواز سخت یک دم پس اچانک وہ

خَامِدُونَ ﴿۴۲﴾ يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ

مجھے ہوتے تھے اے انوس بندوں پر نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۳﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ

مگر تھے وہ ساتھ اس کے ہنسی کرتے کیا نہیں دیکھا انوں نے کتنی ہی ہلاک کیں ہم نے پہلے ان کے

مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۴۴﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا

تزیں کہ وہ طرف ان کی نہیں لوٹنے اور نہیں میں سب مگر

جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۴۵﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ

اکٹھے پاس ہمارے حاضر کئے جانوالے اور نشان ہے انکے لیے زمین مردہ

وقف غفلت

الجزع ۲۳

أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳۳﴾ وَجَعَلْنَا

گزنہ کیا ہم نے جسے اور نکالے ہم نے اس سے دانے پس اس سے وہ کھاتے ہیں اور بنائے ہم نے

فِيهَا جَنَّاتٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَنَّ

اس میں باغات کججوروں اور انگوروں کے اور جاری کئے ہم نے اس میں

الْعُيُونِ ﴿۳۵﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاعْمَلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

چشمے تاکہ وہ کھاویں پھل اس کے اور اس سے کرنا یا ہے جسے انکے ہاتھوں نے

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

کیا پھر نہیں شکر کرتے وہ پاک ہے وہ جس نے پیدا کئے جوڑے سب کے سب

مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

اس سے جو اگاتی ہے زمین اور خود ان سے اور اس سے جو نہیں وہ جانتے

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ بِنَسْخِ مِثْلِ النَّهَارِ فَإِذَا هُمُ مُّظْلِمُونَ ﴿۳۸﴾

اور نشان ہے ان کے لیے رات ہم کھینچ نکالتے ہیں اس سے دن پس اچانک وہ اندھیرے والے ہوتے ہیں

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

اور سورج چلتا ہے مقرر جگہ پر اپنی اندازہ ہے غالب بہت

الْعَلِيمِ ﴿۳۹﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ

علم والے کا اور چاند کہ ہم نے مقرر کردیں اسکی منزلیں یہاں تک کہ ہوجاتا ہے مانند شاخ کججور

الْقَدِيمِ ﴿۴۰﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

پرانے کے نہیں سورج کہ ممکن ہو واسطے اس کے کہ پکڑ لوے چاند کو

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۴۱﴾ وَ

اور نہ رات آگے نکلنے والی ہے دن سے اور سب آسمان میں تیرتے ہیں اور

آيَةٌ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۴۲﴾

نشان ہے انکے لیے کہ ہم نے سوار کیا نسل کو ان کی کشتی بھری ہوئی میں

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿۴۳﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ

اور پیدا کیا ہم نے ان کیلئے مانند اس کی جس میں وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں غرق کردیں انہیں

فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ ﴿۳۳﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ

پس نہ ہو کوئی فریاد رس ان کے لیے اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے سوائے رحمت کے طرف سے ہماری اور

مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

فائدہ پہنچانے کیلئے ایک وقت تک اور جب کہا جاتا ہے ان کو ڈرو اس سے جو آگے ہے تمہارے

وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ

اور جو پیچھے ہے تمہارے تاکہ تم رحم کیلئے جاؤ اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نشان

مِّنْ آيَةٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا قِيلَ

نشانیوں میں سے ان کے رب کے مگر ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے اور جب کہا جاتا ہے

لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ لَآ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا

انہیں خرچ کرو اس سے جو دیا تم کو اللہ نے کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن نُّطْعِمَهُمْ مِنْ تَوْشِيءِ اللَّهِ أَطْعَمَهُمْ إِنَّ

ان لوگوں کو جو ایمان لائے کیا کھلاویں ہم ان لوگوں کو اگر چاہتا اللہ کھلا دیتا انہیں نہیں

أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ

تم مگر گمراہی کھلی کھلی میں اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَآجِدَةً

اگر ہو تم سچے نہیں انتظار کرتے مگر تیز آواز ایک دم کا

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۴۰﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً

جو پکڑے انہیں اور وہ جھگڑتے ہوں گے پس نہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی

وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۱﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ

اور نہ طرف اپنے گھروں کی لوٹیں گے وہ اور بجایا جائے گا بگل پس اچانک وہ

مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۴۲﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ

قبروں سے طرف اپنے رب کی دوڑیں گے کہیں گے اے انیسویں ہم پر کس نے

بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۚ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ

اٹھایا ہم کو خوابگاہ سے ہماری یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمن نے اور سچ کہا تھا

الْمُرْسَلُونَ ۵۳ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

رسولوں نے نہیں ہے وہ مگر تند آواز یک دم پس اچانک وہ

جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۵۴ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

سب کے سب پاس ہمارے حاضر کئے جانے والے ہونگے پس آج نہ ظلم کیا جائیگا کوئی نفس کچھ بھی

وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۵۵ إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ

اور نہ تم بدل دیئے جاؤ گے مگر اس کا جو حق تم کرتے یقیناً رہنے والے جنت کے

الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاغْمُوسُونَ ۵۶ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى

آج شغلوں میں مڑے پارہے ہونگے وہ اور بیویاں ان کی سایوں میں

الْأَرَائِكِ مُتَّكِعُونَ ۵۷ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مِمَّا

تختوں پر تکیہ لگانے والے ہوں گے ان کے لیے اس میں میوہ ہوگا اور ان کیلئے ہوگا جو وہ

يَدْعُونَ ۵۸ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۵۹ وَامْتَارُوا

مانگیں گے سلام کہا جائیگا طرف سے رب بہت رحم کرنے والے کی اور جدا ہو جاؤ

الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۶۰ أَلَمْ أَعْهَدْ لَكُمْ يَبْنَئِ أَدَمُ

آج اے مجرمو! کیا نہیں تمہاری حکم بھیجا تھا میں نے طرف تمہاری سے بنی آدم

أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۶۱ وَإِنْ

کہ نہ عبادت کرنا تم شیطان کی یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا اور یہ کہ

اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۶۲ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ

عبادت کرو میری یہ راہ ہے سیدھی اور یقیناً گمراہ کیا اس نے تم میں سے

جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۶۳ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي

مخلوق بہت کو کیا پھر نہیں ہو تم سمجھتے یہ ہے جہنم جس کا

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۶۴ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۶۵

تھے تم وعدہ دیئے جاتے داخل ہوا میں آج بسبب اسکے کہ تھے تم کفر کرتے

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ

آج ہم مہر کر دیں گے مومنوں پر ان کے اور باتیں کریں گے ہم سے ہاتھ ان کے اور گواہی دیں گے

أَجْلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۶۶﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ

پیر ان کے، اس کی جو تھے وہ کرتے اور اگر ہم چاہیں البتہ مٹا دیں

أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصَرُونَ ﴿۶۷﴾ وَلَوْ

آنکھیں ان کی پس آگے بڑھیں طرف راہ کی پھر کہاں سے وہ دیکھیں گے اور اگر

نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا

ہم چاہیں ضرور مسخ کر دیں ہم انہیں جگہ پر ان کی پس نہ طاقت رکھیں گے آنے جانے کی

وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۸﴾ وَمَنْ تَعْمَرَهُ نُتَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا

اور نہ لوٹ سکیں گے اور جو شخص کہ ہم عمر دیتے ہیں جسے ہم کم کرتے جاتے ہیں اُسے پیدائش میں کیا پھینس

يَعْقِلُونَ ﴿۶۹﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ

وہ سمجھتے اور نہیں سکھا یا ہم نے اُسے شعر اور نہیں لائق اسکے لیے نہیں وہ

إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿۷۰﴾ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ

مگر نصیحت اور قرآن بیان کرنے والا تاکہ ڈراوے تو اسے جو ہے زندہ اور ثابت ہو

الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۷۱﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا

بات کافروں پر کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے پیدا کئے ان کے لیے اس سے کہ

عَمِلَتْ أَيْدِيئَانَا نَعْمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿۷۲﴾ وَذَلَّلْنَاهَا

بنائے ہاتھوں نے ہمارے لیے چار پائے پس وہ ان کے مالک ہیں اور فرمانبردار بنایا ہم

لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿۷۳﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

نے انہیں ان کیلئے پس بعض ان میں سے سواری ہیں انہی اور بعض ان میں سے وہ کھاتے ہیں اور ان کیلئے ان میں فائدے ہیں

وَمَشَارِبٌ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۷۴﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور پینے کی چیزیں کیا پھر نہیں شکر کرتے اور بنائے انہوں نے سوائے اللہ کے

إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۷۵﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ

معبود تاکہ وہ مدد دیئے جائیں نہیں کر سکیں گے مدد ان کی اور

هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿۷۶﴾ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا

وہ ان کے لیے شکر ہوں گے حاضر کئے جانے والے نہ غم میں ڈالے تجھے بات ان کی یقیناً

۷۰

وقف الاذن

تَعَلَّمْ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعَلِّمُونَ ﴿۸۰﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّمَا

ہم جانتے ہیں جو وہ پھماتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں کیا نہیں دیکھا انسان نے کہہنے

خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۸۱﴾ وَضَرَبَ

پیدا کیا اُسے نطفے سے پھر جھٹ وہ جھگڑنے والا ہے کھلا کھلا اور بیان کرنے لگا

لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ

ہمارے لیے مثال اور بھول گیا اپنی پیدائش کہنے لگا کون زندہ کریگا ہڈیاں جبکہ وہ

رَمِيمٌ ﴿۸۲﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ

بوسیدہ ہوں گی تو کمرے زندہ کریگا وہ جس نے پیدا کیا تھا انھیں پہلی بار اور وہ ہر

خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ

پیدائش کا خوب علم رکھنے والا ہے وہ جس نے بنائی تمہارے لیے درخت سبز سے

نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿۸۴﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ

آگ پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کئے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ

آسمان اور زمین قادر اس پر کہ پیدا کرے مانند ان کی کیوں نہیں

وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۵﴾ نَمَّا أَمْرُهُ إِذَا أَدَّ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

جبکہ وہی بہت پیدا کرنے والا بہت علم والا ہے سوائے اسکے نہیں کہ حکم اس کا جب چاہے کوئی چیز یہ کہ کہتا ہے

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۶﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ

اسے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے پس پاک ہے وہ کہ ہاتھ میں جس کے بادشاہی ہے ہر

شَيْءٍ وَرَأْيِهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۷﴾

چیز کی اور طرف اس کی تم لوٹاٹے جاؤ گے



سُورَةُ الصَّفَّتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(بِسْمِ پڑھنا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالصَّفَّتِ صَفًّا ۲ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۳ فَالتَّلِيَّتِ ذِكْرًا ۴

اور قسم ہے باندھنے والیوں کی اچھی طرح صف بھڑانے والوں کی اچھی طرح بھڑ پڑھنے والیوں کی نصیحت نامہ

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۵ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا

یقیناً معبود تمہارا ایک ہے رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو

بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۶ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا

درمیان ہے ان دونوں کے اور رب ہے مشرقوں کا یقیناً ہم نے زینت دی آسمان ورے کو

بِزَيْنَةٍ اِلٰكُواكِبٍ ۷ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۸ لَا

ساتھ زینت کے ستاروں کی اور بغرض حفاظت کے ہر شیطان سرکش سے نہیں

يَسْمَعُونَ اِلَى الْمَلَا الْاَعْلٰى وَيُقَدِّ فُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۹

کان رکھتے وہ طرف جماعت اعلیٰ کے اور وہ پھل کارے جاتے ہیں ہر طرف سے

دُخُوْرًا ۱۰ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۱۱ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ

دھکے دیکر اور واسطے ان کے عذاب ہے لازمی مگر جو اچک کر لیا گیا اچکنا ایک بار

فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۱۲ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا

تو پیچھے گتا ہے اسکے شعلہ چمکتا ہوا ہیں پوچھ ان سے کیا وہ سخت ہیں پیدا میں

اَمْ مَنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۱۳ بَلْ

یا جو پیدا کئے ہیں ہم نے یقیناً پیدا کیا ہم نے انہیں کبچڑ لیسار سے بلکہ

عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۱۴ وَاِذَا ذُكِرُوا لَا يَدْكُرُونَ ۱۵ وَاِذَا اَرَادُوا

تعجب کیا تو نے اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں اور جب وہ نصیحت کئے جاتے ہیں میں نصیحت پر کڑونے اور جب دیکھتے ہیں

آيَةٌ يَسْتَسْخِرُونَ ۱۵ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۱۶

کوئی نشان ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر جادو کھلا کھلا

ءِ اِذْ اٰمَنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا مَّاءِ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۱۷ اَوْ

کیا جب مرجائیں گے ہم اور ہوجائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں کیا یقیناً ہم اٹھائے جانے والے ہیں یا

اٰبَاؤُنَا اَلَا وَاَلَوْ ۱۸ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۱۹ فَاِنَّمَا

باپ دادہمارے سپرے تو کہہ دے ہاں اور تم ذلیل ہو گے پس سوائے اسکے

هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۲۰ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا

نہیں کوہ ڈانٹ ہوگی یک دم پس اچانک وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے اسے دانتے ہم کو

هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ۲۱ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ

یہ ہے دن جزاکا یہ ہے دن فیصلہ کا وہ کہ تھے تم

بِهٖ تَكْذِبُونَ ۲۲ اٰحْشَرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَا

جس کو جھٹلانے اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور بیویوں کو ان کی اور

مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۲۳ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى

ان کو جن کی تھے وہ عبادت کرتے سوائے اللہ کے پس لے چلو انہیں طرف

صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۲۴ وَقَفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُونَ ۲۵ مَا لَكُمْ

راہ دوزخ کی اور کھڑا کرو انہیں یقیناً وہ پوچھے جانے والے ہیں کیا ہوا تم کو

لَا تَنْصَرُونَ ۲۶ بَلْ هُمْ اَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۲۷ وَاَقْبَلْ

کہیں تم مدد کرنے ایک دوسرے کی بلکہ وہ آج گردن نیچے ڈالنے والے ہیں اور متوجہ ہوا

بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۲۸ قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ

بعض ان کا بعض پر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہیں گے یقیناً تم تھے

تَاْتُوْنَ نَاعِنِ الْيَمِيْنِ ۲۹ قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۳۰

آتے ہمارے پاس دائیں طرف سے وہ کہیں گے (نہیں) بلکہ نہیں تھے تم ایمان لانے والے

وَمَا كَانْ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۳۱ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا

اور نہ تھا ہمارا تم پر کوئی غلبہ بلکہ تھے تم لوگ

طُغْيَيْنَ ۳۱ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ۳۲

سرکش پس ثابت ہو گئی تم پر بات رب کی ہمارے یقیناً ہم البتہ پچھنے والے ہیں

فَاغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِيْنَ ۳۳ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ

پس گمراہ کیا ہم نے نہیں یقیناً ہم تھے گمراہ پس یقیناً وہ اس دن عذاب میں

مُشْتَرِكُونَ ۳۴ تَاكَذِّبِكَ نَفَعَلْ بِالْمُجْرِمِينَ ۳۵ إِنَّهُمْ

شریک ہوں گے یقیناً ہم اسی طرح کھرتے ہیں ساتھ مجرموں کے یقیناً وہ

كَانُوا إِذْ أُقِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۳۶ وَ

تھے جب کہا جاتا تھا ان کو نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے تکبر کرتے تھے اور

يَقُولُونَ أَيُّنَّا تَارِكُوا إِلَهِنَّا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ۳۷ بَلْ

وہ کہتے تھے کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کیلئے (نہیں) بلکہ

جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ۳۸ إِن كُمْ لَذَائِقُوا

وہ لایا ہے حق اور اس نے تصدیق کی ہے رسولوں کی یقیناً تم البتہ پچھنے والے ہو

الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۳۹ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۴۰

عذاب دردناک اور نہیں بدل دیتے جاؤ گے تم مگر اس کا جو تھے تم کھرتے

الْأَعْبَادَ اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ ۴۱ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۴۲

سوائے بندوں کے اللہ کے مخلصوں کے یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے رزق ہے معلوم

فَوَاجِهْ ۴۳ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۴۴ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۴۵ عَلَى

میوسے ہیں اور وہ عزت دیئے جائیں گے باغوں نعمتوں کے اوپر

سُرِّ مُتَقَبِلِينَ ۴۶ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ۴۷

تختوں کے آسنے سامنے پھرائے جائیں گے ان پر پیالے لطف شراب کے

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِيِّينَ ۴۸ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا

سفید مزیدار پینے والوں کے لیے نہ تو اس میں خرابی ہے اور نہ وہ اس سے

يُنزِفُونَ ۴۹ وَعِنْدَهُمْ قِصْرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٍ ۵۰ كَأَنَّهُنَّ

متوالے کئے جائیں گے اور پاس ہوں گی ان کے نیچی رکھنے والیاں نظر کو بڑی آنکھوں والیاں گویا کہ وہ

بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۵۰ ۱۱ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۵۱

انڈے ہیں چھپائے ہوئے پس متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۵۲ ۱۲ يَقُولُ أَإِنَّتِكَ لَمِنَ

کے گا ایک کہنے والا ان میں سے کہ تھا ہمارا ایک ساتھی کہا کرتا تھا کیا یقیناً تو بھی ضرور

الْمُصَدِّقِينَ ۵۳ ۱۳ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظًا مَا أَرْأَاكَ

تصدیق کرنے والوں میں سے کیا جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور بڑیاں کیا یقیناً ہم

لَمَدِينُونَ ۵۴ ۱۴ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ۵۵ ۱۵ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ

البتہ جزا دیکھنے جا نیوالے ہیں کہا کیا تم جھانکنے والے ہو پس جھانکا تو دیکھا اُسے

فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ۵۶ ۱۶ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كَذَّبْتُمْ لَتَزُدَّ بِنَاكُمْ

درمیان دوزخ کے کہا قسم ہے اللہ کی یقیناً قریب تھا تو کہ ہلاک کر دے مجھے اور اگر نہ

نِعْمَةٌ رَّبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۵۷ ۱۷ أَفَمَا نَحْنُ بِمَعِينِينَ ۵۸ ۱۸

ہوتی نعمت رب میرے کی البتہ تو میں (عذاب میں) حاضر کئے جا نیوالوں میں سے کیا پس نہیں ہم مرنے والے

إِنَّمَا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۶۰ ۲۰ إِنَّ هَذَا هُوَ

سوائے اپنی موت پہلی کے اور نہیں ہیں ہم ہرگز عذاب دیکھے جا نیوالے یقیناً یہ ہی

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۶۱ ۲۱ لِيَمِثِلَ هَذَا فُلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ۶۲ ۲۲ أَذَلِكِ

کامیابی ہے بڑی (یسے دن) کے لیے پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کر نیوالے کیا یہ

خَيْرٌ نَزَلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّوْمِ ۶۳ ۲۳ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِشْنَةً

بتر ہے سمائی یا درخت تھوہر کا یقیناً ہم نے بنایا ہے اسے عذاب

لِلظَّالِمِينَ ۶۴ ۲۴ تَهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۶۵ ۲۵ طَلَعَمَا

ظالموں کے لیے یقیناً وہ ایک درخت ہے نکلتا ہے جڑ میں دوزخ کی خوشے اسکے

كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ۶۶ ۲۶ فَأَتَاهُمُ لَاحِلُونَ مِنْهَا فَمَأَلُؤُونَ

گویا کہ وہ سر ہیں شیطانوں کے پس یقیناً وہ کھانیوالے ہیں اس سے پھر بھرنے والے

مِنْهَا الْبَطُونَ ۶۷ ۲۷ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۶۸ ۲۸

اس سے پیٹ پھر یقیناً ان کے لیے اس پر البتہ ٹوٹی ہے گرم پانی کی

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿۶۷﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ

پھر یقیناً لوٹنا ان کا البتہ طر دوزخ کی ہے یقیناً انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو

ضَالِّينَ ﴿۶۸﴾ فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿۶۹﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ

گمراہ پس وہ قدموں پر ان کے دوڑے جاتے ہیں اور یقیناً یقیناً گمراہ ہو گئے

قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۷۰﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ ﴿۷۱﴾

پہلے ان سے اکثر پہلوں میں سے اور یقیناً یقیناً بھیجے تھے ہم نے ان میں ڈرانے والے

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿۷۲﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

ہیں دیکھ کیسا ہوا انجام ڈرانے ہوؤں کا سوائے بندوں کے اللہ کے

الْمُخْلِصِينَ ﴿۷۳﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿۷۴﴾

چنے ہوؤں کے اور یقیناً یقیناً پکارا ہمیں نوح نے پس کیا ہی اچھے (م) جواب دینے والے ہیں

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۷۵﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ

اور نجات دی ہم نے اسے اور گھروالوں کو اس کے گنہگاروں سے بڑی سے اور رکھا ہم نے اسکی اولاد

هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۷۶﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۷۷﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ

ہی کو باقی اور چھوڑا ہم نے اس پر پچھلوں میں سلامتی ہو

نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿۷۸﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۹﴾

نوح پر تمام دنیا میں یقیناً ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنوں کو

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۰﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿۸۱﴾

یقیناً وہ تھا بندوں ہمارے ایمانداروں میں سے پھر غرق کر دیا ہم نے اوروں کو

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَأِبْرَاهِيمَ ﴿۸۲﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ

اور یقیناً جماعت میں سے تھا اس کی ابراہیم جب وہ آیا اپنے رب کے پاس ساتھ دل

سَلِيمٍ ﴿۸۳﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۸۴﴾ أَرَأَيْتُمْ

سلامتی والے کے جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کس کی تم عبادت کرتے ہو کیا جھوٹ بوٹ

إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿۸۵﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۶﴾

معبود سوائے اللہ کے تم چاہتے ہو پس کیا گمان ہے تمہارا متعلق رب العالمین کے

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۹۹﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۱۰۰﴾ فَتَوَلَّوْا

پھر دیکھا اس نے ایک دفعہ ستاروں کو پس کہا یقیناً میں بیمار ہوں پس چلے گئے

عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۱۰۱﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۰۲﴾

اس سے پیٹھ موڑ کر پس چپکے سے گیا طرف ان کے معبودوں کی پس کہا کیا نہیں کھاتے تم

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۱۰۳﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۱۰۴﴾

کیا ہو انہیں نہیں بات کرتے تم پھر چھکا ان پر مارتا ہوا دائیں ہاتھ سے

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿۱۰۵﴾ قَالَ أتعْبُدُونَ مَا تَنجِتُونَ ﴿۱۰۶﴾

پس آئے وہ لوگ طرف اسکی دوڑتے ہوئے اس نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو اسکی جسے تم خود ترانتے ہو

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۷﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا

حالا کہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو تم بناتے ہو انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک جگہ

فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿۱۰۸﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ

پھر ڈالوا اسے آگ میں پس چاہی انہوں نے متعلق اسکے ٹھنی تدبیر میں پس کر دیا ہم نے انہیں

الْأَسْفَلِينَ ﴿۱۰۹﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۱۱۰﴾

ذلیل اور اس نے کہا یقیناً میں جانے والا ہوں طرف اپنے رب کی ضرور رہنمائی کرے گا میری

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۱﴾ فَبَشِّرْهُ بِخُلْمٍ حَلِيمٍ ﴿۱۱۲﴾

اے رب عطا کر مجھے اولاد نیکوں میں سے پس بشارت دی ہم نے اسے ایک روکے بردباری سے

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي

پس جب وہ پہنچا ساتھ اسکے کام کاج (کی عمر) کو کہا اے بیٹے میرے یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں

أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

ذبح کرنا ہوں تجھے پس دیکھ کیا رائے رکھتا ہے تو اس نے کہا اے باپ میرے کہ جسکا تو حکم دیا جاتا ہے

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۱۳﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا

ضرور پائے گا تو مجھے اگر چاہا اللہ نے صبر کرنے والوں میں سے پس جب دونوں نے فرمانبرداری

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿۱۱۴﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۱۱۵﴾ قَدْ

کھلوا اس نے ٹاڈ دیا اُسے پیشانی کے بل اور آواز دی ہم نے کہ اے ابراہیم یقیناً

صَدَقْتَ الرَّءْيَاءَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰۶﴾ إِنَّ

سچ کر دکھایا تو نے خواب یقیناً ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو یقیناً

هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۰۷﴾ وَقَدَيْنَهُ بِذَنْبِ عَظِيمٍ ﴿۱۰۸﴾

یہ ضروری آزمائش تھی کھلی کھلی اور چھڑایا ہم نے اُسے ساتھ قربانی بڑی کے

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۰۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۱۰﴾ كَذَلِكَ

اور چھوڑا ہم نے اس پر پیچھلوں میں کہ سلامتی ہو ابراہیم پر اسی طرح ہم

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۱﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ وَ

جزا دیتے ہیں محسنوں کو یقیناً وہ تھا بندوں ہمارے ایمانداروں میں سے اور

بَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۳﴾ وَبَرَكَنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

بشارت دی ہم نے اُسے اسحق نبی کی جو نیکوں میں سے تھا اور برکت دی ہم نے اس پر اور

إِسْحَاقَ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۱۱۴﴾

اسحق پر اور ذکوئی اولاد میں سے ان دونوں کی اچھے کام کرنے والا ہے اور کوئی ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر دکھایا کھلا

وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۱۵﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا

اور یقیناً یقیناً احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون پر اور نجات دی ہم نے دونوں کو اور قوم کو ان کی

مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۱۱۶﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكُنُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۷﴾

بھجھرا ہٹ بڑی سے اور مدد دی ہم نے انہیں پس بوشے ہی غالب

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿۱۱۸﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ

اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب روشن اور ہماریت دی ہم نے انہیں راہ

الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۱۹﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۲۰﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ

سیدھی کی اور چھوڑا ہم نے ان دونوں پر پیچھلوں میں کہ سلامتی ہو

مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۲۱﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲۲﴾ إِنَّهُمْمَا

موسیٰ اور ہارون پر یقیناً ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنوں کو یقیناً وہ دونوں

مِنَ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۴﴾

بندوں ہمارے ایمانداروں میں سے تھے اور یقیناً ایسا البتہ رسولوں میں سے ہے

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۵﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ

جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا نہیں تقویٰ کرتے تم کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو

أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿۱۲۶﴾ اللَّهُ ذَبَّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۲۷﴾

بہتر کو سب پیدا کرنے والوں سے (یعنی) اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے باپ دادا تمہارے پہلوں کا

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۲۸﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۲۹﴾

پس کذب کی انہوں نے پس یقیناً وہ البتہ حاضر کئے جانوے ہیں سوائے بندوں کے اللہ کے چنے ہوؤں کے

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۳۰﴾ سَلَّمَ عَلَى آلِ يَسَينَ ﴿۱۳۱﴾ إِنَّا

اور چھوڑا ہم نے اس پر پچھلوں میں ذکر کر سمانتی ہو ایساں پر یقیناً ہم

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۲﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۳﴾

اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو یقیناً وہ بندوں ہمارے ایمانداروں میں سے تھا

وَإِنَّ لَوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۴﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۵﴾

اور یقیناً لوط البتہ رسولوں میں سے تھا جب نجات دی ہم نے اسے اور گھروالوں کو اس کے سب کو

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿۱۳۷﴾ وَإِنَّا

سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی پھر ہلاک کیا ہم نے اوروں کو اور یقیناً تم

لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَبِاللَّيْلِ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَ

البتہ گذرتے ہو ان پر صبح کرتے ہوئے اور رات کو کیا پھر نہیں عقل کرتے تم اور

إِن يُونُسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۰﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۴۱﴾

یقیناً یونس البتہ رسولوں میں سے ہے جب وہ بھاگا طرف کشتی بھری ہوئی کے

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۴۲﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ

پس قمر ڈالا تو ہو گیا وہ دھکیلے ہوؤں میں سے پس نگل لیا اُسے پھلنے اور وہ

هُوَ مِلْيَمٌ ﴿۱۴۳﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۴۴﴾ لَلَبِثَ

اپنے آپ کو ملاحت کر نیوالا تھا پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تھا تسبیح کرنے والوں میں سے البتہ رہتا

فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۴۵﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ

پیٹ میں اس کے اس دن تک کہ لوگ دوبارہ اُٹھائے جائیں گے پس ڈال دیا ہم نے اُسے کھلے میدان میں اور وہ

۲۵
۸

التفصیل

سَقِيمٌ ﴿۱۳۶﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِئِينَ ﴿۱۳۷﴾ وَ

بیمار تھا اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا اور

أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۳۸﴾ فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ

بھیجا ہم نے اُسے طرف لاکھ آوی کے بلکہ زیادہ تھے پس وہ ایمان لائے تو فائدہ دیا ہم نے انہیں

إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۳۹﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۴۰﴾

کچھ وقت تک پس پوچھ ان سے کیا تیرے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿۱۴۱﴾ أَلَا إِنَّهُمْ

یا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور وہ حاضر تھے آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہ

مِّنْ أَفْئِدَةٍ يَّقُولُونَ ﴿۱۴۲﴾ وَلَدَا اللَّهُ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۴۳﴾

اپنے افترا سے البتہ کہتے ہیں بیٹا بنایا خدا نے اور یقیناً وہ البتہ جھوٹے ہیں

أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَىٰ الْبَنِينَ ﴿۱۴۴﴾ مَا لَكُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۱۴۵﴾

کیا اس نے ترجیح دی بیٹیوں کو بیٹوں پر کیا ہوا نہیں کیا فیصلہ کرتے ہو

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۴۶﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴۷﴾ فَأْتُوا

کیا پھر نہیں نصیحت پکڑو گے تم کیا تمہارے لیے ہے کوئی دلیل کھلی کھلی پس لاؤ

بِكُتُبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۱۴۸﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

اپنی کتاب اگر ہو تم سچے اور ٹھہرائی انہوں نے درمیان اس کے اور درمیان

الْجَنَّةِ نَسْبًا، وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۴۹﴾

جنوں کے رشتہ داری حالانکہ یقیناً یقیناً جان لیا ہے جنوں نے کہ وہ ضرور حاضر کئے جانے والے ہیں

سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۵۰﴾ الْآعِبَادَ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۵۱﴾

پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں سوائے بندوں اللہ کے چنے ہوؤں کے

فَاتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۵۲﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿۱۵۳﴾ إِلَّا

پس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو نہیں تم مقابلہ پر اس کے ہرگز گمراہ کرنے والے مگر

مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿۱۵۴﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۵۵﴾ وَ

اسی کو کہ جو داخل ہو جو اللہ ہے دوزخ میں اور نہیں ہم میں سے مگر اس کا ہے مقام مقرر اور

إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِقُونَ ﴿۱۹۶﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ ﴿۱۹۷﴾ وَإِنَّا

یقیناً ضرور بنیں۔ صاف باندھنے والے ہیں اور یقیناً ہم ضرور ہی تسبیح کرنے والے ہیں اور یقیناً

كَأَنَّا الْيَقُولُونَ ﴿۱۹۸﴾ لَوَأَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۹﴾

ہیں وہ ضرور کہتے کہ اگر ہوتی یقیناً پاس ہمارے کون کتاب پہلوں کی

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۲۰۰﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ

البتہ ہوتے ہم بندے اللہ کے بچنے ہوئے ہیں کفر کیا انہوں نے اس کہ سو عنقریب وہ

يَعْلَمُونَ ﴿۲۰۱﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰۲﴾

جان لیں گے اور یقیناً یقیناً پہلے ہو چکی ہے بات ہماری واسطے بندوں ہمارے بھیجے ہوؤں کے

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۲۰۳﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۲۰۴﴾

کہ یقیناً وہ ضرور ہی مدد دیئے جانے والے ہیں اور یقیناً شکر ہمارے ضرور ہی غالب آنے والے ہیں

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۲۰۵﴾ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿۲۰۶﴾

پس منہ پھیر ان سے کچھ وقت تک اور دیکھ انہیں پس ضرور وہ دیکھ لیں گے

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۲۰۷﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ

کیا پھر عذاب کو ہمارے وہ جلدی طلب کرتے ہیں پس جب وہ اترے گا صحن میں ان کے تو بڑی ہوگی

صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿۲۰۸﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۲۰۹﴾ وَأَبْصُرُوا

صبح ڈراٹے ہوؤں کی اور منہ پھیر ان سے کچھ مدت تک اور دیکھ

فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿۲۱۰﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۱۱﴾

پس ضرور وہ دیکھیں گے پاک ہے رب تیرا عزت اور اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱۲﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۱۳﴾

اور سلامتی ہو رسولوں پر اور سب تعالیٰ کے عالمین کے لئے



سُورَةُ صَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں بڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۲ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

ص قسم ہے قرآن نصیحت والے کی بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۳ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا

غور اور مخالفت میں ہیں کتنی ہی ہلاک کیں ہم نے پہلے ان سے تو میں پس چلا اٹھے

وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۴ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۵

اور نہ رہا تھا وقت خلاصی کا اور تعجب کیا انہوں نے اس پر کہ آیا انکے پاس ڈرانے والا ان میں سے

وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۶ اجْعَلِ الْاٰلِهَةَ

اور کہا کافروں نے یہ ہے جادوگر (اور) بہت جھوٹا کیا کر دیا اس نے سب معبودوں کو

اِلٰهًا وَّاحِدًا ۷ اِنْ هٰذَا شَيْءٌ عَجَابٌ ۸ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَا

معبود ایک یقیناً یہ البتہ بات ہے عجیب اور بول اٹھے سردار

مِنْهُمْ اِنْ اٰمَسُوْا وَاٰصَبُوْا عَلٰی الْاٰهَتِكُمْ ۹ اِنْ هٰذَا شَيْءٌ

ان میں سے کہ چلو اور قالم رہو اپنے معبودوں پر یقیناً یہ البتہ بات ہے جس میں کچھ

يُرَادُ ۱۰ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۱۱ اِنْ هٰذَا

غرض رکھی گئی ہے نہیں سنی ہم نے یہ کسی مذہب پہنچے میں نہیں ہے یہ

اِلَّا اٰخْتِلَافٌ ۱۲ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۱۳ بَلْ هُمْ

مگر من گھڑت کیا اتارا گیا اسی پر ذکر درمیان سے ہمارے بلکہ وہ

فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي ۱۴ بَلْ لَمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابًا ۱۵ اَمْ

شک میں ہیں ذکر سے میرے بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے عذاب کیا

عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿۱۱﴾ آم

پس ان کے خزانے ہیں رحمت کے رب کے تیرے جو عزت والا بہت بخشنے والا ہے کیا

لَهُمْ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا

ان کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور اس کی جو درمیان ہے ان دونوں کے پس چاہیے کہ چڑھ

فِي الْأَسْبَابِ ﴿۱۲﴾ جُنْدٌ مَّا هُنَّكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿۱۳﴾

جائیں اسباب میں لشکر کئی یہاں پر بھگایا جانے والا ہے مختلف جماعتوں میں سے

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿۱۴﴾

تکذیب کی پہلے ان سے قوم نوح اور عاد اور فرعون میں خوں والے نے

وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿۱۵﴾

اور تمود اور قوم لوط نے اور بن والوں نے یہ لوگ مختلف جماعتیں ہیں

إِنَّ كُلَّ الْكَاذِبِ الرُّسُلِ فَحَقَّ عِقَابُ ﴿۱۶﴾ وَمَا يَنْظُرُ

نہیں ان سب نے مگر جھٹلایا رسولوں کو پس ثابت ہوا عذاب میرا اور نہیں انتظار کرتے

هُؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهُمْ مِنْ فَوَاقٍ ﴿۱۷﴾ وَقَالُوا

یہ لوگ مگر ایک تند آواز یکدم کا نہیں اس کیلئے کوئی نسلت اور کہا انہوں نے

رَبَّنَا عَجَلْنَا قَوْمَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۱۸﴾ اِصْبِرْ عَلٰی

اے رب ہمارے جلدی دے ہمیں حصہ ہمارا قبل روز حساب کے صبر کر اس پر

مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ

جو وہ کہتے ہیں اور یاد کر بندے ہمارے داؤد صاحب قوت کو یقیناً وہ تھا بہت

أَوَّابٌ ﴿۱۹﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ

رجوع کر نیوالا یقیناً ہم نے مسخر کیا تھا پہاڑوں کو ساتھ اس کے وہ تسبیح کرتے تھے سورج ڈھلے

وَالْأَشْرَاقِ ﴿۲۰﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿۲۱﴾ وَ

اور سورج نکلے اور پرندے اٹھے کٹھے ہوئے سب اس کیلئے رجوع کر نیوالے تھے اور

شَدَّ نَامُوكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخَطَّابِ ﴿۲۲﴾ وَ

مضبوط کی ہم نے بادشاہی اس کی اور دی ہم نے اُسے حکمت اور فیصلہ کن بیان اور

هَلْ آتَيْتَكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۗ [۲۲] إِذْ

کیا پہنچی ہے تجھے خبر جھگڑنے والوں کی جبکہ وہ دیوار کو دکرائے تھے میں جب

دَخَلُوا عَلَيَّ دَاوُدَ فَقَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ

وہ داخل ہوئے داؤد پر میں گھبرا گیا ان سے انہوں نے کہا نہ ڈر

خَضَمِينَ بَغْيٍ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا

ہم دو جھگڑنے والے ہیں زیادتی کی ہے بعض ہمارے نے بعض پر پس فیصلہ کر درمیان ہمارے ساتھ حق کے اور نہ

تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۗ [۲۳] إِنَّ هَذَا أَخِي تُدَاهِنُ

زیادتی کر اور ہدایت دے ہمیں طرف درست راہ کی یقیناً یہ بھائی ہے میرا اس کی

تَسَعًا وَتَسْعُونَ نَعَجَةً وَإِلَيَّ نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ ۗ فَقَالَ

نو اور نوے ڈنیاں ہیں اور میری ڈنیا ہے ایک پس کہا اس نے

أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۗ [۲۴] قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ

پس رکھ دیا میرے وہ (بھی) اور غالب آگیا مجھ پر بات میں کہا یقیناً یقیناً اس نے ظلم کیا تجھ پر

بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ تَعَايُهُ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ

مانگ کر ڈنیا تیری (شامل کر نیکی لیے) اپنی دنیوں میں اور یقیناً بہت سے شریک

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

البتہ زیادتی کرتے ہیں بعض ان کے بعض پر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیوں نیکیاں

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَ

اور کم ہیں وہ اور جانا داؤد نے کہ اتلا میں ڈالا ہم نے اسے پس بخشش مانگی اس نے اپنے رب سے اور

خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ [۲۵] فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا

گر بڑا رکو ع کرتا ہوا اور جو رک گیا پس بخشا ہم نے اُسے یہ اور یقیناً اس کیلئے نزدیک ہمارے

لِرُؤْفَىٰ وَحُسْنِ مَّآبٍ ۗ [۲۶] يَدَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي

البتہ قرب تھا اور اچھا ٹھکانا اے داؤد یقیناً ہم نے بنایا تجھے خلیفہ

الْأَرْضِ فَأَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ

زمین میں پس فیصلہ کر درمیان لوگوں کے ساتھ حق کے اور نہ پیروی کجیو نفسانی خواہش کی

فِيضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُونَ عَنْ سَبِيلِ

اور نہ وہ گمراہ کر دیگی تجھے راہ سے اللہ کی یقیناً وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں راہ سے

اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۴﴾ وَمَا

اللہ کی ان کیلئے عذاب ہے سخت بوجہ اس کے کہ وہ بھول گئے روز حساب کو اور نہیں

خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بآءِ طَلَأٍ ذَلِكَ ظَنُّ

پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو درمیان میں ان دونوں کے ہے بے فائدہ یہ گمان ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ التَّكْوِينِ ﴿۲۵﴾ أَمْ

ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کیلئے جنہوں نے کفر کیا آگ سے کیا

نَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي

کر دیں گے ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کئے نیک مانند مفسدوں کے

الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۶﴾ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ

زمین میں کیا کر دیں گے ہم پر ہیزگاروں کو مانند بدکاروں کے (یہ) کتاب ہے اتارا ہم نے اسے

إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدِّ بَرُّوَ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۲۷﴾

طرف تیری برکت والی تاکہ تدبیر کریں آیتوں میں اس کی اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقول و اسے

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۲۸﴾ إِذْ عَرَضَ

اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان کیا ہی اچھا خصا وہ بندہ یقیناً وہ تھا بہت ہی رجوع کرنے والا جب سامنے لائے گئے

عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيْنَةُ الْجَيَادُ ﴿۲۹﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ

اس کے تیسرے پر اسیل گھوڑے تیز رو تو کہا اس نے یقیناً میں نے پسند کی

حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي ۗ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿۳۰﴾

محبت اس مال کی بوجہ یاد کے اپنے رب کی یہاں تک کہ چھپ گئے وہ پردہ میں

رُدُّوهُمَا عَلَيَّ ۖ فَطُفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ

(نواں نے حکم دیا) لوٹاؤ انہیں مجھ پر پس لگا ہاتھ پھیرنے پنڈلیوں اور گردنوں پر اور یقیناً یقیناً

فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ۖ وَالْقَيْنَاعَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿۳۲﴾ قَالَ

ابتلا میں ڈالا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا ہم نے کرسی پر اس کی ایک جسم پھر اس نے رجوع کیا کہا

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۗ

اے رب میرے بخش دے مجھے اور عطا کر مجھے سلطنت کرنے مناسب ہو واسطے کسی کے بعد میرے

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۳۱﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ

یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے پس کام میں لگا دیا ہم نے اے اے لیے ہوا کو چلتی تھی حکم سے اے اے

رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿۳۲﴾ وَالشَّيْطَانِ كُلِّ بَنَاءٍ وَدَعَاؤِصِ ﴿۳۸﴾

نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا تھا اور شیطانوں کو معماروں کو اور غوطہ خوروں کو اور

آخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۳۹﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا وَمَنْ

دوسروں جکڑے ہوؤں کو زنجیروں میں یہ ہے عطیہ ہمارا پس احسان کر

أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۴۰﴾ وَإِنَّا لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ

خواہ روک رکھ بغیر حساب کے اور یقیناً اس کے لیے ہاں ہمارے البتہ قریب تھا اور اچھا

مَا بِ ﴿۴۱﴾ وَإِذْ كَرَّ عَبْدُنَا يُتُوبُ مِمَّا آذَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسِيئٌ

ٹھکانا اور یاد کر بندے ہمارے ایوب کو جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچا ہے

الشَّيْطَانُ يَنْصُبُ وَعَذَابٍ ﴿۴۲﴾ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا

شیطان نے ایذا اور عذاب مار پاؤں اپنا یہ

مُخْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿۴۳﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمُ

نہنے کی جگہ ہے ٹھنڈی اور پینے کی اور بیٹے ہم نے اُسے گھروالے اس کے اور مانند ان کی

مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِرَأُولِ الْأَلْبَابِ ﴿۴۴﴾ وَخَذِ بِيَدِكَ

ساتھ ان کے بطور رحمت کے اپنی طرف سے اور بطور نصیحت کے عقلموں والوں کے لیے اور لے اپنے ہاتھ میں

ضَغْتًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ

ٹانگوں کا مٹھا پس مار ساتھ اس کے اور نہ قسم توڑ یقیناً ہم نے پایا اسے صبر کرنے والا کیا ہی اچھا

الْعَبْدُ ۗ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۴۵﴾ وَإِذْ كَرَّ عَبْدُنَا إِبرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَ

تھا وہ بندہ یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا اور یاد کر ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحق اور

يَعْقُوبَ ۗ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿۴۶﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ

یعقوب کو ہاتھوں اور آنکھوں والوں کو یقیناً ہم نے چُن لیا تھا انہیں ساتھ ایک خالص بات

ذَكَرَى الدَّارِ ۶۶ وَأَنَّهُمْ عِنْدَ تَالِمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ

کے (جو) یاد تھی آخرت کی اور یقیناً وہ نزدیک ہمارے البتہ برگزیدہ

الأَخْيَارِ ۶۸ وَأَذْكَرًا شَمْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلَّ

لوگوں میں سے تھے اور یاد کر اسمعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو اور یسب

مِّنَ الْأَخْيَارِ ۶۹ هَذَا إِذْ كُرُوا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا بِ

نیکیوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور یقیناً متقیوں کے لیے البتہ اچھی ہے ٹھکانے کی جگہ

جَنَّتْ عَدْنٌ مَّفْتَحَةٌ لَهُمْ الْأَبْوَابُ ۷۰ مُتَّعِينَ فِيهَا

بانگات ہیں ہمیشہ رہنے کے کھولے جانے والے ہیں ان کے لیے دروازے تکید رکائے ہوئے ہونگے ان میں

يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۷۱ وَعِنْدَهُمْ

منگائیں گے ان میں میوے بہت اور پینے کی چیزیں اور پائیں ہوں گی ان کے

قَصْرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابٌ ۷۲ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ

نیچی رکھنے والیاں نظر کو ہم عمر یہ وہ ہے کہ جس کا تم وعدہ دیئے جاتے ہو بروز

الْحِسَابِ ۷۳ إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَا لَهُ مِنْ نَّفَاذٍ ۷۴ هَذَا وَ

حساب یقیناً یہ البتہ رزق ہے ہمارا نہیں ہے اس کیلئے ختم ہونا یہ ہوگا اور

إِنَّ لِلطَّغْيِينِ لَشَرَّ مَا بِ ۷۵ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيَسَسُ

یقیناً سرکشوں کے لیے البتہ بڑی ہے لوٹنے کی جگہ جہنم ہے داخل ہونگے اس میں پس کیا ہی بُرا ہے

الْمِهَادُ ۷۶ هَذَا أَفْلَيْدٌ وَقُوَّةٌ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ۷۷ وَآخِرُ مَنْ

ٹھکانا یہ ہوگا پس چھو اسے گرم پانی اور زخموں کا دھون اور دوسرے

شَكْلِهِ أَرْوَاحٌ ۷۸ هَذَا قَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا

اسکی قسم کے مختلف (عذاب) یہ جماعت ہے گھس جانے والی ساتھ تمہارے نہ خوش آمدید

بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۷۹ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَمَرْحَبًا

انہیں یقیناً وہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں انہوں نے کہا بلکہ تم وہ ہو کہ نہ خوش آمدید ہوگا

بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَسَسُ الْقَرَارُ ۸۰ قَالُوا أَرَبْنَا

تمہیں تم نے آگے تیار کر رکھا تھا اسے ہمارے لیے پس کیا ہی بُرا ہے رہنے کا مقام انہوں نے کہا اے رب ہمارے

الثالثة

مَنْ قَدَّمْنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿۶۲﴾ وَ

جس نے تیار کر رکھا ہے ہمارے لیے اسے پس زیادہ دے اُسے عذاب دوگنا آگ میں اور

قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿۶۳﴾

کہیں گے وہ کیا ہوا ہمیں نہیں دیکھتے ہم کچھ لوگوں کو کہتے ہم شمار کرتے انہیں شہریروں میں سے

اتَّخَذُوا لَهُمْ سَخِرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿۶۴﴾ إِنَّ ذَلِكَ

کیا سمجھا تھا ہم نے انہیں حقیر یا پھر گئیں ان سے آنکھیں یقیناً یہ

لَحَقَّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿۶۵﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ وَمَا مِنْ

البتہ سچ ہے جھگڑنا آگ والوں کا تو کہہ دے سوائے اُنکے نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں اور نہیں کوئی

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ ﴿۶۶﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

خدا سوائے اللہ اکیلے کے غالب کے رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور

مَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿۶۷﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿۶۸﴾ أَنْتُمْ

ان کا جو درمیان ان دونوں کے غالب (اور بہت بخشنے والا ہے) تو کہہ دے وہ خبر ہے بڑی

عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿۶۹﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ

اس سے اعراض کرنے والے ہو نہیں ہے مجھے کوئی علم مجلس اعلیٰ کا جبکہ

يَخْتَصِمُونَ ﴿۷۰﴾ إِنَّ يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنْتُمْ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۷۱﴾ إِذْ

وہ جھگڑتے تھے نہیں وحی کی جاتی طرف میری مگر یہ کہ میں ڈرانے والا ہوں گھلا گھلا جب

قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿۷۲﴾ فَإِذَا

کہا رب نے تیرے فرشتوں کو یقیناً میں پیدا کر رہا ہوں انسان مٹی سے پس جب

سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿۷۳﴾

مکمل کر لوں اسے اور پھونکوں اس میں اپنی روح پس گر پڑو اس کیلئے سجدہ کرتے ہوئے

فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۷۴﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ

پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے مل کر سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۷۵﴾ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ

اور تھا وہ کافروں میں سے فرمایا اے ابلیس کس نے روکا تجھے کہ تو سجدہ کرے

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۗ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿۶۶﴾

اُسے کہ جسے پیدا کیا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، کیا اپنے آپکو بڑا سمجھا تو نے یا تھا تو بلند مرتبہ والوں سے

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۗ خَلَقْتَنِي مِنْ تَارٍ وَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿۶۷﴾

اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا تو نے اُسے مٹی سے

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿۶۸﴾ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي

فرمایا پس نکل جا اس سے پس یقیناً تو راندہ گیا ہے اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے میری

اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۶۹﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۷۰﴾

تا روز جزاء اس نے کہا اے رب میرے پس مہلت دے مجھے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیگے

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿۷۱﴾ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿۷۲﴾

فرمایا پس یقیناً تو مہلت دیجئے ہوؤں میں سے ہے تا روز وقت مقررہ کے

قَالَ فَيُعَزِّتُكَ لَا غَوْ يَنْتَهُمُ اَجْمَعِيْنَ ﴿۷۳﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ

اس نے کہا پس قسم ہے تیری عزت کی ضرور گراہ گردن گاہیں انہیں سب کو سوائے بندوں کے تیرے ان میں سے

الْمُخْلِصِيْنَ ﴿۷۴﴾ قَالَ فَالْحَقُّ زَوَالِحَقُّ اَقْوَلُ ﴿۷۵﴾ لَا مَلِكَنَّ

مخلصوں کے فرمایا پس سچ یہ ہے اور سچ ہی میں کہتا ہوں ضرور بھروں گا میں

جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۷۶﴾ قُلْ مَا

جہنم کو تجھ سے اور ان سے جنہوں نے پیروی کی تیری ان میں سے سب سے تو کہہ دے نہیں

اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿۷۷﴾ اِنَّ

مانگتا میں تم سے اس پر کوئی مزدوری اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنیوالوں میں سے نہیں ہے

هُوَ الْاَذِ كُرُّ لِّلْخٰلِمِيْنَ ﴿۷۸﴾ وَّلَتَعَلَّمَنَّ نَبَاَهُ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿۷۹﴾

یہ مگر نصیحت تمام دنیا کے لیے اور ضرور جان لوگے تم خبر اس کی بعد کچھ عرصہ کے



سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲

اتارنا اس کتاب کا طرف سے اللہ غالب (اور) حکمت والے کے یقیناً ہم نے اتاری ہے

إِلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۳

طرف تیری یہ کتاب ساتھ حق کے پس عبادت کر اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کیلئے فرمانبرداری

إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۴ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

دیکھو اللہ ہی کیلئے ہے فرمانبرداری خالص اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں سوائے اس کے

أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ۵

دوست (وہ کہتے ہیں) نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر تاکہ وہ کر دیں ہمیں طرف اللہ کے قریب

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۶ إِنَّ

یقیناً اللہ فیصلہ کریگا درمیان ان کے اس میں کہ وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً

اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۷ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ

اللہ نہیں ہدایت دیتا اسے کہ جو جھوٹا سخت ناشکر ہے اگر چاہتا اللہ کہ

يَتَّخِذَ وَلَدًا ۸ لَآ صُفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۹ لَآ سُبْحٰنَهُ ۱۰

بنادے اولاد البتہ چُن لیتا اس سے جو پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے پاک ہے وہ

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۱۱ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ ۱۲

وہ اللہ ہے واحد بہت غالب اس نے پیدا کئے آسمان اور زمین ساتھ حق کے

يَكُوْرُ الْاَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوْرُ النَّهَارَ عَلَى الْاَيْلِ ۱۳ وَسَخَّرَ

پیتا ہے رات کو دن پر اور پیتا ہے دن کو رات پر اور کام میں لگائے اس نے

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ

سورج اور چاند ہر ایک چلتا ہے تا ميعاد مقررہ دیکھو وہ غالب (اور) بہت

الْغَفَّارُ ﴿۷﴾ لَخَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

بخشنے والا ہے اس نے پیدا کیا تم کو نفس واحد سے پھر پیدا کیا اس سے بیوی کو اس کی

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِي

اور اس نے اتارے تمہارے لیے چار پالیوں میں سے آٹھ جوڑے پیدا کرتا ہے تم کو

بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ؕ

بیٹوں میں ماؤں کے تمہاری ایک پیدائش بعد دوسری پیدائش کے اندھیروں تین میں

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ؕ فَاَنىٰ

یہ ہے اللہ رب تمہارا اسی کی ہے بادشاہی نہیں کوئی خدا سوائے اُسے پس کہاں

تُصْرَفُونَ ﴿۸﴾ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ

پھیرے جاتے ہو تم اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ بے پروا ہے تم سے اور نہیں پسند کرتا وہ

لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ؕ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ

اپنے بندوں کے لیے کفر اور اگر شکر کرو تم تو پسند کرتا ہے اُسے تمہارے لیے اور نہیں بوجھ اٹھاتا

وَأِزْرَةً ﴿۹﴾ وَزَادُ الْآخِرَىٰ ؕ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ

کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، پھر طرف اپنے رب کی لوٹنا ہے تمہارا پھر وہ آگاہ کرے گا تم کو

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؕ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا

اس سے کہ تھے تم عمل کرتے یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات کو اور جب

مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ

پہنچتی ہے انسان کو تکلیف پکارتا ہے اپنے رب کو جھکتا ہوا طرف اس کی پھر جب وہ دیتا ہے اُسے

نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ

نعمت اپنی طرف سے بھول جاتا ہے اس (مصیبت) کو کہ تھا وہ پکارتا تھا جس کی پہلے اور ٹھہراتا ہے

لِللَّهِ أَنْدَادًا يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا

اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کرے راہ سے اس کی تو کہدے فائدہ اٹھا ساتھ اپنے کفر کے تھوڑا سا

إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ [۹] أَمْ نَ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا

یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے کیا وہ جو عبادت کرنی والا ہے اوقات میں رات کے سجدہ کرتے ہوئے

وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو آدِحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ

اور کھڑے ہو کے ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے رحمت کی اپنے رب سے تو کہے کیا

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا

برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے سوائے ان کے نہیں

يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ [۱۰] قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

کرنی صحت پڑھتے ہیں عقول والے تو کہے اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے ہو ڈرو

رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ

اپنے رب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں نیکی ہے اور زمین

اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ [۱۱]

اللہ کی وسیع ہے سوائے اس کے نہیں کہ پورا دیتے جائیں گے صبر کرنیوالے ثواب اپنا بغیر حساب کے

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ [۱۲] وَ

تو کہے کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت اور

أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۗ [۱۳] قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ

میں حکم دیا گیا ہوں کہ ہو جاؤں میں پہلا فرمانبردار تو کہے یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ اگر

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ۗ [۱۴] قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا

نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب سے دن بڑے کے تو کہے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے

لَهُ دِينِي ۗ [۱۵] فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِن

اس کی عبادت پس تم عبادت کرو جس کی تم چاہو سوائے اس کے تو کہے یقیناً

الْخٰسِرِينَ ۗ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ

گھانا پانیوالے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو بروز قیامت

الَّذِي هُوَ الْخٰسِرَانِ ۗ الْمُبِينُ ۗ [۱۶] لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ

خبردار ہو یہ ہی خسارہ ہے کھلا کھلا ان کے لیے اوپر سے ان کے ساتبان ہو گئے

مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ

آگ کے اور نیچے سے انکے سامان ہونگے یہ وہ ہے کہ ڈراتا ہے اللہ جس سے اپنے بندوں کو

يُعْبَادُ فَاتَّقُوا ۙ وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن

اسے میرے بندوں ڈرو مجھ سے اور وہ لوگ جو بچے بتوں سے کہ

يَعْبُدُوا هَٰؤُلَاءِ إِنَّا بِأَلْوَالِي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۗ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ

عبادت کریں ان کی اور جھکے طرف اللہ کی ان کے لیے بشارت ہے پس بشارت دے میرے بندوں کو

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ

وہ جو سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں بہتر کی اس میں سے یہ لوگ

الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَالَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ لَٰكِنَّمَا يَكُونُ لِقَوْمٍ

وہ ہیں کہ ہدایت دی انہیں اللہ نے اور یہ لوگ ہی عقول والے ہیں کیوہ شخص

حَقٌّ عَلَيْهِ ۗ كَلِمَةٌ الْعَذَابِ ۗ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ۚ

کہ نہایت ہو گئی جس پر بات عذاب کی کیا پس تو چھڑائے گا اُسے جو آگ میں ہے

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا مِنْ قَوْلِهَا عَرَفُوا

لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا اپنے رب کا ان کے لیے بلند مقامات ہیں کہ او پر ان کے (اور) بلند مقامات

مَبْنِيَّةٌ ۗ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ وَعَدَا اللَّهُ ۗ لَا

بنائے ہوئے ہیں بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں وعدہ ہے اللہ کا نہیں

يُخَلِّفُ اللَّهُ الْمَيْعَادَ ۙ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

خلاف کرتا اللہ وعدے کے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے آتا رہے آسمان سے

مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِئِمْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ رِجَالًا

پانی پس چلایا اُسے چشموں میں زمین کے پھر نکلتا ہے ساتھ اس کے کھیتی

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَ جُفَّتْ رُءُوسُهُ مِصْفَرًّا ۗ ثُمَّ يَجْعَلُهُ

مختلف ہیں رنگ ان کے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے پس تو دیکھتا ہے اسے زرد پھر کر دیتا ہے اُسے

حُطًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۙ أَفَمَن

ریزہ ریزہ یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے عقول والوں کے لیے کیا وہ شخص کہ

شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ

کھول دے اللہ سینہ اس کا واسطے اسلام کے پھر وہ نور پر ہے طرف سے اپنے رب کی پس ہلاکت ہے

لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۳۳﴾

ان کے لیے سخت ہیں دل جن کے یاد سے اللہ کی یہ لوگ گمراہی کھلی کھلی میں ہیں

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَنفِيسًا ۚ تَقَشِّعِرُ

اللہ نے اتاری بہترین بات (یعنی) کتاب آپس میں ملتی جلتی دہرائی جانوالی کھڑے ہو جاتے ہیں روکنے

مِنهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ

اس سے چمڑوں کے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہو جاتے ہیں چمڑے ان کے

وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذٰلِكَ هُدًىٰ لِّلَّذِينَ يَهْدِي بِهٖ مَن

اور دل ان کے اللہ کی یاد کی طرف ہوتے ہیں یہ ہدایت ہے اللہ کی کہ ہدایت دیتا ساتھ جسکے جسے

يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۚ ﴿۳۴﴾ فَمَن يَتَّقِ

چاہتا ہے اور جسے گمراہ ٹھہرائے اللہ تو نہیں اس کیلئے کوئی ہدایت دینے والا کیا پس جو شخص بچائے گا

بِوَجْهِهِ سُوٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّٰلِمِيْنَ

اپنے منکو بُرے عذاب سے بروز قیامت اور کہا جائیگا ظالموں کو

ذُو قُوٰمًا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۳۵﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

پکھو جو تھے تم کرتے تکذیب کی ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے

فَآتَهُمُ الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۶﴾ فَاذَاقَهُمُ اللَّهُ

پس آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے نہیں سمجھتے تھے پس کھچائی انہیں اللہ نے

الْخِزْيٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْعَذَابُ الْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ مَلُوٓ

ذلت زندگی دنیوی کی اور ضرور عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے کاش

كَانُوۡا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَاَلْقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ

ہوتے وہ جانتے اور یقیناً یقیناً بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں

مِّنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۳۸﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي

ہر مثال تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں (یعنی) قرآن عربی نہ کجی والا

عَوَجَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۲۹﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک مرد کی جس میں کئی شریک ہیں

مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا

باہم مخالف اور ایک آدمی پورے کا پورا ہے ایک آدمی کا کیا دونوں برابر ہیں حالت میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے یقیناً تو مرنے والا ہے اور یقیناً وہ

مَيِّتُونَ ﴿۳۱﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۳۲﴾

مرنے والے ہیں پھر یقیناً تم بروز قیامت حضور میں اپنے رب کے جھگڑو گے



فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ

پس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے جھوٹ باندا اللہ پر اور جھٹلایا

بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ؕ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى

سچ کو جب آیا اس کے پاس کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا

لِلْكَافِرِينَ ۝۳۲ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ

کافروں کے لیے اور وہ شخص جو لایا اور جس نے تصدیق کی

بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝۳۳ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ

اس کی یہ لوگ ہی متقی ہیں ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے

عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝۳۴ يُكْفِّرُ اللَّهُ

پاس اپنے رب کے یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا تاکہ دور کرے اللہ

عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ مَا جَرَّهُمْ

ان سے بُرائی وہ جو کی تھی انہوں نے اور بدلہ میں دے انہیں ثواب ان کا

بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۳۵ أَلَيْسَ اللَّهُ

بدل میں اچھے کام کے جو تھے وہ کرتے کیا نہیں ہے اللہ

بِكَافٍ عَبْدَهُ ؕ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ

کافی اپنے بندے کو اور وہ ڈراتے ہیں تجھے ان لوگوں سے جو

دُونِهِ ؕ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۶ وَ

سوا میں اس کے اور جسے گمراہ کرے اللہ پس نہیں اس کے لیے کوئی راہ نما اور

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ

جسے ہدایت دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا کیا نہیں ہے اللہ

بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۝۳۷ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

غالب (اور) سزا دینے والا اور البتہ اگر پوچھے تو ان سے کس نے پیدا کیے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ؕ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ

آسمان اور زمین ضرور کہیں گے کہ اللہ نے تو کہدے پھر تاؤ تو سہی کہ

مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ

جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے اگر چاہے مجھے اللہ دکھ دینا

هَلْ مِنْ كَشْفْتُمْ ضُرَّهُ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ

کیا وہ ددر کرنوالے ہیں اس کے ضرر کو یا چاہے مجھ پر رحم کرنا کیا وہ

مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ

روکنے والے ہیں رحمت اس کی تو کہہ سے کافی ہے مجھے اللہ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں

الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

بھروسہ کرنے والے تو کہہ سے اے قوم میری عمل کرو اپنی جگہ پر

إِنِّي عَامِلٌ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ

یقیناً میں عمل کروں گا ہوں پس عذیب تم جان لو گے کو کون ہے آتا ہے جس پر عذاب

يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۴۱﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا

جو ذلیل کر دے اسے اور اترا ہے کس پر عذاب قائم رہنے والا یقیناً ہم نے اناری

عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، فَمِنْ أُمَّتِي

تجھ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے ساقط حق کے پس جس نے ہدایت پائی

قَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِا، وَمَا أَنْتَ

تو اس کے نفس کیلئے ہے اور جو گمراہ ہوا تو سوائے اسکے نہیں کہ وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی رجاں پر اور نہیں تو

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۴۲﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

ان پر واروہ اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو بوقت موت کے انہی

وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ

اور ان کی جو نہیں مرے نیند میں ان کی پھروک لیتا ہے ان کو کہ فیصلہ کرتا ہے

عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

جن پر موت کا اور چھوڑ دیتا ہے دوسروں کو تا میعاد مقررہ کے

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾ أَمْ اتَّخَذُوا

یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کیا ٹھہرائے ہیں

مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ

انہوں نے سوائے اللہ کے سفارشی تو کہدے کیا اگرچہ ہوں وہ کہ نہ طاقت رکھتے ہوں

شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ

کچھ بھی اور نہ سمجھتے ہوں تو کہدے اللہ کیلئے ہے سفارش ساری اسی کی

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۴﴾ وَإِذَا

بادشاہی آسمانوں اور زمین کی پھر طرف اس کی تم لوٹائے جاؤ گے اور جب

ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے

بِالْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ

آخرت پر اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو سوائے اس کے اچانک وہ

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۵﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

خوش ہو جاتے ہیں تو کہدے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ

جاننے والے غیب اور ظاہر کے تو فیصلہ کریگا درمیان اپنے بندوں کے

فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ

اس میں کرتے تھے وہ جس میں اختلاف کرتے اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے

ظَلْمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا

جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور مانند اس کی ساتھ اس کے ضرور فدیہ میں دیں

بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَّ اللَّهُ

اسے مقابل میں سخت عذاب کے بروز قیامت اور ظاہر ہو گا ان کے لیے طرف سے

اللَّهُ مَا كُفَرُوا بِهٖ يَوْمَئِذٍ خَسِيبُونَ ﴿۳۷﴾ وَبَدَّ اللَّهُ

اللہ کی جو نہیں تھے وہ گمان کرتے اور ظاہر ہو جائیں گے ان کیلئے برائیاں

مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾

اس کی جو وہ کرتے تھے اور گھیرے گا انہیں وہ کہ تھے وہ جس سے ہنسی کرتے

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ عَاثًا زُتْمًا ذَاخًا وَوَلَّاهُ

پس جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف پکارتا ہے میں پھر جب دیتے ہیں ہم اُسے

نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِيَ

نعمت اپنی طرف سے کہتا ہے سوائے اکے نہیں کہ دیا گیا ہوں میں یہ بوجہ علم کے (نہیں) بلکہ وہ

فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۱ قَدْ قَالَهَا

آزمائش ہے ویکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے یقیناً کسی تھی وہ بات

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا

ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے پس نہ کام آیا انہیں جو تھے وہ

يَكْسِبُوْنَ ۝۱۰۲ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَّا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ

کرتے پس پہنچی انہیں بُرائیاں اسکی جو کیا تھا انہوں نے اور وہ لوگ جنہوں

ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَّا كَسَبُوْا وَاَوْ

نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے ضرور پہنچیں گی انہیں بُرائیاں اسکی جو کیا انہوں نے اور

مَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝۱۰۳ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

نہیں ہیں وہ ہرگز عاجز کر نہوالے کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے

الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ

رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے یقیناً اس میں البتہ نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے

يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰۴ قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى

جو ایمان لاتے ہیں تو کہو اے بندو میرے وہ جنہوں نے زیادتی کی اپنی

اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ

جانوں پر نہ مایوس ہو رحمت سے اللہ کی یقیناً اللہ بخشتا ہے

الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۱۰۵

گناہ سب کے سب یقیناً وہ ہی بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور

اِنِّيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ

جھک جاؤ طرف اپنے رب کی اور فرمانبردار بنو اس کیلئے پہلے اس کے کہ آوے تمہارے پاس

۱۰۱

الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۶۵﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا

عذاب پھر نہیں مدد دینے جاؤ گے تم اور پیروی کرو بہتر کی اس میں سے جو

أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ

آتارہ گی طرف تمہاری طرف سے تمہارے رب کے پہلے اس کے کہ آوے تم پر عذاب

بِغْتَةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۶۶﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتِي

اپنا تک اور تم نہ جانتے ہو ایسا نہ ہو کہ کہہ دے کوئی جی اے افسوس

عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿۶۷﴾

اس پر کہ کوتاہی کی میں نے بارہ میں اللہ کے اور یقیناً تھا میں البتہ تمسخر کرنے والوں میں

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَىٰ بَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۶۸﴾

یا کہے وہ کہ اگر اللہ ہدایت دیتا مجھے البتہ ہوتا میں متقیوں میں سے

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ

یا کہے وہ جب دیکھے عذاب کہ کاش ہو میرے لیے لوٹنا تو ضرور ہوجاؤں میں

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۹﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ

نیکی کرنے والوں میں سے ہاں یقیناً آئیں تیرے پاس آیات میری پس تکذیب کی تو نے

بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۷۰﴾ وَيَوْمَ

ان کی اور تکبر کیا تو نے اور تھا کافروں میں سے اور بروز

الْقِيَامَةِ تَرَىٰ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُمْ

قیامت تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر کہ چہرے ان کے

مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۷۱﴾

سیاہ ہونگے کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانا تکبر کرنے والوں کے لیے

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ

اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا ساتھ کامیابی کے ان کی نہ پہنچے گی انہیں

السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۷۲﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق ہے ہر چیز کا

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۳۳﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ

اور وہ ہر چیز پر نگران ہے اس کے لیے کنجیاں ہیں آسمانوں

وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ

اور زمین کی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا . ساتھ آیات کے اللہ کی یہ لوگ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ اَفْخَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِيْ اَعْبُدُ

ہی نقصان اٹھانے والے ہیں تو کہہ کیا پس غیر کی اللہ کے تم مجھے حکم دیتے ہو میں عبادت کروں

اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ

اے جاہلو اور یقیناً یقیناً وحی کی گئی ہے طرف نیری اور طرف ان لوگوں کی جو

مِنْ قَبْلِكَ ۗ لَئِنْ اَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ

پہلے تھے تجھ سے کہ البتہ اگر شرک کیا تو نے تو ضرور جھٹ ہو جائیں گے عمل تیرے اور ضرور ہو جائے گا

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۶﴾ بَلِ اللّٰهُ فَاْعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۳۷﴾

تو نقصان اٹھانوالوں میں سے بلکہ اللہ ہی کی پس تو عبادت کر اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۗ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ

اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی حق اس کی قدر کا اور زمین سب کی سب ایک چٹھی میں ہوگی اسکی

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ۗ سُبْحٰنَهٗ

بروز قیامت اور آسمان پسٹے ہوئے ہوں گے دائیں ہاتھ میں اس کے پاک ہے وہ

وَتَعْلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ

اور بلند ہے اس سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور بجایا جانے کا جھل پس بیہوش ہو جائیں گے وہ

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۗ ثُمَّ نُفِخَ

جو آسمانوں میں ہوں گے اور جو زمین میں ہوں گے سوائے اس کے جسے چاہے اللہ پھر بجایا جانے کا

فِيْهِ اٰخِرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ﴿۳۹﴾ وَاَشْرَقَتْ

وہ دوسری دفعہ پس اچانک وہ کھڑے دیکھتے ہوں گے اور چمک اٹھے گی

الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا ۗ وَوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجَايِٕءٌ بِالنَّبِيِّْنَ

زمین نور سے اپنے رب کے اور رکھی جائیگی کتاب (اعمال کی) اور لائے جائیں گے نبی

وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۴۵﴾

اور گواہ اور فیصلہ کیا جائیگا درمیان انکے ساتھ حق کے اور وہ نہ ظلم کئے جاویں گے

وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۴۶﴾

اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کیا اس نے اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں

وَسَيُقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا

اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا طرف جہنم کی گروہ درگروہ یہاں تک کہ جب

جَاءُوا ۖ وَهَآ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا

آئیں گے ان کے پاس کھولے جائیں گے دروازے اس کے اور کہیں گے انہیں چوکیدار اس کے

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمُ

کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھتے تھے تم پر آیات رب کی تمہارے

وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَآذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن

اور ڈراتے تھے تم کو ملنے سے تمہارے اس دن سے کہیں گے ہاں کہیں نہیں لیکن

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكٰفِرِينَ ﴿۴۷﴾ قِيلَ ادْخُلُوا

ثابت ہو گئی بات عذاب کی کافروں پر کہا جائے گا داخل ہو

أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوٰى

دروازوں میں جہنم کے رہ پڑنے والے ہیں اس میں پس کیا ہی بُرا ہے ٹھکانا ہے

الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۴۸﴾ وَسَيُقَالُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ

تجبر کرنے والوں کا اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا اپنے رب کا طرف

الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا ۖ وَهَآ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ۖ

جنت کی گروہ درگروہ یہاں تک کہ جب آئیں گے اسکے پاس اور کھولے جائیں گے دروازے اس کے اور

قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلَيْكُمْ ۖ فَادْخُلُوا هَآ

کہیں گے انہیں چوکیدار اس کے سلامتی ہو تم پر پس داخل ہو اس میں

خٰلِدِينَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقْنَا

رہ پڑنے والے ہو کر اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سچا کیا ہم نے

۴۷

وَعْدَةٌ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ

وعدہ اور وارث کیا ہم کو زمین کا جگہ پکڑتے ہیں ہم جنت میں جہاں

نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿۵﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ

ہم چاہتے ہیں پس کیا ہی اچھا ہے اجر کام کرنے والوں کا اور تو دیکھے گا فرشتوں کو گھیرنے والے

مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ

اور گرد عرش کے تسبیح کریں گے ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور فیصلہ کیا جائیگا

بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

درمیان ان کے ساتھ حق کے اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں (جو) رب ہے تمام دنیا کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

حَمْدٌ ﴿۲﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳﴾ عَافِرِ

حائیم اتارنا اس کتاب کا طرف سے اللہ کی ہے (جو) عزت والا اور بہت علم والا ہے بخشنے والا

الدَّٰثِبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴿۴﴾

ہے گناہ اور قبول کرنے والا ہے توبہ سخت سزا دینے والا ہے طاقت والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿۵﴾ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ

نہیں کوئی خدا سوائے اس کے طرف الٰہی کی ٹوٹتا ہے نہیں جھگڑتے آیات میں

اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَخْرُكُ تَقَلُّبُهُمْ فِي

اللہ کی مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس نہ دھو کریں ڈالے تجھے پھرنا ان کا

الْبِلَادِ ﴿۶﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ

شہروں میں مکذیب کی پہلے ان سے قوم نوح نے اور مختلف جماعتوں نے

بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا بِهِمْ

بعد ان کے اور تصد کیا ہر قوم نے اپنے رسول کا کہ پکڑیں اُسے اور

جَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ

جھگڑے ساتھ جھوٹ کے تاکہ دنگاویں ساتھ اے حق کو پس پکڑیں نے انہیں

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۖ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

پس کیسا ہوا عذاب میرا اور اسی طرح ثابت ہو گئی بات رب کی تیرے

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ الَّذِينَ

ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگ والے ہیں وہ جو

يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

اٹھاتے ہیں عرش کو اور جو ارد گرد میں اس کے تسبیح کرتے ہیں ساتھ حمد کے اپنے رب کی

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا

اور ایمان لاتے ہیں اس پر اور بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اے رب ہمارے

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا

عافی ہو گیا تو ہر چیز پر رحمت سے اور علم سے پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی

وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۗ رَبَّنَا

اور پیروی کی راہ کی تیرے اور بچا انہیں عذاب سے دوزخ کے اے رب ہمارے

أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ

اور داخل کر ان کو باغوں میں ہمیشہ کے وہ جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے اور ان کو بھی جو نیک ہوئے

مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ

باپ دادا میں سے ان کے اور بیویوں میں سے ان کی اور اولادوں میں سے ان کی یقیناً تو ہی

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ

عزت والا حکمت والا ہے اور بچا ان کو بُرائیوں سے اور جسے بچائے تو برائیوں سے

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ

اس دن تو یقیناً رحم کیا تو نے اس پر اور یہ ہی کامیابی ہے بڑی

وَقِيلَ لَكَ
وَقِيلَ لَكَ
مَلَكًا عَدُوًّا

۱۰

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا دُونَ لَمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے البتہ ناراضگی اللہ کی بہت بڑی ہے بہ نسبت

مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۱۱

ناراضگی تمہاری کے اپنے لوگوں سے جب تم پکارے جلتے تھے طرف ایمان کے تو تم انکار کرتے تھے

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آثْنَتَيْنِ

وہ کہیں گے اے رب ہمارے موت دی تو نے ہم کو دو بار اور زندہ کیا تو نے ہمیں دو بار

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۱۲

پس اقرار کیا ہم نے گنہوں کا اپنے پس کیا ہے طرف نکلنے کی کوئی راستہ

ذِكْمُ بَأْسِهِ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۚ وَإِن

یہ اس لیے ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلا تم کفر کرتے تھے اور اگر

يُشْرَكَ بِهِ تُوْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۱۳

شریک کیا جاتا تھا ساتھ اسکے تم ایمان لاتے تھے پس حکومت اللہ بلند بڑے کی ہے

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

وہی ہے جو دکھاتا ہے اپنے نشانات اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے

رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۱۴ فَادْعُوا اللَّهَ

رزق اور نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہ جو جھکتا ہے پس پکارو اللہ کو

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۱۵ دَفِيعُ

خالص کرتے ہوئے اس کیلئے فرمانبرداری اور اگرچہ ناپسند کریں کافر بلند

الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى

درجوں والا ہے صاحب عرش ہے ڈالتا ہے کلام اپنے حکم سے

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۱۶ يَوْمَ

جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تاکہ ڈرائے یوم ملاقات سے جس دن

هُمْ بَارِزُونَ ۚ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ

کہ وہ ظاہر ہوں گے نہ مخفی ہوگا اللہ پر ان میں سے کچھ بھی کس کی ہے

الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۱۶ أَلْيَوْمَ تُجْزَى

بادشاہی آج اللہ اکیلے سب پر غالب کی ہے آج بدل دیا جائے گا

كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ

ہر نفس کو بعض اسکے جو کمایا انہوں نے نہیں ظلم اس دن یقیناً اللہ جلد لینے والا ہے

الْحِسَابِ ۱۷ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ

حساب اور ڈرا انہیں دن سے اچانک آجانے والے کے جبکہ دل

لَدَى الْحَنَّا جِرْ كَاطِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ

نزدیک حلق کے غم سے بھرے ہوں گے نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست

وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۱۸ يَخْلَعُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي

اور نہ سفارش کرنے والا کمانا جائے جس کا وہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی اور جسے چھپانے ہیں

الصُّدُورِ ۱۹ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ

سینے اور اللہ فیصلہ کرتا ہے ساتھ حق کے اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں

مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ

سوائے اس کے نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا

الْبَصِيرُ ۲۰ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

خوب دیکھنے والا ہے کیا نہیں چلے پھرے وہ زمین میں کروہ دیکھتے کیا

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ

ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے پہلے ان سے تھے وہ

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ قَآخَذَ هُمْ اللَّهُ

زیادہ سخت ان سے قوت اور نشانات میں زمین میں پس پکڑوا ان کو اللہ نے

يَذُنُّوهُمْ ۚ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۲۱ ذَلِكَ

بوجہ گناہوں کے ان کے اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا یہ

بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا

اس لیے ہے کہ تھے آتے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ دلائل کے پس انکار کیا انہوں نے

فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِأَنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْحِقَابِ ۳۳ ۱۱۱

پس پکڑا ان کو اللہ نے یقیناً وہ زور آور سخت سزا دینے والا ہے اور یقیناً یقیناً

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۳۴ ۱۱۱

بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنے نشانوں کے اور غلبہ ظاہر کے طرف فرعون اور

هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۳۵ ۱۱۱

ہامان اور قارون کی پس کہا انہوں نے جادوگر (اور) جھوٹا پس جب وہ لایا ان کے پاس

بِالْحَقِّ مِن عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا

حق سے ہمارے کہا انہوں نے قتل کرو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے

مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ اِلَّا

ساتھ اس کے اور زندہ چھوڑو عورتوں کو ان کی اور نہیں تدبیر کافروں کی مگر

فِي ضَلٰلٍ ۳۶ ۱۱۱

نامرادی اور کہا فرعون نے چھوڑو مجھے کہ قتل کروں موسیٰ کو اور چاہیے کہ وہ پکارے

رَبِّهِ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي

اپنے رب کو یقیناً میں ڈرتا ہوں اس سے کہ وہ بدل دے دین تمہارا یا یہ کہ برپا کرے

الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۳۷ ۱۱۱

زمین میں فساد اور کہا موسیٰ نے یقیناً میں نے پناہ پکڑی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی

مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۳۸ ۱۱۱

ہر تکبر کرنے والے سے جو نہیں ایمان لاتا یوم حساب پر اور کہا ایک مرد

مُؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ اتَّقِلُوْنَ

ایماندار نے قوم فرعون میں سے جو چھپاتا تھا ایمان اپنا کیا تم قتل کرو گے

رَجُلًا اِنْ يَقُوْلَ رَبِّيْ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ

ایک آدمی کو اس لیے کہ وہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے حالانکہ یقیناً وہ لایا ہے تمہارے پاس دلائل طرف سے

رَبِّكُمْ وَاِنْ يَكْ كٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَكْ

رب کی تمہارے اور اگر ہے وہ جھوٹا تو اس پر (دبا) ہے جھوٹ اس کا اور اگر ہے وہ

صَادِقًا يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

سچا تو پہنچے گا تم کو بعض وہ جس کا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیتا

مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿۲۹﴾ يَقَوْمَ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

جو حد سے بڑھنے والا (اور) جھوٹا ہے اے قوم میری تمہارے لیے حکومت ہے آج

ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ

غالب ہو زمین میں پس کون مدد دے گا ہمیں عذاب سے اللہ کے

إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا

اگر آیا ہمارے پاس کہا فرعون نے نہیں دکھاتا میں تم کو مگر جو دیکھتا ہوں اور نہیں

أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ

ہدایت دیتا تم کو مگر راہ درست کی اور کہا اس نے جو ایمان لایا تھا

يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿۳۱﴾

اے قوم میری یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر مانند دن مختلف قوموں کے

مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ

مانند حالت قوم نوح اور عاد اور ثمود کے اور ان لوگوں کے جو

بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿۳۲﴾ وَيَقَوْمِ إِنِّي

بعد تھے ان کے اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا بندوں پر اور اے قوم میری یقیناً

أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿۳۳﴾ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ

میں ڈرتا ہوں تم پر دن سے ایک دوسرے کو پکارنے سے جس دن پھر جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے

مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا

نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا اور جسے گمراہ ٹھہرائے اللہ تو نہیں اس

لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ

کے لیے کوئی ہدایت دینے والا اور یقیناً یقیناً آیا تمہارے پاس یوسف پہلے اس سے

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى

ساتھ دلائل کے پس ہمیشہ رہے تم شک میں اس سے کہ وہ لایا تمہارے پاس جسے بیان تک کہ

اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا

جب وہ فوت ہو گیا کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ بعد اس کے کوئی رسول

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿۳۸﴾

اسی طرح گمراہ ٹھہراتا ہے اللہ اس کو جو ہر حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا وہ لوگ جو

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ

جھگڑتے ہیں باہ میں آیات کے اللہ کی بغیر دلیل کے جو آتی ہوں ان کے پاس بڑی ہے بیباکی ناراضی

عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى

میں نزدیک اللہ کے اور نزدیک ان لوگوں کے جو ایمان لائے اسی طرح ٹھہرتا ہے اللہ

كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿۳۹﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْ

ہر دل پر تکبر کرنے والے سرکش کے اور کہا فرعون نے اے ہامان بنا

لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۴۰﴾

میرے لیے محل تاکہ میں جا پہنچوں راستوں پر راستوں پر آسمان کے

فَاطِلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

پھر میں جھانکوں طرف مہبود کی موسیٰ کے اور یقیناً میں ضرور خیال کرتا ہوں اسے جھوٹا اور اس طرح

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ سَوْءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ

نوبھوت کی گئی فرعون کے لیے بُرائی کام کی اس کے اور وہ روکا گیا راہ سے اور

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿۴۱﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ

نہیں تدبیر فرعون کی مگر ہلاکت میں اور کہا اس نے جو ایمان لایا تھا

يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۴۲﴾

اے قوم میری پیروی کرو میری میں دکھاؤں گا تم کو راہ ہدایت کی اے قوم میری

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاءٌ رِوَانٌ الْآخِرَةُ هِيَ

سوائے اس کے نہیں کہ یہ زندگی دُورلی عارضی سامان ہے اور یقیناً آخرت ہی

دَارُ الْقَرَارِ ﴿۴۳﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

گھر ہے ٹھہرنے کا جس نے کی بُرائی تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر مانند اس برائی کی

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

اور جس نے کسی نیکی مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہو

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ

تو یہ لوگ داخل کئے جائیں گے جنت میں رزق دیئے جائیں گے اس میں بغیر

حِسَابٍ ۚ وَيَقَوْمٍ مَّا لِي أَدْعُو كُمَا إِلَى التَّجْوَةِ وَ

حساب کے اور اے قوم میری کیسے مجھے کہلاتا ہوں میں نہیں طرف نجات کی اور

تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۗ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ

تم بلاتے ہو مجھے طرف آگ کی تم بلاتے ہو مجھے کہ میں کھڑکوں اللہ کا اور

أَشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ ۗ زَوَّأْنَا أَدْعُو كُمَا إِلَى

شریک بناؤں ساتھ اسکے کہ نہیں مجھے جس کا کوئی علم اور میں بلاتا ہوں تم کو طرف

الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۗ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ

عزت والے بخشنے والے کی نہیں کوئی شک کہ تم بلاتے ہو مجھے طرف اسکی کہ نہیں

لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا

جس کے لیے پکارنا دنیا میں اور نہ آخرت میں اور یقیناً لوٹنا ہمارا

إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ

طرف اللہ کی ہے اور یقیناً حد سے بڑھنے والے ہی آگ والے ہیں

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِئْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ

پس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تمہیں اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ طرف اللہ کی یقیناً

اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۗ فَوَقَّهٗ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا

اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو پس بچایا اُسے اللہ نے بُرائیوں سے اس کی جو تدبیر کی انہوں

وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۗ النَّارُ يُعْرَضُونَ

نے اور گھیر لیا قوم فرعون کو بُرے عذاب نے وہ آگ ہے پیش کئے جاتے ہیں

عَلَيْهَا غَدَاةٌ وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۗ

اس پر صبح اور شام اور جس دن قائم ہوگی قیامت

أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۚ وَإِذِيتَحَاجُّونَ

رکھا جائیگا) داخل کرو قوم فرعون کو سخت عذاب میں اور جس وقت جھگڑیں گے

فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا

آگ میں پس کہیں گے کمزور ان کو جو تکبر کرتے تھے یقیناً ہم تھے

لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۚ

تمہارے پیرو پس کیا تم ہٹانے والے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کا۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ

کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے یقیناً ہم سبھی اس میں ہیں یقیناً اللہ نے

حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ

فیصلہ کر دیا ہے درمیان بندوں کے اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہونگے داروغوں کو

جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۚ

جہنم کے دُعا کرو اپنے رب سے کہ ہلکا کرے ہم سے ایک دن عذاب کا

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ قَالُوا

کہیں گے کیا نہیں تھے آئے تمہارے پاس رسول تمہارے ساتھ دلائل کے، وہ کہیں گے

بَلْ قَالُوا فَاذْعُوا ۚ وَمَا دُعَاؤُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي

ہاں کہیں نہیں، کہیں گے پس تم (خود) دعا کرو، اور نہیں دُعا کافروں کی مگر

ضَلِيلٍ ۚ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي

بے کار یقیناً ہم اللہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۚ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ

زندگی دنی میں اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ جس دن کہ نہ نفع دیکھا

الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ

ظالموں کو عذر ان کا اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بُرا

الدَّارِ ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي

گھر ہے اور یقیناً یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو ہدایت اور وارث کیا ہم نے بنی

إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ ۝۳۳ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۳۴

اسرائیل کو کتاب کا ہدایت اور نصیحت واسطے عقول والوں کے

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ

پس صبر کر یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے اور بخشش مانگ اپنے قصور کے لیے اور

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝۳۵ إِنَّ الَّذِينَ

تسبیح کر ساتھ حمد کے اپنے رب کی شام اور صبح یقیناً وہ لوگ جو

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَّهُمُ وَإِنْ

جھگڑتے ہیں بارہ میں آیات کے اللہ کی بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہوں ان کے ہاں نہیں

فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مِّمَّا بَدَّيْغِيهِ، فَاسْتَعِذْ

سینوں میں ان کے بجز تکبر کے کہ نہیں وہ ہرگز پہنچنے والے اسے، پس پناہ مانگ

بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۳۶ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ

اللہ کی - یقیناً وہ ہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یقیناً پیدائش آسمانوں

وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اور زمین کی بہت بڑی ہے پیدائش سے لوگوں کی اور لیکن اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ۝۳۷ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ

جانتے اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور بینا اور وہ لوگ جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا

ایمان لائے اور کیں نیکیاں اور نہ بُرائی کرنے والا کم ہی تم

تَتَذَكَّرُونَ ۝۳۸ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا

نصیحت پکڑتے ہو یقیناً قیامت برآئے والی ہے نہیں کوئی شک اس میں

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۳۹ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي

لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے اور کہا رب نے تمہارے دعا کرو مجھ سے

أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

میں قبول کروں گا تمہارے لیے یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عبادت سے میری

۱۱

وقالوا

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ

ضرور داخل ہوں گے جہنم میں ذیل ہو کر اللہ وہ ہے جس نے بنایا

لَكُمْ الْيَلَّ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اَللّٰهَ

تمہارے لیے رات تاکہ آرام کرو تم اس میں اور دن دکھلانے والا یقیناً اللہ

لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٢﴾

اللہ فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے

ذِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ؕ لَآ اِلهَ اِلَّا هُوَ ؕ فَاَنۢى

یہی ہے اللہ رب تمہارا پیدا کرنے والا ہر چیز کا نہیں کوئی خدا سوائے اُس کے پس کہاں

تَوَفَّكُونَ ﴿٦٣﴾ كَذٰلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِيۡنَ كَانُوۡا بِآيٰتِ اَللّٰهِ

پھیرے جلتے ہو تم اسی طرح پھیرے جاتے تھے وہ لوگ جو تھے ساتھ آیت کے اللہ کی

يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ

انکار کرتے اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور

السَّمٰۤءَ بِنَآءٍ وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَّرَزَقَكُمْ

آسمان کو چھت اور صورت دی تمہیں پس اچھی بنائیں صورتیں تمہاری اور رزق دیا تم کو

مِنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ ؕ فَتَبَرَّكَ اَللّٰهُ رَبُّ

پاکیزہ چیزوں سے یہی ہے اللہ رب تمہارا پس برکت والا ہے اللہ رب

الْعٰلَمِيۡنَ ﴿٦٥﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاذْعُوۡهُ

تمام دنیا کا وہی زندہ ہے نہیں کوئی خدا سوائے اس کے پس پکارو اسے

مُخْلِصِيۡنَ لَهٗ الدِّيۡنَ ؕ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ ﴿٦٦﴾

خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو رب ہے تمام دنیا کا

قُلۡ اِنِّيۡ نُهِيۡتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيۡنَ تَدْعُوۡنَ مِنْ

تو کہہ رہے یقیناً میں منع کیا گیا ہوں کہ عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو

دُوۡنِ اَللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيۡ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَبِّيۡ زَوَّارۡتُ اَنْ

سوائے اللہ کے جبکہ آگئے ہیں میرے پاس دلائل طرف سے میرے رب کی اور حکم دیا گیا ہوں کہ

أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿۶۶﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

مطیع رہوں رب العالمین کا وہی جس نے پیدا کیا تم کو

تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

مٹی سے پھر نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر وہ نکالتا ہے تم کو

طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا أَسْيُوكَا

بچہ پھر رہتا ہے تم کو تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو پھر ہو جاؤ تم بوڑھے

وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَىٰ مِنْ قَبْلِ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلَ مَسْمًى

اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو وفات دینیے جاتے ہیں پہلے اور تاکہ پہنچو تم میعاد مقررہ کو

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا

اور تاکہ تم عقل کرو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پس جب

قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۶۸﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ

فیصل کرتا ہے کسی معاملہ کا تو سوائے اسکے نہیں کہ فرماتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کیا نہیں دیکھا تو نے لون

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي بِصُرْفُونٍ ﴿۶۹﴾

ان لوگوں کی جو جھگڑتے ہیں آیات میں اللہ کی کہاں پھرے جاتے ہیں

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا

وہ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو اور اسے کہ بھیجا ہم نے ساتھ جسکے اپنے رسولوں کو

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسُلُ

پس عنقریب وہ جان لیں گے جب طوق ہوں گے گردنوں میں ان کی اور زنجیریں

يُسْحَبُونَ ﴿۷۲﴾ فِي الْحَمِيمِ ۗ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿۷۳﴾

وہ گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿۷۴﴾ مِنْ دُونِ

پھر کہا جائے گا انہیں کہاں ہیں جنہیں تھے تم شریک ٹھہراتے سوائے

اللَّهِ ۗ قَالُوا أَضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمَنَّا كُنَّا نَدْعُوا مِنْ

اللہ کے کہیں گے کہ وہ گم ہو گئے ہم سے بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے اس سے

۶۸۹
۱۱
معاذتہ

قَبْلُ شَيْءًا ۚ كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝۵۰ ذَلِكُمْ

پہلے کچھ بھی اسی طرح گمراہ ٹھہراتا ہے اللہ کافروں کو یہ اس لیے

بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ

ہے کہ تھے تم خوش ہوتے زمین میں بغیر حق کے اور

بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ۝۵۱ ۚ اَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

اس لیے کہ تھے تم اترتے داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝۵۲ فَاصْبِرْ

رہ پڑتے ہوئے اس میں پس کیا ہی بُرا ہے ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا پس تو صبر کر

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي

یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے پس اگر دکھائیں ہم تجھے بعض وہ جس کا

نَعْدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝۵۳ وَ

ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے یا ہم وفات دیں تجھے تو طرف ہماری وہ لوٹائے جائیں گے اور

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِّنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا

یقیناً یقیناً بھیجے ہم نے رسول پہلے تجھ سے بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا ذکر کیا ہم نے

عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ وَمَا كَانَ

تجھ پر اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن کا نہیں ذکر کیا ہم نے تجھ پر اور نہیں تھی

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ

شان کسی رسول کی کہ وہ لائے کوئی نشان سوائے اجازت کے اللہ کے پس جب آیا

أَمْرٌ مِّنْ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۝۵۴

حکم اللہ کا فیصلہ کیا گیا ساتھ حق کے اور نقصان پایا اس وقت جھوٹوں نے

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا

اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے چارپائے تاکہ تم سوار ہو بعض پران میں سے

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۵۵ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا

اور بعض کو ان میں سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں اور تاکہ تم پہنچو

عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

ان پر (سوار ہو کر) ضرورت کو جو دلوں میں ہے تمہارے اور ان پر اور کشتیوں پر

تَحْمَلُونَ ﴿۸۱﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ

تم سوار کئے جاتے ہو اور وہ دکھاتا ہے تم کو نشان اپنے پس کس کا نشانوں میں سے اللہ کے

تُنْكِرُونَ ﴿۸۲﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

تم انکار کرو گے کیا پھر نہیں وہ پلے پھرے زمین میں کر وہ دیکھتے کیسا

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ

ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے ان سے تھے زیادہ

مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى

ان سے اور مضبوط قوت میں اور نشانات میں زمین میں پس نہ کام آیا

عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۳﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

انہیں وہ جو تھے وہ کمانے پس جب آئے ان کے پاس رسول ان کے

بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ

ساتھ دلائل کے خوش ہوئے وہ اس پر جو پاس ان کے تھا علم میں سے اور گھیر لیا

بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۸۴﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

انہیں اس نے کہ تھے وہ ساتھ جس کے ہنسی کرتے پس جب دیکھا انہوں نے عذاب ہمارا

قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّاهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ

کہا انہوں نے ایمان لائے ہم اللہ کیلئے پر اور منکر ہوئے ہم اس کے کہ تھے ہم ساتھ جس کے

مُشْرِكِينَ ﴿۸۵﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا

شریک ٹھہرتے پس نہ ہوا کہ نفع دے انہیں ایمان ان کا جب دیکھا انہوں نے

بَأْسَنَا ۚ سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ

عذاب ہمارا سنت ہے اللہ کی وہ جو گزر چکی بندوں میں اس کے

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴿۸۶﴾

اور نقصان اٹھایا وہاں پر کافروں نے

سُورَةُ حَمَّ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

حَمَّ ۱ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۲ كِتَابٌ

حامیم اتارنا ہے طرف سے رحمن (اور) رحیم کے (یہ) کتاب ہے

فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۳

کھول کر بیان کی گئی ہیں آیات اسکی قرآن ہے عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۴ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا

بشارت دینے والا اور ڈرانے والا پس مز پھر یا اکثر نے ان میں سے - پس وہ نہیں

يَسْمَعُونَ ۵ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ وَمَا تَدْعُونَا

سننے اور کہا انہوں نے دل ہمارے پردہ ہیں اس سے کہ تم پکارتے ہو ہمیں

إِلَيْهِ وَفِيْ أَذَانِنَا وَقَدْ رَمَيْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ

طرف جس کی اور کانوں میں ہمارے برابر ہیں ہے اور درمیان ہمارے اور درمیان تیرے پردہ ہے

فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا ۶ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

پس عمل کرو یقیناً ہم بھی عمل کر رہے ہیں تو کہدے سوائے اسکے نہیں کہ میں انسان ہوں مانند تمہاری

يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا

وحی کی جاتی ہے طرف میری یہ کہ معبود تمہارا معبود ایک ہے پس سیدھے چلو

إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ۷ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۸ الَّذِينَ

طرف اسکی اور بخشش مانگو اس سے اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے وہ جو

لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۹

نہیں دیتے زکوٰۃ اور وہ مشرکوں کے شکر ہیں

الثانية

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام کئے اچھے ان کیلئے اجر ہے نہ

مَمْنُونٍ ۹ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ

منقطع ہونے والا۔ تو کہہ دے کیا یقیناً تم البتہ انکار کرتے ہو اس کا جس نے پیدا کی

الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ آدَاءَ ذَلِكَ

زمین دو دنوں میں اور ٹھہراتے ہو تم اس کے شریک یہ ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۰ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَ

رب تمام دنیا کا اور اس نے رکھے اس میں پہاڑ اور پر اس کے اور

بُرُكٌ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

برکت رکھی اس نے اس میں اور مقرر کیں اس میں خوراکیں اس کی چار دن میں

سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ۱۱ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ

برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے پھر قصد کیا اس نے طرف آسمانوں کی اور وہ

دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَايْلَاكِ وَأُتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

دھواں تھا پس فرمایا اسے اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۱۲ فَقَضَيْتُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي

دونوں نے کہا آتے ہم خوشی سے پھر اس نے بنایا انہیں سات آسمان

يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ

دو دن میں اور وحی کی ہر آسمان میں کام کے اس کی اور زینت دی ہم نے آسمان

الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۱۳ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

دولے کو ساتھ چراغوں کے اور بطور حفاظت کے یہ اندازہ ہے عزت والے بہت

الْعَلِيمِ ۱۴ فَإِنِ اعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ ضِعْفَةَ مِثْلِ

جاننے والے (خدا) کا، پس اگر وہ منہ پھیریں تو تو کہہ دے میں ڈراتا ہوں تم کو عذاب سے مانند

ضِعْفَةَ عَادٍ وَثَمُودَ ۱۵ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ

عذاب عاد اور ثمود کے جب آئے ان کے پاس رسول

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

آگے سے ان کے اور پیچھے سے ان کے یہ کہنے عبادت کرو سوائے اللہ کے

قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكًا فَأِنَّا بِمَا

کہا انہوں نے اگر چاہتا رب ہمارا البتہ اتارتا فرشتے پس یقیناً ہم اس کے کہ

أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ۱۵ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي

بھیجے گئے ہو تم ساتھ جس کے منکر ہیں پس جو عادتھے سو تکبر کیا انہوں نے

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

زمین میں بغیر حق کے اور کہا کون ہے زیادہ ہم سے طاقت میں

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ

کیا نہیں دیکھا انہوں نے یقیناً اللہ جس نے پیدا کیا انہیں وہ زیادہ ہے ان سے

قُوَّةً ۱۶ وَكَانُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَارْسَلْنَا

طاقت میں اور تھے وہ آیات کا ہماری انکار کرتے پس بھیجی ہم نے

عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدِّقَهُمْ

ان پر ہوا تیز دنوں منحوس میں تاکہ ہم پکھا میں انہیں

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ

عذاب ذلت کا زندگی دہلی میں اور البتہ عذاب

الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۱۷ وَأَمَّا ثَمُودُ

آخرت کا زیادہ رسوا کرنیوالا ہے اور وہ نہ مدد دینے جاہل کے اور جو ٹھوکتھے

فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ

پس ہدایت دی ہم نے انہیں پھر پسند کیا انہوں نے اندھا پن مقابل ہدایت کے پس پکڑا انہیں

صِخْرَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۸

بجلی نے عذاب رسوا کرنیوالے کی بسبب اس کے کہ جو تھے وہ عمل کرتے

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۱۹ وَيَوْمَ

اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تھے تقویٰ کرتے اور جس روز

يُحْشِرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى التَّارِكِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۲۰ حَتَّىٰ

اکٹھ کئے جائیں گے دشمن اللہ کے طرف آگ کی پس وہ قسم قسم جدا کئے جائیں گے یہاں تک کہ

إِذَا مَا جَاءُ وَهَذَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ

جب آئیں گے اس کے پاس گواہی دیں گے خلاف ان کے کان ان کے اور آنکھیں ان کی

وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۲۱ وَقَالُوا الْجُلُودُ دِهْمٌ

اور چمڑے ان کے اس کی جو تھے وہ عمل کرتے اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو

لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي

کیوں گواہی دی تم نے خلاف ہمارے وہ کہیں گے بلایا ہمیں اللہ نے جس نے

أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَأَيْتُمْ

بلایا ہر چیز کو اور اس نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ اور طرف اس کی

تُرْجَعُونَ ۲۲ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

تم لوٹائے جاؤ گے اور نہ تھے تم کہ چھپ سکو اس سے کہ گواہی دیں خلاف تمہارے

سَمْعَكُمْ وَلَا أَبْصَارَكُمْ وَلَا جُلُودَكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ

کان تمہارے اور نہ آنکھیں تمہاری اور نہ چمڑے تمہارے دیکھیں گمان کیا تم نے

أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۲۳ وَذَلِكُمْ

کہ اللہ نہیں جانتا بہت کچھ اس سے جو تم کرتے ہو اور اس

ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَأَكُمْ فَاصْبِحْتُمْ مِنَ

گمان نے تمہارے جو گمان کیا تھا تم نے متعلق اپنے رب کے ہلک کیا تم کو پس ہو گئے تم

الْخُسْرَىٰ ۲۴ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالتَّارِكُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ

نقصان پانے والوں میں سے پس اگر وہ صبر کریں پس آگ ٹھکانا ہے ان کا اور اگر

يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ۲۵ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ

عذر کریں گے تو نہیں وہ عذر قبول کئے جانے والوں میں سے اور مقرر کئے ہم نے ان کے لیے

قُرْنَاءَ فَرَيَسُوا لَهُمْ مَبِئْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

ساتھی پس انہوں نے خوبصورت کر دکھلایا انہیں جو آگے ہے ان کے اور جو پیچھے ہے ان کے

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور لگ گیا ان پر فرودِ جرم ان قوموں میں جو گذر چکیں پہلے ان کے

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ

جنوں اور آدمیوں سے یقیناً وہ تھے نقصان اٹھانے والے اور کہا

الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَا

ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہ سنا اس قرآن کو اور شور و غل کرو

فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۳۷﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ پس ضرور کھچھائیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا

عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَابَ الَّذِي كَانُوا

عذاب سخت اور ضرور بدلہ دیں گے ہم انہیں بڑا اس کا جو تھے

يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا

وہ عمل کرتے بدلہ ہے دشمنوں کا اللہ کے آگ ہے ان کے لیے اس میں

دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۳۹﴾

گھر ہے رہ پڑنے کا بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ آیات کا ہماری انکار کرتے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آضَلْنَا مِنَ

اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اے رب ہمارے دکھا ہمیں وہ (دو گروہ) جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو

الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ

جنوں اور انسانوں میں سے رکھیں ہم دونوں کو نیچے اپنے قدموں کے تاکہ ہوں وہ دونوں

مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۴۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ

ذلیلوں میں سے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر

اسْتَقَامُوا اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلِئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

ٹھیک قائم ہوئے اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ مت ڈرو اور

لَا تَخْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۴۱﴾

نہ غمگین ہو اور خوش ہو ساتھ جنت کے وہ جس کا تم وعدہ دیتے جاتے ہو

نَحْنُ أَوْلَىٰكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۗ

ہم دوست ہیں تمہارے زندگی و دلی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے

فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۗ

اس میں وہ ہے جو چاہیں گے نفس تمہارے اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو مانگو گے تم

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا

بلور ہمانی کے طرف سے بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے کی، اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں اس شخص سے جو بلاتا ہے

إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۗ

طرف اللہ کی اور عمل کرتا ہے نیک اور کہتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ

اور نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ بدی دور کر (بدی کو) ساتھ اس بات کے کہ

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

زیادہ اچھی ہو پس اچانک وہ شخص کہ درمیان تیرے اور درمیان اس کے دشمنی ہے گویا کہ وہ

وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۗ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَمَا

دوست ہے گرا اور نہیں دیکھتے یہ بات مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نہیں

يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَمَا

دیا جاتا یہ بات مگر قسمت بڑی والا اور اگر پہنچے تجھے طرف سے

الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

شیطان کی دوسرے پس پناہ مانگ اللہ سے یقیناً وہ ہی خوب سننے والا

الْعَلِيمُ ۗ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ

خوب جاننے والا ہے اور نشانات میں سے اسکے رات اور دن ہے اور سورج اور

الْقَمَرِ ۗ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ

چاند ہے نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو اور سجدہ کرو اللہ کو

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاةً تَعْبُدُونَ ۗ فَإِنَّ

جس نے پیدا کیا انہیں اگر ہو تم اس کی عبادت کرتے پھر اگر

اَسْتَكْبَرُوا قَالِذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ

وہ تکبر کریں تو وہ لوگ جو حضور میں رب کے تیرے تسبیح کرتے ہیں اس کی

بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۹﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ

رات اور دن اور وہ نہیں سمجھتے اور نشانات میں سے اس کے

اَنْتَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی

اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ هَا اِنَّ الَّذِي اَحْيَا هَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ ط

تو تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے یقیناً وہ جس نے زندہ کیا اسے البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو

اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۰﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِي

یقیناً وہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یقیناً وہ لوگ جو کجی اختیار کرتے ہیں

اَيْتِنًا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُلْقِي فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ

آیات میں ہماری نہیں مخفی ہو سکتے ہم پر کیا پس جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے یا

مَنْ يَّاتِيْ اِمْنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ لَ اِنَّهُ

وہ جو آئے گا بے خوف بروز قیامت عمل کرو جو چاہو تم یقیناً وہ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ

اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس نصیحت نامہ کا

لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۳۲﴾ لَا يٰۤاٰتِيْهِ الْبٰطِلُ

جب وہ آیا انکے پاس اور یقیناً وہ البتہ کتاب ہے عزت والی نہیں پھٹکتا پاس اس کے باطل

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ

آگے سے ان کے اور نہ پیچھے سے ان کے۔ اتارنا ہے طرف سے حکمت والے

حَمِيْدٌ ﴿۳۳﴾ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ

خوبیوں والے کی نہیں کہا جاتا تجھے مگر وہ جو کہا گیا تھا رسولوں کو

قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾

پہلے تجھ سے یقیناً رب تیرا مغفرت والا اور عذاب دردناک والا ہے

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

اور اگر بناتے ہم اسے قرآن عجمی تو وہ کہتے کیوں نہیں مفصل بیان کی گئی آیات اس کی

ءَ عَجْمِيٍّ وَعَرَبِيٍّ قَدْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ

کیا عجمی (کتاب) اور عربی شخص؟ تو کہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور

شِفَاءً ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانٌ هُوَ

شفاء ہے اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے کانوں میں ان کے بہرا پن اور وہ

عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۳۵

ان پر پوشیدہ ہے وہ لوگ پکارے جاتے ہیں جگہ دور سے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا

اور یقیناً یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو کتاب پس اختلاف کیا گیا اس میں اور اگر نہ

كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ

ایک بات پہلے سے ہو چکی ہوتی طرف سے تیرے رب کی تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے اور یقیناً وہ

لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝۳۶ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

البتہ شک میں ہیں اس سے ہلاک کرنیوالے میں جس نے عمل کئے اچھے تو اپنے نفس کے لیے

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۳۷

اور جس نے بدی کی تو اسی پر ہے اور نہیں رب تیرا ہرگز ظلم کرنیوالا بندوں پر



۲۵۱

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۶ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ

موت اس کی پھیرا جاتا ہے علم قیامت کا اور نہیں بھگتا کوئی

تَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ

میوہ اپنے غلافوں سے اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہ بنتی ہے

إِلَّا بِعِلْمِهِ ۷ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَا إِيْنِ شُرَكَاءِ يٰۤأَيُّهَا

مگر مطابق اسکے علم کے اور جس روز وہ پکارے گا انہیں کہ کہاں ہیں شریک میرے کہیں گے وہ

أَذْنُكَ ۸ مَا مِثْنَا مِنْ شَهِيدٍ ۹ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

اطلاق دیدی ہم نے تجھے کہ نہیں ہم میں سے کوئی شاہد اس بات کا اور جاتے رہیں گے ان سے جنہیں تھے

يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ۱۰ لَا يَسْمَعُ

وہ پکارتے پہلے اور وہ خیال کریں گے کہ نہیں انکے لیے کوئی جگہ بھاگنے کی نہیں تھکتا

إِلَّا نَسَانَ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ

انسان مانگنے سے بھلائی اور اگر پہنچے اسے بُرائی (دُکھ) تو بایوس نہایت

قَنُوطٌ ۱۱ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ

نا امید ہو جاتا ہے اور البتہ اگر چکھائیں ہم اسے رحمت اپنی طرف سے بعد تکلیف کے

مَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَطُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۱۲

جو پہنچی ہو اسے البتہ وہ ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے۔ اور نہیں میں یقین کرتا قیامت کو قائم ہونیوالی

وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۱۳ فَلَنُنَبِّئَنَّ

اور البتہ اگر لوٹا یا گیا میں طرف اپنے رب کی تو یقیناً میرے لیے حضور میں اسکے البتہ بھلائی ہے، پس ضرور ضرور آگاہ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۱۴ وَلَنذِيقُنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ

کریں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اس پر جو عمل کئے انہوں نے اور البتہ ضرور چکھائیں گے ہم انہیں عذاب

عَلِيظٍ ۱۵ وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَأَىٰ جَانِبَهُ ۱۶

سخت اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر منہ پھیر لیتا ہے اور دور کر لیتا ہے اپنے پیوستہ کو

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَدُوعًا ۱۷ عَرِيضٌ ۱۸ قُلْ أَدْعَيْتُمْ

اور جب پہنچی ہے اُسے تکلیف تو دعا بھی چوڑی والا ہوتا ہے تو کہہ دے تاؤ تو سوی

اور جب پہنچی ہے اُسے تکلیف تو دعا بھی چوڑی والا ہوتا ہے تو کہہ دے تاؤ تو سوی

إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ

اگر یہ ہوا پاس سے اللہ کے پھر انکار کیا تم نے اس کا کون زیادہ گمراہ ہے اس سے کہ

هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۱۵۲ سَنَرِيهِمْ أَيَتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَ

ہو مخالفت دور کی میں ضرور دکھائیں گے ہم انہیں نشان اپنے دنیا میں اور

فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمَ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ

جانوں میں ان کی یہاں تک کہ کھل جائے گا ان کے لیے کہ وہ سچی ہے کیا نہیں

يَكْفُرُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۵۳ أَلَا إِنَّهُمْ فِي

کافی رب تیرا کہ وہ ہر چیز کا شہید ہے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ

مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۱۵۴

تنگ میں ہیں ملاقات سے اپنے رب کی آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے

سُورَةُ الشُّورَىٰ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

حَمْدٌ ۙ عَسَىٰ ۚ كَذَلِكَ يُوحِيٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ

ح- میم میں- سین- قاف اسی طرح وحی کرتا ہے طرف تیری اور طرف ان لوگوں کی جو

قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۲ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

پہلے تھے تجھ سے اللہ (جو) عزت والا حکمت والا ہے اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو

الْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۳ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ

زمین میں ہے اور وہ بلند بڑا والا ہے قریب ہیں آسمان کہ پھٹ جائیں

فَوْقَهُنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ

اپنے اوپر سے اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور بخشش مانگتے ہیں

لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۶﴾

ان کے لیے جو زمین میں ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی ہے بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا اور

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۗ

وہ لوگ جنہوں نے بنائے سوائے اس کے دوست اللہ نگہبان ہے ان پر

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۷﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

اور نہیں تو ان پر داروغہ اور اسی طرح وحی کی ہم نے طرف تیری

قُرْآنًا عَرَبِيًّا تَنْذِرًا لِقَوْمِ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ

قرآن عربی میں تاکہ ڈرائے تو بستیوں کی ماں (مکہ) کو اور انہیں جو اردگرد ہوں اسکے اور ڈرائے تو

يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ

دن جمع ہونے سے نہیں کوئی شک اس میں ایک فریق ہوگا جنت میں اور ایک فریق ہوگا

فِي السَّعِيرِ ﴿۸﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ

دوزخ میں اور اگر چاہتا اللہ ضرور کر دیتا انہیں امت ایک و

لَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ

لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں اور ظالم وہ ہیں کہ نہیں ان کے لیے

مَنْ دَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۹﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ

کوئی دوست اور نہ مددگار کیا بنائے ہیں انہوں نے سوائے اس کے دوست

فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

پس اللہ ہی کارساز ہے اور وہ ہی زندہ کرے گا مردوں کو اور وہ ہر بات پر خوب

قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ

قدرت رکھنے والا ہے اور وہ بات کہ اختلاف کرو تم جس میں کچھ تو فیصلہ اس کا طرف اللہ کی ہے

ذُرِّكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۱۱﴾ فَأَطِرُ

یہ ہے اللہ رب میرا اس پر بھروسہ کیا میں نے اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں - پیدا کرنے والا ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۗ وَمِنْ

آسمانوں اور زمین کا اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑے اور

الَا تَعْلَمُ اَزْوَاجًا، يَذَرُوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّ

چارپالوں میں ہے جوڑے پھیلاتا ہے تم کو اس میں نہیں مانند اس کی کوئی چیز اور

هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱۲﴾ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اسی کے لیے کنجیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۳﴾

پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ اَوْحَيْنَا

اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین میں سے وہی کہ وصیت کی جس کی نوح کو اور وہی جو وحی کیا ہم نے

اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيسٰى اَنْ

طرف تیری اور وہی کہ وصیت کی ہم نے جس کی ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کو یہ کہ

اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ

تاقم کرو دین اور نہ تفرقہ ڈالو اس میں گراں گزرا ہے مشرکوں پر

مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَّ

یہ کہ تو بلاتا ہے انہیں طرف جس کی اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے اور

يَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنٰبِہٖ ﴿۱۴﴾ وَمَا تَفَرَّقُوْا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا

ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے اور نہیں تفرقہ کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ

جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ اَلَكَلِمَةُ سَبَقَتْ

آیا ان کے پاس علم سرکشی کی وجہ سے آپس میں اور اگر نہ ایک بات گذر چکی ہوتی

مِن رَّبِّكَ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى لِّقَضٰىيْ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ

طرف سے تیرے رب کی تا ميعاد مقررہ تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے اور یقیناً وہ لوگ جو

اُوْرثُوْا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۵﴾

دارث بنائے گئے کتاب کے بعد ان کے البتہ شک میں ہیں اس سے ہلاک کرنیوالے

فَلِذٰلِكَ فَاذَعُ ؕ وَاَسْتَقِمُّ كَمَا اَمْرَتُ ؕ وَلَا تَتَّبِعْ

تو اسی لیے پس پکار (ان کو) اور ٹھیک تاقم رہ جیسا کہ حکم دیا گیا ہے تجھے اور نہ پیروی کر

أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۚ وَ

ان کی خواہشات کی اور تو کہہ دے ایمان لایا میں اس پر جو اتاری اللہ نے کتاب اور

أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا

میں حکم دیا گیا ہوں کہ عدل کروں درمیان تمہارے اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا ہمارے لیے اعمال ہیں ہمارے

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَأُحْجَتْنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ

اور تمہارے لیے اعمال ہیں تمہارے نہیں جھگڑا درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے اللہ جمع کرے گا

بَيْنَنَا ۗ وَالِإِيَّهِ الْمَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ يَحْجُونَ فِي اللَّهِ

آپس میں ہمیں اور وطن اس کی لوٹنا ہے اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں بارہ میں اللہ کے

مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً ۗ عِنْدَ

بعد اس کے کہ قبول کیا گیا اُسے دلیل ان کی باطل ہے نزدیک

رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ اللَّهُ

ان کے رب کے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے عذاب ہے سخت اللہ

الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ

وہ ہے جس نے اتاری کتاب ساتھ حق کے اور میزان اور کون آگاہ کرے تجھے کہ

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۗ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

شاید قیامت قریب ہو جلدی کرتے ہیں اس کی وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے

بِهَا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا

اس پر اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ڈرنے والے ہیں اس سے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ

الْحَقُّ ۗ الْآرَاءَ الَّذِينَ يُمَادُّونَ فِي السَّاعَةِ لَئِنِ ضَلَّ

حق ہے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں بارہ میں قیامت کے البتہ گمراہی

بِعَيْدٍ ۗ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ

دور کی میں ہیں اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ

الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۗ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ

قوی (اور) عزت والا ہے جو شخص ہے چاہتا کھیتی آخرت کی ہم زیادتی کرے گی

الذکر

لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

اس کے لیے کھیتی میں اس کی اور جو شخص ہے چاہتا کھیتی دنیا کی ہم دیں گے اسے

مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۚ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ

اس میں سے اور نہیں اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ کیا ان کے لیے شریک ہیں

شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا

مقرر کیا ہے انہوں نے ان کیلئے دین میں سے وہ کہ نہیں اجازت دی جس کی اللہ نے اور اگر نہ

كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ

ہوتی بات فیصلہ کی ضرور فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے اور یقیناً ظالم ایسے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے

أَلِيمٌ ۚ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاوَقِعُ

دردناک تو دیکھیے گا ظالموں کو ڈرتے ہوئے اس سے جو کیا انہوں نے حالانکہ وہ پڑنے والا ہے

بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضٍ

ان پر اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کئے نیک باغوں میں

الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

بہشت کے ہونگے ان کیلئے وہ ہے جو چاہیں گے پاس اپنے رب کے یہ ہی فضل ہے

الْكَبِيرُ ۚ ۚ ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا

بڑا یہ وہ ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو ان کو جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ

اور عمل کئے نیک تو کہہ دے نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر سوائے محبت کے

فِي الْقُرْبَىٰ ۚ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا

رشتہ داری کی اور جو کماٹے گا نیک زیادہ دینگے ہم اسکے لیے اس میں نیک

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۚ ۚ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت قدر دان ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا ہے اللہ پر

كَذِبًا ۚ فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۚ وَيَمْحُ اللَّهُ

جھوٹ پس اگر چاہے اللہ مہر کر دے دل پر تیرے اور مٹا دے اللہ

الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

باطل کو اور ثابت کرے حق کو ساتھ اپنی باتوں کے یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے

الصُّدُورِ ۱۵ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو

سینوں والی بات کو اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور درگزر کرتا ہے

عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۱۶ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ

انہی بدیوں سے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور قبول کرتا ہے (دُعائیں) ان لوگوں کی

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۱۷ وَالْكَافِرُونَ

جو ایمان لائے اور عمل کئے نیک اور بڑھاتا ہے انہیں اپنے فضل سے اور کافر ایسے ہیں کہ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۱۸ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ

ان کے لیے عذاب ہے سخت اور اگر کشادہ کرتا ہے اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے

لَبَغَوْنَا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ

ضرورہ سرکش کرنے زمین میں لیکن وہ اتارتا ہے اندازہ سے جو چاہتا ہے یقیناً وہ ہے بندوں سے

خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۱۹ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا

خوب خبردار خوب دیکھنے والا اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش بعد اس کے کہ وہ

قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۲۰ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۲۱ وَمِنْ

با یوں ہو جاتے ہیں اور پھیلتا ہے اپنی رحمت اور وہ کارساز خوبیوں والا ہے اور

آيَتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ

نشانوں میں سے اسکے پیدا نش ہے آسمانوں اور زمین کی اور وہ جو اس نے پھیلانے ان دونوں میں جاندار

وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَسْأَلُ قَدِيرٌ ۲۲ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ

اور وہ جمع کرنے پر ان کے جب وہ چاہے بہت قدرت رکھنے والا ہے اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی

مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۲۳ وَ

مصیبت تو بسبب اسکے ہے جو کمایا ہاتھوں نے تمہارے اور وہ درگزر کرتا ہے بہت (گناہوں) سے اور

مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۲۴ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

نہیں تم ہرگز عاجز کرنیوالے زمین میں اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے

مَنْ ذَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۳۲ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ

کوئی دوست اور نہ مددگار اور نشانات میں سے اسکے ہیں کشتیاں سمندر میں

كَالْأَعْلَامِ ۳۳ إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ ذَوَاكَدَ

مانند پہاڑوں کی اگر چاہے ٹھہرا دے ہوا کو پھر وہ جا میں وہ کھڑی کی کھڑی

عَلَى ظَهْرِهِ ۳۴ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۳۵ أَوْ

سطح پر اس کی یقیناً اس میں نشانات ہیں ہر صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کیلئے یا

يُؤَيِّقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۳۶ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ

ہلاک کر دے انہیں سبب اسکے جو کیا یا انہوں نے اور درگزر کرے بہتوں سے اور جانتے ہیں وہ لوگ جو

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ۳۷ فَمَا أُوْتِيتُمْ

جھگڑتے ہیں آیت میں ہماری نہیں ان کے لیے کوئی بھانگنے کی جگہ پس جو دیکھے گئے ہونے

مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۳۸ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

کچھ تو سامان ہے زندگی دنیوی کا اور جو پاس ہے اللہ کے بہتر ہے اور

أَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۳۹ وَالَّذِينَ

زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کیلئے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو

يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ

بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے اور جب کبھی وہ غصہ میں آتے ہیں تو وہ

يَخْفَرُونَ ۴۰ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

بخش دیتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کی اپنے رب کی ربات اور قائم کی نماز

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۴۱

اور معاملہ ان کا مشورہ ہے آپس میں اور اس سے جو دیا ہم نے انہیں خرچ کرنے میں

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۴۲ وَجَزَاءُ

اور وہ لوگ کہ جب ہوتی ہے ان پر زیادتی وہ بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ

سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۴۳ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ

بدی کا بدی ہے مانند اس کی پس جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اجر اس کا ذمہ ہے

اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ

اللہ کے یقیناً وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو اور البتہ جس نے بدلہ لیا بعد

ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۳۲﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ

اپنے مظلوم ہونیکے توبہ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں ان پر کوئی الزام سوائے انکے نہیں کہ الزام

عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زیادتی کرتے ہیں زمین میں تا

الْحَقِّ ۚ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ

حق یوں ایسے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا

إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۳۴﴾ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا

تو یقیناً یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور جسے گمراہ ٹھہرائے اللہ تو نہیں

لَهُ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا دَاوُوا

اس کے لیے کوئی کارساز بعد اس کے اور تو دیکھے گا ظالموں کو جب دیکھیں گے

الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۳۵﴾ وَتَرَاهُمْ

عذاب کو کہیں گے کیا ہے طرف لوٹنے کی کوئی راہ اور تو دیکھے گا انہیں

يُعَرِّضُونَ عَلَيْهَا خَشَعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ

وہ پیش کئے جا رہے ہیں اس آگ پر عاجزی کرتے ہوئے ذلت سے دیکھتے ہوں گے

مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ

نظر چھپی سے اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے یقیناً خسارہ پانے والے

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَا

وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے گھروالوں کو بروز قیامت آگاہ ہوا

إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ

یقیناً ظالم عذاب قائم رہنے والے میں ہوں گے اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست

يَنْصُرُوهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ

جو مدد کریں ان کی سوائے اللہ کے اور جسے گمراہ ٹھہرائے اللہ تو نہیں اس کے لیے

۳۵

مِنْ سَبِيلٍ ۴۷۹ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ

کوئی راہ قبول کرو ربات) اپنے رب کی پہلے اس کے کہ آئے

يَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَّלَجٍ اَيُّوْمَيْذٍ وَمَا

وہ دن کہ نہیں پھرنا اس کے لیے طرف سے اللہ کی نہیں تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ اس دن اور نہیں

لَكُمْ مِنْ نَّجِيٍّ ۴۸۰ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

تمہارے لیے کوئی گنہگار نہیں پس اگر وہ منہ پھیریں تو نہیں بھیجا ہم نے تجھے ان پر

حَفِيْظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ

نگران نہیں تجھ پر مگر پہنچا دینا اور یقیناً ہم جب پکھاتے ہیں انسان کو

مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

اپنے ضرور سے رحمت خوش ہو جاتا ہے اس سے اور اگر پہنچے انہیں تکلیف بوجہ اس کے جو آگے بھیجا

اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرًا ۴۸۱ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ

ہاتھوں نے ان کے تو یقیناً انسان بہت ناشکر گزار ہوتا ہے اللہ کے لیے حکومت ہے آسمانوں کی اور

الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْبِ اِلَيْهَا مَنْ يَّشَاءُ اِنَّا نَاوِيْهُبُ

زمین کی وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے جسے چاہتا ہے روکیاں اور دیتا ہے

لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ ۴۸۲ اَوْ يَرْزُقْهُمْ ذُكُوْرًا وَاِنَّا نَاوِيْهُبُ

جسے چاہتا ہے روکے یا طاعلا کر دیتا ہے روکے اور روکیاں اور

يَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۴۸۳ وَمَا كَانَ

بناتا ہے جسے چاہتا ہے بانجھ یقیناً وہ خوب جاننے والا خوب قدرت والا ہے اور نہیں ہے

لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَّحِيًّا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ

کسی انسان کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ مگر بطور وحی کے یا پیچھے سے پردہ کے

اَوْ يُرْسِلْ رَسُوْلًا فَيُوْحِيْ بِاٰذِنِهٖ مَا يَشَاءُ اِنَّهٗ

یا بھیجتا ہے کوئی پیغامبر تو وحی کرتا ہے حکم سے اس کے جو چاہتا ہے یقیناً وہ

عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۴۸۴ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا

بلند اور حکمت والا ہے اور اسی طرح وحی کیا ہم نے طرف تیری کلام اپنے حکم سے

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ

نہ تھا تو جانتا کیسے کتاب اور نہ ایمان دیکھ بنا یا ہم نے اُسے

نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي

نور ہم ہدایت دیتے ساتھ اُسکے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اور یقیناً تو اللہ ہدایت دیتا ہے

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۳ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي

طرف راہ سیدھی کی راہ اللہ کی کہ اسی کا ہے جو

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝۵۴

آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے آگاہ ہو جاؤ طرف اللہ کی پھریں گے سب امور

سُورَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

حَمْدًا ۝۲ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝۳ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

حامدیم قسم ہے کتاب کھول کر بیان کرنے والی کی یقیناً بنا یا ہے ہم نے اسے قرآن عربی

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۴ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ

تا کہ تم سمجھو اور یقیناً وہ اصل کتاب میں پاس ہمارے اللہ بلند ہے

حَكِيمٌ ۝۵ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ

حکمت والا کیا پس ہم پھیریں گے تم سے نصیحت کا پہلو اس لیے کہ ہو تم

قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝۶ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝۷

لوگ حد سے بڑھنے والے اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبی پہلوں میں

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝۸

اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے وہ اس سے ہنسی کرتے

۴

صاف

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۙ

پس ہلاک کر دیا ہم نے سب سے زیادہ سخت کوان میں سے پر ٹپ میں اور گزر چکی ہے حالت پہلوں کی

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

اور البتہ اگر پوچھے تو ان سے کس نے پیدا کئے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے وہ

خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۙ

عزت والے بہت علم والے نے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو

مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۙ

نیچھونا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم ہدایت پاؤ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ

اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازہ سے پس زندہ کیا ہم نے ساتھ

بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۙ

اسکے شجر مردہ کو اسی طرح تم نکالے جاؤ گے وہ جس نے پیدا کئے جوڑے

كُلِّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۙ

ہر قسم کے اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور چار پالیوں میں سے جس پر تم سوار ہوتے ہو

لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا

تاکر ٹھیک بیٹھ جاؤ پیٹھوں پر ان کی پھر یاد کرو نعمت اسپنرب کی جب

اَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا

ٹھیک بیٹھ جاؤ تم اس پر اور کہو پاک ہے وہ جس نے قابو میں کر دیا ہمارے لیے اسے

وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۙ

اور نہ تھے ہم اس پر قابو پانے والے اور یقیناً ہم طرف اسپنرب کی البتہ لوٹنے والے ہیں

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ

اور انہوں نے مقرر کیا واسطے اس (اللہ) کے بندوں میں سے اسکے حصہ یقیناً انسان البتہ بہت ناشکرا

مُبِينٌ ۙ

کلمہ کھلا ہے کیا اس نے اختیار کیا اس سے جو پیدا کرتا ہے بیٹیاں اور پسند کئے تمہارے لیے بیٹے

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ

حالا کہ جب خبر دی جاتی ہے کسی کو ان میں سے اسکی جو وہ بیان کرتا ہے واسطے رحمن کے مثال ہو جاتا ہے

وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۱۸﴾ أَوْ مَنْ يَنْشَوٰ فِي الْحَلِيَّةِ وَ

مناس کا سیاہ اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے کیا وہ جو پالا جاتا ہے زبور میں اور

هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿۱۹﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ

وہ جھگڑے میں نہ کھو کر بیان کریں والا ہے اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو وہ جو کہ

هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا كُنَّا أَشْهَادًا وَأَخْلَقْنَاهُمْ سَتُكْتَبُ

بندے ہیں رحمن کے بیٹیاں کیا موجود تھے وہ پیدائش کے وقت انہی ضرور لکھی جائے گی

شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴿۲۰﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا

گوہی ان کی اور وہ پوچھے جائیں گے اور کہا انہوں نے اگر چاہتا رحمن نہ

عَبَدْنَاهُمْ مَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا

عبادت کرنے ہم ان کی نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں وہ مگر

يَخْرُصُونَ ﴿۲۱﴾ أَمْ آتَيْنَهُم كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ

اھل کرتے کیا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب پہلے اس کے پس وہ اسے

مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۲۲﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

مضبوط پکڑنے والے ہیں نہیں بلکہ کہا انہوں نے یقیناً ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک دین پر

وَرَاتِنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿۲۳﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ

اور یقیناً ہم نقش قدم پر ان کے راہ پانے والے ہیں اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے

قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَذِيْرٍ إِلَّا قَالِ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا

پہلے تجھ سے کسی گاؤں میں کوئی ڈرانے والا مگر کہا خوشحالوں نے اے کے یقیناً ہم نے پایا

أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَرَاتِنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۴﴾ قُلْ أَوْلُوْ

اپنے باپ دادا کو ایک دین پر اور یقیناً ہم نقش قدم پر ان کے راہ پانے والے ہیں اس نے کہا کیا اگر

جِئْتُمْ بِأَهْدٰی مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا

لاؤں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا اس سے کہ پایا تم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، انہوں نے کہا یقیناً ہم

بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرًا ۚ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْزَلْنَا كَيْفَ

اس کے کہ بھیجے گئے ہو تم ساتھ جسے مکر میں پس انتقام لیا ہم نے ان سے پس دیکھ کیونکر

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۚ ۲۷ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ

ہوا انجام جھٹلانے والوں کا اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور

قَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي

اپنی قوم کو یقیناً میں بیزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اگلے جس نے پیدا کیا مجھے

فَأَنَّهُ سَيُهْدِيَنِي ۚ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ

یقیناً وہ غمگین ہدایت دیکھا مجھے اور کیا اسے بات باقی رہنے والی پیچھے اس کے

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ ۲۸ ۚ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ

تا کہ وہ رجوع کریں بلکہ فائدہ دیا میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو یہاں تک کہ

جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۚ ۲۹ ۚ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا

آیا ان کے پاس حق اور رسول کھول کر بیان کر نہ والا اور جب آیا ان کے پاس حق کہا انہوں نے

هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۚ ۳۰ ۚ وَقَالُوا الْوَالُوْنَا نَزَّلَ هَذَا

یہ جادو ہے اور یقیناً ہم اس کے مکر میں اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارا کیا یہ

الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ۚ ۳۱ ۚ أَهْمُ يَقْسِمُونَ

قرآن ایک مرد پر دو قبیلوں میں سے بڑے پر کیا وہ تقسیم کرتے ہیں

رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشتَهُمْ فِي

رحمت تیرے رب کی ہم نے تقسیم کی ہے درمیان ان کے گذران ان کی

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

زندگی دنیویں اور بلند کیا ہم نے بعض کو ان کے اوپر بعض کے درجوں میں

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تا کہ بناوے بعض ان کا بعض کو محکوم اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے اس سے

يَجْمَعُونَ ۚ ۳۲ ۚ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً

جوہ کرتے ہیں اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہوجائیں گے لوگ جماعت ایک ہی

لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ

توفرورد دیتے ہم ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمن کا ان کے گھروں کی چھتیں

فِصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا

چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے

وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿۳۴﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكِ

اور تخت جن پر وہ تکبر لگاتے ہیں اور سونا اور نہیں سب کچھ یہ

لَمَّا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ

مگر سامان زندگی دُنیا کا اور آخرت پاس تیرے رب کے

لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۵﴾ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ

متقیوں کے لیے ہے اور جو غفلت کرے یاد سے رحمن کی مفر کر دیں گے ہم اس کی بیٹھ

شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۳۶﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ

شیطان ہیں وہ اس کا ساتھی ہے اور یقیناً وہ البتہ روکتے ہیں بہ انہیں (اللہ کی)

السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۷﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا

راہ سے اور گمان کرتے ہیں کہ وہ راہ پانے والے ہیں یہاں تک کہ جب آجڑا ہمارے پاس

قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ

کہے گا اے کاش درمیان میرے اور درمیان تمہارے دوری ہو مشرق و مغرب کی پس کیا ہی بُرا ہے

الْقَرِينُ ﴿۳۸﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي

ساتھی اور ہرگز نہیں نفع دیگا تمہیں آج جب ظلم کیا تم نے کہ تم

الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَاةَ تَهْدِي

عذاب میں شریک ہو کیا پس تو سنتا ہے بہروں کو یا تو راہ دکھاتا ہے

الْعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۰﴾ فَمَا نَذَرْنَا لَكَ

اندھوں کو اور انہیں جو ہیں گمراہی کھلی کھلی میں پس اگر ہم لے جاؤں تھے

فَأَنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿۴۱﴾ أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ

تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں یا ہم دکھائیں تھے وہ جس کا وعدہ کیا ہم نے ان سے

فَاتَّاعَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿۴۳﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ

تو یقیناً ہم ان پر قادر ہیں پس مضبوط پکڑو اسے جو وحی کی گئی

إِيَّاكَ، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۴۴﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ

طرف تیری یقیناً تو راہ سیدھی پر ہے اور یقیناً یہ البتہ نصیحت نامہ ہے تیرے

وَلِقَوْمِكَ، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿۴۵﴾ وَسَعَلٌ مِّنْ أَدْسَلْنَا مِنْ

یہ اور تیری قوم کیلئے اور ضرور پوچھے جاؤ گے تم اور دریافت کران سے جنہیں بھیجا ہم نے

قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً

پہلے تجھ سے اپنے رسولوں میں سے کیا بناٹے تھے ہم نے سوائے رحمن کے معبود

يُعْبَدُونَ ﴿۴۶﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

جن کی عبادت کی جاٹے اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنے نشانوں کے طرف فرعون کی

وَمَلَأْنَاهُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

اور اسکے سرداروں کی، پس کہا یقیناً میں رسول ہوں رب کا تمام دنیا کے پس جب وہ لایا انکے پاس

بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿۴۸﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ

نشان ہمارے اچانک وہ ان سے ہنسی کرنے لگے اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشان

إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا زُؤَاخَذُ نُهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ

مگر وہ بڑا ہوتا تھا ساتھ والے سے اپنے اور پکڑا ہم نے انہیں عذاب میں تاکہ وہ

يَرْجِعُونَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّحَرَاءُ لِنَارِكَ بِمَا عٰهَدَ

رجوع کریں اور انہوں نے کہا اے جادوگر دُعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے ایسے کہ ان نے عہد کیا

عِنْدَكَ، إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿۵۰﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ

تھا تجھ سے یقیناً ہم ضرور ہدایت پانوالے ہیں پس جب دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب

إِذْ هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿۵۱﴾ وَتَأْدَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ

اچانک وہ اٹٹے پھرنے لگے اور اعلان کیا فرعون نے اپنی قوم میں کہا اے قوم میری

أَلَيْسَ لِي مَلِكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي،

کیا نہیں میرے لیے ملک مصر اور یہ نہریں جلتی ہیں ماتحت میرے

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۵۲﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۗ

کیا پھر نہیں دیکھتے تم بلکہ میں بہتر ہوں اس سے کہ جو ذلیل ہے

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿۵۳﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ

اور نہیں طاقت رکھتا کہ کھوکھری بات بیان کرے۔ پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سنگ سونے کے

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿۵۴﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ

یا آئے ساتھ اسکے فرشتے مل کر پس پھسلا لیا اس نے اپنی قوم کو

فَاطَّاعُوهُ مِرًا نَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۵۵﴾ فَلَمَّا أَسَفُونَا

پس انہوں نے بیروی کی اسکی یقیناً وہ تھے لوگ فاسق پس جب انہوں نے غصہ دلا یا ہیں

انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۶﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ

انتقام لیا ہم نے ان سے پس غرق کر دیا ہم نے ان سب کو پھر کر دیا ہم نے انہیں

سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۷﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ

گئے گرزے اور کھادت واسطے پھلوں کے اور جب بیان کیا جاتا ہے بیٹا مریم کا

مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿۵۸﴾ وَقَالُوا يَا إِلَهَ ثَنَا

بطور مثال کے اچانک قوم تیری اس سے تائیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا معبود ہمارے

خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِجْدَالًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ

بہتر ہیں یا وہ نہیں بیان کرتے ہیں وہ اسے تیرے لیے مگر جھگڑے کے طور پر بلکہ وہ لوگ

خَصْمُونَ ﴿۵۹﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ

جھگڑالو ہیں نہیں وہ مگر ایک بندہ انعام کیا تھا ہم نے اس پر اور بنایا تھا ہم نے

مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۶۰﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ

اسے مثال واسطے بنی اسرائیل کے اور اگر ہم چاہیں تو بنائیں ہم تم میں سے

مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿۶۱﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا

فرشتے جو زمین میں راہیک دوسرے کے جانشین ہوتے اور یقیناً وہ البتہ علم ہے واسطے قیامت کے پس نہ تم

تَمَّتْ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿۶۲﴾ وَلَا

ہرگز شک کرو اس میں اور بیروی کرو میری یہ راہ سیدھی ہے اور نہ

يَصِدُّكُمْ الشَّيْطَانُ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۳۳﴾ وَلَمَّا جَاءَ

روکے تیس ، شیطان یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا اور جب لایا

عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ

عیسیٰ دلائل کہا اس نے یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس حکمت اور تاکہ کھول کر بیان کروں تمہارے

بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۳۴﴾

یہ بعض وہ کہ اختلاف کرتے ہو تم اس میں پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۵﴾

یقیناً اللہ ہی رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا پس عبادت کرو اسکی یہ راہ ہے سیدھی

فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں پس ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم

مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ﴿۳۶﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ

کیا عذاب سے دن دردناک کے نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا

أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۷﴾ أَلَا خَلَاءُ

کہ آئے ان کے پاس اچانک اور وہ نہ سمجھتے ہوں دوست

يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾ يَعْبَادُ

اس دن بعض ان کے لیے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے اے میرے بندو

لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ

نہیں کوئی خوف تم پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہو گے وہ لوگ جو

أَمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿۴۰﴾ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

ایمان لائے آیات پر ہماری اور تھے فرمانبردار داخل ہو جنت میں

أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿۴۱﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ

تم اور بیویاں تمہاری تم آراستہ کئے جاؤ گے پھیرے جائیں گے ان پر طباق

مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ

سونے کے اور آنجورے اور اس میں وہ ہے کہ چاہیں گے جسے نفس

وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۶۲﴾ وَتِلْكَ

اور لذت پائیں گی آنکھیں - اور تم اس میں رہ پڑنے والے ہو اور یہ

الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۳﴾ لَكُمْ

جنت وہ ہے کہ وارث کئے گئے ہو تم جیسے سب اس کے جو تھے تم کرتے تمہارے لیے

فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۶۴﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ

اس میں میوے ہیں بہت جنہیں تم کھاؤ گے یقیناً مجرم

فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۶۵﴾ لَا يَفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ

عذاب میں جنم کے رہ پڑنے والے ہیں نہیں وہ کم کیا جائے گا ان سے اور وہ

فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۶۶﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ

اس میں نا امید ہوں گے اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر و لیکن تھے وہ (خود ہی)

الظَّالِمِينَ ﴿۶۷﴾ وَنَادَاؤِ أَيْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ

ظالم اور وہ پکاریں گے اسے مالک چاہیے کہ موت دے ہمیں رب تیرا وہ کہے گا

إِنكُمْ مَا كُنْتُمْ ﴿۶۸﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ

یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو یقیناً یقیناً لائے تھے تمہارے پاس حق و لیکن اکثر تم میں سے

بِلِحَقِّ كَرِهُونَ ﴿۶۹﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَاْتَا مَبْرُومُونَ ﴿۷۰﴾

حق کو ناپسند کر نیوالے تھے کیا طے کیا انہوں نے معاملہ پس یقیناً ہم طے کر نیوالے ہیں

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرَّتْهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ط بَلَىٰ وَ

کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے بھید ان کا اور خفیہ سازش ان کی کیوں نہیں اور

رُسُلَنَا كَذِبَهُمْ يَكْتُوبُونَ ﴿۷۱﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ

بھیجے ہوئے پاس ان کے کھتے ہیں تو کہدے اگر ہوتی رحمن کی اولاد

فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿۷۲﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

تو میں پہلا عبادت کر نیوالا ہوتا پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۷۳﴾ فَذَرَهُمْ يَحْضُوا وَ

رب عرش کا اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں پس چھوڑ انہیں بیہودہ باتیں کریں اور

يَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۸۳﴾ وَهُوَ

کھیلے گی یہاں تک کہ میں اپنے دن سے جس کا وہ وعدہ دیتے جاتے ہیں اور وہی ہے

الَّذِي فِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَّ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ

جو آسمانوں میں معبود اور زمین میں معبود ہے اور وہ حکمت والا

الْعَلِيمُ ﴿۸۴﴾ وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ

خوب جانتے والا ہے اور برکت والا ہے وہ کہ جس کی حکومت ہے آسمانوں اور

الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَإِلَيْهِ

زمین کی اور ان کی جو درمیان ہے ان دونوں کے اور پاس اس کے علم ہے قیامت کا اور طرف اسکی

تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ

تم لوٹائے جاؤ گے اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں سوائے اس کے

الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾

سفارش کا مگر وہ جس نے گواہی دی حق کی اور وہ جانتے ہیں

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى

اور البتہ اگر پوچھے تو ان سے کس نے پیدا کیا انہیں ضرور کہیں گے اللہ نے پس کہاں

يُؤْفَكُونَ ﴿۸۷﴾ وَقِيلَ لَهُ رَبِّ ان هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يَوْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

وہ پھیرے جاتے ہیں اور توں کی اس کے کہ اے رب میرے یقیناً یہ لوگ نہیں مانتے

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾

پس درگزر کر ان سے اور کہہ سلامتی ہو پس عنقریب وہ جانیں گے



سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(پس پڑھا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

حَمْدٌ ۲ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۳ اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

حامیم قسم ہے کتاب کھوکھو کر بیان کرنیوالی کی یقیناً ہم نے اتارا اسے رات برکت والی میں

اِنَّا كُنَّا مُنذِرِيْنَ ۴ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ اَكْبَمٍ ۵ اَمْرًا مِّنْ

یقیناً ہم ہیں ڈرانے والے اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملہ حکمت والے کا معاملہ کا

عِنْدِنَا ۶ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۷ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۸ اِنَّهُ هُوَ

پاس سے ہمارے، یقیناً ہم ہیں بھیجنے والے بطور رحمت طرف سے تیرے رب کی یقیناً وہ ہی

السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۹ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۱۰

خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کا جو درمیان ہے ان دونوں

اِن كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۱۱ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِیْتُ ۱۲

کے اگر ہو تم یقین کرنے والے نہیں کوئی خدا سوا اس کے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے

رَبِّكُمْ وَرَبُّ اَبَائِكُمْ اِلَّا وَّلٰیئِن ۱۳ بَلْ هُمْ فِی شَكٍّ

رب تمہارا ہے اور رب تمہارے باپ دادا کا پہلوں کا بلکہ وہ شک میں

یَلْعَبُوْنَ ۱۴ فَاذْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمٰوٰتُ دُخَانًا

کھیلتے ہیں پس انتظار کر اس دن کا کہ لاشے گا آسمان دھواں

مُبِیْنٍ ۱۵ یَّغْشٰی النَّاسَ ۱۶ هٰذَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۱۷ رَبَّنَا

ظاہر ڈھانک بیگا لوگوں کو یہ عذاب ہے دردناک اسے رب ہمارے

اَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۱۸ اِنِّیْ لَهُمُ الذِّكْرٰی

دور کر ہم سے عذاب یقیناً ہم ایمان لائیے ہیں کیونکہ ہو سکتی ہے ان کیلئے نصیحت

وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۙ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا

حالانکہ یقیناً آیا تھا انکے پاس رسول کھوکھریاں کرنیوالا پھر منہ پھیر لیا اس سے اور کہا

مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۚ إِنَّا كَأَشْفَاءِ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ

کھکھایا ہوا مجنون ہے یقیناً ہم دور کرنیوالے ہیں عذاب تھوڑا سا یقیناً تم

عَائِدُونَ ۙ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۙ

لٹنے والے ہو جس دن ہم کپڑیں گے پھٹنا بڑا یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

اور یقیناً آزمایا تھا ہم نے پہلے ان سے قوم فرعون کو اور آیا تھا ان کے پاس رسول

كَرِيمٌ ۙ إِنَّ أَدْوَارِي عِبَادَ اللَّهِ إِنَّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۙ

معزز کہ سپرد کرو میرے بندے اللہ کے یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امین

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ إِنَّي أَرْسِلُهُمْ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۙ

اور یہ کہ نہ سرکشی کرو بمقابلہ اللہ کے یقیناً میں لایں والا ہوں تمہارے پاس دلیل کھلی کھلی اور

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۙ وَإِنْ لَمْ

بیشک میں نے بناہ پکڑی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم سنگسار کرو مجھے اور اگر نہیں

تُؤْمِنُوا بِي فَأَعْتَزَلُونَ ۙ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ آءِ قَوْمٍ

ایمان لاتے تم مجھ پر تو ایک طرف ہو جاؤ مجھ سے پس پکارا اس نے اپنے رب کو کہ یہ لوگ

مُجْرِمُونَ ۙ فَأَسْرِبُ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ۙ

مجرم ہیں پس لے چل بندوں کو میرے رات کو یقیناً تم پیچھا کئے جاؤ گے اور

أَتْرِكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۙ كَمْ تَرَكَوْا

چھوڑ دے سمندر کو خشک یقیناً وہ شکر غرق کئے جانے والے ہیں کتنے ہی چھوڑے انہوں

مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُُونٍ ۙ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۙ وَنَحْمَةٍ

نے باغات اور چشے اور کھیتیاں اور مقام عزت والے اور نعمتیں کہ

كَانُوا فِيهَا فَيَكْمِنُ ۙ كَذَلِكَ ۙ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۙ

تھے وہ جن میں عیش کرنے والے اسی طرح اور وارث کیا ہم نے ان کا قوم دوسری کو

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿۳۰﴾

پس نہ روئے ان پر آسمان اور زمین اور نہ تھے وہ ہلکت دیتے جانے والے

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۳۱﴾

اور یقیناً یقیناً نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب ذلیل کرنے والے سے

مَنْ فِرْعَوْنَ طَائِفَهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۲﴾ وَلَقَدْ

طرف سے فرعون کی یقیناً وہ تھا سرکش حد سے بڑھنے والوں میں سے اور یقیناً یقیناً

اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنْ

پسند کیا تھا ہم نے انہیں جان کر تمام دنیا پر اور دیکھے ہم نے انہیں

الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿۳۴﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿۳۵﴾

نشانات کر تھی جن میں آزمائش کھلی کھلی یقیناً یہ لوگ البتہ کہتے ہیں کہ

إِنْ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿۳۶﴾

نہیں یہ مگر موت ہماری پہلی ہی اور نہیں ہیں ہم ہرگز اٹھائے جانے والے

فَاتُوا يَا بَائِسًا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۷﴾ أَمْ خَيْرٌ لِّمَقُومٍ

پس لاؤ باپ دادا ہمارے اگر ہو تم سچے کیادہ بہتر ہیں یا قوم

تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا

اتباع اور وہ لوگ جو پہلے تھے ان سے ہلاک کر دیا ہم نے جنہیں یقیناً وہ تھے

مُجْرِمِينَ ﴿۳۸﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

مجرم اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے

لِعِبَادٍ ﴿۳۹﴾ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

بھلے بنائے کیلئے نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر ساتھ حق کے لیکن اکثر ان میں سے نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۱﴾ يَوْمَ

جانتے یقیناً دن فیصلہ کا مقررہ وقت ہے ان سب کا جس دن

لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۴۲﴾ إِلَّا

نہ کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی اور نہ وہ مدد دیتے جائیں گے مگر

مَنْ رَحِمَ اللَّهُ دَانَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۳۳ اِنَّ شَجَرَتَ

جس پر رحم کیا اللہ نے یقیناً وہ ہی غالب بہت رحم کرنے والا ہے یقیناً درخت

الرِّقْوَمُ ۳۴ طَعَامًا لَا تَيْمَمُ ۳۵ كَالْمُهْلِ ۳۶ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۳۷

تھوہر کا کھانا ہے گنہگار کا مانند پگھلے ہوئے تانبہ کے جوش مارے گا پیٹوں میں

كَغَلِي الْحَمِيمِ ۳۸ خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۳۹

ماند جوش مارنے گرم پانی کے پکڑو اسے پھر گھیسٹو اسے درمیان دوزخ کے

ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۴۱ ذُقْ ۴۲

پھر ڈالو اوپر سر کے اس کے عذاب گرم پانی کا چکھ

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۵۰ اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ

یقیناً تو ہی تھا عزت والا معزز یقیناً یہ وہ ہے کہ تھے تم جس میں

تَمْتَرُونَ ۵۱ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِينٍ ۵۲ فِي جَنَّتٍ وَ

ثبک کرتے یقیناً متقی مقام امن والے میں ہونگے باغوں میں اور

عُيُونٍ ۵۳ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۵۴

چشموں میں پنہیں گے باریک ریشم اور موٹا ریشم آمنے سامنے

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۵۵ يَدْعُونَ فِيهَا

اسی طرح اور بیاہ دینگے ہم انہیں گورے رنگ والیوں اچھی آنکھوں والیوں سے۔ منگائیں گے ان میں

بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اَمْنِيْنٍ ۵۶ لَا يَذُو قُوْنَ فِيهَا الْمَوْتِ اِلَّا

سب بیوٹے امن سے نہ چکھیں گے اس میں موت مگر

الْمَوْتَةَ الْاُولَىٰ ۵۷ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۵۸ فَضَلًا

موت پہلی اور وہ بچائے گا انہیں عذاب سے دوزخ کے بطور فضل کے

مِّنْ رَّبِّكَ ۵۹ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۶۰ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ

طرف سے تیرے رب کی، یہ ہی کامیابی ہے بڑی پس سواٹے اکنے نہیں کہ آسان کیا ہم نے

بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۶۱ فَاذْ تَقْبِ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ۶۲

اسے زبان میں تیری تاکہ وہ نصیحت پکڑیں پس منتظر رہ یقیناً وہ انتظار کر نیوالے ہیں

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

حَمْدٌ ۲ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۳ اِنَّ

ح-ہیم - انازا اس کتاب کا طرف سے اللہ عزت والے حکمت والے کے ہے یقیناً

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۴ وَفِيْ خَلْقِكُمْ

آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانات ہیں ماننے والوں کے لیے اور پیدا نشیں میں تمہاری

وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ اَيْتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۵ وَاخْتِلَافِ

اور ان میں جو پھیلائے ہیں جاندار نشانات ہیں ان لوگوں کیلئے جو یقین رکھتے ہیں اور آگے پیچھے آنے میں

الْيَلِّ وَالنَّهَارِ وَمَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاحْيَا

رات اور دن کے اور اس میں جو آتا ہے اللہ نے آسمان سے رزق پھر زندہ کیا

بِهَ الْاَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ اَيْتٌ لِّقَوْمٍ

اس سے زمین کو بعد موت کے اس کے اور چلانے میں ہواؤں کے نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے

يَعْقِلُوْنَ ۶ اِنَّ اٰيٰتِ اللَّهِ تَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاٰيِ

جو عقل کرتے ہیں یہ نشان ہیں اللہ کے ہم پڑھتے ہیں انہیں تجھ پر ساتھ حق کے پس کس

حَدِيْثٍ ۷ بَعْدَ اٰلِهٍ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۸ وَاٰيٰتُ لِكُلِّ اَقَاكٍ

بات پر بعد اللہ اور آیتوں کی اسکے وہ ایمان لائیں گے ہلاکت ہے ہر جھوٹ باندھنے والے

اَنْبِيَاۡ ۹ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللَّهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا

گنہگار کیلئے سنتا ہے آیات اللہ کی کہ پڑھی جاتی ہیں اس پر پھر اڑ جاتا ہے تکبر کرتا ہوا

كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۱۰ وَاِذَا عَلِمَ

گوا کہ نہیں سنی تھیں اس نے وہ پس خبر دے اُسے عذاب دردناک کی اور جب معلوم کرتا ہے

مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُرُوءًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

آیات میں سے ہماری کچھ بنا تا ہے انہیں ہنسی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے

مُهَيِّنٌ ۚ مِنْ ذُرَايِهِمْ جَهَنَّمَ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

ذیل کر نیوالا پیچھے ان کے جہنم ہے اور نہیں کا آئے گا انہیں جو کمایا انہوں نے

شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ

کچھ بھی اور نہ وہ جنہیں بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے دوست اور ان کے لیے عذاب ہے

عَظِيمٌ ۚ هَذَا هُدًى، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

بڑا یہ ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آیات کا اپنے رب کی ان کے لیے

عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ الْيَوْمِ ۗ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ

عذاب ہے سخت دردناک اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو

لِيَجْرِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ

تھا کہ چلیں کشتیاں اس میں ساتھ تم کے اسکے اور تاکہ چاہو تم فضل اس کا اور تاکہ تم

تَشْكُرُونَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

شکر کرو اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے

جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ قُلْ

سب کا سب ہی اپنی طرف سے یقیناً اس میں البتہ نشان ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو کہو

لِلَّذِينَ آمَنُوا يَخْفَرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ

ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے دنوں کی اللہ کے

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

تاکہ جزا دے وہ ہر قوم کو اس کی جو تھے وہ عمل کرتے جس نے عمل کئے اچھے

فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۗ

تو اپنے نفس کے لیے اور جس نے بدی کی تو اسی پر ہے پھر طرف اپنے رب کی تم لوٹاٹے جاؤ گے

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

اور یقیناً یقیناً دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْغَالِمِينَ ﴿١٤﴾

اور رزق دیا تھا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت دی تھی ہم نے انہیں تمام دنیا پر اور

أَتَيْنَهُمْ بَيْنَتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

دیئے تھے ہم نے انہیں دلائل اس امر یعنی دین کے، پس نہ اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ

مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ

آیا ان کے پاس علم سرکشی کی وجہ سے آپس میں یقیناً رب تیرا فیصلہ کرے گا درمیان انکے

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ

بروز قیامت اس میں کہ تھے وہ جس میں اختلاف کرتے پھر کیا ہم نے

عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

تھے کشادہ راہ پر اس امر (یعنی اسلام) کی پس پیروی کرو اس کی اور مت پیروی کیجیو خواہشات کی

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّهُمْ لَكُنْ يَخْتَلِفُونَ عَنكَ مِنْ اللَّهِ

ان لوگوں کی جو نہیں علم رکھتے یقیناً وہ ہرگز نہیں کام آئیں گے تھے مقابلہ میں اللہ کے

شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ

کچھ بھی اور یقیناً ظالم بعض ان کے دوست ہیں بعض کے اور اللہ

وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٧﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

درست ہے متقیوں کا یہ بصیرت پیدا کرنے والی باتیں ہیں لوگوں کیلئے اور ہدایت اور رحمت

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٨﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ

ان لوگوں کیلئے جو یقین رکھتے ہیں کیا خیال کیا ان لوگوں نے جو کرتے ہیں بُرائیاں

أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَسَوَاءٌ

کہ ہم کر دیں گے انہیں مانند ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے نیک برابر ہے

مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٩﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ

زندگی ان کی اور موت ان کی بُرا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اور پیدا کئے اللہ نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

آسمان اور زمین ساتھ حق کے اور تاکہ بدل میں دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو کیا انہوں نے

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ

اور وہ نہ ظلم کئے جائیں گے کیا پھر دیکھا تو نے اُسے جس نے بنایا اپنا معبود اپنی خواہش کو اور

أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

گرا ٹھہرایا اُسے اللہ نے دیکھ بھال کر اور مہر کر دی کان پر اس کے اور دل پر اس کے اور ڈال دیا

عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشُوَّةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۗ أَفَلَا

آنکھ پر اس کی پردہ پس کون ہدایت دیکھا اُسے۔ بعد اللہ کے کیا پھر نہیں

تَذَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ

نصیحت پکڑتے تم اور کہا انہوں نے نہیں یہ مگر زندگی ہماری دلی ہم مرتے ہیں

وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ

اور جیتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ اور نہیں ان کے لیے اس کا کوئی

عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۲۴﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

علم نہیں وہ مگر گمان کرتے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری

بَيِّنَاتٍ مَّا كَانُ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابَا بَابِنَا إِن

کھلی کھلی نہیں ہوتی دلیل ان کی مگر یہ کہہ سکتے ہیں لاؤ باپ دادوں کو ہمارے اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۵﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ

ہو تم سچے تو کہے اللہ زندہ کرتا ہے تم کو پھر مارے گا تمہیں پھر

يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

جمع کرتا ہے گا تم کو اس روز قیامت نہیں کوئی شک اس میں دیکھیں اکثر لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ

نہیں جانتے اور اللہ کیلئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جس دن قائم ہوگی

السَّاعَةِ يَوْمَ مِيدٍ يَخْسَرُ الْمُبِطِلُونَ ﴿۲۷﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ

قیامت اس روز ناکام رہ جائیں گے جھوٹے اور تو دیکھے گا ہر امت کو

جَائِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۗ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا

گنہوں کے بل گری ہوئی ہر امت پکاری جائے گی طرف اپنے نامہ اعمال کی، آج تم بدلہ دیتے جاؤ گے اس کا جو

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۹﴾ هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا

تھے تم عمل کرتے یہ کتاب ہماری بولتی ہے تم پر سچ یقیناً

كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

ہم تھے کتھے جو تھے تم عمل کرتے پس وہ لوگ جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ

اور انہوں نے عمل کیے نیک پس داخل کرے گا انہیں رب ان کا اپنی رحمت میں یہ

هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۳۱﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ

ہی کامیابی ہے کھل کھلی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا پھر نہ تھیں

آيَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾

آیات میری پڑھی جاتی تم پر پس تکبر کیا تم نے اور تھے تم لوگ مجرم

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا

اور جب کہا جاتا تھا کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے اور قیامت ایسی ہے کہ نہیں کوئی شک اس میں

قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا

کہتے تھے تم کہ نہیں ہم جانتے کہ کیا ہے قیامت نہیں گمان کرتے ہم مگر گمان تھوڑا سا اور نہیں

نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿۳۳﴾ وَبَدَّالْهُمَسَيَّاتُ مَا عَمِلُوا وَ

ہم ہرگز یقین کرنے والے اور ظاہر ہو جائیں گان کیلئے برائیاں اس کی جو کیا تھا انہوں نے اور

حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۴﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ

گھیرے گا انہیں (عذاب) کہ تھے وہ جس پر ہنسی کرتے اور کہا جائے گا کہ آج

نَسُكُكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ

ہم بھول جائیں گے تمہیں جیسا کہ بھول گئے تم ملنا اپنے دن اس کا اور ٹھکانا تمہارا

النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّصِيرِينَ ﴿۳۵﴾ ذَلِكَ بِأَنكُمْ آتَّخَذْتُمْ

آگ ہے اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار یہ اس لیے ہے کہ تم نے بنایا

آيَتِ اللَّهِ هُزُوًا وَعَرَّثْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا قَالِيَوْمَ

آیات کو اللہ کی ہنسی اور دھوکا دیا تم کو زندگی دہلی نے پس آج

لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۷﴾ قُلِّبَ الْحَمْدُ

نہیں وہ نکالے جائیں گے اس سے اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے پس اللہ ہی کی ہیں سب تعریفیں

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَهُ

جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا رب ہے تمام دنیا کا اور اسی کی

الْكِبْرِيَاءِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۹﴾

ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں ، اور وہ غالب حکمت والا ہے



سُورَةُ الْأَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو رحمن اور رحیم ہے)

حَمْدٌ ۲ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲

ح - یم - اُنارنا اس کتاب کا طرف سے اللہ غائب حکمت والے کی ہے

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ

نہیں پیدا کئے ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے مگر ساتھ حق کے اور

أَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ۳

ساتھ ميعاد مقررہ کے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے جس سے وہ ڈراتے جانتے ہیں منہ پھیرنے والے ہیں

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا

تو کہہ دو بتاؤ تو سہی جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے دکھاؤ مجھے کیا

خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ لَآ يَتَوْنِي

پیدا کیا انہوں نے زمین سے یا کیا انکے لیے شراکت ہے آسمانوں میں لاؤ میرے پاس

بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّن عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ

کوئی کتاب پہلے کی اس سے یا کچھ منقول علم سے اگر ہو تم

صَادِقِينَ ۴ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن

سچے اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو بلاتا ہے سوائے اللہ کے اسے جو

لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ

نہیں جواب دیتا اُسے تا روز قیامت اور وہ دعا سے ان کی

غَفْلُونَ ۵ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا

بے خبر ہیں اور جب اکٹھے کئے جائیں گے لوگ ہونگے وہ (معبودان باطلہ) انکے دشمن اور ہوں گے

يَعْبَادَتِهِمْ كَفْرًا ۙ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

عبادت سے ان کی منکر اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری کھلی کھلی

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۙ

کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا متعلق حق کے جب آیا انکے پاس کہ یہ جادو ہے کھلا کھلا

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے افتراء کر لیا ہے اُسے تو کہہ دے اگر افتراء کیا ہے میں نے اسے تو نہیں تم اختیار رکھتے

لِي مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۗ كَفَى

میرے لیے مقابل میں اللہ کے کچھ بھی وہ خوب جانتا ہے اس (کلام) کو کہ تم شروع ہوتے ہو جس میں کافی ہے

بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۙ

وہ گواہ درمیان میرے اور درمیان تمہارے اور وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءِ مِنَ الرَّسُولِ ۗ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي

تو کہہ دے نہیں ہوں میں نبیا رسول اور نہیں جانتا میں کیا کیا جائیگا ساتھ میرے

وَلَا بِكُمْ طَائِفَةٌ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ

اور نہ ساتھ تمہارے نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف میری اور نہیں میں مگر ڈرانے والا

مُبِينٌ ۙ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفَرْتُمْ

کھلا کھلا تو کہہ دے بتاؤ تو سہی اگر ہو یہ پاس سے اللہ کے اور انکار کیا تم نے

بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا

اس کا اور گواہی دی ایک شاہد نے بنی اسرائیل میں سے اپنے شہین کی پس وہ ایمان لایا

وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۙ وَقَالَ

اور تکبر کیا تم نے یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیتا لوگوں ظالموں کو اور کہا ان

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا

لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا متعلق ان لوگوں کے جو ایمان لائے کہ اگر ہوتا یہ بہتر تو نہ سبقت دہ بیجاتے ہم نے

إِلَيْهِ ۗ وَإِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا فُلْكَ

طرف اسکی اور جب کہ نہیں ہدایت پائی انہوں نے اس کی تو ضرور وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے

قَدِيمًا ۱۲ وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهَذَا

قدیمی اور پہلے اس کے کتاب ہے موسیٰ کی امام اور رحمت اور یہ

كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ

کتاب ہے تصدیق کرنے والی زبان عربی میں تاکہ ڈرائے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا

وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۱۳ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

اور بشارت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر

اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۱۴ أُولَٰئِكَ

جھے رہے نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ لوگ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۵

جنت والے ہیں رہ پڑنے والے ہیں اس میں بدلہ میں اس کے جو تھے وہ عمل کرتے

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ

اور حکم دیا ہم نے انسان کو متعلق ماں باپ کے اس کے نیکی کرنے کا حمل میں رکھا اسے ماں نے اسکی

كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ

تکلیف سے اور جنا سے تکلیف سے اور حمل اس کا اور دودھ چھڑانا اسکا تیس مہینے ہے

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَقِيَ رَبَّ

بہا تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور پہنچا چالیس سال کو کہا اے رب میرے

أَوْزِعَنِي ۗ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

توفیق دے مجھے کہ شکر کروں تیری نعمت کا وہ جو کی تو نے مجھ پر اور

وَالِدِي ۗ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي

ماں باپ پر میرے اور یہ کہ عمل کروں میں نیک پسند کرے تو جنہیں اور درست کر میرے لیے

ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۱۶

اولاد میری یقیناً میں نے رجوع کیا طرف تیری اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ۗ

یہ لوگ وہ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے اچھے جو عمل کیے انہوں نے اور

تَجَاوَزَعْنَ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدَقِ

درگذر کرتے ہیں بدیوں سے انکی (وہ ہونگے) جنت والوں میں سے وعدہ سچا ہے

الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۱۴ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ

جو تھے وہ وعدہ کئے جاتے اور جس نے کہا اپنے ماں باپ کے لیے

إِفْ لَكُمْ أَتَعِدُنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ

افسوس ہے تم دونوں کیلئے کیا تم ڈراتے ہو مجھے کہ میں نکالا جاؤں گا حالانکہ یقیناً گزر چکی ہیں قویں

مِنْ قَبْلِي ۚ وَهَمَا يَسْتَغِيثِينَ اللَّهُ وَيَلْتَكُ أَمِنْ ۚ وَإِنْ وَعَدَ

پلے میرے اور وہ دونوں زیاد کرتے ہیں اللہ سے افسوس ہے تجھ پر ایمان لے آ یقیناً وعدہ

اللَّهُ حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا سَأْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۱۵

اللہ کا سچا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدِ خَلَتْ

یہ لوگ وہ ہیں کہ نہایت ہو چکی ہے ان پر بات ان قوموں میں کہ یقیناً جو گزر چکی

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۱۶

پہلے ان سے جنوں اور انسانوں میں سے یقیناً وہ تھے نقصان اٹھانے والے

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا ۚ وَرَبُّوْهُمْ أَعْمَالُهُمْ

اور ہر ایک کیلئے درجے ہیں اس سے جو عمل کئے انہوں نے اور تاکہ پورے پورے دے وہ انہیں اعمال انکے اور

هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۲۰ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى

وہ نہیں ظلم کئے جائیں گے اور جس دن پیش کئے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

النَّارِ ۚ إِذْ هَبْتُمْ طَبَّتْكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ

آگ بد (انہیں کہا جائیگا) بے گئے تم اپنی اچھی چیزیں اپنی زندگی اور

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

ناٹھ اٹھا چکے ہو تم ان سے پس آج تم بدلہ دینے جاؤ گے عذاب ذلت کا

بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ بِمَا كُنْتُمْ

بسیب اس کے کہ تھے تم تکبر کرتے زمین میں ناحق اور اسی لیے کہ تھے تم

تَفْسُقُونَ ﴿۲۱﴾ وَاذْكُرْ اٰخَاعَادِمْ اِذْ اَنْذَرَقَوْمَهُ بِالْاٰحْقَافِ

نافرمانی کرتے اور یاد کرو بھائی کو عاد کے جبکہ اس نے ڈرایا اپنی قوم کو ٹیپوں میں

وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اَلَا

اور یقیناً گذر چکے تھے ڈرانے والے آگے اس کے اور پیچھے اس کے یہ کہ نہ

تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۗ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۲۲﴾

عبادت کرو سوائے اللہ کے یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے دن بڑے کے

قَالُوْا اٰجِئْتَنَا بِتَاوْفِیْکُنَا عَنِ الْاِهْتِنَاءِ فَاْتِنَا بِمَا تَعْدُوْا

انہوں نے کہا کیا آیا تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے تو ہمیں معبودوں سے ہمارے پس لانا تو ہمارے پاس جس کا تو وعدہ کرتا ہے

اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۲۳﴾ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاَنْتُمْ

ہم سے اگر تھے تو سچوں میں سے اس نے کہا سوائے اس کے نہیں کہ علم پاس ہے اللہ کے اور

اَبْلَغَكُمْ مَّا اُرْسَلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۴﴾

میں پہنچاتا ہوں تم کو وہ کہ بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے ویکین میں دیکھتا ہوں تم کو ایک قوم جہانت کرتے ہو

فَلَمَّا رَاوُهٗ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ ۗ قَالَ وَاٰهٰذَا

جب دیکھا انہوں نے اسے بادل سامنے آنے والا وادیوں کے ان کے کہا انہوں نے یہ

عَارِضٌ مُّطْرٌ نَّاهٍ ۗ بَلْ هٗوَ هٰٓؤُلَاءِ جَبَلٌ مُّجَدُّ ۗ اِنۡ هٗٓ اِلَّا سَآءٌ

بادل برسنے والا ہے ہم پر (نہیں) بلکہ یہ وہ ہے کہ جلدی کرتے تھے تم جس کی ہوا ہے اس میں

عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۵﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ ۗ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا

عذاب ہے دردناک ہلاک کرتی تھی ہر چیز کو حکم سے اپنے رب کے پس ہو گئے وہ کہ نہیں

يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۲۶﴾

دیکھے جاتے تھے مگر گھر ان کے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں لوگوں مجرموں کو

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِیْمَا اِنۡ كُوْا مِنْ اَمۡرٍ ۗ لَّیْسَ لَہُمْ فِیْہِۦ قُوَّةٌ ۗ لَّیْسَ لَہُمْ فِیْہِۦ اِسۡعٰۤیۡۗۤۤاۗ

اور یقیناً یقیناً قدرت دی تھی ہم نے ان کو اس میں کہ نہیں قدرت دی تھی ہم نے تم کو اس میں اور نباشے تھے ہم نے ان کے لیے کان اور

اَبۡصَارًا وَاَفۡئِدَۃً ۗ فَمَا اَغۡنٰی عَنْہُمۡ سَمۡعُہُمۡ وَلَا اَبۡصَارُہُمۡ

آنکھیں اور دل پس نہ کام آئے ان کے کان ان کے اور نہ آنکھیں ان کی

وَلَا آفِعِدْ تَهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ

اور نہ دل ان کے کچھ بھی جکھتھے وہ انکار کرتے آیات کا اللہ کی اور

حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا

گھیر لیا ان کو اس نے کھتھے جس پر وہ ہنسی کرتے اور یقیناً یقیناً ہلاک کیا ہم نے انہیں جو

حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ

اور گرد ہیں تمہارے بستیاں اور پھیر پھیر کر لائے تھے آیات تاکہ وہ رجوع کریں

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا

پس کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو بٹھرایا تھا انہوں نے سوائے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے

إِلَهَةً بَدَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ مَا كَانُوا

لیے معبود بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے اور یہ ہے جھوٹ ان کا اور جسے ہیں وہ

يَفْتَرُونَ ۚ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

افشاء کرتے اور جب پھیری ہم نے طرف تیری ایک جماعت جنوں کی جو سنتے تھے

الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا

قرآن پس جب وہ حاضر ہوئے اسکے پاس کہا انہوں نے چپ رہو پس جب ختم ہوا پھر گئے وہ

إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۚ قَالُوا يَا قَوْمِ مَنْ آتَانَا سَمِعْنَا كِتَابًا

طرف اپنی قوم کی ڈراتے ہوئے کہا انہوں نے اے قوم میری یقیناً ہم نے سنی ایک کتاب

أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَىٰ

جو اتاری گئی بعد موسیٰ کے تصدیق کرنے والی اسکی جو پہلے ہے اسکے اور ہدایت کرتی ہے طرف

الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ يُقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

حق کی اور طرف راہ سیدھی کی اے قوم ہماری قبول کرو بلانے والے کو اللہ کے

وَأْمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ

اور ایمان لاؤ اس پر وہ بخش دیکتا تمہارے لیے گناہ تمہارے اور پناہ دے گا تمہیں عذاب

الْأَلِيمِ ۚ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ

دردناک سے اور جو نہ قبول کرے گا بلانے والے کو اللہ کے تو نہیں وہ ہرگز عاجز کرنے والا زمین میں

وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۳۲﴾

اور نہیں اس کے لیے سوائے اُسے دوست یہ لوگ گمراہی کھلی میں ہیں

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ

کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین اور نہ

يَعْبُدُ شَيْءًا يَخْلُقُهُمْ بِقَدْرِ عَدَلٍ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتِي ۗ بَلٰى اِنَّهٗ

تھکا پیدا کرنے سے ان کے قادر ہے اس پر کہ زندہ کرے مُردوں کو کیوں نہیں یقیناً وہ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۳﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلٰى

ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جس دن پیش کئے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر

النَّارِ ۗ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۗ قَالَ

راہیں کہا جائیگا، کیا نہیں ہے۔ یہ حق وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں قسم ہے رب کی ہمارے، فرمائے گا

فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۴﴾ فَاصْبِرْ كَمَا

پس چکو عذاب اس لیے کہ تھے تم کفر کرتے پس تو صبر کر جیسا کہ

صَبْرًا ۗ وَاُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ۗ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۗ كَاَنَّهُمْ

صبر کیا پختہ ارادہ والے رسولوں نے اور نہ جلدی کر ان کے لیے گویا کہ وہ

يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُوْنَ اَلَمْ يَلْبَسُوْا اِلَّا سَاعَةً

جس دن وہ دیکھیں گے جس کا وہ وعدہ کیے جلتے ہیں کہ نہیں ٹھہرے وہ مگر ایک گھنٹی

مِّنْ نَّهَارٍ ۗ بَلٰغٌ ۗ فَهَلْ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۳۵﴾

دن کی پہنچا نا ہے پس نہیں ہلاک کئے جائیں گے سوائے لوگوں نافرمانوں کے



سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَدِينَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۲

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا راہ سے اللہ کی مناجح کر دیئے اس نے اعمال ان کے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَي

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کئے انہوں نے نیک اور وہ ایمان لائے اس پر جو آنا گیا

مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ

محمد پر اور وہ حق ہے طرف سے انکے رب کی۔ اس نے دُور کیں ان سے بُرائیاں اور

أَضَلَّ بِالْهَمِّ ۳ ذَلِكِ بَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ

اصلاح کی حالت کی ان کی یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے پیروی کی انہوں نے باطل کی

وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی طرف سے اپنے رب کی، اسی طرح بیان کرتا ہے

اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۴ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرِبِ

اللہ لوگوں کے لیے عاقلین ان کی پس جب مٹھ بھیڑ ہو تمہاری ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو مارنا ہے

الرِّقَابِ ۵ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقِ ۶

گردنیں یہاں تک کہ جب زور توڑ دو تم ان کا تو مضبوط کرو تید

فَإِذَا مَنَّآ بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۷

پھر خواہ احسان کرو بعد میں اور خواہ فدیرے لو یہاں تک کہ ڈال دے جنگ ہتھیار اپنے

ذَلِكَ ۸ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوآ

بات یہ ہے اور اگر چاہے اللہ البتہ بدلے ان سے دیکھیں تاکہ آزمائے

بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۵ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ

بعض کو تمہارے بذریعہ بعض کے اور وہ لوگ جو قتل کئے گئے راہ میں اللہ کی پس ہرگز نہیں

يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ ۶ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۷ وَ

وہ ضائع کرے گا اعمال ان کے ضرور وہ ہدایت دیگا انہیں اور سنوارے گا حال ان کا اور

يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

داخل کریگا انہیں جنت میں کہ اس نے تعریف کر دی جبکہ ان کیلئے اے لوگو جو ایمان لائے ہو

إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۹ وَ

اگر مدد کرو تم اللہ کی وہ مدد فرمائے گا تمہاری اور ثابت کرے گا قدم تمہارے اور

الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ الْوَأْسَلُ ۱۰ أَعْمَالَهُمْ ۱۱ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس ہلاکت ہے ان کیلئے اور ضائع کریگا اعمال ان کے یہ اس لیے کہ انہوں نے

كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۱۲ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

ناپسند کیا اُسے جو انہوں نے اللہ نے پس ضبط کر دیئے اعمال ان کے کیا پس نہیں چلتے پھرتے

فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۱۳

زمین میں کو وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے تھے ان سے

ذَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُولُ الْكُفْرِ مِنْ أَمْثَالِهَا ۱۴ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ

ہلاک کیا اللہ نے ان کو اور کافروں کے لیے حالتیں ہیں ویسی ہی یہ اس لیے ہے کہ اللہ

مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۱۵ إِنَّ

کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور یہ کہ کافر ایسے ہیں کہ نہیں کارساز ان کے لیے یقیناً

اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے نیک نجات ہیں کہ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ

بہتی ہیں نیچے ہیں کے نریں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اور

يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۱۶ وَكَأَيِّنْ

کھلتے ہیں جس طرح کھاتے ہیں چارپائے اور آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے اور کتنی ہی

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَكَدْ جَاءَ

پس نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا یہ کہ آئے ان کے پاس اچانک پس یقیناً آگئی ہیں

أَشْرَاطُهَا ۚ فَإِنِّي لَهُمُ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۚ فَأَعْلَمُ

نشانیوں اس کی پس کیونکہ ہو گی ان کے لیے جب آجائے گی وہ (قیامت) انکے پاس نصیحت اچھی پس جانے

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ۚ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ

کہنیں کوئی محبوب سوائے اللہ کے اور بخشش مانگ اپنے گناہ کے لیے اور مومن مردوں اور

الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ ۚ وَمَثْوَكُمْ ۚ ۚ وَيَقُولُ

مومن عورتوں کے لیے اور اللہ جانتا ہے لوٹنے کی جگہ تمہاری اور ٹھکانا تمہارا اور کہتے ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ نَزَّلْ لَكَ سُورَةٌ ۚ فَأِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً

وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں اُناری گئی کوئی سُورہ پس جب اُناری جائے گی کوئی سُورہ

مُحْكَمَةٌ ۚ وَذَكَرْ فِيهَا الْقِتَالَ ۚ لَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

محکم اور ذکر کیا جائے گا اس میں روانی کا تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ دلوں میں جن کے

مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ النُّجُوتِ ۚ

بیماری ہے دیکھتے ہیں وہ طرف تیری دیکھنا بے ہوشی کا موت سے

فَأُولَىٰ لَهُمْ ۚ طَاعَةٌ ۚ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَأِذَا عَزَمَ

پس لائقِ تمنا ان کیلئے فرمانبرداری اور بات مناسب پس جب پختہ ہو جائے

الْأَمْرُ فَتَلَوْنَهُ قَوْلًا لِلَّهِ لَكَ خَيْرٌ اللَّهُمَّ ۚ ۚ فَهَلْ

بات تو اگر سچ بولیں اللہ سے تو ہو بہتر ان کے لیے پس کیا

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا

قریب ہو تم کہ اگر حاکم بنو تم کہ فساد کرو زمین میں اور توڑو

أَرْحَامَكُمْ ۚ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۚ فَأَصَمَّهُمْ وَ

رشتوں کو یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ان پر اللہ نے پس بہرہ کر دیا ان کو اور

أَعَمَّىٰ أَبْصَارَهُمْ ۚ ۚ فَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ

اندھا کر دیا آنکھوں کو ان کی کیا پس نہیں تدبر کرتے وہ قرآن میں یا کیا دلوں پر

أَقْبَلُهَا ۲۵ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ

تقل ہیں انکے یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں پر بعد

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ وَالشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۗ وَآمَلُوا

انکے کہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے ہدایت شیطان نے دھوکہ دیا ہے انہیں اور ڈھیل دلائی

لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۖ لَئِن لَّا نَزَّلَ اللَّهُ

ان کیلئے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا اُسے جو اُتارا اللہ نے

سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۲۶

مرد ہم اطاعت کریں گے تمہاری بعض باتوں میں اور اللہ جانتا ہے سرگوشی کو ان کی

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ۚ وَ

پس کیا حال ہوگا جب وفات دیں گے انہیں فرشتے ماریں گے چروں پر ان کے اور

أَدْبَارَهُمْ ۲۷ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُم اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ ۚ

پیٹھوں پر ان کی یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس نے ناراض کر دیا اللہ کو اور

كَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۲۸ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ

انہوں نے ناپسند کی رضامندی اس کی پس اس نے ضائع کر دیئے اعمال انکے کیا گمان کیا ان لوگوں نے کہ

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۚ أَلَمْ يَخْرُجِ اللَّهُ أَضْغَاثَهُمْ ۲۹ ۚ وَلَوْ

دلوں میں جن کے بیماری ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ کینوں کو ان کے اور اگر

نَشَاءُ لَا آدِينَكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَيِّمِهِمْ ۗ وَلِتَعْرِفَنَّهُمْ

ہم چاہیں تو دکھائیں ہم تجھے وہ لوگ پس ضرور پہچان لے تو انہیں علامت سے ان کی اور ضرور ضرور تو پہچان لے گا

فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۳۰ ۚ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

انہیں طرز میں بات کی اور اللہ جانتا ہے کام تمہارے اور ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو

حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۚ لَا وَنَبْلُوَنَّكُمْ

یہاں تک کہ ظاہر کر دیں ہم جہاد کرنے والوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو اور ہم آزمائیں گے

أَخْبَارَكُمْ ۳۱ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

حالات تمہارے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا راہ سے اللہ کی

۲۵

وَسَأَلُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۚ لَنْ

اور مخالفت کی اس رسول کی . بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے ہدایت ہرگز نہیں

يَضُرُّوهُ ۗ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا عَمِلُوا ۗ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ضرر پہنچائیں گے اللہ کو کچھ بھی اور ضرور وہ ضائع کر دے گا اعمال ان کے اسے لگا جو

أَمَنُوا ۗ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۗ ﴿۳۴﴾

ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس رسول کی اور نہ برباد کرو اعمال اپنے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَادُّ

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا راہ سے اللہ کی پھر مر گئے ایسے

هُمْ كُفْرًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ ﴿۳۵﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَىٰ

حال میں کہ وہ کافر ہوں پس ہرگز نہ بخشے گا اللہ ان کے لیے پس نہ کمزور ہو اور نہ (بلاؤ طرف

السَّلْمِ ۗ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ

صلح کی اور تم غالب ہو اور اللہ ساتھ ہے تمہارے اور ہرگز نہیں کم دیکھا تم کو

أَعْمَالَكُمْ ۗ ﴿۳۶﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تَوَمَّنُوا

کام (کا ثواب) تمہارے سوائے اسکے نہیں کہ زندگی دنیوی کھیل اور غفلت ہے اور اگر تم ایمان لاؤ

وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۗ ﴿۳۷﴾ إِنَّ

اور تقویٰ کرو دے گا تم کو اجر تمہارے اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے اگر

يَسْأَلْكُمْ مِمَّا فِيْكُمْ فَتَبَخَّلُوا وَبَخَّلُوا ۗ وَيُخْرِجْ أَمْوَالَكُمْ ۗ ﴿۳۸﴾

مانگے تم سے وہ پھر پیچھے بڑے تمہارے تو بخل کرو گے تم اور نکالے گا کہنے تمہارے

هَٰ أَنْتُمْ هُوَ ۗ لَئِنْ تَدْعُونَ لِنُفُوقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَمِنْكُمْ

اگاہ ہو جاؤ تم ایسے لوگ ہو کہ بلائے جاتے ہو کہ خرچ کرو راہ میں اللہ کی پس بعض تم میں سے لیے

مَنْ يَبْخُلْ ۗ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ

پس جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کریگا تو سوائے اسکے نہیں کہ وہ بخل کرتا ہے اپنے نفس سے اور اللہ

الْغَنِيِّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۗ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا

غنی ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ تو بدل میں لائے گا ایک قوم

غَيْرِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝۲۹

سوئے تمہارے پھر نہ ہوں گے وہ مانند تمہاری

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝۲ لِيُخَفِّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ

یقیناً ہم نے تجھ کے لیے فتح کھلی کھلی تاکہ بخش دے تیرے لیے اللہ جو پہلے ہو چکا

مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ

قصور تیرا اور جو پیچھے ہوا اور پوری کرے گی اپنی نعمت تجھ پر اور ہدایت دے تجھ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝۳ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ۝۴ هُوَ

راہ سیدھی کی اور مدد کرے گا تیری اللہ مدد غائب وہ ہے

الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا

جس نے اتاری سکینت دلوں میں مومنوں کے تاکہ وہ بڑھ جائیں

إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۝۵ وَبَلَّغَ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے اور اللہ ہی کے شکر ہیں آسمانوں اور زمین کے اور

كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا ۝۶ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

ہے اللہ بہت جاننے والا بہت حکمت والا تاکہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ

باغات میں بہتی ہیں نیچے جن کے نہریں رہ پڑنے والے ہیں ان میں اور دور کرے گی

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۝۷ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلًا عَظِيمًا ۝۸

ان سے بدیاں ان کی اور ہے یہ نزدیک اللہ کے کامیابی بڑی

وَيَعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں

الظَّالِمِينَ يَا اللَّهُ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، وَ

گمان کرنے والوں کو متعلق اللہ کے گمان بُرا ان پر گردش ہے بُری اور

غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ

ناراض ہوا اللہ ان پر اور لعنت کی ان پر اور تیار کی ان کے لیے جہنم اور

سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۱۶﴾ رَبُّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ

بُری ہے وہ (جہنم) ٹھکانے کے لحاظ سے، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین کے اور ہے

اللَّهُ غَالِبٌ عَزِيزٌ أَحْكِيمًا ﴿۱۷﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَ

اللہ غالب حکمت والا یقیناً ہم نے بھیجا تجھے گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور

نَذِيرًا ﴿۱۸﴾ لَتَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّزُوهُ وَتُوقِّرُوهُ،

ڈرانے والا تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور رسول پر اس کے اور مدد کرو اس کی اور تعظیم کرو اس کی

وَتَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۱۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ

اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام یقیناً وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں تیری سوا سے

إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ

انکے نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے ہاتھ اللہ کا اوپر ان کے ہاتھوں کے ہے پس جس نے

تَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ

عقد توڑا تو سوائے اسکے نہیں کہ عقد توڑتا ہے وہ اپنی جان کے خلاف اور جس نے پورا کیا اسے کہ عقد کیا تھا اس نے

عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۲۰﴾ سَيَقُولُ لَكَ

جس بات پر اللہ سے پس ضرور دیکھا وہ اسے اجر بڑا ضرور کہیں گے تجھے

الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا

پیچھے چھوڑے گئے لوگ گاؤں کے رہنے والوں میں سے کہ مشغول کر دیا ہمیں مالوں نے ہمارے اور گھروالوں نے ہمارے

فَاَسْتَغْفِرْ لَنَا، يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ،

پس بخشش مانگ ہمارے لیے، وہ کہیں گے اپنی زبانوں سے جو نہیں دلوں میں ان کے

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا

تو کہے ہیں کون قدرت رکھتا ہے تمہارے لیے مقابل میں اللہ کے کچھ بھی اگر چاہے وہ تمہیں دکھ دینا

أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۱۱۱ بَلْ

یا چاہے تمہیں نفع پہنچانا بلکہ ہے اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا بلکہ

ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى

گمان کیا تھا تم نے کہ ہرگز نہیں لوٹے گا رسول اور مومن طرف

أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ

اپنے گھروں کی کبھی بھی اور خوبصورت کی گئی یہ بات دلوں میں تمہارے اور گمان کیا تم نے گمان

السَّوَاءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۱۱۲ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ

بُرا اور ہو تم لوگ ہلاک ہو نوالے اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر

وَرَسُولِهِ فَإِنَّا نَاتُغْتَدُ بِأُكُوفِهِمْ سَعِيرًا ۱۱۳ وَبِاللَّهِ مُلْكُ

اور رسول پر اس کے پس یقیناً تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے دوزخ اور اللہ ہی کی حکومت

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْفَى لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ

ہے آسمانوں اور زمین کی وہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۱۴ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا

اور ہے اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم نوالا ضرور کہیں گے پیچھے چھوڑے ہوئے جب

أَنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوا هَذَا زُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

جاؤ گے تم طرف غنیمتوں کی کہو تم انہیں چھوڑ دو ہمیں پیچھے آئیں ہم تمہارے

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا

وہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں باتیں اللہ کی تو کہدے ہرگز نہیں پیچھے آسکتے تم ہمارے

كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُ وَنَنَا

اسی طرح فرمایا تھا اللہ نے پہلے سے پس ضرور کہیں گے نہیں بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے

بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۱۵ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ

بلکہ ہیں وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا تو کہدے پیچھے چھوڑے ہوؤں کو

الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمِ بَاسٍ شَدِيدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ

گھاؤں والوں سے ضرورتاً بلائے جاؤ گے طرف ایک قوم جنگ سخت والی کی تم لڑو گے ان سے

أَوْ يُسَلِّمُونَ، فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

یا وہ فرمانبردار ہو جائیں گے۔ پس اگر تم اطاعت کرو گے دیکھا تم کو اللہ اجر اچھا

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا

اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ پھر گئے تم پہلے تو عذاب دیکھا تم کو عذاب

الْإِيمَاءِ ۱۸ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْبٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْبٌ

دردناک نہیں ہے اندھے پر کون مضافتہ اور نہ لنگڑے پر کون مضافتہ

وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْبٌ ۚ وَمَنْ يُّطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور نہ بیمار پر کون مضافتہ اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی اس کے

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَمَنْ يَتَوَلَّ

تو داخل کرے گا اُسے باغات میں کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں اور جو پھر جائے گا

يُعَذِّبُهُ عَذَابًا آلِيمًا ۱۹ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

عذاب دیکھا اُسے عذاب دردناک یقیناً یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے

إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

جب وہ بیعت کرتے تھے تیری نیچے درخت کے پس جان لیا اُس نے جو دلوں میں تھا ان کے

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۱۹

پس اتاری اس نے سکینت ان پر اور بدل میں دی انہیں فتح نزدیک

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

اور غنیمتیں بہت وہ ہیں گے انہیں اور ہے اللہ غالب

حَكِيمًا ۲۰ وَعَدَّ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا

حکمت والا ہے اور وعدہ کیا تھا تم سے اللہ نے غنیمتوں بہت کا تم لوگ جنہیں

فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، وَلِتَكُونَ

پس اس نے جلدی دی تمہارے لیے یہ فتح اور روک دیسے ہاتھ لوگوں کے تم سے اور تاکہ ہو یہ

آيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝۳۱

نشان مومنوں کے لیے اور وہ ہدایت دے نہیں راہ سیدھی کی

وَآخِرَى لَمْ يُقَدِّرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ

اور دوسری (فتح) وہ ہے کہ نہیں قادر ہوئے تم اس پر یقیناً گھیر لیا ہے اللہ نے اسے اور ہے

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۲ وَلَوْ كَفَرُوا

اللہ ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا اور اگر کفر میں گم سے وہ لوگ جو کافر ہوئے

لَوْ لَوْ الْآدْبَارُ تَمَّ لَا يَجِدُونَ وِلْيَاءً وَلَا نَصِيرًا ۝۳۳ سُنَّةٌ

مردور پھیر دیں گے پیچھیں پھر نہ پائیں گے دوست اور نہ مددگار سنت

اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلُ ۝ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ

اللہ کی جو گذری ہے پہلے اور ہرگز نہیں پائے گا تو سنت کیلئے اللہ کی

تَبْدِيلًا ۝۳۴ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ

تبدیل اور وہی ہے جس نے روکا ہاتھوں کو ان کے تم سے اور ہاتھوں کو تمہارے ان سے

بِبَطْنِ مَكَّةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ ۝ وَكَانَ اللَّهُ

وادی مکہ میں بعد اس کے کہ اس نے کامیاب کر دیا تم کو ان پر اور ہے اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝۳۵ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصَدُّكُمْ

اس پر جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تم کو

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُمْ فَاِنْ يَبْلُغْ

مسجد اطرام سے اور ایسے حال میں کہ قربانی روکی گئی تھی کہ پہنچے اپنی

مَحَلَّهُ ۝ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ

حلال ہونے کی جگہ کو اور اگر نہ ہوتے کچھ آدمی ایماندار اور عورتیں ایماندار

لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اِنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبِكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ

نہیں جانتے تم انہیں کہ کچھ ڈالو تم انہیں پھر پہنچے تم کو ان سے ایذا

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۝ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۝ لَوْ

بغیر علم کے تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے اور اگر

تَزِيلُوا الْعَذَابَ بِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۳۷﴾

وہ عیسوہ ہو جاتے تو عذاب دیتے ہم انکو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

جبرک ٹھان یا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں عذر عذر

الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

جاہلیت کا پس اتاری اللہ نے اپنی سکنت اپنے رسول پر اور

الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ

مومنوں پر اور جمادی انہیں بات تقویٰ کی اور تھے وہ زیادہ حقدار

بِمَا وَآهْلَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۸﴾ لَقَدْ

اگے اور اہل اس کے اور ہے اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا لَقِينَا يَقِينًا

صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ

سچ کر دکھائی اللہ نے اپنے رسول کو خواب برحق ضرور ضرور داخل ہو گئے تم مسجد

الْحَرَامِ فِي الْوَجْهِ الْأَمِينِ لَمْ يَلْمِزُوا لَكُمْ لَكُمْ دُورٌ وَسَكْمٌ

الحرام میں اگر چاہا اللہ نے بے خوف مندواتے ہوئے اپنے سروں کو اور

مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ

کتراتے ہوئے نہ ڈرتے ہو گئے تم پس جان یا اس نے جو نہ جان سکے تم پھر بنا دی اس نے

دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿۳۹﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

ساتھ اس کے فتح نزدیک وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول

بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَوَعَدَ

ساتھ ہدایت اور دین حق کے تاکہ غالب کرے اس کو دینوں سب پر اور

كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۴۰﴾ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ

کافی ہے اللہ گواہ محمد رسول ہیں اللہ کے اور وہ لوگ جو

مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا

ساتھ میں اس کے سخت ہیں مقابل کافروں کے رحمدل ہیں آپس میں تو دیکھتا ہے انکو رکوع کرنیوالے

سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ

سجدہ کرنا چاہتے ہیں فضل اللہ کا اور رضامندی نشانی ان کی

فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي

چہروں میں ان کے نشان ہے سجدوں کا یہ ہے کیفیت ان کی

التَّوَارِثَةِ وَتَمَثَّلُهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ تَذَكَّرُذِمَّ أَخْرَجَ شَطَطَهُ

تورات میں اور کیفیت ان کی انجیل میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جیسے کھیتی ہو (جو) نکالے اپنی سوتی

فَأَزَدَهُ فَاسْتَخْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ

پھر مضبوط کرے اسکو پھر وہ سوتی ہو جائے پھر کھڑی ہو جائے اپنی جڑ پر خوش کرتی ہے

الزَّرَّاعَ لِيُبْعِثَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

کسان کو تاکہ غصہ دلائے جو ان (مسلمانوں) کے کافروں کو وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝۴

اور انہوں نے کام کئے نیک ان میں سے بخشش کا اور ثواب بڑے کا

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ مَدِينَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اے لوگو جو ایمان لائے ہمت بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول کے

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اے لوگو جو

آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا

ایمان لائے ہونہ بند کرو اپنی آوازیں اوپر آواز نبی کے اور نہ

تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ

نکالو بلند آواز اس کیلئے گفتگو میں مانند بلند کرنے بعض تمہارے کے بعض کے لیے (ایسا نہ ہو کہ کھوٹے جائیں

أَعْمَالِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۲ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ

اعمال تمہارے اور تم نہ سمجھتے ہو یقیناً وہ لوگ جو سہمی کر رہے ہیں آوازیں اپنی

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

نزدیک رسول اللہ کے یہ وہ لوگ ہیں کہ خالص کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو

لِلتَّقْوَى ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۳ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ

تقویٰ کیلئے ان کے لیے بخشش اور ثواب ہے بڑا یقیناً وہ لوگ جو بولتے ہیں تجھ کو

مِنْ دُورٍ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُ مِمَّا يَعْقِلُونَ ۴ وَلَوْ أَنَّهُمْ

باہر سے گھروں کے اکثر ان میں سے نہیں عقل رکھتے اور اگر وہ

صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

صبر کرتے یہاں تک کہ تو نکلے ان کی طرف تو ضرور ہوتا یہ بہتر ان کے لیے اور اللہ بہت بخشنے والا

رَحِيمٌ ۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ

بہتر تم کو نبوالا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر آئے تمہارے بس کوئی فاسق کوئی منبرے کر

فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَٰجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلٰی

تو تحقیق کرو (ایسا نہ ہو کہ ایذا پہنچاؤ تم کسی قوم کو نادانی سے پھر ہو جاؤ تم اس پر

مَا فَعَلْتُمْ نُدِمِينَ ۷ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۗ

جو کیا تم نے پشیمان اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ

اگر وہ کما مانا کرے تمہارا بہت سی باتوں میں تو ضرور تکلیف میں پڑ جاؤ تم اور لیکن اللہ نے محبت دی

إِلَيْكُمْ ۗ لَا يُمَانٌ وَرِزْنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ كَرَّةً إِلَيْكُمْ

تم کو ایمان میں اور زینت دی اسکو تمہارے دلوں میں اور نفرت دلائی تم کو

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۸

کفر اور فسق اور نافرمانی سے یہ لوگ ہی بھلائی والے ہیں

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹﴾ وَإِنْ

بلور فضل کے طرف سے اللہ کی اور بطور نعمت کے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر

طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ

دو جماعتیں مومنوں میں سے لڑ پڑیں آپس میں تو صلح کرا دو درمیان ان دونوں کے

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي

پھر اگر زیادتی کرے ایک ان میں سے دوسری پر تو لڑو اس سے جو

تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا

زیادتی کرتی ہے یہاں تک کہ وہ رجوع کرے طرف حکم کی اللہ کے پھر اگر وہ رجوع کرے تو صلح کرا دو

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۱۰﴾

درمیان ان کے عدل سے اور انصاف کرو یقیناً اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا

سوائے اسکے نہیں کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں پس اصلاح کرا دو درمیان اپنے دو بھائیوں کے اور ڈرو

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر

اللہ سے تاکہ تم رحم کئے جاؤ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تمہیں کسی قوم سے

قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ

کوئی قوم کسی قوم کی شاید کہ ہو جائیں بہتر ان سے اور نہ عورتیں

مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا

عورتوں کی شاید کہ وہ ہو جائیں بہتر ان سے اور نہ عیب لگاؤ

أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بئس الاسم

آپس میں اور نہ ایک دوسرے کو پکارو بڑے لقبوں سے کیا ہی بُرا ہے نام

الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

گناہنا بعد ایمان کے اور جس نے نہ توبہ کی تو یہ لوگ ہی

الظَّالِمُونَ ﴿۱۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ

ظالم ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچو بہت

۱۱
ع
ت
ت
ع
۱۲

الظَّنَّ نَزَاتَ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ

گمانوں سے یقیناً بعض گمان گناہ ہیں اور نہ جاسوسی کرو اور نہ غیبت کرے

بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِيْحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ

بعض تمہارا بعض کی کیا پسند کرتا ہے کون تم میں سے کہ کھاٹے گوشت اپنے بھائی

مِيْتًا فَكْرِهْتُمْ مَوْهًا وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۳﴾

مڑہ کا پس تم ناپسند کرو گے اُسے اور تقویٰ کرو اللہ کا یقیناً اللہ رحمت سے متوجہ ہونے والا بہت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ

اے لوگو یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے اور بنایا ہم نے تم کو

شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

کنبے اور خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یقیناً سب سے معزز تم میں نزدیک اللہ کے

اَتَّقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۴﴾ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمْ نَأْتِي

زیادہ پرہیزگار ہے تم میں سے یقیناً اللہ خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہے کہا گنواروں نے ایمان لائے ہم تو کہہ

لَمْ تَوْمِنُوْا وَاٰلِيْنَ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَّلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ

نہیں ایمان لائے تم دیکھیں کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان

فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِيْثْكُمْ مِّنْ

دلوں میں تمہارے اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اسکے رسول کی نہ کم دے گا تمہیں

اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ

علموں میں سے تمہارے کچھ بھی یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے سوائے اس کے نہیں کہ مومن

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَّجَاهِدُوْا

وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اسکے رسول پر پھر نہ شک لائے وہ اور جہاد کیا انہوں نے

بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۶﴾

ساتھ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے راہ میں اللہ کی یہ لوگ ہی سچے ہیں

قُلْ اَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ وَاَللّٰهُ بِعَلْمِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

تو کہہ دے کیا تم علم دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کا اور اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾ يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ

اور زمین میں ہے اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے وہ احسان جاتے ہیں تم پر کہ

أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتُونَا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ

وہ مسلمان ہوتے تو کہہ دے نہ احسان جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم پر

أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ

کہ اس نے ہدایت دی تم کو ایمان کے لیے اگر ہو تم سچے یقیناً اللہ

يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرِكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

جاتا ہے غیب آسمانوں اور زمین کا اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسکو جو تم کرتے ہو

سُورَةُ ق مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(پہلی پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

قَدْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿۲﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ

تو ان قسم ہے قرآن عظمت والے کی بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس آیا

مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿۳﴾ وَإِذَا

ڈرانے والا ان میں سے تو کہا کافروں نے یہ بات عجیب ہے کیا جب

مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿۴﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا

مرا جس کے ہم اور ہو جائیں گے مٹی یہ واپسی دُور ہے یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ

تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿۵﴾ بَلْ كَذَّبُوا

کہ کرتی ہے زمین ان میں سے اور ہمارے پاس کتاب ہے حفاظت کرنیوالی بلکہ انہوں نے جھٹلایا

بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿۶﴾ أَقَلَمَ

حق کو جب آیا ان کے پاس پس وہ ایک بات اُلجھی ہوئی میں ہیں کیا پس نہیں

يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا

دیکھا انہوں نے فوف آسمان کی اپنے اوپر کیسا بنایا ہم نے اور زینت دی اسکو اور نہیں

لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۱۰ وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَهْا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي

اس میں کوئی شکاف اور زمین کہ ہم نے پھیلا یا اس کو اور ہم نے ڈالے اس میں پہاڑ

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۱۱ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى

اور ہم نے اگان اس میں ہر قسم کی بارونق چیز بصیرت پیدا کرنے کا ذریعہ اور نصیحت

لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۱۲ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا

ہر بندے جھکنے والے کے لیے اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی برکت والا

فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۱۳ وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ

پھر ہم نے اگانے اس سے باغ اور اناج کاٹنے کے اور کھجوریں بلند

لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۱۴ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۱۵ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً

جن کے خوشے ہیں تربت بطور رزق کے بندوں کیلئے اور ہم نے زندہ کیا اس سے شہر

مِيثًا ۱۶ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۱۷ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

مردہ کو اسی طرح نکلنا ہے (قبروں سے) جھٹلایا پہلے ان سے قوم نوح

وَأَصْحَابُ الرَّيْسِ وَثَمُودُ ۱۸ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ

اور کنوئیں والوں نے اور ثمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران

لُوطٍ ۱۹ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۲۰ كُلٌّ كَذَّبَ

لوطنے اور اہل بن نے اور قوم تبیع نے سب نے جھٹلایا

الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعَیْدِ ۲۱ أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۲۲ بَلْ

رسولوں کو بھی سچا ہوا میرا وعدہ عذاب کیا پس ہم تھک گئے پیدائش پہلی سے بلکہ وہ

هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۲۳ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

تھک میں ہیں پیدائش نئی سے اور یقیناً یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو

وَنَعْلَمُ مَا تُوسُّسُ بِهِ نَفْسُهُ ۲۴ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

اور ہم جانتے ہیں اسے جو وسوسہ ڈالتا ہے اسے اس کا نفس اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۱۷ اذِيتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ

رگ جان سے بھی جبکہ لے لیتے ہیں دو لینے والے (ایک) دائیں طرف سے

وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ۱۸ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

اور (ایک) بائیں طرف سے بیٹھا ہے نہیں بولتا یہ کوئی بات مگر نزدیک ا کے

رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۱۹ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط

نگہبان ہیں تیار اور آئے گی بے ہوشی موت کی یقیناً

ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ۲۰ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ

یہ ہے کہ تھاتو اس سے گریز کرتا اور بجا یا جائے گا بگل یہ ہے

يَوْمَ الْوَعِيدِ ۲۱ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ

دن وعدہ عذاب کا اور آئے گا ہر نفس کے ساتھ اس کے ہوگا بانگنے والا اور

شَهِيدٌ ۲۲ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكُشِفْنَا عَنْكَ

گواہ یقیناً تھاتو غفلت میں اس سے سوہم نے ہٹا دیا تجھ سے

غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۲۳ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا

پیرہ تیرا پس نظر تیری آج تیز ہے اور کہیگا اس کا ساتھی یہ ہے

مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۲۴ الْقِيَامِ فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَفَّارٌ عَنِّي ۲۵

جو پاس میرے تیار ہے (کہا جائیگا) ڈال دو تم دونوں جہنم میں ہر ایک بہت کفر کرنیوالے سخت دشمنی رکھنے والے کو

مَنَاءٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَّرِيبٌ ۲۶ وَالَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ

روکنے والے کو نیکی سے حد سے نکل جانے والے شک کرنیوالے کو اسے جس نے ٹھہرایا ساتھ اللہ کے

إِلَٰهًا آخَرَ فَالْقِيَامِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۲۷ قَالَ قَرِينُهُ

معبود اور پس ڈال دو تم دونوں اس کو عذاب سخت میں کہے گا اس کا ساتھی

رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَلَعِنَ كَانٍ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۲۸ قَالَ

اے رب ہمارے نہیں مرکش کیا تھا میں نے اسے ولیکن وہ خود ہی تھا گمراہی میں دور کی (اللہ) فرمائے گا

لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۲۹

نہ جھگڑو میرے پاس اور یقیناً میں بھیج چکا ہوں طرف تمہاری وعدہ عذاب کا

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۳۰﴾ يَوْمَ

نہیں بدلائی جاتی بات میرے ہاں اور نہیں میں ہرگز ظلم کو نیوالا بندوں پر جس دن

نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ﴿۳۱﴾

ہم کہیں گے جہنم کو کیا بھر گئی تو اور وہ کہے گی کیا اور جی ہے

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿۳۲﴾ هَذَا مَا

اور نزدیک کی جائے گی جنت متقیوں کے لیے بغیر دوری کے یہ ہے جس کا

تُوْعَدُ وَنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿۳۳﴾ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ

تم وعدہ دینے جاتے تھے ہر ایک رجوع کرنے والے نگاہ رکھنے والے کے لیے، جو ڈرتا ہے رحمن سے

بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿۳۴﴾ إِذْ خُلُوهَا بِسَلَامٍ

بن دیکھے اور آتا ہے ساتھ دل جھکنے والے کے داخل ہوا میں سلامتی سے

ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿۳۵﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا

یہ ہے دن ہمیشہ رہنے کا ان کیلئے ہے جو وہ چاہیں گے اس میں اور ہمارے پاس ہے

مَزِيدٌ ﴿۳۶﴾ وَكَمَا هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ

مزید (انعام) اور کتنی ہی ہلاک کہیں ہم نے پہلے ان سے تو میں کہ وہ زیادہ سخت تھے

مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ﴿۳۷﴾

ان سے پکڑ میں پس وہ گھس گئے شہروں میں کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ

إِنِّي فِي ذٰلِكَ لَذَكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ

یقیناً اس میں التذکرہ ہے اس کے لیے کہ ہے جس کا دل یا اس نے دھرا کان

وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

اور وہ حاضر ہے (دل سے) اور یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ ﴿۳۹﴾

پچھ درمیان ہے انکے چھ دنوں میں اور نہ چھو ہم کو تکان نے

فَاصْبِرْ عَلٰٓى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

پس صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور پاکیزگی میان کر ساتھ حمد کے اپنے رب کی پہلے

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۳۰ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

چڑھنے سورج اور پہلے ڈوبنے کے اور رات کو بھی پس پاکیزگی بیان کر اسکی

وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ۳۱ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِن

اور پیچھے سجدہ کے اور کان دھر جس دن پکارے گا پکارنے والا

مَكَانٍ قَرِيبٍ ۳۲ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ

جگہ نزدیک سے جس دن وہ سنیں گے تیز آواز یقیناً

ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ۳۳ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا

یہ ہے دن نکلنے کا یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی

الْمَصِيرُ ۳۴ يَوْمَ تَشْقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَّاعًا ۗ ذَلِكِ

لوٹنا ہے جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے جلدی کرتے ہوئے یہ

حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۳۵ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا

اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور نہیں

أَنْتَ عَلَيْهِمْ يَجِبَارٌ ۳۶ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَيْدٌ ۳۷

تو ان پر ہرگز جبر کر نوالا پس نصیحت کر قرآن کے ذریعے سے ان کو جو ڈرتا ہے میرے ڈرانے سے

سُورَةُ الذُّرِّيَّتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

رہمیں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو رحمن راور) رحیم ہے

وَالذُّرِّيَّتِ ذُرُوءًا ۲ فَأَلْخَمَلتِ وَقَرًا ۳ فَأَلْجَرِيَّتِ

قسم ہے بھیرنے والیوں کی خوب بھیرنا پھراٹھانے والیوں کی بوجھ پھر چلنے والیوں کی

يُسْرًا ۴ فَأَلْمُقْسِمَتِ أَمْرًا ۵ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۶

آہستہ آہستہ پھر بانٹنے والیوں کی حکم کو یقیناً جس کا تم وعدہ دیتے جاتے ہو ضرور سچا ہے

وَرَانَ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۱۰ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۱۱ إِنَّكُمْ

اور یقیناً جزاء ضرور ہونیوالی ہے قسم سے آسمان راستوں والے کی یقیناً تم

لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۱۲ يُؤَوِّفُكَ عَنْهُ مِنْ أُمَّكَ ۱۳ قَتَلَ

البتہ اختلاف والی بات میں ہو پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا (بھلائی سے) مارے گئے

الْخَرَّاصُونَ ۱۴ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ ۱۵

اٹکل باز وہ جو غفلت میں بھولنے والے ہیں

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۱۶ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ

وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا دن بدلہ کا جس دن وہ آگ پر

يُفْتَنُونَ ۱۷ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

غذاب دیشے جاؤ گے تم چکھو اپنی گمراہی کو یہ وہ ہے کہ تھے تم جسے

تَسْتَعْجِلُونَ ۱۸ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ رَّعِيُونَ ۱۹

جلدی مانگتے یقیناً متقی باغوں اور چشموں میں ہونگے

أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ

لیٹنے والے ہوں گے اس کو جو دے گا ان کو رب ان کا یقیناً وہ تھے پہلے اس سے

مُحْسِنِينَ ۲۰ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْبَلِ مَا يَهْجَعُونَ ۲۱ وَ

نیکی کرنے والے تھے وہ تھوڑا حصہ رات کا سوتے اور

بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۲۲ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ

بوقت صبح وہ استغفار کرتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والے کا

وَالْمَحْرُومِ ۲۳ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۲۴ وَفِي

اور زمین کے لیے نشان ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اور خود

أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۲۵ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

تم میں بھی کیا پھر نہیں دیکھتے تم اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا

تُوعَدُونَ ۲۶ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ

تم وعدہ دیشے جاتے ہو پس قسم ہے رب کی آسمانوں اور زمین کے یقیناً یہ (قرآن) حق ہے جیسا کہ

مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿۲۳﴾ هَلْ أَنْتَ حَدِيثٌ ضَيْفٌ إِبْرَاهِيمَ

تم بولتے ہو کیا آئی ہے تیرے پاس بات مہمانوں کی ابراہیم کے

الْمُكْرَمِينَ ﴿۲۵﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

(جو) معزز (تھے) جب وہ آئے اچھے پاس تو انہوں نے کہا سلام اس نے کہا سلام ہو

قَوْمٌ مُّتَنَكَّرُونَ ﴿۲۶﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ ﴿۲۷﴾

یہ لوگ اوپر سے معلوم ہوتے ہیں پھر گیا جلدی سے طرف اپنے گھر والوں کی پس لایا بچھڑا تلا ہوا

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۸﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ

پس قریب کیا اسکو ان کے کہا کیا نہیں کھاتے تم پھر محسوس کیا اس نے ان کی طرف

خَيْفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشِّرُوهُ بِخُلْمٍ عَلَيْهِمُ ﴿۲۹﴾ فَأَقْبَلَتْ

سے خوف انہوں نے کہا نہ ڈر اور بشارت دی انہوں نے اسکو ایک برکے علم والے کی۔ پس آئی

أَمْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿۳۰﴾

بیوی اس کی حیرت میں تو ہاتھ مارا اس نے اپنے منہ پر اور کہیں بوڑھی بانجھ ہوں

قَالُوا كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكَ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۳۱﴾

انہوں نے کہا اسی طرح فرمایا تیرے رب نے یقیناً وہ حکمت والا بہت جاننے والا ہے



۷۰

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۲﴾ قَالُوا إِنَّمَا

کہا براہیم نے) پس کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوؤ انہوں نے کہا یقیناً ہم

أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۳۳﴾ لَنْ نُزِيلَ عَلَيْهِمْ حَبَابًا

بھیجے گئے ہیں طرف لوگوں مجرموں کی تاکہ ہم بھیجیں ان پر پتھر

مِّنْ طِينٍ ﴿۳۴﴾ مُّسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿۳۵﴾ فَأَخْرَجْنَا

مٹی کے نشان کئے ہوئے تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کیلئے پھر ہم نے نکالا انہیں

مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ

جو تھے اس میں مومنوں میں سے پس نہ پایا ہم نے اس میں سوائے

بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ

ایک گھر کے اطاعت کرنے والوں میں سے اور ہم نے چھوڑا اس میں نشان ان لوگوں کے لیے

يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۸﴾ وَفِي مَوْسَىٰ إِذَا أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ

جوڑتے ہیں عذاب دردناک سے اور نشان ہیں) موسیٰ میں جب ہم نے بھیجا اس کو

فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿۳۹﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ

فرعون کی طرف ساتھ ظہیر کے ظاہر کے پس وہ پھر گیا اپنی قوت کے ساتھ اور کہا یہ) جادوگر ہے یا

مَجْنُونٌ ﴿۴۰﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَ

دیوانہ تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو پھر ہم نے ڈال دیا ان کو سمندر میں اور

هُوَ مُلِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ﴿۴۲﴾

وہ قابلِ ملامت تھا اور نشان ہیں) عاد میں جب ہم نے بھیجی ان پر ہوا بے نفع

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۴۳﴾ وَفِي

نہیں چھوڑتی تھی کوئی چیز وہ آتی تھی جس پر مگر کر ڈالتی تھی اس کو مانند ہڈی گلی ہوئی کے اور نشان

ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۴﴾ فَعَتَوْا عَنْ

ہیں) ثمود میں جب کہا گیا ان کو فائدہ اٹھاؤ ایک مدت تک تو انہوں نے سرکشی کی

أَمْرِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصُّعْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۴۵﴾

حکم سے اپنے رب کے سو پکڑا ان کو بجلی نے اور وہ دیکھتے تھے

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿۳۶﴾

پس نہ ہو سکے وہ کھڑے اور نہ ہوئے وہ بدل لینے والے

وَقَوْمٍ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۳۷﴾

اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو پہلے اس سے یقیناً وہ تھے لوگ نافرمان اور

السَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۳۸﴾ وَالْأَرْضِ

آسمان کو ہم نے بنایا اسے قوت کیساتھ اور یقیناً ہم البتہ فراخ کرنے والے ہیں اور زمین کو

فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿۳۹﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا

ہم نے بچھایا اسے پس (ہم) کیا ہی اچھا بچھونا کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا ہم نے پیدا کیا

زُوجَيْنٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ

ایک ایک جوڑا تاکہ تم نصیحت پکڑو پس بھاگو طرف اللہ کی یقیناً میں تمہارے لیے

مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا اور نہ بناؤ ساتھ اللہ کے معبود دوسرا

إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۲﴾ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ

یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرا نبوالا ہوں کھلا کھلا اسی طرح تھیں آیا ان لوگوں کے پاس

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿۴۳﴾

جو پہلے تھے ان سے کوئی رسول مگر کہا انہوں نے جادوگر ہے یا دیوانہ

أَتَوْا صَوَابَهُمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ ﴿۴۴﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا

کیا وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اس کی بلکہ وہ لوگ سرکش ہیں پس تو منہ پھیر لے ان سے پھر نہیں

أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿۴۵﴾ وَذَكَرْنَا لِلذَّكَرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۶﴾

تو ہرگز ملامت کیا گیا اور نصیحت کریں یقیناً نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۴۷﴾ مَا أُرِيدُ

اور میں پیدا کئے ہیں نے جن اور انسان مگر تاکہ وہ عبادت کریں میری نہیں چاہتا میں

مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿۴۸﴾ إِنَّ اللَّهَ

ان سے کوئی رزق اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ کھلائیں مجھے یقیناً اللہ

هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥١﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

ہی رزق دینے والا ہے (اور) قوت مضبوط والا ہے پس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا

ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٢﴾ فَوَيْلٌ

ایک ڈول ہے مانند ڈول کے ان کے ساتھیوں کے سو نہ جلدی مانگیں وہ مجھ سے پس ہلاکت ہے

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٥٣﴾

ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیتے جاتے ہیں

سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالطُّورِ ﴿٢﴾ وَكِتَابٍ مَشْهُورٍ ﴿٣﴾ فِي رَقٍ مَّنشُورٍ ﴿٤﴾ وَالْبَيْتِ

قسم ہے طور کی اور کتاب لکھی ہوئی کی چڑھے کھلے ہوئے میں اور گھر

الْمَعْمُورِ ﴿٥﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿٦﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٧﴾

آباد کی اور چھت بند کی ہوئی کی اور دریا چڑھے ہوئے کی

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٨﴾ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٩﴾ يَوْمَ تَمُورُ

یقیناً عذاب رب تیرے کا ضرور ہوئی والا ہے نہیں اس کو کوئی ٹالنے والا جس دن کہ رزہ کھائے گا

السَّمَاءِ مَوْرًا ﴿١٠﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١١﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

آسمان خوب رزہ کھانا اور پھریں گے پہاڑ خوب پھرنا پس ہلاکت ہے اس دن

لِلْمُكْذِبِينَ ﴿١٢﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٣﴾ يَوْمَ

جھٹلانے والوں کے لیے وہ جو بے پردہ باتوں میں کھیلتے ہیں جس دن

يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْوًا ﴿١٤﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ

وہ دیکھتے جاؤ گے طرف آگ جنم کی خوب دیکھ لے جانا یہ ہے وہ آگ کہ تھے تم

۱۰۳

وقف اراغہ

بِمَا تَكْذِبُونَ ۱۵ اَفْسِحْرُهُذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۱۶

جسے جھٹلاتے کیا پس جادو ہے یہ یا تم نہیں دیکھتے

اِصْلُوْهَا فَاَصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيَكُمْ ؕ اِنَّمَا

داخل ہو جاؤ اس میں پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو برابر ہے تم پر صبر

تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۷ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ

بدل دیتے جاتے ہو اسکا جو حق تم کرتے یقیناً متقی باغوں میں

وَنَعِيْمٍ ۱۸ فَاَجْهِنِيْنَ بِمَا اَتْتَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ

اور نعمتوں میں ہیں ہشاش بشاش اس پر جو دیا ان کو رب نے اور بچایا ان کو ان کے رب نے

عَذَابِ الْجَحِيْمِ ۱۹ كُلُوْا وَاَشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ

عذاب دوزخ سے کھاؤ اور پیو مزے سے بدل میں اس کے جو حق تم

تَعْمَلُوْنَ ۲۰ مُتَكِيْنِيْنَ عَلٰی سُرُرٍ مَّصْفُوْقَةٍ وَّزَوْجَتُهُمْ

عمل کرتے تکیہ گائے ہوئے تختوں صف دار پر اور ہم نے بیاہ دیا ان کو

بِخُوْرٍ عِيْنٍ ۲۱ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

گوری فرخ چشم عورتوں سے اور جو لوگ ایمان لائے اور پیروی کی ان کی انکی اولاد نے

بِاِيْمَانٍ الْحَقْنٰ بِهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلْتَنَّهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ

ایمان کے ساتھ ہم ملا دیں گے ساتھ ان کے اولاد ان کی اور نہ کم دیں گے ان کو ان کے عملوں سے

مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكُلِّ اٰمِرٍۭٔۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۲۲ وَاَمَدَدْنَهُمْ

کچھ بھی ہر ایک آدمی بوجہ اسکے جو اس نے کمایا گرنہا رہے اور ہم مدد دیں گے ان کو

بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍۭٔۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۲۳ يَتَنَزَّعُوْنَ فِيْهَا كَاسًا

میووں سے اور گزشت سے اسکے جو وہ چاہیں گے وہ چھینیں گے ایک دوسرے سے اس میں پیالہ

لَا لَعُوْفِيْهَا وَلَا تَأْتِيْنٰمُ ۲۴ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غُلَمٰنٌ لَهُمْ

نہ بیہودہ بات ہے اس میں اور نہ گنہگاری اور پھر میں گے ان پر لڑکے ان کے

كَانَتْهُمْ لُوْلُوْٓهُمۡ مَّكْنُوْنٌ ۲۵ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ

گویا کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے اور متوجہ ہوں گے بعض ان میں سے بعض کی طرف

يَتَسَاءَلُونَ ۲۶ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۲۷

پوچھتے ہو گئے آپس میں کہیں کے یقیناً تھے ہم پہلے گھروالوں میں اپنے ڈرنے والے

فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ۲۸ إِنَّا كُنَّا مِنْ

پس احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچایا ہم کو عذاب سے گرم ہوا کے یقیناً تھے ہم

قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۲۹ فَذَكِّرْ فَمَا آتَتْ

پہلے سے پکارتے اس کو یقیناً وہ ہی احسان کرنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے سو نصیحت کر پس نہیں تو

بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۳۰ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ

بوجہ نعمت کے اپنے رب کی ہرگز کاہن اور نہ دیوانہ کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے

تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ۳۱ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ

ہم انتظار کرتے ہیں اسکے متعلق گردش زمانہ کا تو کہہ دے تم انتظار کرو پس یقیناً میں بھی ساتھ تمہارا

مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۳۲ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَا مُهُمْ بِهَذَا آمَهُمْ

انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کیا حکم دیتی ہیں ان کو عقلمیں ان کی اس کا یا یہ

قَوْمٌ طَاغُونَ ۳۳ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۳۴

لوگ سرکش ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑیا ہے اس (قرآن) کو بلکہ نہیں ایمان لاتے وہ

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۳۵ أَمْ

پس چاہیے کہ لائیں ایک بات مانند اس کے اگر ہیں وہ سچے کیا

خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۳۶ أَمْ خَلَقُوا

وہ پیدا کئے گئے ہیں بغیر کسی چیز (سب) کے یا وہ پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے پیدا کئے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۳۷ أَمْ عِنْدَهُمْ

ہیں آسمان اور زمین بلکہ نہیں یقین لاتے وہ یا پاس ان کے

خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ۳۸ أَمْ لَهُمْ سَلْمٌ

خزانے ہیں تیرے رب کے یا وہ داروغے ہیں کیا ان کیلئے سیڑھی ہے کہ وہ

يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۳۹

سن لیتے ہیں اس میں سو چاہیے کہ آئے سننے والا ان کا کوئی دلیل کھلی کھلی

أَمَلَهُ الْبِنْتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿۳۱﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ

کیا اس کے بیٹے ہیں اور تمہارے بیٹے بیٹے ہیں کیا تو مانگتا ہے ان سے بدلہ تو وہ

مَغْرَمٌ مُثْقَلُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾

تواناں سے بوجھل ہیں کیا پاس ان کے (علم) غیب ہے کہ وہ کھہہ لیتے ہیں

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ﴿۳۴﴾

کیا وہ چاہتے ہیں مکر پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی مکر کئے گئے ہیں

أَمْ لَهُمْ آلَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۵﴾ وَ

کیا ان کیلئے معبود ہے سوائے اللہ کے پاک ہے اللہ اُس سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور

إِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ

اگر وہ دیکھیں ایک ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا کہیں گے بادل ہے

مَرْكُومٌ ﴿۳۶﴾ قَدْ رُهِمَ حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ

ترتبتہ ہیں تو چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ وہ ملیں اپنے اس دن سے کہ جس میں

يُصْعَقُونَ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا

بیہوش کئے جائینگے جس دن کہ نہ کام آئے گا ان کے مکر ان کا کچھ بھی اور نہ

هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ

وہ مدد دینے جائیں گے اور یقیناً ان لوگوں کیلئے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے دوسے

ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ

اس کے دیکھیں اکثر ان میں سے نہیں جانتے اور صبر کر حکم تک

رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ

اپنے رب کے پس یقیناً تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور پاکیزگی بیان کر ساتھ حمد کے اپنے رب کے جب تو

تَقُومُ ﴿۴۰﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۴۱﴾

کھڑا ہو اور رات کو بھی پس تو پاکیزگی بیان کر اور تیجے ستاروں کے بھی



سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(یہیں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی ۲ مَا ضَلَّ صَاۤجِبُكُمْ وَّمَا غَوٰی ۳ وَّمَا

قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے نہیں گمراہ ہوا رفیق تمہارا اور نہ راہ سے پھر گیا اور نہیں

یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ۴ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُّوحٰی ۵ عَلَّمَهُ

وہ بولتا اپنی خواہش سے نہیں وہ مگر وحی ہے جو کی جاتی ہے سکھایا ہے اس کو

شَدِیْدُ الْقَوٰی ۶ ذُوۡمِرَّةٍ ۷ فَاسْتَوٰی ۸ وَهُوَ بِالْاُفُقِ

مضبوط طاقتوں والے نے جو صاحب طاقت ہے، پس وہ درست ہوا اور وہ کنارے

الْاَعْلٰی ۹ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلٰی ۱۰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی ۱۱

بلند پر تھا پھر نزدیک ہوا پھر اترا آیا پس وہ تھا اندازہ پر فاصلہ دو کمان کے بلکہ زیادہ نزدیک

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی ۱۱ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی ۱۲

پس اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی نہیں جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا

اَفْتَمَرُوْنَهٗ عَلٰی مَا یَرٰی ۱۳ وَّلَقَدْ رَاَهٗ نَزْلَةً اٰخِرٰی ۱۴ عِنْدَ

کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے اس پر جو وہ دیکھتا ہے اور یقیناً اس نے دیکھا ہے اس کو ایک بار اور نزدیک

سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۱۵ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاۤوِی ۱۶ اِذْ یَغْشٰی

سدرة المنتہی کے نزدیک اس کے جنت ہے رہنے کی جب ڈھانک رہا تھا

السِّدْرَةَ مَا یَغْشٰی ۱۷ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَّمَا طَغٰی ۱۸ لَقَدْ رَاٰی

بیری کو جو کچھ کہ ڈھانک رہا تھا نہ کبھی کی نظر نے اور زبرد سے بڑھی البتہ دیکھے ہیں اس

مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی ۱۹ اَقْرَبَیْتُمْ اللّٰتَ وَالْعُزٰی ۲۰

نے نشانات اپنے رب کے بڑے بڑے کیا پس دیکھا تم نے لات اور عزی کو

وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَى ۚ أَلَكُمْ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ۚ

اور منات تیسری پہچھے کو کیا تمہارے لیے بڑکے ہیں اور اس کیلئے بڑکیاں

تِلْكَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِنَجْمِ الْآخِرَى ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا

یہ تب تو تقسیم ہے ناقص نہیں یہ مگر نام ہی نام ہیں کہ مقرر کر لیا ہے جن کو

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ يَتَّبِعُونَ

تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں پیروی کرتے ہیں وہ

إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ

مگر گمان کی اور اس کی جو چاہتے ہیں رائے (نفس) اور یقیناً یقیناً آجھی ہے انکے پاس انکے رب کی طرف سے

الْهُدَى ۚ أَمْ لِيْلَادِنَسَانٍ مَا تَمَنَّى ۚ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ

ہدایت کیا انسان کیلئے ہے جس کی وہ آرزو کرے پس اللہ کیلئے ہے آخرت اور

الْأُولَى ۚ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ

دنیا اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ نہیں کام آتی ان کی سفارش

شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۚ

کچھ بھی مگر بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ جس کے لیے چاہے اور پسند کرے

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ

یقیناً وہ لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا

تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ۚ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ

نام عورتوں کا اور نہیں ان کو اس کا کوئی علم نہیں پیروی کرتے ہیں وہ

إِلَّا الظَّنَّ، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ فَأَعْرِضْ

مگر گمان کی اور یقیناً گمان نہیں کام آتا بمقابل حق کے کچھ بھی سونہ پھیلے

عَنْ مَنْ تَوَلَّى ۚ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ

اس سے جو پھر گیا ہمارے ذکر سے اور نہ چاہی اس نے سوائے زندگی دنیوی کے

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

یہ ہے پہنچ ان کی علم سے یقیناً رب تیرا ہی خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا

عَنْ سَبِيلِهِ لَوْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى [۳۱] وَرَبُّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

راہ سے اس کی اور وہی خوب جانتا ہے اسکو جس نے ہدایت پائی اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ لَا يَجْزِي الَّذِينَ آسَأُوا بِمَا عَمِلُوا وَ

اور جو زمین میں ہے تاکہ بدل دے ان کو جو بُرائی کرتے ہیں اس کا جو کیا انہوں نے اور

يَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى [۳۲] الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ

بدل دے انکو جو نیکی کرتے ہیں نیکی کا وہ جو بچتے ہیں

كَبِيرًا إِلَّا تَمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ

بُرسے گناہوں اور بے حیائیوں سے سوائے آلودگی کے یقیناً رب تیرا وسیع

الْمَغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ

بخشش والا ہے وہ خوب جانتا ہے تم کو جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور

إِذْ أَنْتُمْ أَحْيَاءٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ

جب تم پلوشیدہ تھے بیٹوں میں اپنی ماؤں کے پس نہ پاک ٹھہراؤ تم اپنے تئیں

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى [۳۳] أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى [۳۴] وَاعْطَى

وہ خوب جانتا ہے اسکو جو مستحق ہوا کیا پس دیکھا تو نے اس کو جو پھر گیا اور دیا اس نے

قَلِيلًا وَكَذَى [۳۵] أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرَى [۳۶] أَمْ لَمْ

تھوڑا سا اور روک دیا کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا پس وہ دیکھتا ہے کیا نہیں

يُنَبِّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى [۳۷] وَإِنْ رَأَيْتَهُمُ الَّذِي وَفَى [۳۸] إِلَّا

آگاہ کیا گیا اس پر جو کتابوں میں ہے موسیٰ کی اور براہیم کی جس نے عہد پورا کر دکھایا کہ نہیں

تَزُرُّ وَازِدَةً وَذُرًّا خُرَى [۳۹] وَ أَنْ لَيْسَ يَلِدُنَّ نَسَانٍ إِلَّا

اٹھانا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر اسی

مَا سَخَى [۴۰] وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى [۴۱] ثُمَّ يُجْزَاهُ

قدر جو اس نے کوشش کی اور یہ کہ اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی پھر بدلہ دیا جائیگا اس کو

الْجَزَاءَ إِلَّا وَفَى [۴۲] وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى [۴۳] وَأَنْتَ هُوَ

بدلہ پورا اور یہ کہ طرف رب تیرے کی ہے انتہاء اور یہ کہ وہی

أَضْحَكَ دَابُّكُ ۳۳ وَأَنْتَ هُوَ أَمَاتَ دَاخِي ۳۵ وَأَنْتَ خَلَقَ

ہنساتا اور رلاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے اور یہ کہ اس نے پیدا کی ہیں

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۳۶ مِنْ تَطْفَةِ إِذَا تَمْنَى ۳۷

دو قسمیں نر اور مادہ نطفہ سے جب وہ ڈالا جاتا ہے

وَأَنْتَ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى ۳۸ وَأَنْتَ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى ۳۹

اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پیدائش پچھلی اور یہ کہ وہی دو تہند کرتا ہے اور نزلانے دیتا ہے

وَأَنْتَ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ۴۰ وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا لِأُولَى ۴۱ وَ

اور یہ کہ وہی ہے رب شعری کا اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا عاد پہلے کو اور

ثَمُودًا فَمَا آتَى ۴۲ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا

ثمود کو بھرنے باقی چھوڑا اور قوم نوح کو پہلے اس سے یقیناً وہ تھے

هُمَ أَظْلَمَ وَأَطَى ۴۳ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ۴۴ فَخَشَهَا مَا

ہمت ظالم اور بہت سرکش اور اتانی گئی بستنیوں کو نے مارا اس نے پس ڈھانکا ان پر جو

عَشَى ۴۵ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ۴۶ هَذَا نَذِيرٌ مِّنْ

ڈھانکا سو کن نعمتوں سے اپنے رب کی (اے انسان) تو جھگڑا کرتا ہے یہ ڈرانے والا ہے

النُّذُرِ الْأُولَى ۴۷ أَرَأَيْتِ الْأَزْفَقَةَ ۴۸ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

ڈرانے والوں پہلوں میں سے نزدیک آگئی ہے نزدیک آئیواں (یعنی قیمت) نہیں اس کو سوائے اللہ کے

كَاشِفَةٌ ۴۹ أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۵۰ وَتَضْحَكُونَ وَلَا

کوئی دُور کر نیوالا پھر اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنسنے ہو اور نہیں

تَبْكُونَ ۵۱ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۵۲ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۵۳

رونے اور تم غافل ہو پس سجدہ کرو اللہ کو اور عبادت کرو



سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھنا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۲ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۳ وَان يَّرَوْا آيَةً

نزدیک آتی ہے قیامت اور پھٹ گیا چاند اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشان

يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۴ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا

تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو ہے ہمیشہ کا اور انہوں نے جھٹلایا اور پیچھے رہے

اَمْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۵ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ

اپنی خواہشوں کے اور ہر بات حد بست والی ہے اور یقیناً آچکی ہیں انکے پاس

الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۶ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ

خبریں جن میں ڈانٹنا ہے بات ہے پختہ پس نہیں کام آتے

النُّذُرَ ۷ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ تُكْرَهُ ۸

ڈرائیوالے نشان سو تو منہ پھیر لے ان سے (منظر) اس دن رکا کہ بکار بکار پکارنے والا ایک بات اوپری کی طرف

خُشَعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَمَا نَهُمْ

نیچھی ہوں گی نظریں انکی وہ نکلیں گے قبروں میں سے گویا کہ وہ

جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۹ مُّهْطِعِيْنَ اِلٰى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ

مڈیاں ہیں پھیلی ہوئی دوڑنے والے ہوں گے طرف پکارنے والے کی کہیں گے کافر

هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۱۰ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٍ فَكَذَّبُوْا

یہ دن ہے سخت جھٹلایا تھا پہلے ان سے قوم نوح نے پس انہوں نے جھٹلایا

عِبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّاَزْدُجِرَ ۱۱ فَدَعَا رَبَّهُ اِنِّي

بندے ہمارے کو اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے اور دھتکارا گیا ہے سو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں

مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ۱۱ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۱۲

مغلوب ہوں ہیں تو مدد فرما پھر ہم نے کھولے دروازے آسمان پانی برسے والے کے

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۱۳

اور ہم نے پھاڑ دی زمین چشموں سے پھیر لیا گیا بارش اور چشموں کا پانی ایک اندازہ پر جو مقرر کیا گیا تھا

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَابٍ وَّ دُورٍ ۱۴ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ۱۵

اور ہم نے سوار کیا اس کو (کشتی) تختوں اور میخوں والی پیر جو چلتی تھی نگہبانی میں ہماری

جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ۱۶ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ

یہ بدلہ تھا اس کیلئے، تھا جس کا انکار کیا گیا (یعنی نوح کا) اور یقیناً ہم نے چھوڑ دیا سکو بطور نشان کے پس کیا ہے کوئی

مُدَّ كَرِيحٍ ۱۷ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۱۸ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

نصیحت پکڑنے والا سوکیسا ہوا عذاب میرا اور ڈرانا میرا اور یقیناً یقیناً آسان کیا ہم نے

الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كَرِيحٍ ۱۸ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ

قرآن نصیحت کے لیے پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا جھٹلایا تھا عادنے سوکیسا

كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۱۹ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

ہوا عذاب میرا اور ڈرانا میرا یقیناً ہم نے بھیجی ان پر ہوا ہنسد

فِي يَوْمٍ نَحِيسٌ مُسْتَمِرٍّ ۲۰ تَنْزِعُ النَّاسَ لَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

دن منحوس میں پے درپے چلنے والی اکھاڑتی تھی لوگوں کو (جگہ سے) گویا کہ وہ تنے ہیں

نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۲۱ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ۲۲ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

کھجور کھوکھی کے پس کیسا ہوا عذاب میرا اور ڈرانا میرا اور یقیناً یقیناً آسان کر دیا

الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كَرِيحٍ ۲۳ كَذَّبَتْ ثَمُودُ

ہم نے قرآن نصیحت کے لیے پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا جھٹلایا ٹھوڈنے

بِالنُّذُرِ ۲۴ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِمَّا وَّاحِدًا اتَّبَعَهُ لَئِنَّا إِذَا

ڈرا نیوالے کو پس کہا انہوں نے کیا ہم میں سے آدمی ہے ایک کہ پیروی کریں ہم اس کی یقیناً ہم تب

لَفِي ضَلِيلٍ وَسُعُرٍ ۲۵ أَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ

ابتہ گمراہی اور جن میں ہونگے کیا ڈال گئی نصیحت اسی پر ہمارے میں سے بلکہ

هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ۚ سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ۚ ۲۷

وہ تو بہت جھوٹا اترانے والا ہے، فردرجان میں گئے وہ کل کہ کون ہے بہت جھوٹا اترانے والا

إِنَّمُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَادَّتْ قِبَهُمْ وَاَصْطَبِرُوا ۚ ۲۸

یقیناً ہم بھیجئے والے ہیں اونٹنی بطور آزمائش کے ان کے لیے پس تو انتظار کران کا اور صبر کرو

وَنَبِّئِهِمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، كُلٌّ شَرِبَ مَحْتَضِرًا ۚ ۲۹

اور خبر دے ان کو کہ پانی تقسیم کیا ہوا ہے درمیان انکے ہر پانی پلانے کی باری پر حاضری ہے

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ۚ

پس انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو پس اس نے کچرا پھریا ڈال کاٹ ڈالے پھر کیسا ہوا عذاب میرا

وَنذُرٍ ۚ إِنَّا آدَّسْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا ۚ

اور ڈرانا میرا یقیناً ہم نے بھیجی ان پر آواز تیند ایک ہی تو ہو گئے وہ

كَهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرِ ۚ ۳۰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۚ

مانند بھس روندے ہوئے کے اور یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کے لیے

فَهَلْ مِنْ مَدَّ عِجْرٍ ۚ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ ۚ إِنَّا ۚ

پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو یقیناً

أَدَّسْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ۚ لَا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَهُمْ بِسَحَرٍ ۚ ۳۱

ہم نے بھیجا ان پر سینہ پتھروں کا سوائے آل لوط کے ہم نے بچایا ان کو صبح کے وقت

نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۚ ۳۲

بطور انعام کے اپنے حضور سے اسی طرح ہم بدل دیتے ہیں اسکو جو شکر گزار ہو اور یقیناً یقیناً

أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ ۚ ۳۳

اس نے ڈرایا تھا ان کو پکڑ سے ہماری تو وہ جھگڑے ڈرانے والوں سے اور یقیناً یقیناً انہوں نے پھسلانا چاہا

عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ ۳۴

اسے اٹکے مہانوں کے متعلق پس ہم نے مٹا دیں آنکھیں ان کی پس چکھو عذاب میرا اور ڈرانا میرا

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ۚ فَذُوقُوا عَذَابِي ۚ

اور یقیناً یقیناً صبح کی وقت آیا تھا انکے پاس سویرے ہی عذاب قائم رہنے والا پس چکھو عذاب میرا

وَنذُرٍ ۳۱ ۱ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّعِرٍ ۳۱

اور ڈرانا میرا اور یقیناً یقیناً آسان کر دیا ہم نے قرآن نصیحت کے لیے بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ الذُّكْرُ ۳۲ ۱ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُذَّابًا ۳۲

اور یقیناً یقیناً آئے تھے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے انہوں نے جھٹلایا ہمارے نشانوں کو سب کو

فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ آخِذًا مِمَّا كَفَرُوا ۳۳ ۱ فَتُجَادِلُكَ فِي صَدُقَاتِكُمْ قُلْ أُبْرِئُكُمْ مِنْهَا

پھر پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا غالب قدرت والے کا کیا کافر تمہارے بستر میں

أُولَئِكَ أَمْ لَهُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۳۴ ۱ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ

ان لوگوں سے یا تمہارے لیے بریت ہے (غذاب سے) کتابوں میں (کلمہ ہوئی) کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم

جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ ۳۵ ۱ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۳۶

سب بدلینے والے ہیں ضرور جھگا دیا جائے گا شکر اور وہ پھیر دیں گے پیٹھ

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدٌهُمْ وَالسَّاعَةَ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ ۳۷ ۱ إِنَّ

بلکہ قیامت ان کے وعدہ کی جگہ ہے اور قیامت بہت سخت اور بہت کڑوی ہے یقیناً

الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ ۳۸ ۱ وَسُعُرٍ ۳۸ ۱ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ

مجرم گراہی اور جنوں میں ہیں جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۳۹ ۱ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

اپنے مونہوں کے بل (کہا جائیگا) کچھو گگنا دوزخ کا یقیناً ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے

بِقَدْرِ ۴۰ ۱ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۴۱ ۱ وَ لَقَدْ

اندازہ پر اور نہیں حکم ہمارا مگر ایک دفعہ کا نظر کرنے کی مانند آنکھ سے اور یقیناً یقیناً

أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّعِرٍ ۴۲ ۱ وَكُلِّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ

ہاک کیا ہم نے تمہارے ہم مذہبوں کو پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اور ہر بات کہہ کی انہوں نے

فِي الزُّبُرِ ۴۳ ۱ وَكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ۴۴ ۱ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي

جو کتابوں میں موجود ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا (کام) کھیا ہوا ہے یقیناً مستقی

جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۴۵ ۱ فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۴۶

باغوں اور نہروں میں ہونگے مقام اعلیٰ میں پاس بادشاہ قدرت والے کے

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الرَّحْمٰنِ ۲ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۳ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۴ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۵

رحمن نے سکھایا ہے قرآن اس نے پیدا کیا انسان کو اسی نے سکھایا ہے اسے بیان

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۶ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدْنَ ۷

سورج اور چاند گردش میں ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں

وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۸ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۹

اور آسمان بلند کیا اس نے اسے اور بنائی ترازو کہ نہ زیادتی کرو تم ترازو میں

وَأَقِمْوْا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۱۰ وَالْاَرْضُ

اور قائم کرو وزن انصاف سے اور نہ کمی کرو ترازو میں اور زمین

وَضَعَهَا لِلاَّ نَارٍ ۱۱ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ

بنایا اس نے اسکو مخلوق کے لیے اس میں میوے ہیں اور کھجوریں

الْاَعْنَامِ ۱۲ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۱۳ فَبِأَيِّ

خوشیوں والی اور اناج بھوسے والا اور پھول خوشبودار پس کن

الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنْتُمْ كَذِبْنَ ۱۴ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ

نعتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں (یعنی وائس) پیدا کیا اس نے انسان کو بچنے والی مٹی سے (جو)

كَالْفَخَّارِ ۱۵ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۱۶ فَبِأَيِّ

مانند ٹھیکری کے (جو حق ہے) اور پیدا کئے جن شعلہ سے آگ کے پس کن

الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنْتُمْ كَذِبْنَ ۱۷ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۱۸

نعتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں رب ہے دونوں مشرقوں کا اور رب ہے دونوں مغربوں کا

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۹﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿۲۰﴾

پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں اس نے جاری کئے دو سمندر (جو) آپس میں مل جائیگی

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿۲۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۲﴾

درمیان ان کے ایک روک ہے نہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ سکتے، پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۲۳﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

نکلے ہیں ان دونوں (سمندروں) میں سے موتی اور مونگے پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی

تُكَذِّبِينَ ﴿۲۴﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۲۵﴾

جھٹلاؤ گے تم دونوں اور اس کیلئے جہاز ہیں اونچے کھڑے ہوئے سمندریں مانند پہاڑوں کے

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۶﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿۲۷﴾ وَيَبْقَىٰ

پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں سب جو اس (زمین) پر ہیں فان ہیں اور باقی رہے گی

وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلْدِ وَالْأَعْرَامِ ﴿۲۸﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

ذات رب تیرے جلال اور عزت والے کی پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی

تُكَذِّبِينَ ﴿۲۹﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ

جھٹلاؤ گے تم دونوں مانگتے ہیں اسی سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے ہر وقت

هُوَ فِي سَائِبٍ ﴿۳۰﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۱﴾ سَنَفْرُغُ

وہ (اپنی) شان میں ہے پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے فرود ہم فارغ ہونگے

لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَيْنِ ﴿۳۲﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۳﴾ يَمْعَشِرُ

تو اسے یہ اسے جنت اور انس پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں اے گروہ

الْحَيِّ وَالْأَلْسِنَ إِنِ اشْتَغَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ

جنوں اور انسانوں کے اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ نکل جاؤ کناروں سے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿۳۴﴾

آسمانوں اور زمین کے تو نکل جاؤ نہ نکل سکو گے تم مگر سلطنت ہی میں

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۵﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ

پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں بھیجا جائے گا تم پر شعلہ

تَارَةً وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرِينَ ﴿۳۶﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

آگ کا اور دھواں ہیں نہ مدد کر سکو گے تم آپس میں پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی

تُكْذِبِينَ ﴿۳۷﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۸﴾

جھٹلاؤ گے تم دونوں پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ سرخ مانند سرخ چمڑے کے

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۳۹﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ

پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں پس اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے

ذُنُوبِهِمْ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿۴۰﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۴۱﴾

گناہ کے متعلق انسان اور نہ جن پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ

پہچانے جائیں گے مجرم اپنے نشانوں سے پھر پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور

الْأَقْدَامِ ﴿۴۲﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۴۳﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ

پیروں سے پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں یہ جہنم ہے

الَّتِي يُكْذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۴﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ

وہ کہ تکذیب کرتے تھے جس کی مجرم پھریں گے درمیان اس کے اور

بَيْنَ حَمِيمَيْنِ ﴿۴۵﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۴۶﴾ وَلَمَنْ

درمیان گرم بانی کھولتے ہوئے کے پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں اور اس کیلئے

خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿۴۷﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۴۸﴾

جو ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے حضور درختیں ہیں پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں

ذَوَاتِ أَفْنَانٍ ﴿۴۹﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۵۰﴾ فِيهِمَا

دونوں درخت شاخوں والے ہونگے پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں ان دونوں میں

عَيْنِينَ تَجْرِيْنَ ﴿۵۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۵۲﴾ فِيهِمَا مِنْ

دو چشمے بہتے ہوں گے پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں ان دونوں میں

كُلِّ فَاكِهَةٍ رَّوْحِينِ ﴿۵۳﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۵۴﴾ مُتَّكِفِينَ

ہر ایک بیوسے کی دو تھیں ہوں گی پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں تکیہ لگائے ہوں گے

عَلَىٰ قُرْشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۗ وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝۵۵

ایسے فرشوں پر کہ آستر جن کے گاڑھے ریشم کے ہونگے اور میوسے دونوں باغوں کے ٹھکے ہوئے ہونگے

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝۵۶ فِيهِمْ قَصْرٌ الْمَرْفُ ۖ

پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں ان میں نیچے رکھنے والیاں ہوں گی نظر کو

لَمْ يَطْمِئْتُنَّ إِئْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۝۵۷ فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ

نہیں چھوٹا ہوگا انکو کسی انسان نے پہلے ان سے اور نہ کسی جن نے پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی

تَكْذِبِينَ ۝۵۸ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝۵۹ فِي آيِ الْآءِ

جھٹلاؤ گے تم دونوں گویا کہ وہ عورتیں یا قوت اور مرجان ہیں پس کن نعمتوں کو

رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝۶۰ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝۶۱

اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں نہیں بدلہ احسان کا مگر احسان

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝۶۲ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ۝۶۳ فِي آيِ

پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں اور علاوہ ان دونوں کے دو باغ اور ہونگے پس کن

الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝۶۴ مَذَاهِمَاتَيْنِ ۝۶۵ فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ

نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں نہایت سبز ہیں دونوں پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی

تَكْذِبِينَ ۝۶۶ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَيْنِ ۝۶۷ فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ

جھٹلاؤ گے تم دونوں ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے بہت جوش مارنے والے پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی

تَكْذِبِينَ ۝۶۸ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۝۶۹ فِي آيِ الْآءِ

جھٹلاؤ گے تم دونوں ان دونوں میں میوسے اور کھجوریں اور انار ہیں پس کن نعمتوں کو

رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝۷۰ فِيهِمْ خَيْرٌ حَسَانٌ ۝۷۱ فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ

اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں ان میں نیک سیرت (اور خوبصورت عورتیں ہیں پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی

تَكْذِبِينَ ۝۷۲ حُودٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۝۷۳ فِي آيِ الْآءِ

جھٹلاؤ گے تم دونوں عورتیں گورے رنگ کی بھائی ہوئی خیموں میں پس کن نعمتوں کو

رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ۝۷۴ لَمْ يَطْمِئْتُنَّ إِئْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۝۷۵

اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں نہیں چھوٹا ہوگا ان کو کسی انسان نے پہلے ان سے اور نہ کسی جن نے

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٦٧﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ

پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں تکبر گائے ہوئے ہو گے قابلوں سبز پر اور

عَبْقَرِيَّ حَسَّانٍ ﴿٦٨﴾ فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٦٩﴾ تَبْرَكَ

فرشوں پر نفیس پر پس کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں برکت والا ہے

اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٠﴾

نام رب تیرے جلال اور عزت والے کا

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿٢﴾ لَيْسَ لِمَنْ لَوْقَعَتْهَا كَاذِبَةٌ ﴿٣﴾

جب واقع ہوگی واقع ہونے والی نہیں اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٤﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٥﴾ وَبُسَّتِ

بعضوں کو نیچا کر دینے والی زمینوں کو اونچا کر دینے والی ہے جب پلان جائیگی زمین رز سے اور اڑائے جائیں گے

الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٦﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُثْبَتًا ﴿٧﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا

پھاڑ ریزہ ریزہ کر کے تو ہو جائیں گے وہ غبار پر اگندہ اور تم ہو جاؤ گے نسیمیں

ثَلَاثَةٌ ﴿٨﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٩﴾ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٠﴾ وَ

تین پس (ایک) دائیں طرف والے ہیں کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے اور

أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١١﴾ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٢﴾ وَالسَّابِقُونَ

(دوسرے) بائیں طرف والے ہیں کیا ہی بُرے ہیں بائیں طرف والے اور ہمیشہ آگے نکلنے والے ہیں

السَّابِقُونَ ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٤﴾ فِي جَنَّتِ النَّحِيمِ ﴿١٥﴾

آگے ہی ہیں (سب سے) یہی لوگ مقرب ہوں گے باغات میں نعمت کے

۱۰۰

۱۰۰

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۱۳ ۚ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۱۵ ۚ عَلَى سُرُرٍ

ایک جماعت ہے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہیں بیچکھلوں میں سے تختوں پر جو

مَوْضُوعَةٌ ۱۶ ۚ مُتَّكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۱۴ ۚ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ

سرد کے بغیر ہونے ہونگے ٹیکر لگائے ہوئے ہونگے ان پر آنے سامنے پھیریں گے گرد ان کے

وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ ۱۸ ۚ بِأَعْوَابٍ وَأَبَارِيقَهِ وَكَأْسٍ

لڑکے (خادم) ہمیشہ رہنے والے (دیکھی پر) آنجورے اور آفتابے اور پیالے لے کر

مِنْ مَعِينٍ ۱۹ ۚ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ۲۰ ۚ وَ

مصفا پانی کے نہ سرد کھائے جائیں گے اس سے اور نہ بکواس کریں گے وہ اور

فَاِكْمَهُ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۲۱ ۚ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۲۲ ۚ

پھل لے کر جنہیں وہ پسند کریں گے اور گوشت پرندوں کا جو وہ چاہیں گے

وَحُورٌ عِينٌ ۲۳ ۚ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۲۴ ۚ جَزَاءُ رِيسَمًا

اندھڑی مولیٰ انھوں نے عورتیں ہونگی مانند موتیوں پھچائے ہوؤں کے (یعنی پاکباز) بدلہ کے طور پر اس کا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۲۵ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۲۶ ۚ

جو دھتے عمل کرتے نہ سنیں گے وہ اس میں بیہودہ اور نہ گناہ کی باتیں

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۲۷ ۚ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۲۸ ۚ مَا أَصْحَابُ

سوائے قول سلام سلام کے اور دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں

الْيَمِينِ ۲۸ ۚ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۲۹ ۚ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۳۰ ۚ وَظِلِّ

دائیں طرف والے بیڑوں میں بے کانٹے کے اور کپلے تہ بتہ اور سائے

مَّمْدُودٍ ۳۱ ۚ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۳۲ ۚ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۳۳ ۚ وَلَا

پیلے ہونے اور پانی بستے ہونے اور بیہودوں بافراط میں ہونگے (جو نہ

مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۳۴ ۚ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۳۵ ۚ إِنَّا

ختم کئے جانے والے ہونگے اور نہ روکے جانے والے اور (ہونگے) بیڑوں میں اعلیٰ درجہ کی یقیناً

أَنْشَأْنَاهُنَّ لِنِشَاءٍ ۳۶ ۚ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۳۷ ۚ عُرُبًا أَتْرَابًا ۳۸ ۚ

ہم نے پیدا کیا (انکو) اعلیٰ درجہ کا پیدا کرنا پھر بنایا ہم نے ان کو کنواریاں من موہن ہم عمر

لَا صُحْبَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٠﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ

دائے دائیں طرف والوں کے ایک جماعت ہے پہلے دوں میں سے اور ایک جماعت ہے

الْآخِرِينَ ﴿٤١﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ؕ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٣٣﴾

پچھلوں میں سے اور بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں بائیں طرف والے

فِي سَمُورٍ وَحَمِيمٍ ﴿٣٤﴾ وَظِلٌّ مِّنْ يَّخْمُومٍ ﴿٣٣﴾ لَا بَارِدٌ وَلَا

گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہونگے اور سایہ میں ہونگے کالے دھوئیں کے (جو نہ ٹھنڈا دھوکا) اور نہ

كَرِيمٍ ﴿٣٥﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٣٦﴾ وَكَانُوا

آرام وہ یقیناً وہ تھے پہلے اس سے آسودہ حال اور تھے وہ

يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٣٧﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ ؕ

اصرار کرتے گناہ بڑے پر اور تھے وہ کہا کرتے

أَيْدَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا مَّا ءَرَاتَا لَمَبْحُوثُونَ ﴿٣٨﴾

کیا جب مر جائیگے ہم اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ٹریاں تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے

أَوْ أَبَاؤُنَا أَمْ وَالَّذِينَ قَدَرْنَا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

یا باپ دادا ہمارے پہلے بھی تو کدے یقیناً پہلے اور پچھلے

لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّغْلُوبٍ ﴿٤١﴾ ثُمَّ نُنَكِّسُكُمْ

مزدور اکٹھے کئے جائیں گے وقت مقررہ پر دن مقرر کے پھر یقیناً تم

أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ ﴿٤٢﴾ لَا جِلْوَىٰ مِنْ شَجَرٍ وَمِن

اسے گزر ہو جھٹلانے والے ہو البتہ کمانے والے ہو درخت

رَقُومٍ ﴿٤٣﴾ فَمَا لِعُقُوبِ مِّنْهَا الْبُطُونَ ﴿٤٤﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ

تھوہر کا پھر بھرنے والے ہو اس سے پیوٹوں کو پھر پینے والے ہو اس پر سے

مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٤٥﴾ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٤٦﴾ هَذَا نُزْلُهُمْ

گرم پانی پھر پینے والے ہو پینا پیاس کے بیمار اونٹ کا یہ سمانی رہو گی انکی

يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿٤٨﴾

دن جزاء سزا کے ہم نے پیدا کیا تم کو پھر کیوں نہیں تم سچ سمجھتے

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿۶۱﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ

پھر بتاؤ تو سہی جو تم نطفہ ڈالتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم

الْحَٰلِقُونَ ﴿۶۲﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَهُمُ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ

پیدا کرنے والے ہیں ہم نے مقرر کر رکھی ہے درمیان تمہارے موت اور نہیں ہم

بِمَسْبُوقِينَ ﴿۶۳﴾ عَلَّٰنَ أَن تَبَدَّلَٰ مَثَٰلِ خُمْرٍ وَّنُشِئْكُمْ

ہرگز عاجز اس بات سے کہ بدل کر لائیں ہم مانند تمہاری اور پیدا کریں تم کو

فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۴﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَآءَ الْأُولَىٰ فَلَوْ

اس میں جو نہیں جانتے تم اور یقیناً جان لی تم نے پیدائش پہلی پھر کیوں

لَا تَذْكُرُونَ ﴿۶۵﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۶۶﴾ ءَأَنْتُمْ

نہیں نصیحت پکڑتے تم بھلا بتاؤ تو سہی جو تم بونٹے ہو کیا تم

تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّٰرِعُونَ ﴿۶۷﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ

اگاتے ہو اسے یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم کر دیں اس کو

حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿۶۸﴾ لَآ تَأْتِي الْغُرْمُونَ ﴿۶۹﴾ بَلْ نَحْنُ

ریزہ ریزہ پیرہ جاؤ تم باتیں بناتے کہ یقیناً ہم تاوان ڈالے گئے ہیں بلکہ ہم تو

مَحْرُومُونَ ﴿۷۰﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿۷۱﴾ ءَأَنْتُمْ

محروم ہیں پھر بتاؤ تو سہی کہ پانی جو پیتے ہو تم کیا تم نے

أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿۷۲﴾ لَوْ نَشَآءُ

آمارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے اگر ہم چاہیں

جَعَلْنَاهُ أَجَآءًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾ أَفَرَأَيْتُمْ النَّآرَ

تو کر دیں اس کو ہم کھڑا ہیں کیوں نہیں تم شکر کرتے پھر بتاؤ تو سہی کہ آگ

الَّتِي تُوْرُونَ ﴿۷۴﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ

جو روشن کرتے ہو تم کیا تم نے پیدا کیا ہے درخت اس کا یا ہم ہیں

الْمُنشِئُونَ ﴿۷۵﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَآءًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۶﴾

پیدا کرنے والے ہم نے بنایا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مسافروں کے لیے

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۶۷﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا رَمَى النَّجُومُ ﴿۶۸﴾

پس تسبیح کر ساتھ نام اپنے رب بڑے کے پس ضرور میں قسم کھاتا ہوں کرنے کی جگہوں کے ستاروں کے

وَأِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿۶۹﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۷۰﴾

اور یقیناً یہ البتہ قسم ہے اگر تم جانو بڑی یقیناً یہ البتہ قرآن ہے عزت والا

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۷۱﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۷۲﴾ تَنْزِيلُ

کتاب محفوظ میں نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ اُنسارا گیا ہے

مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۳﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِئُونَ ﴿۷۴﴾

طرف سے رب کی سب جہانوں کے کیا پس ساتھ اس حدیث کے تم چکنی چڑھی باتیں کرنے ہو

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۷۵﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ

اور بناتے ہو اپنا رزق یہ کہ تم جھٹلاتے ہو پس کیوں نہ جب پہنچی تھی (روح)

الْحَلْقُومَ ﴿۷۶﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿۷۷﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

گلے تک اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے اور ہم زیادہ قریب ہیں

إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿۷۸﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ

اس کی طرف تم سے دیکھ نہیں دیکھتے تھے تم پس کیوں نہ اگر تھے تم

مَدِينِينَ ﴿۷۹﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۰﴾ فَأَمَّا إِنْ

جزا دیئے جانے والے لوٹا لاتے اسے اگر ہو تم سے پس اگر

كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۸۱﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ

تھا (مرنے والا) مقربین میں سے تو راحت اور خوشبو اور باغات ہیں

نَعِيمٍ ﴿۸۲﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۸۳﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ

نعمتوں کے اور اگر تھا دائیں طرف والوں میں سے تو سلام ہو تیرے لیے

مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۸۴﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكذِّبِينَ ﴿۸۵﴾

طرف سے دائیں طرف والوں کی اور اگر تھا تکذیب کرنے والوں

الضَّالِّينَ ﴿۸۶﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿۸۷﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَاجِيمٍ ﴿۸۸﴾ إِنْ

گراہوں میں سے پس سہمانی ہے گرم پانی کی اور داخل ہونا ہے دوزخ میں یقیناً

هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿١٦﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٧﴾

یہ اللہ ہی حق یقینی ہے پس تسبیح کر ساتھ نام اپنے رب بڑے کے

سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدِينَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

تسبیح کرتا ہے اللہ کی جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ عزت والا حکمت والا

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى

اس کیلئے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ،

ہر بات پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ

اور وہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے وہی ہے جس نے پیدا کئے آسمان اور

الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، يَعْلَمُ مَا

زمین چھ وقتوں میں پھر قرار پکڑا عرش پر وہ جانتا ہے جو

يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے اور جو اترتا ہے آسمان سے

وَمَا يَعْرُبُ فِيهَا ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ، وَاللَّهُ بِمَا

اور جو چڑھتا ہے اس میں اور وہ ساتھ ہے تمہارے جہاں کہیں ہو تم اور اللہ اُسے جو

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِلَى

تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے اس کیلئے ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی اور طرف

اللَّهُ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ۖ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ

اللہ کی راتیں جانتے جانتے ہیں معاملات وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ أَمْ نُوَا

دن کو رات میں اور وہ خوب جانتے والا ہے سینوں والی بات کو ایمان لاؤ

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْتُمْ قَوْمٌ مَّا جَعَلَكُمْ مَسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ

اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس سے کہ بنایا تم کو جانشین (پہلوں کا) جس میں

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ قَوْمٌ مَّا جَعَلَكُمْ مَسْتَخْلَفِينَ ۗ وَمَا

پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے ان کے لیے اجر ہے بڑا اور کیا ہوا

لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا

تمہیں کہ نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر اور رسول بلاتا ہے تم کو کہ ایمان لاؤ تم

بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ

اپنے رب پر اور یقیناً اس نے یا عہد تم سے لیا ہو تم ایمان دار

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم

وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بند سے پر آیات کھلی کھلی تاکہ نکلے وہ تم کو

مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۗ

اندھیروں سے طرف نور کی اور یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ

اور کیا ہوا تمہیں کہ نہ خرچ کرو راہ میں اللہ کی اور اللہ کیلئے ہے میراث

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ

آسمانوں اور زمین کی نہیں برابر تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا پہلے

الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا

فتح کے اور لڑائی کی یہ لوگ بڑے ہیں درجہ میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا

مِّنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

بعد میں اور لڑائی کی اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے اچھا ، اور اللہ اسے جو

تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۱۱ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے جو شخص کہ قرض دے گا اللہ کو قرض اچھا

فِي ضِعْفِهِ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۱۲ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ

تو وہ دیکھا دیکھا اُسے اس کیلئے اور اس کیلئے اجر ہے عت والا جس دن تو دیکھے گا مومن مردوں کو

وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

اور مومن عورتوں کو چلے گا نور ان کا آگے ان کے اور دائیں ان کے

بُشْرًا لَّكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بشارت ہو تمہیں آج باغات ہیں بہتی ہیں نیچے جن کے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۳ يَوْمَ يَقُولُ

وہ پرٹنے والے ہوں میں یہ ہی کامیابی ہے بڑی جس دن کہیں گے

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا

منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ انتظار کرو ہمارا

نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا

ہم حاصل کریں نور تمہارا کہا جائے گا لوٹو پیچھے اپنے پس طلب کرو

نُورًا فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ يَسُورًا لَهُ بَابٌ مَّا بَاطِنُهُ فِيهِ

نور پھر کی جائے گی درمیان ان کے ایک دیوار اس کا دروازہ ہو گا اندرون اس کے میں

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۱۴ يُنَادُوا لَهُمْ

رحمت ہے اور بیرون اس کا آگے اس کے عذاب ہے وہ پکاریں گے انہیں

أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰعِنَّا لَكُمُ فَتَنَتُمْ أَنْفُسَكُمْ

کیا نہیں تھے ہم ساتھ تمہارے وہ کہیں گے کہوں نہیں لیکن تم نے فتنہ میں ڈالا اپنے تئیں

وَتَرَبَّبْتُمْ وَازْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ

اور انتظار کیا تم نے اور شک کیا تم نے اور دھوکہ میں ڈالا تم کو آرزوؤں نے یہاں تک کہ آیا جب حکم

اللَّهِ وَغَرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۱۵ قَالِ يَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ

اللہ کا اور فریب دیا تم کو متعلق اللہ کہ بہت فریبی رشتہ دار ہے، پس آج نہ لیا جائے گا تم سے

فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أَوْسَمُ النَّارُ هِيَ

فدیہ اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ٹھکانا تمہارا آگ ہے وہی

مَوْلَاكُمْ وَيَمْشِيَ الْمَصِيرُ ۱۶ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا

رفیق ہے تمہاری اور کیا ہی بُرا ہے ٹھکانا کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کیلئے جو ایمان لائے

أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لَا

کہ ڈر جائیں دل ان کے ذکر کے لیے اللہ کے اور اس کے لیے جو اترتا حق سے

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ

اور نہ ہوں وہ مانند ان لوگوں کی جو دیئے گئے کتاب پہلے سے پس لمبی ہو گئی ان پر

الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۱۷

مدت تو سخت ہو گئے دل ان کے اور بہت ان میں سے فاسق ہیں

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ

جان لو کہ اللہ زندہ کرنا ہے زمین کو بعد موت کے اس کی، یقیناً گواہ کر بیان کر چکے ہیں تمہارے

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۱۸ إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ

یہ آیات تاکہ تم عقل کرو یقیناً صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ

اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض دینا اچھا بڑھایا جائیگا ان کے لیے اور ان کی واسطے اجر ہے

كَرِيمٌ ۱۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ

باعزت اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر ان کے یہ لوگ ہی

الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

صدیق اور شہید ہیں نزدیک اپنے رب کے ان کے یہ اجر ہے ان کا

وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ

اور نور ان کا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تمذیب کی آیات کی ہماری یہ لوگ

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۲۰ إِعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ

اہل جہنم ہیں جان لو کہ زندگی دنیوی کھیل

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَجِدِّدِينَ فِيهَا وَأَنْزِلُ الْمَاءَ غَيْرَ مُتَجَدِّدٍ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْعَمَلِ
اور مشغلہ اور زینت اور نفع کرنا ہے آپس میں اور بڑھانے والوں میں

وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ آتَيْتُ بِهِ طَائِفًا مِّنَ النَّاسِ ثُمَّ قَامَ فِي سَائِرِهِمْ لَمْ يَلِدْ لَهُمْ لَوْلَا دَرَسُوا خَلْقًا لِّئَلَّا يَقُولُوا مَا خَلَقْنَا هَذِهِمْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْنَا بُرْهَانًا عَلَيْهِمْ فَاتَّخَذْتُمُ الْعِبَادَةَ حُجُجًا مِّنْ بَيْنِنَا وَمَا لَكُمْ لِمَا كَفَرْتُمْ مِنَّا حُجُجًا إِن كُنتُمْ مَعَنَا
اور اولاد میں مانند مینے کے خوش کیا کھیتی والوں کو روئیدگی نے ان کی پھر

يَهَيِّجُ فِتْرَتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي
وہ برستی ہے پھر تو دیکھے گا اُسے زرد پھر وہ ہو جائے گی چوڑا اور

الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَّا مَغْفِرَةٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا فِي الْآخِرَةِ
آخرت میں عذاب ہے سخت اور مغفرت ہے طرف سے اللہ کی اور رضامندی

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ ﴿۲۱﴾ سَابِقُوا إِلَى
اور نہیں زندگی دلی سوائے سامان دھوکے سبقت لے جاؤ طرف

مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ
بخشش کی طرف سے اپنے رب کی اور (طرف) جنت کی چوڑائی جس کی مانند چوڑائی آسمان اور

الْأَرْضِ أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ
زمین کی ہے تیار کی گئی ہے ان لوگوں کیلئے جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اسکے یہ

فَضْلٌ مِّن رَّبِّكَ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۲﴾
فضل ہے اللہ کا دیتا ہے اُسے جسے چاہتا ہے، اور اللہ فضل بڑے والا ہے

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا
نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ جانوں میں تمہاری مگر

فِي حِتِّبٍ مِّن قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَ هَآءِ آيَاتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ
ایک کتاب میں ہے پہلے اس کے کہ پیدا کریں ہم اسے، یقیناً یہ اللہ پر

يَسِيرٌ ﴿۲۳﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
آسان ہے تاکہ نہ غمگین ہو تم اس پر جو جاتا رہا تم سے اور نہ شہنی کرو اس پر جو

آتاكم وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۲۴﴾ لِّلَّذِينَ
اس نے دیا تم کو اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو جو

يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وَمَنْ يَتَوَلَّ

بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا اور جو پھر جائے

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۵﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا

توفیقاً اللہ ہی ہے پرواہ خوبیوں والا ہے یقیناً یقیناً بھیجے ہم نے رسول اپنے

بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

ساتھ دلائل کے اور اتاری ہم نے ساتھ ان کے کتاب اور میزان تاکہ قائم ہو جائیں

النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

لوگ انصاف پر اور اتارا ہم نے لوہا جس میں جگہ ہے سخت

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ

اور فائدہ ہے لوگوں کے لیے اور تاکہ ظاہر کرے اللہ اس کو جو مدد دیتا ہے اُسے اور رسولوں کو اس کے

بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۶﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا

بن دیکھے یقیناً اللہ طاقت والا عزت والا ہے اور یقیناً یقیناً بھیجا ہم نے نوح

وَأِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

اور ابراہیم کو اور رکھی ہم نے اولاد میں ان دونوں کی نبوت اور کتاب

فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۲۷﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا

پس بعض ان میں سے راہ پانپولے ہیں اور بہت ان میں سے فاسق ہیں پھر پیچھے لائے ہم

عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ

قدموں پر ان کے رسول اپنے اور پیچھے لائے ہم عیسیٰ بن مریم کو اور

آتَيْنَهُ الْوَحْيَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

دی ہم نے اُسے انجیل اور رکھی ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے پیروی کی اُسکی

رَأْفَةً وَرَحْمَةً، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا

نرمی اور مہربانی اور رہبانیت کرایجاد کیا انہوں نے اسے نہیں فرض کی ہم نے وہ

عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ

ان پر مگر چاہنے کے لیے رضامندی اللہ کی پس نہ رعایت کی انہوں نے اُسکی حتی

رِعَايَتَهَا، فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، وَ

رعایت کا پس دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں اجر ان کا اور

كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسَقُونَ ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

بہت سے ان میں سے فاسق ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو

اللَّهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ

اللہ سے اور ایمان لاؤ رسولوں پر اس کے دیگا تم کو دو چند اپنی رحمت سے

وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ

اور کرے گا تمہارے لیے نور چوگے تم جس میں اور بخشنے گا تم کو اور اللہ بہت

عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۹﴾ لَعَلَّآ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ

بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تاکہ نہ سمجھیں اہل کتاب کہ نہیں وہ قدرت رکھتے

عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ

کسی بات پر بھی فضل سے اللہ کے اور یقیناً فضل ہاتھ میں ہے اللہ کے

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۴۰﴾

وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے اور اللہ فضل بڑے والا ہے



الجزء ۲۸

سُورَةُ الْمَجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

یقیناً سنی تھی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑاتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں

وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ

اور شکایت کرتی تھی اللہ کی طرف اور اللہ سنتا تھا سوال جواب تمہارا یقیناً اللہ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۲ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ

سننے والا دیکھنے والا ہے وہ جو کہ ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیبیوں سے

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهُتُمْ لَا الْإِي وَالَّذِينَ هُمْ وَاوَدُوا

نہیں ہو جاتیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے جنا ان کو اور

إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ

البتہ کہتے ہیں نامعقول بات اور جھوٹ اور یقیناً اللہ معاف کنیوالا

عَفُورٌ ۳ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا

بخشنے والا ہے اور وہ جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیبیوں سے پھر رجوع کرتے ہیں اس سے جو

قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّ سَاءَ ذِكْرِكُمْ

کہا تھا تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کا پہلے اس سے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگاوین، یہ

تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۴ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

نصیحت دینی جاتے ہو تم اسکی، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے پھر جو کوئی نہ پاوے

فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّ سَاءَ فَمَنْ

تو روزے ہیں دو مہینے کے پے درپے پہلے اس سے کہ لگاوین ہاتھ ایک دوسرے کو، پھر جو کوئی

لَمْ يَسْتَطِعْ فَرَاطِعًا سِتِّينَ مَشْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا

نہ کر کے تو کھانا کھانا ہے ساتھ ساتھ چوں کو یہ اس لیے کہ ایمان رکھو تم

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ؕ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ

اللہ اور اس کے رسول پر اور یہ ہیں حدیں اللہ کی اور کافروں کے لیے عذاب

أَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا

درودناک ہے یقیناً جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہلکے کئے گئے جیسے

كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ؕ

ہلکے کئے گئے تھے وہ جو پہلے تھے ان سے اور اتاریں ہم نے آیتیں کھلی کھلی

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

اور کافروں کے لیے عذاب رُسوا کرنا والا ہے جس دن کہ اٹھاوے گا اللہ ان سب کو

فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ أَحْضَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ

توجاوے گا ان کو اسکے متعلق جو وہ کرتے تھے - محفوظ کر لیا اسکو اللہ نے اور وہ بھول گئے اسکو اور اللہ

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

ہر شے پر شاہد ہے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايِعُهُمْ

اور جو کچھ زمین میں ہے نہیں ہوتا ، کوئی خفیہ مشورہ تین شخصوں کا مگر وہ چوتھا ان کا ہے

وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا

اور نہ پانچ کا مگر وہ چھٹا ان کا ہے اور نہ کم اس سے اور نہ

أَكْثَرَ ۗ لَا هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا عَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا

زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو دیں پھر بتاوے گا ان کو اسکے متعلق

عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعَمَلِكُمْ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ

جو وہ کرتے تھے بروز قیامت یقیناً اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے کیا نہیں

تَرَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا

دیکھا تو نے ان کی طرف جو منع کئے گئے تھے خفیہ مشوروں سے پھر کرتے ہیں وہ کہ منع کئے گئے

ع ۱

عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْأَشْوَابِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ

جس سے اور مشورہ کرتے ہیں گناہ اور تعدی اور نافرمانی

الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ

رسول کے لیے اور جب آتے ہیں تیرے پاس سلام کرتے ہیں تجھ کو ان لفظوں میں جنہیں نہیں جائز رکھا تیرے لیے

اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا

اللہ نے اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ بوجہ اُسکے جو

نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ہم کہتے ہیں کافی ہے ان کو دوزخ داخل ہونگے اس میں پس بُری ہے پھرنے کی جگہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَشْوَابِ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم مشورہ کرو تو مت مشورہ کرو گناہ

وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبَيِّنَاتِ

اور تعدی اور نافرمانی کا رسول کے لیے اور مشورہ کرو بیکسی اور

التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا

تقویٰ کے لیے اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھے کئے جاؤ گے

النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ

خفیہ سازشیں کرنا محض شیطان سے ہے تاکہ وہ غمگین کرے ان کو جو ایمان لائے اور نہیں

بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

ضرر پہنچانے والا ان کو کچھ بھی بجز اذن الہی کے اور اللہ پر پس توکل کریں

الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا

ایمان والے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کہا جائے تم کو کھل جاؤ

فِي الْمَجْلِسِ فَاقْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

مجلسوں میں تو کھل جاؤ کشادہ کریگا اللہ تم کو اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو

فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِثْكُمْ وَلَا الَّذِينَ أُوتُوا

تو اٹھ کھڑے ہو بلند کریگا اللہ ان کو جو ایمان لائے تم میں سے اور وہ جو دیئے گئے

الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

علم درجوں میں اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے اسے لوگو جو

أَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِقِينَ يَدَيْ

ایمان لائے ہو جب مشورہ کرنے کو آؤ تم رسول سے تو کرو پلے اپنے

نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ

مشورہ سے کچھ خیرات یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ پھر اگر

لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۸﴾ أَسْأَلْتُمْ أَنْ

نہ پاؤ تم تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے کیا ڈر گئے تم اس سے کہ

تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ

آگے بھیجو تم پہلے اپنے مشورہ کرنے کے خیرات پھر جس وقت نہ

تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

کیا تم نے اور رجوع برحمت ہوا اللہ تم پر تو قائم رکھو نماز کو اور دو

الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اسکے رسول کی اور اللہ باخبر ہے اس سے جو

تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

تم کرتے ہو کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کی جو نفاق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ ناراض ہوا

اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۚ وَيَخْلِفُونَ عَلَى

اللہ جن پر نہیں وہ تم میں سے اور نہ ان میں سے اور وہ تمہیں کھلتے ہیں

الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

جھوٹ پر اور وہ جانتے ہیں تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾ وَإِتَّخَذُوا أَيْمَانًا نَّهُمْ

یقیناً بُرا ہے جو وہ کرتے ہیں بنایا انہوں نے اپنی قسم کو

جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۲۲﴾

ڈھال تو روکتے ہیں راہ خدا سے ہیں ان کے لیے عذاب ہے رُسا کر نوا لائے

۲۸

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ آَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ

ہرگز نہ کام آئیں گے ان کو مال ان کے اور نہ انکی اولاد اللہ کے

شَيْءًا ۱۸ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۱۸ يَوْمَ

مقابل کچھ یہی ہیں آگ والے وہ ہی اس میں ہمیش رہیں گے جس دن

يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُخَلِّفُونَ لَهُ كَمَا يَخَلِّفُونَ لَكُمْ

اٹھائے گا اللہ ان سب کو تو تمہیں کھاویں گے اس کے سامنے جیسے وہ تمہیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے

وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۱۹ اَلَا لَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُونَ ۱۹

اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی شے پر ہیں خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنسَهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۲۰

غالب آیا ان پر شیطان تو بھلا دیا ان کو ذکر الہی

اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۲۱ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ

یہی ہے گروہ شیطان کا خبردار ہو یقیناً گروہ شیطانی ہی

الْخٰسِرُونَ ۲۰ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحٰدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ

نقصان پانوالے ہیں یقیناً جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا وہی ہیں

فِي الْاٰذٰنِ ۲۱ كَتَبَ اللّٰهُ لَاغْلِبَنَّ اَنَا وَرَسُوْلِي ۲۱ اِنَّ اللّٰهَ

ذیل لوگوں میں سے لکھ رکھا ہے اللہ نے کہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول یقیناً اللہ

قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۲۲ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

غالب عزت والا ہے نہیں پائیں گے تو کسی قوم کو جو ایمان لاتی ہو اللہ اور دن

الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حٰدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا

آخر پر کہ دوستی کریں اس سے جو مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور خواہ ہوں

اَبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۲۳

ان کے باپ یا بیٹے ان کے یا بھائی ان کے یا کنیہ ان کا

اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ

یہی ہیں کہ لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تائید کی انکی اپنی روح سے

مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور داخل کرے گا ان کو بہشتوں میں جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ

ہمیش رہیں گے ان میں راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یہی ہیں

حِزْبِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۳﴾

گروہ خدا کے خیر دار ہوتیوں گروہ اللہ کے ہی فلاح پانے والے ہیں

سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ

تسبیح کرتا ہے خدا کی وہ جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے اور وہی غالب

الْحَكِيمُ ﴿۲﴾ هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ

حکمت والا ہے وہی ہے جس نے نکالا ان کو جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے

مِنْ دِيَارِهِمْ لَا وَّلَ الْاَحْشَرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا

ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع میں نہ لگان کرتے تھے تم کہ وہ نکل جاویں گے

وَزَطُّوْا اَنْتُمْ مَا نِعْتُمْ حُصُوْنَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَنْتُمْ

اور لگان کرتے تھے یہ کہ بچاویں گے ان کو نفع ان کے خدا سے پھر آیا ان پر

اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ

عذاب الہی اس جگہ سے کہ نہ جانتھا انہوں نے اور ڈال دیا ان کے دلوں میں

الرُّعْبَ يَخْرِبُوْنَ بِيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِي

رعب وہ اجاڑتے تھے اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھوں سے

الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۚ وَلَوْ لَا أَنْ

مومنوں کے پس عبرت پکڑو اسے آنکھوں والو اور اگر نہ

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي

مقرر کر رکھا ہوتا اللہ نے ان پر جلا وطن کرنا تو بھی عذاب دیتا ان کو دنیا میں اور ان کے لیے

الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ

آخرت میں عذاب ہے آگ کا یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور

رَسُولَهُ، وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ مَا

اگے رسول کی اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے جو

قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنِهِ أَوْ تَرَكَتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا

کاٹ ڈالائے کوئی تنہا درخت کا یا چھوڑ دیا تم نے اس کو کھڑا اپنی جڑوں پر

فِي آذَانِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۚ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ

مگر اذن الہی سے اور تاکہ رسوا ہوں فاسق اور جو بخشش کی اللہ نے اپنے

رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

رسول پر ان میں سے پس نہیں دوڑائے تم نے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ

وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ مُسَلِّطِي رُسُلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

اور لعن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے اور اللہ ہر شے

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

پر قادر ہے جو پہنچایا اللہ نے اپنے رسول پر اہل بستی میں سے

فِي اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

پس اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور فقیروں

وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ نہ ہو ہاتھوں ہاتھ لینا درمیان دو متمددوں کے

مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

تم میں سے اور جو کچھ دے تم کو رسول پس لے لو اس کو اور جس سے منع کرے تم کو

فَاسْتَهْوَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۸﴾

تو باز رہو اور ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

یہ مال محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے

وَأَمْوَالِهِمْ يُبْتَغُونَ فِضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَ

اور اپنے مالوں سے وہ چاہتے ہیں فضل الہی اور رضامندی اور

يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۹﴾

مدد دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو یہی ہیں سچے اور

الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّيْنَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ

انکے لیے جنہوں نے بنائے مگر اور (اختیار کیا) ایمان پہلے ان سے وہ محبت کرتے ہیں

مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً

اس سے جو ہجرت کرتا ہے انہی طرف اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں غلش

مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

اس سے جو وہ (مہاجرین) دینے جائیں اور مقدم کرتے ہیں انکو اپنے نفس پر خواہ ہو ان کو

خِصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

ستلگی اور جو کوئی بچایا جائیگا بخل نفسانی سے پس یہی ہیں

الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

فلاح پانے والے اور وہ جو آئے پیچھے ان کے کہتے ہیں

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

اے رب ہمارے بخشد سے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو سبقت کر گئے ہم سے ایمان میں

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کینہ ان کے لیے جو ایمان لائے اے رب ہمارے یقیناً تو ہی

رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ

شفقت کر نیوالا مہربان ہے کیا نہیں دیکھا تو نے ان کی طرف جو منافق ہوئے کہتے ہیں

وَقَالَ

الْحَشْر

لَا خَوَانِيَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ

اپنے بھائیوں کو جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اگر

أَخْرَجْتُمْ لَخُرُوجٍ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا

تم نکالے جاؤ گے ضرور ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ اور نہ کہانیں گے تمہارے بارے میں کسی کا

أَبْدَاءُ وَإِنْ قُوَّتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ

کبھی بھی اور اگر طوائف کئے جاؤ گے تم ضرور ہم مدد دیں گے تم کو اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً وہ

كَذِبُونَ ﴿۱۲﴾ لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ

البتہ جھوٹے ہیں اگر نکالے گئے وہ نہ نکلیں گے یہ ان کے ساتھ اور اگر

قُوَّتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ تَصَرُّوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ

طوائف کئے گئے نہیں مدد دیں گے وہ ان کو اور اگر مدد دیں ان کو البتہ پھیریں گے

الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿۱۳﴾ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي

پیشیں پھر نہ وہ مدد دیتے جاؤ گے البتہ ہونم زیادہ تر ڈریں

صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۴﴾ لَا

ان کے سینوں میں بنسبت اللہ کے یہ بوجہ اس کے ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو نہیں سمجھتی نہ

يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ

دوڑیں گے تم سے اکٹھے ہو کر مگر بستیوں محفوظ میں یا آڑ میں

جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَ

دیوار کی طوائف ان کی باہم سخت ہے گمان کرتا ہے تو ان کو اکٹھے اور

قَلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۵﴾ كَمَثَلِ

ان کے دل متفرق ہیں یہ بوجہ اس کے کہ وہ ایک قوم ہے جو نہیں عقل کرتے مانند حالت

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ

ان کے جو پہلے تھے ان سے نزدیک ہی چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا اور ان کے لیے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلآدِنَسَانِ اكْفُرُوا

عذاب دردناک ہے مانند حالت شیطان کے ہے جس وقت کہا اس نے آدمی کو کفر کر

فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ

پھر جب اس نے کفر کیا کہا یقیناً میں بیزار ہوں تجھ سے یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب

الْعَالَمِينَ ﴿۱۷﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ

العالمین ہے پس ہوا انجام ان دونوں کا یہ کہ وہ آگ میں ہیں ہمیشہ رہنے والے

فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اس میں اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا اے لوگو

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِهِ وَ

جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور دیکھے ہر جی جو کچھ آگے بھیجا کل کے لیے اور

اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَا تَكُونُوا

ڈرو اللہ سے یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو اور مت ہو

كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمُ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ

ماندان کے جو بھول گئے اللہ کو تو بھلا دیئے ان کو (خدا نے) انکے نفس یہی ہیں

الْفٰسِقُونَ ﴿۲۰﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

فاسق ناسق نہیں برابر ہوتے آگ والے اور بہشت والے

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۱﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

بہشت والے ہی مراد پانے والے ہیں اگر ہم اتارتے اس قرآن کو

عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ

پہاڑ پر البتہ دیکھتا تو اس کو دب جانے والا پھٹ جانے والا ڈر سے اللہ کے

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۲﴾

اور یہ مثالیں ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں انکو لوگوں کے لیے تاکہ وہ فکر کریں

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ

وہ ہے اللہ کہ نہیں کوئی معبود بجز اس کے جاننے والا غیب کا اور ظاہر کا ہے

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ

وہ ہے رحمن رحیم وہی ہے اللہ کہ نہیں کوئی معبود بجز اس کے

تفسیر

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ

بادشاہ بہت پاک سلامتی والا امن دینے والا حفاظت کرنیوالا غالب

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ دُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۲۳ هُوَ اللَّهُ

زبردست بڑی عظمت والا ہے پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک لاتے ہیں وہی ہے اللہ

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۲۴ يُسَبِّحُ

پیدا کرنیوالا درست کرنیوالا صورتیں بنانیوالا اسی کے لیے نام اچھے ہیں تسبیح کرتا ہے

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۲۵ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۲۶

اسی کی ہر ایک جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے

سُورَةُ الْمُتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہومت بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو

أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا

دوست کہ پیغام بھیجو تم ان کی طرف محبت کے حال کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو

جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ

آیا ہے تمہارے پاس حق سے وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی اس لیے کہ

تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي

ایمان لائے ہو تم اللہ اپنے رب پر اگر ہو تم نکلے جہاد کے لیے

سَبِيلِي ۚ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسْرُدُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ۚ وَ

میری راہ میں اور بغرض حصول میری رضامندی کے کیا چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف پیغام دوستی کے اور

تسبیح

أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِثْلَكُمْ

میں خوب جانتا ہوں اس کو جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور جو کوئی کرے اس کو تم میں سے

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۱۲ إِنْ يَشْقَوْكُمْ يَكُونُوا

تو یقیناً گمراہ ہوا راہ سیدھی سے اگر وہ پاویں تم کو ہوں گے

لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمُ

تمہارے دشمن اور دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں

بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۱۳ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ

برائی کے لیے اور چاہتے ہیں کاش کہ تم کافر ہوتے ہرگز نہ فائدہ دیں گے تم کو تمہارے نانتے

وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۱۴ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ

اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن جہاں ڈال دے گا تمہارے درمیان اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۵ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي

اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے یقیناً ہے تمہارے لیے نمونہ نیک

إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ

ابراہیم میں اور ان میں جو اسکے ساتھ تھے جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم کو یقیناً ہم بیزار ہیں

مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا

تم سے اور ان سے کہ جہکی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے کافر ہوئے ہم تم سے اور ظاہر

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا

ہوئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ ایمان لاؤ تم

بِاللَّهِ وَخَذَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ

اللہ واحد پر مگر کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ البتہ بخشش انہوں کا میں تیرے لیے

وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۱۶ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَخَّلْنَا

اور نہیں میں اختیار رکھتا تیرے لیے اللہ سے کچھ بھی اے ہمارے رب تجھ تیری ہم نے بھروسہ کیا

وَأِلَيْكَ آتَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۱۷ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

اور تیری طرف رجوع کیا ہم نے اور تیری طرف ہے پھر جانا اے رب ہمارے مت بنا ہمیں آزمائش

مُتَحَنِّنًا

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

ان کیلئے جو کافر ہوئے اور بخش ہم کو اے رب ہمارے یقیناً تو ہی غالب

الْحَكِيمُ ۶ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

حکمت والا ہے البتہ ہے تمہارے لیے ان میں پیروی نیک اس کے لیے جو ہے

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ

امید رکھتا اللہ اور دن پچھلے کی اور جو کوئی پھر جاوے پس یقیناً اللہ تو ہے

الْغَنِيِّ الْحَمِيدُ ۷ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ

بے پروا تعریف کیلگی قرب ہے اللہ کہ کر دیوے درمیان تمہارے اور درمیان

الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ

ان کے کہ عداوت رکھتے ہو تم جن سے دوستی اور اللہ قادر ہے اور اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۸ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ

بخشنے والا مہربان ہے نہیں روکتا تم کو اللہ ان سے جو نہیں لڑے تم سے

فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

دین کے بارے میں اور نہیں نکال دیا تم کو تمہارے گھروں سے یہ کہ تم احسان کرو ان سے

وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۹ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ۱۰ إِنَّمَا

اور انصاف کرو ان سے یقیناً اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو صرف

يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم

منع کرتا ہے تم کو اللہ محض ان سے جو لڑے تم سے دین کے معاملہ میں اور نکال دیا تم کو

مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُمْ

تمہارے گھروں سے اور مدد کی انہوں نے تمہارے نکال دینے پر یہ کہ دوستی کرو تم ان سے

وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۱۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور جو کوئی دوستی کرے ان سے تو یہی ہیں ظالم ہیں اے لوگو

أَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۱۲

جو ایمان لائے ہو جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو آزمائش کرو ان کی

ع ۱

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا

اللہ خوب جانتا ہے انکے ایمانوں کو پس اگر جانو تم ان کو ایمان والیاں تو

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ

مت لوٹاؤ ان کو کفار کی طرف نہیں وہ عورتیں حلال کافروں کیلئے اور نہیں وہ حلال ہیں ان

لَهُنَّ دَوَائِبُهُنَّ مَا آتَفَقُوا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ

عورتوں کیلئے، اور دو ان کافروں کو جو خرچ کیا انہوں نے اور نہیں گناہ تم پر کہ

تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا

نکاح کرو ان سے جبکہ دو تم ان کو ہر ان کے اور مت روکو نکاح

بِعَصْرِ الْكُوفِرِ وَسَلُّوْا مَا آتَفَقْتُمْ وَلَيْسَلُّوْا مَا آتَفَقُوا ۗ

کافر عورتوں کا اور مانگ لو ان سے جو خرچ کیا تم نے اور وہ مانگ لیں جو خرچ کیا انہوں نے

ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۱۰

یہ حکم خدا کا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے درمیان تمہارے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور

إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَلَيْكُمْ

اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے کوئی تمہاری عورتوں میں سے کفار کی طرف پھر تمہاری نوبت آوے

فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا آتَفَقُوا ۗ

تو پھر دو ان کو جو جاتی رہی ہیں ان کی بیویاں مانند اس کے جو خرچ کیا انہوں نے اور

اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝۱۱۱ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا

درو اللہ سے جس پر تم ایمان لاتے ہو اے نبی جب

جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ

آویں تیرے پاس مومن عورتیں کہ بیعت کریں تیری اس شرط پر کہ نہ شریک ٹھراویں اللہ کا

شَيْئًا وَلَا يَشْرِكْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ

کسی کو اور نہ چوری کریں اور نہ زنا کریں اور نہ قتل کریں اولاد اپنی

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ

اور نہ لاویں بہتان کہ باندھ لیں اس کو درمیان اپنے ہاتھوں کے اور

أَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُمْ وَ

اپنے پاؤں کے اور نہ نافرمانی کریں تیری نیک کام میں پس بیعت قبول کر ان سے اور

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ذَاتَ اللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

بخشش مانگ ان کے لیے اللہ سے یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے اسے لوگو

أَمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا

جو ایمان لائے ہومت دوستی کرو اس قوم سے کہ ناراض ہوا اللہ جن پر یقیناً وہ ناامید ہوئے

مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۱۴

آخرت سے جیسے ناامید ہوئے کافر قبروں والوں سے

تفسیر

سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (اور) رحیم ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِیْزُ

تسبیح کرتا ہے اللہ کی جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے اور وہ غالب

الْحَكِیْمُ ۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا

حکمت والا ہے اسے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں تم کہتے ہو جو نہیں

تَفْعَلُونَ ۳ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۴

کرتے تم بڑے غضب کی بات ہے نزدیک خدا کے یہ کہہ جو نہیں کرتے خود

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ

یقیناً اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں صف باندھ کر گویا کہ وہ

بُنِيَّانٌ مَّرْصُومٌ ۵ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ

دیواریں سیسہ پلائی ہوئی ہیں اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم کیوں تم

تُوذُوْنِي وَ قَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ فَلَمَّا

ایزا دیتے ہو مجھ کو اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں خدا کا تمہاری طرف پس جب

زَاغُوْا اِذَا غَا اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۙ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

وہ ٹیڑھے ہو گئے ٹیڑھا کر دیا خدا نے ان کے دلوں کو اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم

الْفٰسِقِيْنَ ۙ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ اِنِّي

فاسقوں کو اور جس وقت کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل یقیناً میں

رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التّٰوْرَةِ

رسول ہوں خدا کا تمہاری طرف تصدیق کرتا ہوا اسکی جو میرے آگے ہے تورات سے

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ ۙ فَلَمَّا

اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آویگا میرے بعد اس کا نام احمد ہے پس جب

جَاۗءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْٓا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ وَاَمَنْ اَظْلَمُ

آیا انکے پاس وہ پیغمبر روشن نشانوں کے ساتھ کہنے لگے یہ جادو ہے ظاہر اور کون بہت ظالم ہے

مِمَّنْ اَفْتَرٰٓى عَلٰی اللّٰهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ

اس سے جو باندھ لیتا ہے اللہ پر جھوٹ اور وہ پکارا جاتا ہے اسلام کی طرف

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۙ يٰرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا

اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کو وہ چاہتے ہیں کہ بجھائیں

نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ۙ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَ لَوْ كَرِهَ

نور الہی اپنے مومنوں سے اور اللہ پورا کر نیا لایا ہے اپنے نور کو خواہ بڑا لگے

الْكٰفِرُوْنَ ۙ هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰٓى وَ دِيْنِ الْحَقِّ

کافروں کو وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے

لِيُظْهِرَهُ عَلٰی الدِّيْنِ كُلِّهِ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۙ يٰۤاَيُّهَا

تا کہ غالب کرے اسکو تمام مذاہب پر خواہ ناپسند کریں مشرک اے

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هٰذَا اَدْلُكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ

لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں مطلع کروں تم کو ایک تجارت پر جو نجات دے تم کو

عَذَابِ آلِيمٍ ۱۱ تُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاْهُدُوْنَ

عذاب دردناک سے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو

فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

راہ خدا میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۱۲ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ

ہو تم جانتے وہ بخشے گا تمہیں گناہ تمہارے اور داخل کرے گا تم کو بہشتوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ

جاری ہوں گی جن کے نیچے نہریں اور رہنے کی جگہ پاکیزہ ہیں باغات عدن

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۳ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مَنْ

یہ ہے مراد بڑا اور ایک اور ہے کہ چاہتے ہو تم جبکو وہ مدد خدا کی طرف سے

وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۱۴ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۱۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور فتح قریب ہے اور بشارت دے ایمان والوں کو اے لوگو جو ایمان لائے ہو

كُونُوا أَتْصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ

ہو جاؤ تم مدد دینے والے اللہ کیلئے جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو

مَنْ أَتْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۱۶ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَتْصَارُ

کون مدد دینے والا ہے میرا خدا کے لیے کہا حواریوں نے ہم مدد دینے والے ہیں

اللَّهُ فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ

خدا کیلئے پس ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل سے اور کفر کیا ایک گروہ نے

فَأَيُّدُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۱۷

پس تائید کی تھی ہم نے ان کی جو ایمان لائے تھے انکے دشمنوں کے مقابل تو ہو گئے وہ غالب



سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدِينَةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے جو رحمن اور رحیم ہے

يَسْتَعِزُّ بِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

تسبیح کرتا ہے خدا کی جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے بادشاہ بہت پاک

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رُسُلًا

غالب باحکمت ہے وہی ہے جس نے بھیجا اُمیوں میں رسول

مَنْهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

انہی میں سے کہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب

وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۳ ۞

اور حکمت اور یقیناً تھے وہ پہلے اُس سے البتہ گمراہی ظاہر میں اور

آخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۴

دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی نہیں ملے ان سے اور وہی ہے غالب حکمت والا

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

یہ فضل الہی ہے وہ دیتا ہے اس کو جسے چاہے اور اللہ فضل

الْعَظِيمِ ۵ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا

بڑے والا ہے حالت ان کی جو اٹھائے گئے تورات پھر نہ اٹھایا انہوں نے اسکو

كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَتَّخِذُ أَسْفَادًا يَشْتَرِي بِهَا الْقَوْمَ الَّذِينَ

ماند مثال گدھے کے ہے جو اٹھاتا ہے کتابوں کو بڑی ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۶ قُلْ

جھٹلایا آیات الہی کو اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کو کہہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ

اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو اگر دعویٰ کرتے ہو تم یہ کہ تم دوست ہو اللہ کے

دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷﴾

سوائے لوگوں کے تو آرزو کرو تم موت کی اگر ہو تم سچے

وَلَا يَتَمَنَّوْنَہٗ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ

اور آرزو کریں گے وہ اس کی کبھی بھی بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے اور اللہ

عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۸﴾ قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ

جاتا ہے ظالموں کو کہ یقیناً موت ہے وہ کہ بھاگتے ہو تم

مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

جس سے پس یقیناً وہ ملنے والی ہے تم سے پھر لوٹائے جاؤ گے تم طرف جاننے والے غیب

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ يَا أَيُّهَا

اور ظاہر کے پھر وہ بتا دیکھو تم کو انکے متعلق جو تھے تم کرتے اے

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

لوگو جو ایمان لائے ہو جبکہ پکارا جائے نماز کے لیے دن جمعہ کے

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

تو جلدی جاؤ طرف ذکر اللہ کے اور چھوڑ دو خرید و فروخت یہ بہتر ہے تمہارے لیے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا

اگر ہو تم جانتے پس جب تمام کی جائے نماز تو پھیل جاؤ

فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ

زمین میں اور چاہو فضل الہی سے اور یاد کرو اللہ کو

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا

بہت تاکہ تم فلاح پاؤ اور جبکہ وہ دیکھتے ہیں تجارت یا تماشہ

بِأَنْفُسِهِمْ فَانفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُمْ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

دوڑے جاتے ہیں اسکی طرف اور چھوڑ جلتے ہیں تمھو کو کھڑا کہ جو پاس اللہ کے ہے بہتر ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

تاہے اور تجارت سے اور اللہ بہتر ہے رزق دینے والا

سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ

جس وقت آتے تیرے پاس منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً تو اللہ کے رسول ہے

اللّٰهِ وَاِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ اَنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَاِنَّهُمْ لَيَشْهَدُونَ

اللہ کا اور اللہ جانتا ہے یقیناً تو اللہ کے رسول ہے اس کا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً

الْمُنْفِقِينَ كَذِبُونَ ۲ اَتَّخَذُوا اٰيْمَانَهُمْ جُنَّةً

منافق البتہ جھوٹے ہیں بنایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال

فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۳

پھر روکا راہ خدا سے یقیناً وہ بُرا ہے جو وہ ہیں کرتے

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فِطْرَةَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

یہ ابوجرا کے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پس ٹھہرا دی گئی ان کے دلوں پر

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۴ وَاِذَا رَاٰيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اٰجْسَامُهُمْ

تو وہ نہیں سمجھتے اور جب تو دیکھتا ہے انکو اچھے لگتے ہیں تجھے ان کے بدن

وَاِنْ يَقُوْلُوْا تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خَشَبٌ مُّسْتَدْعٰٓةٌ

اور اگر وہ بات کہتے ہیں کان رکھتا ہے انکی بات کی طرف گویا کہ وہ کھڑیاں ہیں گئی ہوئی دیوار سے

يَخْسَبُونَ كُلَّ صٰحِحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوْا فَآخِذْهُمْ

وہ جانتے ہیں ہر ایک حادثہ کو کہ پڑے گا ان پر وہ دشمن ہیں پس چوکس رہ ان سے

۶۳

۶۳

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ زَاتِي يُؤْفَكُونَ ۵ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا

ماریں ان کو خدا کی کہاں سے وہ پھرے جاتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ

يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّازٍ وَسَمْ وَرَأَيْتَهُمْ

بخشش مانگے تمہارے لیے رسول اللہ کا موڑتے ہیں اپنے سر اور تو دیکھتا ہے ان کو

يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۶ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ

کر وہ باز رہتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں - برابر ہے ان پر کہ بخشش مانگے تو ان کیلئے

أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا

یا نہ بخشش مانگے ان کے لیے ہرگز نہ بخشے گا اللہ ان کو یقیناً اللہ نہیں

يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۷ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا

ہدایت کرتا قوم فاسقوں کو وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو

عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۸ وَرَبُّهُ خَزَائِنُ

ان پر جو پاس رسول اللہ کے ہیں یہاں تک کہ بھاگ جاویں اور اللہ کے لیے ہیں خزانے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۸ يَقُولُونَ

آسمان اور زمین کے ولیکن منافق نہیں سمجھتے کہتے ہیں

لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدْيَنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۹

کہ اگر پھر جاویں ہم مدینہ کی طرف اللہ نکالیں گے بڑے معزز اس میں سے بڑے ذلیل کو

وَرَبُّهُ الْعِزَّةُ ۹ وَرَسُولُهُ ۹ وَيَلْمُؤْمِنِينَ ۹ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ

اور اللہ کیلئے ہے عزت اور اسکے رسول اور ایمان والوں کے لیے ولیکن منافق

لَا يَعْلَمُونَ ۱۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

نہیں جانتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ غافل کریں تم کو مال تمہارے

وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۱۰ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

اور نہ اولاد تمہاری ذکر سے اللہ کے اور جو کوئی کرے یہ کام تو یہی لوگ ہیں

هُمُ الْخٰسِرُونَ ۱۰ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

خسارہ پانے والے اور خرچ کرو اس سے جو دیا ہم نے تم کو پہلے اس سے کہ

يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ آجَلٍ

آوے کسی کو تم میں سے موت پھر کہے اسے میرے رب کیوں نہ ہلت دی تو نے مجھ کو ایک وقت

قَرِيبٍ ۙ فَأَصْدَقَ ۚ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۱ وَلَنْ يُوَخَّرَ

نزدیک تک تو خیرات دیتا میں اور ہوتا میں نیکو کاروں سے اور ہرگز نہ ڈھیل دیگا

اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۲

اللہ کسی جان کو جب آویگی اہل اس کی اور اللہ بانبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو

سُورَةُ التَّغَابِنِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَ

تسبیح کرتا ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کی بادشاہی ہے اور

لَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ

اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳

بعض تم میں سے کافر ہیں اور بعض تم میں سے مومن اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ

پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو برحق اور صورتیں بنائیں تمہاری پھر اچھی بنائیں

صُورَكُمْ ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝۴ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

صورتیں تمہاری اور اس کی طرف ہے پھر جانا جانتا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے

وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

اور جانتا ہے جو کہ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ جانتا ہے بات

الصُّدُورِ ۵ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ

سینوں والی کو کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان کی جو کافر ہوئے پہلے

فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۶ ذَلِكِ بِأَنَّهُ

تو چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا اور ان کیلئے عذاب دردناک ہے یہ بوجہ اس کے

كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا أَبْشَرِيَّهُمْ ذُنُوبًا

کہ آتے تھے ان کے پاس رسول روشن نشانوں کے ساتھ تو کہا انہوں نے کیا آدمی راہ دکھادیں گے ہم کو

فَكَفَرُوا وَاتَّوَلَّوْا ۷ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۸ ذَعَمَ

پس وہ کافر ہوئے اور منہ پھیر لیا اور بے پروائی کی خدا نے اور اللہ بے پروا ہے تعریف کیا گیا دعویٰ کیا

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ

انہوں نے جنہوں نے حق پوشی کی کہ ہرگز نہ اٹھائے جاویں گے وہ کہہ کیوں نہیں قسم ہے رب کی کہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے پھر

لَتَنْبُوْنَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۷ وَذَلِكِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۸ فَاْمِنُوا

البتہ خبر دے جاؤ گے اس کے متعلق جو کیا ہے تم نے اور یہ اللہ پر آسان ہے پس ایمان لاؤ

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۷ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو نازل کیا ہم نے اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو

خَبِيرٌ ۹ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكِ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۷

باخبر ہے جس دن اکٹھا کرے گا تم کو دن اکٹھا کرنے کے یہ ہے دن ہارجیت کا

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنهُ سَيِّئَاتِهِ ۷

اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے اچھے دور کر دیگا اس سے اس کی برائیاں اور

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

داخل کرے گا اس کو بہشتوں میں جاری ہونگی نیچے ان کے نہیں رہنے والے ہیں اس میں

أَبَدًا ۷ ذَلِكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

ہمیشہ یہ ہے مراد پانا بڑا اور جنہوں نے حق پوشی کی اور جھٹلایا

بِأَيْعَتَانَا ۷ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۷ وَسَاءَ

ہماری آیات کو یہی ہیں آگ والے رہنے والے اس میں اور بُری ہے

۱۱۵
التغابن

الْمَصِيرُ ۱۱ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ

پہرنے کی جگہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت بجز اذن الہی کے اور جو کوئی

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۱۲ وَأَطِيعُوا

ایمان لاوے اللہ پر وہ ہدایت کرتا ہے اسکے دل کو، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے اور اطاعت کرو

اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا

اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر پھر جاو گے تم تو صرف ہمارے رسول پر تو

الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۱۳ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

پہنچا دینا ہے کھلا کھلا اللہ نہیں کوئی معبود بجز اسکے، اور اللہ ہی پر پس توکل کریں

الْمُؤْمِنُونَ ۱۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ آذَانِكُمْ وَ

ایمان والے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً تمہاری نیویوں اور

أَوْلَادِكُمْ عِدَّةٌ وَاللَّهُ فَاحِذُوا ذُرُوعَهُمْ، وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا

تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں تمہارے پس بچو ان سے اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو

وَتَخَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۵ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ

اور بخشش دو ان کو پس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے تمہارے مال اور

أَوْلَادِكُمْ فَتَنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۱۶ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا

تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہے، اور اللہ کے ہی پاس ہے ثواب بڑا پس ڈرو اللہ سے جتنا

اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

ڈر سکو تم اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو بہتر ہوگا تمہاری جانوں کے لیے

وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْخًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۱۷ إِن

اور جو کوئی بچا یا جاوے بخل نفسان سے پس یہی ہیں فلاح پانویا لے اگر

تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ

قرض دو اللہ کو قرض اچھا وہ بڑھا دینگا اس کو تمہارے لیے اور بخشنے کا تم کو اور

اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۱۸ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيمُ الْحَكِيمُ ۱۹

اللہ قدر دان تحمل والا ہے جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا غالب حکمت والا ہے۔

۱۱۶

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

اے نبی جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو ان کو انکی عدت کے شروع میں

وَاحْضُوا الْعِدَّةَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ

اور شمار رکھو عدت کا اور ڈرو اللہ سے اپنے رب سے، مت نکالو ان کو اپنے

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِشَّةٌ مُّبَيِّنَةٌ

گھروں سے اور نہ نکل جائیں وہ عورتیں مگر یہ کہ کریں بے حیائی کھلی کھلی

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

اور یہ احکام ہیں اللہ کے اور جو کوئی نکل جاوے حدود الہی سے پس اس نے ظلم کیا

نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۲

اپنی جان پر نہیں جانتا ہے تو شاید کہ اللہ پیدا کرے پیچھے اس کے کچھ بات

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

پھر جب پہنچیں وہ اپنی معاد کو تو روک رکھو ان کو اچھی طرح یا

فَارْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهُدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ

عدا کر دو ان کو دستور کے موافق اور گواہ کر لو دو صاحب عدل اپنے میں سے اور

أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

تاقم کرو گواہی خدا کے لیے یہ بات ہے کہ نصیحت دیا جاتا ہے اس کی ہر ایک جو ایمان لاوے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

اللہ اور دن پچھلے پر اور جو کوئی ڈرے اللہ سے کرے گا وہ اس کیلئے

مَخْرَجًا ۱۱ وَيَزُرُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

کوئی راہ نکلنے کی اور رزق دیکھا اس جگہ سے جس کا نہیں گمان اسے اور جو توکل کرے

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ؕ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ ؕ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ

الذیہر پس وہ کافی ہے اس کو یقیناً اللہ پہنچنے والا ہے اپنے مقصد کو ، مقرر کیا اللہ نے

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۱۲ وَالرَّيِّنُ يَثْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

ہر شے کے لیے اندازہ اور وہ عورتیں جو ناسید ہو گئی ہوں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے

إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالرَّيِّنُ لَهُمْ يَحْضَنَ ؕ وَ

اگر شک میں ہو تم تو عدت ان کی تین مہینے ہے اور اسی طرح وہ جو نہیں عاقض ہوئیں اور

أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَتَّقِ

حمل والیاں وقت ان کا کہ کر لیں وضع حمل اپنا اور جو کوئی ڈرے

اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۱۳ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ

اللہ سے تو وہ کرے گا اس کیلئے اس کا کام آسان یہ ہے حکم خدا کا اتنا ہے اسکو

إِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۱۴ وَيُخْرِجْهُ

تمہاری طرف اور جو کوئی ڈرے اللہ سے دُور کر دے گا اس سے اس کی بُرائیاں اور بڑھادے گا اس کو

أَجْرًا ۱۵ أَشْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا

تُوَابِ رہنے دو ان کو جس طرح سے رہتے ہو تم اپنے مقدور سے اور مت

تَضَارَّوهُنَّ لِتَصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ؕ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ

ایذا دو ان کو تاکہ تنگی کرو ان پر اور اگر ہوں وہ حمل والیاں

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ کر لیں وضع حمل اپنا پھر اگر وہ دودھ پلاویں

لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ؕ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ؕ

تمہاری خاطر تو دو ان کو اجرت ان کی اور موافقت رکھو آپس میں عمدگی سے

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهَا أُخْرَى ۱۶ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ

اور اگر ایک دوسرے سے تنگی کرو تو دودھ پلاوے اس کو دوسری خرچ کرے صاحب وسعت

مِنْ سَعَتِهِ ۷ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اپنی وسعت کے مطابق اور وہ کہ تنگ کیا گیا جس پر اس کا رزق تو وہ خرچ کرے اس سے جو دیا ہے اسکو

اللَّهُ ۸ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

اللہ نے نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جی کو مگر اس کے موافق جو دے رکھا ہے اسکو۔ ضرور کرے گا اللہ نیچے

عُسْرٍ يَشَاءُ ۹ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا

تنگی کے آسانی اور بہت بستیاں ہیں سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے

وَرُسُلِهِ فَحَاَسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا

اور اس کے رسولوں سے تو کیا ہم نے ان سے حساب سخت اور دی ہم نے ان کو

عَذَابًا نَكْرًا ۱۰ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ

سزا بُری پس پکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا اور تھا انجام

أَمْرِهَا خُسْرًا ۱۱ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا

اپنے کام کا خسار تیار کیا اللہ نے ان کیلئے عذاب سخت پس ڈرو

اللَّهُ يَا دُولِيَ الْأَلْبَابِ ۱۲ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ

اللہ سے اسے عقل مندو وہ جو ایمان لائے ہو یقیناً اتارا ہے اللہ نے تمہاری طرف

ذِكْرًا ۱۱ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ

نبیعت کر نیوالا رسول پڑھتا ہے تم پر آیات الہی بیان کر نیوالی تاکہ نکالے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

ان کو جو ایمان لائے اور کام کئے اچھے اندھیروں سے روشنی کی طرف

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے اچھے داخل کرے گا اس کو بہشتوں میں جنتی ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ

نیچے ان کے نہریں رہنے والے ہونگے اس میں ہمیشہ بے شک اچھا دیا اللہ نے

لَهُ رِزْقًا ۱۲ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ

اس کو رزق اللہ وہ ہے جس نے پیدا کئے سات آسمان اور زمین سے

۱۸

۱۲

مِثْلَهُمْ يَنْزَلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ لِيَتْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

ماندان کے اترتا ہے حکم اس کا درمیان ان کے تاکر جانو تم یہ کہ اللہ ہر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۱۳

شے پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کو علم میں

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (رحمن اور) رحیم ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، تَبْتَغِي

اے نبی کیوں حرام کرتا ہے اسکو جو حلال کیا اللہ نے تیرے لیے تو چاہتا ہے

مَرْضَاتٍ ۚ زَوَّاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ

رضامندی اپنی بیویوں کی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یقیناً مقرر کر دیا ہے اللہ نے

لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ

تمہارے لیے کھولنے تمہاری قسموں کو اور اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ جانتے والا

الْحَكِيمُ ۝۳ وَإِذَا أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا

حکمت والا ہے اور جب چھپا رکھی نبی نے طرف بعض اپنی بی بی کے ایک بات

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ ۚ وَ

پس جب خبر دی اس بی بی نے اس بات کی اور ظاہر کر دیا اسکو اللہ نے اس پر تو بخشادی اس نے بعض بات اسکی اور

أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ أُنْبَأُكَ

منہ پھیر لیا بعض سے توجب خبر کی اسکی بی بی کو اس جانیے کی کہنے لگی کس نے خبر کی تم کو

هَذَا ۚ قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَيْرُ ۝۴ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ

اس کی کہا خبر کی مجھ کو صاحب علم باخبر نے اگر تم توبہ کرتی ہو دونوں اللہ کی طرف

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، وَإِنْ تَظَهَّرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ

تو جھک گئے دل تمہارے اور اگر ایک دوسرے کی مدد کرو گی اسکے خلاف توفیقاً اللہ ہے اس کا

مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ

دوست اور جبریل اور صالح لوگ مومن بھی اور فرشتے بھی بعد

ذَلِكَ ظَهِيرُهُ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا

اس کے مددگار ہیں قریب ہے اس کا رب کہ اگر وہ طلاق دے تم کو یہ کہ بدلہ میں دے اسکو بیسیاں

خَيْرًا مِمَّنْ كُنْتُمْ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَئْتَبِينَ عَمَدَاتٍ

بہتر تم سے مسلمان ایمان والیاں فرمانبردار توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں

سَلِيحَاتٍ تَتَّبِعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا

روزہ دار بیباہی ہوئی اور باکرہ عورتیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ

أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

اپنی جانوں اور اپنے اہل کو آگ سے کہ ایندھن اس کا لوگ اور پتھر ہیں

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

اس پر مقرر ہیں فرشتے سخت زور آور نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی جو حکم کرے انکو

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا

اور کرتے ہیں جو حکم کئے جاتے ہیں اے لوگو جو کافر ہوئے ہو مت عذر کرو

أَيُّومًا لَّمَّا تَجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آج صرت تم بدلہ دینے جاؤ گے اسکا جو تم کرتے تھے اے لوگو جو

آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ

ایمان لائے ہو توبہ کرو طرف اللہ کی توبہ خالص قریب ہے رب تمہارا دور کر دے

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

تم سے بُرائیاں تمہاری اور داخل کرے تم کو بہشتوں میں جاری ہوں گی ان کے نیچے

الْأَنْهَارِ لَا يُمْسِكُهُمْ فِيهَا وَاللَّهُ نَبِيٌّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ،

نہیں جس دن کہ نہ رسوا کریگا اللہ نبی کو اور ان کو جو ایمان لائے اسکے ساتھ

۱۸
۱۹

نُورُهُمْ يَسْخَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ

ان کا نور دوڑتا ہوگا آگے ان کے اور انکے دائیں طرف کہیں گے

رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

لے رہا ہے پورا کر ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش ہم کو یقیناً تو ہر شے پر

قَدِيرٌ ۱۱ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

تاد رہے اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے اور سختی کر

عَلَيْهِمْ وَمَا أُوهُمْ جَهَنَّمَ ذَا بئسَ الْمَصِيرُ ۱۲ ضَرَبَ اللَّهُ

ان پر اور ٹھکانا ان کا دوزخ ہے اور بُری ہے پھرنے کی جگہ بیان کی اللہ نے

مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا

مثال ان کے لیے جو کافر ہوئے عورت نوح اور عورت لوط کی دونوں تھیں

تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَا نَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا

ما تحت دو بندوں کے ہمارے بندوں نیکو کاروں میں سے پس خیانت کی ان دونوں نے انکی نوز کا آئے دونوں

عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۱۳ وَ

ان عورتوں کے اللہ کے مقابل کچھ اور کہا گیا داخل ہو آگ میں ساتھ داخل ہونے والوں کے اور

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ

بیان کی اللہ نے مثال ان کے لیے جو ایمان لائے عورت فرعون کی جب کہا اس نے

رَبِّ ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ

اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے حضور گھر بہشت میں اور نجات دے مجھ کو فرعون

وَعَمَلِیْ وَنَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۱۴ وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ

اور اسکے عمل سے اور نجات دے مجھ کو قوم ظالموں سے اور مریم بیٹی

عِمْرَانَ الَّتِیْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَ

عمران جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی تو پھر چھو کا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے اور

صَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الصَّالِحَاتِ ۱۵

مانتی تھی کلمات اپنے رب کے اور اسکی کتابیں اور تھی وہ فرمانبرداروں میں سے

سُورَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر شے پر

قَدِيرٌ ۲ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

قادر ہے جس نے بنائے موت اور زندگی تاکہ آزمائے تم کو کونسا تم میں سے

أَحْسَنُ عَمَلًا ۳ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۴ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

بہتر ہے عمل میں اور وہ غالب بخشنے والا ہے جس نے بنائے سات

سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۵ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيتٍ ۶

آسمان اوپر تلے نہ دیکھے گا تو پیدائش رحمن میں کوئی نقص

فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ ۷ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۸ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

پس دوبارہ نظر کر کیا دیکھتا ہے تو کوئی تشکاف پھر دوبارہ نظر کر

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۹ وَ

دو دفعہ پھر آوے گی تیری طرف نظر ذلیل ہو کر اور وہ تھکی ہوئی ہے اور

لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا

البتہ آراستہ کیا ہم نے آسمان دُنیا کو چراغوں سے اور بنایا ہم نے انکو زد

لِلشَّيْطَانِ ۱۰ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۱۱ وَالَّذِينَ

شیطانوں کے لیے اور تیار کیا ہم نے ان کیلئے عذاب دوزخ سے اور ان کے لیے جو

كَفَرُوا ابْرِبَتِهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ۱۲ وَيَسُئُ الْمَصِيرُ ۱۳ إِذَا

کافر ہوئے اپنے رب کے عذاب ہے دوزخ کا اور بُری ہے پھرنے کی جگہ جب

تَبْرَكَ الَّذِي ۲۹

الْقَوَا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿۸﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ

ڈالے جاویں گے اس میں سین کے اس کی نور کی آواز اور وہ جوش کرتی ہوگی قریب ہے کہ پھٹ جاوے

مِنَ الْغَيْظِ ۚ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ

جوش سے جب ڈالی جاوے گی اس میں کوئی جماعت بلوچیں گے ان سے چونکہ اس کے کیا نہ

يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿۹﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَ

آیا تمہارے پاس کون ڈرانوالا کہیں گے کیوں نہیں بلکہ آیا تمہارے پاس ڈرانوالا، مگر جھٹلایا ہم نے اور

قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ؕ إِن أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿۱۰﴾

کہا ہم نے میں اتارا اللہ نے کچھ نہیں ہو تم مگر گمراہی بڑی میں

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۱۱﴾

اور کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے یا سمجھتے نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں سے

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۚ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۱۲﴾ إِنَّ

پس اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا پس دوری ہے دوزخ والوں کو یقیناً

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان دیکھے ان کے لیے بخشش اور ثواب

كَبِيرٌ ﴿۱۳﴾ وَأَسْرَأُ قَوْلُكُمْ أَوْ أَجْهَرُ وَإِيَّاهُ ؕ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

بڑا ہے اور تم چھپاؤ اپنی بات یا پکار کر کہو اس کو یقیناً وہ جانتا ہے بات

الضُّورِ ﴿۱۴﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۵﴾ هُوَ

سینوں والی کو کیا نہ جانے وہ جس نے پیدا کیا اور باریک دیکھنے والا باخبر ہے وہ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ

جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ماتحت پس چلو اسکی راہوں میں اور

كُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿۱۶﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

کھاؤ اس کے رزق سے اور اسکی طرف جی اٹھنا ہے کیا نڈر ہو تم اس سے کہ جو آسمان میں ہے

أَن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿۱۷﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنَ

یکہ دھسا دلوے تم کو زمین میں پھراچانک وہ جنبش کرے یا نڈر ہو تم اس سے جو

فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ

آسمانوں میں ہے یہ کہ بھیجے تم پر مینہ پتھروں کا پھر البتہ جانو گے کیسا تھا

نَذِيرٍ ۱۸ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۱۹

میرا ڈرانا اور البتہ جھٹلایا انہوں نے جو پہلے تھے ان سے پس کیسا ہوا عذاب میرا

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ مِمَّا

کیا نہ دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کے اپنے اوپر پر رکھوے ہوئے اور سمیٹ بھی لیتے ہیں نہیں

يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۲۰ ۚ أَمَّنْ هَذَا

روک سکتا ان کو بجز رحمان کے یقیناً وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے آیا کون ہے وہ

الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ ۚ إِنَّ

جو شکر ہو تمہارا مدد دے تم کو سوائے رحمان کے نہیں ہیں

الْكُفْرُونَ ۚ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۲۱ ۚ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ

کافر مگر فریب میں یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو اگر

أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجَّوْا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۲۲ ۚ أَفَمَن يَّمْشِي

روک لیوے اپنا رزق بلکہ لگے جاتے ہیں سرکشی اور نفرت میں پس کیا وہ جو چلتا ہے

مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ أَهْدَىٰ أَمَّن يَّمْشِي سَوِيًّا ۚ أَعَلَىٰ صِرَاطٍ

اوندھا اپنے منہ کے بل بہت ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو چلتا ہے سیدھا راہ

مُسْتَقِيمٍ ۲۳ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

راست پر کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور بناٹے تمہارے لیے کان

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۲۴ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي

اور آنکھیں اور دل تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو کہ وہی ہے جس نے

ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۲۵ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا

پھیلایا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے اور کہتے ہیں کب ہے یہ

الْوَعْدُ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۲۶ ۚ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

وعدہ اگر ہو تم سچے کہ علم تو صرف اللہ ہی کے نزدیک ہے

وَقَوْلِهِمْ
لَقَدْ كُنَّا
رُحَمَاءَ
بَيْنَ يَدَيْ
رَبِّنَا
وَمَا كُنَّا
بِعَبْدِينَ
لِغَيْرِ اللَّهِ
فَلْيُرْسِلْ
عَلَيْهِمْ
سَمَاءً
مِّن سَمَاءٍ
أُخْرَىٰ
مِثْلَ
الَّتِي
كُنَّا
عَلَيْهَا
مُتَلَدِّمِينَ

وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ

اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کھلا کھلا پس جب دیکھیں گے اسکو نزدیک بگڑ جاویں گے منہ ان کے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿۲۷﴾ قُلْ

جو کافر ہوئے اور کہا جائیگا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے کہ

اَرءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكْنِي اللهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِزُّ

کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کرے مجھ کو اللہ اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں یا رحمت کرے ہم پر تو کون پناہ دیکھا

الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ اَلَيْمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ اَمْتًا بِهِ

کافروں کو عذاب دردناک سے کہ وہ ہے رحمن کہ ایمان لائے ہم اس پر

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ

اور اسی پر توکل کیا ہم نے، پس ضرور جانو گے تم کون ہے گمراہی ظاہر میں کہ

اَرءَيْتُمْ اِنْ اَضْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿۳۱﴾

تاؤ تو سہی اگر ہو جاوے تمہارا پانی خشک تو کون لاوے گا تمہارے پاس پانی جاری

سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ رحمن رحیم کے

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿۲﴾ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

قسم ہے قلم کی اور اسکی جو لکھتے ہیں نہیں تو فضل سے اپنے رب کے

بِمَجْنُونٍ ﴿۳﴾ وَاِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿۴﴾ وَاِنَّكَ لَعَلٰی

دیوانہ اور یقیناً تیرے لیے بہتر ثواب ہے بے انتہا اور یقیناً تو البتہ

خُلِقَ عَظِيْمٍ ﴿۵﴾ فَسْتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿۶﴾ يَا سَيِّدُ الْمَفْتُونِ ﴿۷﴾

خلق بڑے بڑے ہے پس ضرور دیکھے گا تو اور وہ بھی دیکھیں گے کہ کون تم میں سے جھٹلی ہے

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ

یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اسکو جو گمراہ ہوا اس کی راہ سے اور وہی جانتا ہے

بِالْمُهْتَدِينَ ۙ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۙ [۹] وَذُؤَالْوُدْهِنُ

راہ پانے والوں کو پس مت کہمان جھٹلانے والوں کا وہ چاہتے ہیں کہ تو نرمی کرے

فِي دَهْنُونَ ۙ [۱۰] وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۙ [۱۱] هَمَّا زَمَنَّا

تو وہ بھی نرمی کریں اور مت کہمان ہر ایک سنگدل قسم کھانیوالے ذلیل کا عیب جو چھٹنے والا

بِنَوْمٍ ۙ [۱۲] مَتَّكِرٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ۙ [۱۳] عَتَلٌ بَعْدَ ذٰلِكَ

ساتھ چھٹی کے متغ کرنیوالا بھلائی سے سرکش گنہگار سنگدل پیچھے اس کے

زَيْمٍ ۙ [۱۴] اِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۙ [۱۵] اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا

حرامی بھی اس لیے کہتھا مال اور اولاد والا جب پڑھی جاتی تھیں اس پر ہماری آیتیں

قَالَ اَسَاطِيرُ اٰلٍ وَّاٰلِهٰتٍ ۙ [۱۶] سَنَسِيْمُهُ عَلٰى الْخُرْطُوْمِ ۙ [۱۷]

کہتا کہانیاں ہیں پہلوں کی ضرور ہم داغ دینگے اس کو ناک پر

اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۙ اِذَا اَقْسَمُوْا

یقیناً آزمایا ہم نے ان کو جیسا کہ آزمایا تھا ہم نے باغ والوں کو جبکہ قسم کھاتی انہوں نے

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۙ [۱۸] وَلَا يَسْتَمْتِنُوْنَ ۙ [۱۹] فَطَافَ عَلَيْهَا

البتہ کاٹ ڈالیں گے اسکو صبح ہوتے ہی اور نہ تھے وہ انشاء اللہ کہتے پس پھر گیا اس پر

طَآئِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ ۙ [۲۰] فَاصْبَحْتَ كَالصَّرِيْمِ ۙ [۲۱]

ایک پھر جانیوالا عذاب تیزے لب کا اور وہ سوتے تھے پس صبح کو اٹھے جیسے جڑے گئے ہوتے ہیں

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۙ [۲۲] اِنْ اَعْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

تو ایک دوسرے کو وہ پکارنے لگے صبح ہوتے ہی یہ کہ سویرے چلو اپنی کھیتی پر اگر ہوتم

صَادِرِيْنَ ۙ [۲۳] فَاَنْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَفَتُوْنَ ۙ [۲۴] اِنْ لَا

کاٹنے والے پھر وہ اور وہ چکے چکے پائیں کرتے تھے یہ کہ نہ

يَدْخُلْنَهَا اَلْيَوْمَ عَلٰيكُمْ مَّسْكِيْنَ ۙ [۲۵] وَاعْدُوْا عَلٰى حَرْدٍ

آجائے آج تمہارے پاس کوئی فقیر اور سویرے گئے پورے اہتمام سے

قَادِرِينَ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿۲۷﴾ بَلْ

اندازہ کرتے ہوئے ہیں جب دیکھا انہوں نے اسکو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں بلکہ

نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۲۸﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا

ہم محروم ہیں کہا ان میں سے بہتر آدمی نے کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ کیوں نہیں

تُسَبِّحُونَ ﴿۲۹﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۰﴾ فَأَقْبَلَ

تسبیح کرتے تم کہا انہوں نے پاک ہے ہمارا رب یقیناً ہم تھے ظالم پھر گئے

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا

ایک دوسرے کو علامت کرنے کہا انہوں نے اے وائے ہم پر یقیناً ہم تھے

طٰغِينَ ﴿۳۲﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا

سرکش قریب ہے کہ ہمارا رب بدلا دیوے ہم کو بہتر اس سے یقیناً ہم اپنے رب کی طرف

رَاغِبُونَ ﴿۳۳﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ

رغبت کر رہے ہیں اسی کی طرف ہے عذاب اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے کاش

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿۳۵﴾

ہوتے وہ جانتے یقیناً متقیوں کے لیے پاس انکے رب کے بہشت ہیں نعمتوں والے

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۶﴾ مَا لَكُمْ بِذٰلِكَ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۳۷﴾

پس کیا ہم کر دیں مسلمانوں کو مانند گنہگاروں کے کیا ہے نہیں کیا فیصلہ کرتے ہو

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿۳۸﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَّا تَخَيَّرُوْنَ ﴿۳۹﴾

کیا تمہارے لیے ہے کوئی کتاب کہ اس میں پڑھتے ہو یقیناً تمہارے لیے ہے اس میں جو پسند کرو

اَمْ لَكُمْ اٰيْمَانٌ عَلَيْنَا بَآلِغَةٌ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَّا

کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر پہنچنے والی دن قیامت تک یقیناً تمہارے لیے ہے جو

تَحْكُمُوْنَ ﴿۴۰﴾ سَلٰمٌ عَلَيْهِمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿۴۱﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۙ

فیصلہ کرنے ہو پوچھ ان سے کون ان میں سے ہے اس پر ضامن کیا ان کے لیے شریک ہیں

فَلْيَا تُوٰ اِشْرٰكًا يٰمُرَانِ كَا نُوٰ اَضْرٰقِيْنَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن

توے آویں اپنے شریکوں کو اگر ہیں وہ سچے جس دن کہ کھولا جائیگا

سَاقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَبِيحُونَ ﴿۳۳﴾ خَاشِعَةً

پنڈلی سے اور وہ بلائے جاویں گے سجدہ کی طرف تو نہ وہ کہہ سکیں گے نیچے ہوں گی

أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً ۚ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ

آنکھیں ان کی ڈھانسی ہوگی ان کو ذلت اور وہ بلائے جاتے تھے سجدہ کی طرف

وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿۳۴﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ ۚ

اور وہ اچھے بچے تھے پس چھوڑ مجھ کو اور اس کو جو جھٹلاتا ہے اس بات کو

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي

آہستہ آہستہ ہم کھینچیں گے ان کو اسی طرح کہ نہیں وہ جانتے اور میں ڈھیل دوں گا انکو یقیناً میری تدبیر

مَتِينٌ ﴿۳۶﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿۳۷﴾ أَمْ

مضبوط ہے کیا مانگتا ہے تو ان سے کچھ بدلہ تو وہ تاوان سے بوجھل ہیں کیا

عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۳۸﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا

انکے پاس غیب ہے کہ وہ کھہہ لیتے ہیں پس صبر کر حکم اپنے رب کیلئے اور مت

تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۳۹﴾ لَوْ لَا

ہو مانند پھلی والے کے جس وقت کہ پکارا اس نے اور وہ غم سے بھرا تھا اگر نہ

أَنْ تَذَرَهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَئِنَّمَا لَإِذَا جَاءَهُمْ حَبْلٌ مِنْ مِيلَانِ ۚ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۴۰﴾

پایا ہوتا اس کو نعمت نے جو اسکے رب کی طرف سے تھی البتہ ڈالا جانا وہ چیل میلان میں اور وہ ہوتا ملامت کیا گیا

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۱﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ

مگر برگزیدہ کیا اسکو اسکے رب نے پھر کیا اس کو نیکو کاروں سے اور البتہ قریب ہے وہ جو

كَفَرُوا أَلَيْسَ لِقَوْلِكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ

کافر ہوئے کہ گرا دیں تجھ کو اپنی نظروں میں جب سنتے ہیں ذکر اور

يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۴۲﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۴۳﴾

کہتے ہیں یقیناً یہ البتہ لوانہ ہے اور نہیں یہ مگر نصیحت جانوں کے لیے

وَقَالَ لَهُ

وَقَالَ لَهُ



سُورَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

الْحَاقَّةُ ۲ مَا الْحَاقَّةُ ۳ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ ۴ كَذَّبَتْ

تج مچ ہونیوالی کیا ہے یقیناً ہونیوالی اور کس چیز نے جھٹلایا تجھ کو کہ کیا ہے یقیناً ہونیوالی جھٹلایا تھا

ثَمُوْدُ وَاَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ۵ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاهْلِكُوْا

ثمود اور عاد نے ٹھوک کر سمجھانے والی کو پس جو ثمود تھے تو وہ ہلاک کئے گئے

بِالطَّٰغِیَةِ ۶ وَاَمَّا عَادُ فَاهْلِكُوْا بِرِیْحٍ صَّرْصَرًا تِیۡةً ۷

بوجہ حد سے بڑھی ہوئی نافرمانی کے، اور جو عاد تھے تو ہلاک کئے گئے ہوا

سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمٰنِیۡةَ اَیَّامٍ حُسُوْمًا ۸ فَتَرٰی

کر لگا رکھا تھا اسکو ان پر سات رات اور آٹھ دن برابر پس دیکھتا تھا

الْقَوْمَ فِیْهَا صَرَغٰی ۹ كَاَنَّهُمْ اَعْجَابُ زُنْحُلٍ خَاوِیۡةٍ ۱۰ فَهَلْ

تو اس قوم کو اس میں گری ہوئی گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے کھوکھلے پس کیا

تَرٰی لَهُمْ مِّنْ بَاقِیَةِ ۱۱ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَ

دیکھتا ہے تو ان میں سے کوئی باقی اور آیا فرعون اور جو پہلے اس سے تھے اور

الْمُوْتِفِکْتُ بِالْغَاطِطَةِ ۱۲ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ

ان جانہوالی بیستوں والے بوجہ خطا کاروں کے پس نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی پھر پکڑا ان کو

اِخْذَةً رَّابِیۡةً ۱۳ اِنَّا لَمَاطِعَا الْمَآءِ حَمَلْنٰكُمْ فِی الْجَارِیَةِ ۱۴

پکڑنا بڑھ چڑھ کر یقیناً ہم نے جب طغیان کی پانی نے چڑھایا تم کو کشتی میں

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذٰکِرَةً وَتَعِیۡهَا اُذُنٌ وَّاعِیۡةٌ ۱۵ فَاِذَا

تا کہ ہم بنا دیں اسکو تمہارے لیے یادگار اور یاد رکھے اسکو کوئی کان یاد رکھنے والا پس جب

نُفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ۱۳ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

پھڑکا جاویگا صور میں پھوکنا ایک بار اُکرا اٹھان جاویگی زمین اور پہاڑ

فَكَتَادَكَةٌ وَاحِدَةٌ ۱۵ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۱۶ وَانْشَقَّتِ

پھر توڑے جاویگے توڑنا ایک بار تو اس دن ہوڑے گی ہوڑنے والی اور پھٹ جاویگا

السَّمَاءُ فَرَمِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۱۸ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۱۷

آسمان پس وہ اس دن سُست ہوگا اور فرشتے ہونگے اس کے کناروں پر

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمْنِيَةٌ ۱۸ يَوْمَئِذٍ

اور اٹھادیں گے تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن آٹھ اس دن

تُحَرِّضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۱۹ فَاَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ

رو بردلائے جاوے نہ چھی رہے گی تم سے کوئی بات چھی ہونی پس جو کوئی دیا گیا عمل نام اپنا

بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا قَرَأْتُ ۲۰ وَإِكْتِيبِيهِ ۲۱ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي

اپنے داہنے ہاتھ میں تو کہے گا لو پڑھو عمل نام میرا یقیناً میں جانتا تھا کہ میں

مُلِقٍ حِسَابِيهِ ۲۱ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۲۲ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۲۳

ملنے والا ہوں اپنے حساب سے پس وہ ہے عیش خاطر خواہ میں بہتت بریں میں ہوگا

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۲۴ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي

کہیوے اس کے چھکے ہونگے کھاؤ اور پیو مزے سے بدلے اسکے جو کچھ ہو تم

الْآيَاتِ الْخَالِيَةِ ۲۵ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ

ایام گذشتہ میں اور جو کوئی دیا گیا اپنا عمل نام اپنے بائیں ہاتھ میں تو کہے گا وہ

يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ ۲۶ وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيهِ ۲۷ يَلِيَّتَهَا

اے کاش کہ میں نہ دیا گیا ہوتا اپنا امان نام اور نہ جانتا میں کیا ہے میرا حساب اے کاش کہ موت

كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۲۸ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۲۹ هَلَكَ عَنِّي

ہوتی یہ تمام کرنے والی نہ کام آئے میرے مال میرے جاتا رہا مجھ سے

سُلْطَنِيهِ ۳۰ خُذْهُ فَغُلُّوهُ ۳۱ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۳۲ ثُمَّ فِي

غلبہ میرا پکڑو اسکو پھر طوق پناؤ پھر دوزخ میں لے جاؤ اسکو پھر

سَلْسَلَةٍ دَرَعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ^[۳۲] إِنَّهُ كَانَ لَا

زنجیریں کہ پیمائش اسکی ستر ہاتھ ہے پھر داخل کرو اس کو یقیناً وہ تھا نہ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ^[۳۳] وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَشْكِينِ ^[۳۵]

ایمان لاتا اللہ عظمت والے پر اور نہ ترغیب دیتا تھا طعام مسکین کے لیے

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ^[۳۴] وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ^[۳۶]

پس نہیں اس کا آج اس جگہ کوئی دوست اور نہ کھانا بجز دھون زخموں کے

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ^[۳۸] فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ^[۳۹] وَمَا

نہ کھائے گا اسکو کوئی بجز گناہ کاروں کے پس میں قسم کھاتا ہوں اسکی جو دیکھتے ہو تم اور اسکی

لَا تُبْصَرُونَ ^[۴۰] إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ^[۴۱] وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

جو نہیں دیکھتے تم یقیناً وہ البتہ قول ہے رسول معزز کا اور نہیں وہ قول شاعر کا

قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ^[۴۲] وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ^[۴۳]

تھوڑا ہی تم ایمان لاتے ہو اور نہیں قول کاهن کا تھوڑا ہی تم نصیحت پکارتے ہو

تَنْزِيلٍ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ^[۴۴] وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ^[۴۵]

آوارا ہوا ہے طرف سے رب العالمین کے اور اگر یہ گھڑیوں سے ہم پر بعض باتیں

لَاخَذْنَا مِمَّنْهُ بِالْيَمِينِ ^[۴۶] ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ^[۴۷] فَمَا

البتہ پکڑتے ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پھر کاٹ ڈالتے ہم اس سے رگ گردن کو پھر نہ

مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ^[۴۸] وَإِنَّهُ لَتَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ^[۴۹]

ہوے تم میں سے کوئی اس سے روکنے والا اور یقیناً یہ البتہ یاد دہانی ہے متقیوں کے لیے

وَأِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ^[۵۰] وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَىٰ

اور یقیناً ہم البتہ جانتے ہیں کہ بعض تم میں سے جھٹلانے والے ہیں اور یقیناً یہ البتہ حسرت ہوتی

الْكُفْرِينَ ^[۵۱] وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ^[۵۲] فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ^[۵۳]

کافروں کے لیے اور یقیناً یہ البتہ بالکل یقینی بات ہے پس تسبیح کر نام اپنے رب عظمت والے کی

سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۲ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۳

پوچھا ایک پوچھنے والے نے عذاب کی بابت جو واقع ہوئیوالا ہے کافروں پر نہیں کوئی اسکو دفع کرنے والا عذاب

مِّنَ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ ۴ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي

طرف سے اللہ کی ہے جو بہت بندوں پر ہے چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۵ فَاصْبِرْ صَبْرًا

اس دن کو مقدار اس کی پچاس ہزار برس ہے پس صبر کر صبر

جَمِيلًا ۶ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۷ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۸ يَوْمَ

اچھا یقیناً وہ دیکھتے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک جس دن

تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۹ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۱۰ وَلَا

ہوگا آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور ہوں گے پہاڑ مانند دھنی ہوئی پتھم کے اور نہ

يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۱۱ يَبْصُرُونََّهُمْ يَوْمَ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ

پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کو وہ دکھلائے جاویں گے ان کو چاہے گا گنگار کا شکر کہ

يَقْتَدِي مِن عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۱۲ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۱۳

بدلہ دیوے عذاب سے اس دن کے اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ اور اپنا بھائی

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُسَوِّهُ ۱۴ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُهْمُ إِلَيْهِ ۱۵

اور اپنا کنبہ جو پناہ دیتا تھا اس کو اور وہ سب جو بھی زمین میں ہیں سارے بھر چھڑا دے یہ بدلہ دینا اس کو

كَلَّا إِنَّهَا لَنظَى ۱۶ نَزَّاعَةً لِّلشَّوْىِ ۱۷ تَدْعُوا مَنَآذِرَ

ہرگز نہ پھڑکے گا، یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے۔ اُدھیڑنے والی منڈکی کھاں کو بلاتی ہے اسکو جس نے پیٹھ موڑی

وَتَوَلَّىٰ ۱۸۱ ۱۸۱ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۱۸۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۱۸۱

اور منہ پھیر لیا اور اکٹھا کیا مال پس چھایا یقیناً آدمی پیدا کیا گیا ہے بے صبرا

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۱۸۲ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۱۸۲ إِلَّا

جب پہنچتی ہے اس کو بُرائی اضطراب کرنیوالا ہوتا ہے اور جب پہنچتی ہے اسکو بھلائی منع کرنیوالا ہوتا ہے بجز

الْمُصَلِّينَ ۱۸۳ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۱۸۳ وَالَّذِينَ

نازیلوں کے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں اور وہ جنکے

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبُوا مِنَ الْأَمْوَالِ ۱۸۴ وَالَّذِينَ

مالوں میں حصہ ہے مقرر مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کے لیے اور وہ جو

يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۱۸۵ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ

تصدیق کرتے ہیں یوم جزا کی اور وہ جو عذاب سے اپنے رب کے

مُشْفِقُونَ ۱۸۶ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُنُّوا ۱۸۶ وَالَّذِينَ

ڈرتے ہیں یقیناً عذاب ان کے رب کا نہیں کوئی اس سے بچا یا گیا اور وہ

هُمْ لِفِرْدَوْجِهِمْ حَفِظُونَ ۱۸۷ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی جو روؤں پر یا جن کے مالک ہوتے

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۱۸۸ فَمَنْ ابْتغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ

دائیں ہاتھ انکے تو یقیناً وہ نہیں ملامت کئے گئے پھر جو کوئی چاہے سوائے اس کے

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۱۸۹ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

پس یہی ہیں حد سے نکل جانوالے اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی

رَاعُونَ ۱۹۰ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۱۹۰ وَالَّذِينَ هُمْ

رعایت کرنیوالے ہیں اور وہ جو اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہیں اور وہ جو

عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۱۹۱ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ۱۹۱ فَمَا لِ

اپنی نماز کی حفاظت کرنیوالے ہیں یہی بہشتوں میں ہونگے تعظیم کئے گئے پس کیا ہوا

الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۱۹۲ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ

ان کو جو کافر ہوئے سامنے تیرے دوڑتے ہوئے دائیں طرف اور بائیں طرف سے

عَزِيزِينَ ﴿۳۸﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿۳۹﴾

جماعت (کی صورتیں) کیا طمع رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں سے یہ کہ داخل کیا جاوے بہشت نعمت والی میں

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ

ہرگز نہیں یقیناً ہم نے پیدا کیا انکو اس سے جو وہ جانتے ہیں پس میں قسم کھاتا ہوں رب مشرقوں

وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿۴۰﴾ عَلَىٰ أَن تَبْدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۗ وَمَا

اور مغربوں کی یقیناً ہم البتہ قادر ہیں اس پر کہ ہم بدل ڈالیں بہتر ان سے اور نہیں

نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۴۱﴾ فَذَرَهُمْ يَخوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا

ہم عاجز کئے گئے پس چھوڑ دو انکو کہ جھکڑیں وہ اور کھیلیں بیانتک کہ وہ ملاقات کریں

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ

اپنے دن سے جس کا وہ وعدہ دیتے جاتے ہیں جس دن نکلیں گے وہ قبروں میں سے

سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿۴۳﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ

دوڑتے ہوئے گویا کہ وہ طرف تہوں کے تھانوں کے دوڑنے ہونگے بیچے ہوں گی ان کی آنکھیں

تَرَاهُمْ ذَلَّةً ۗ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۴﴾

دھاکتی ہوگی ان کو ذلت یہ ہے دن وہ جس کا وہ وعدہ دیتے جاتے تھے

سُورَةُ نُوحٍ مَّكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَن أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن

یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو طرف اسکی قوم کی یہ کہ ڈرا اپنی قوم کو پہلے اس سے کہ

يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱﴾ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲﴾

آوے انکے پاس عذاب دردناک کہا اے قوم میری یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانوالا ہوں ظاہر

أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ

یکر عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے اور میرا کمانو بخشنے کا تمہیں

ذُنُوبِكُمْ وَيُوخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا

تھارے گناہ اور ہمت دیکھا تم کو ایک وقت مقررہ تک یقیناً وعدہ مقرر کیا ہوا اللہ کا جب

جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ

آتا ہے نہیں ہمت دیا جاتا کاش ہوتے تم جانتے کھالے میرے رب میں نے بلایا

قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۞

اپنی قوم کو شب و روز پس نہ زیادہ کیا ان کو میری پکار نے بجز نفرت کے

وَرَأَيْتُ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي

اور میں نے جب کبھی پکارا ان کو تاکہ بخشے تو ان کو ڈال میں انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے

أَذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَادَّاسْتَكْبَرُوا

کانوں میں اور اوڑھ لیے اپنے کپڑے اور ہٹ کی اور تکبر کیا

اسْتَكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ

تکبر کرنا بڑا پھر میں نے بلایا ان کو پکار کر پھر میں نے ظاہر بھی سمجھایا ان کو

وَأَسْرَدْتُ لَهُمْ سُرًّا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ

اور سمجھایا ان کو پوشیدہ بھی پھر کہا میں نے بخشش مانگو اپنے رب سے یقیناً وہ ہے

غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُمْ

بخشنے والا بھیجے گا مینہ کو آسمان سے تم پر بہت برسنے والا اور مدد دے گا تم کو

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۞

مال اور اولاد سے اور بنا دے گا تمہارے لیے باغ اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۞ أَلَمْ

کیا ہے تم کو نہیں ڈرتے خدا کی بزرگی سے اور اس نے پیدا کیا ہے تم کو طرح طرح سے کیا نہیں

تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الْقَمَرَ

دیکھا تم نے کیسے پیدا کئے اللہ نے سات آسمان اوپر تلے اور رکھا چاند کو

فِيهِمْ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۱۸ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ

ان میں روشن اور بنایا سورج کو چراغ اور اللہ نے اُگایا ہے تم کو

الْأَرْضِ نَبَاتًا ۱۹ ثُمَّ يُعِينِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۹

زمین سے ایک طرح کا اگانا پھر وہاں بیجائے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو ایک طرح کا نکلان

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَسَاطًا ۲۰ لَتَتَسَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلًا

اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ چلو اس میں راہیں

فَجَا جَا ۲۱ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ

گمشادہ کہا نوح نے اے میرے رب یقیناً انہوں نے نافرمانی کی میری اور پیروی کی اس کی کہ نہ

يَزِدُّهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۲۲ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۲۳

زیادہ کیا جسکو اس کے مال اور اسکی اولاد نے بجز خسارہ کے اور مکر کیا انہوں نے مکر بڑا

وَقَالُوا لَا تَنْزِلُنَا إِلَهُتَكُمْ وَلَا تَنْزِلُنَا وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا

اور کہا انہوں نے ہرگز مت چھوڑو اپنے معبودوں کو اور مت چھوڑو وڈا کو اور نہ سواع کو اور نہ

يَعْقُوثَ وَيَعْقُوقَ وَنَسْرًا ۲۴ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ

یعقوث اور یعقوق اور نسر کو اور انہوں نے گمراہ کیا ہے بہتوں کو اور مت زیادہ کر

الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۲۵ مَتَا خَطِئْتُهُمْ أُعْرِقُوا فَأَذْهَبُوا

ظالموں کو بجز گمراہی کے بوج اپنے گنہوں کے وہ غرق کئے گئے پھر داخل کئے گئے

نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَادًا ۲۶ وَقَالَ نُوحٌ

آگ میں پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے بجز خدا کے کوئی مدد دینے والا اور کہا نوح نے

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَ الْأَرْضِ مِنَ الْكُفْرِينَ دَابَّارًا ۲۷ إِنَّ

اے رب میرے مت چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا بیشک تو اگر

تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ وَأَلَا فَاجِرًا كَفَّارًا ۲۸

چھوڑ دیکجا ان کو وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنہیں گے سوائے بدکار کفر کرنے والے کے

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ

اے رب میرے بخش مجھے اور میرے والدین کو اور اس کو جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان لاکر اور

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؕ وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝۱۶

ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اور مت زیادہ کر ظالموں کو بجز ہلاکت کے

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو رحمن اور) رحیم کے

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا

کہ وحی کیا گیا میری طرف یہ کہ سنا ہے ایک جماعت نے جنوں میں سے تو کہا انہوں نے یقیناً

سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝۲ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ؕ وَلَكِن

ہم نے سنا قرآن عجیب راہ دکھاتا ہے طرف بھلائی کی پس ہم ایمان لائے اس پر اور ہرگز نہ

تُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝۳ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ

شریک ٹھہرائیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو اور یہ کہ بہت بند ہے عزت ہمارے رب کی نہ اختیار کی

صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝۴ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ

اس نے نبی اور نہ اولاد اور یہ کہ تھے کہا کرتے ہمارے بیوقوف اللہ پر

شَطَطًا ۝۵ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ الْأَدْنَىٰ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ

بڑھ بڑھ کر نہیں اور کہ ہم خیال کرتے تھے کہ ہرگز نہ کہیں گے آدمی اور جن اللہ پر

كِدْبًا ۝۶ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْأَنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ

جھوٹ اور یہ کہ کتنے مرد آدمیوں میں سے پناہ لیتے ہیں مردوں کی

الْجِنِّ فَزَادُواهُمْ رَهَقًا ۝۷ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن

جنوں سے تو زیادہ کیا ان کو تکبر میں اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا کہ گمان کیا تھا تم نے کہ

لَّن يَنْبَغَتْ إِلَهُ أَحَدًا ۝۸ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا

ہرگز نہ بھیجے گا اللہ کسی کو اور یہ کہ ہم نے ٹولا آسمانوں کو تو پایا ہم نے اس کو

مُلِثَتْ حَرَ سَاشِدًا وَشُجْبًا ۱۱ وَآتَاكُنَا نَقْعُدُ مِنْهَا

بھرا ہوا چوکیداروں سخت سے اور آگ کے شعلوں سے اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں

مَقَاعِدِ لِلسَّمْعِ ۱۲ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۱۱

جگہوں میں سننے کے لیے پس جو کوئی سنتا ہے اب پاتا ہے اپنے لیے شعلہ گھات لگائے ہوئے

وَآتَا لَا نَدْرِي أَشَرًّا رِيْدِيْمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ

اور یہ کہ ہم نہ جانتے تھے کہ برائی چاہی گئی ان کے لیے جو زمین میں ہیں یا چاہی ان کے لیے

رَبُّهُمْ رَشْدًا ۱۱ وَآتَا مَنَا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا ذُوْنَ ذَلِكِ ۱۲ كُنَّا

انکے رب نے بھلائی اور یہ کہ بعض ہم میں سے نیک ہیں اور بعض ہم میں سے سوائے انکے ہیں ہم تھے

طَرَائِقِي قَدَا ۱۲ وَآتَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَعْجَزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ

راہیں مختلف اور یہ کہ ہم نے جانا کہ ہرگز نہ عاجز کریں گے اللہ کو زمین میں

وَلَنْ نَعْجِزَهُ هَرَبًا ۱۳ وَآتَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمْتَابَهُ ۱۲

اور ہرگز نہ عاجز کریں گے ہم اسکو بھاگ کر اور یہ کہ ہم نے جب سنی ہدایت ایمان لائے ہم اس پر

فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۱۳ وَآتَا

پس جو کوئی ایمان لائے اپنے رب پر تو نہ ڈرے گا وہ کمی سے اور نہ زیادتی سے اور یہ کہ

مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۱۴ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ

بعض ہم میں سے فرمانبردار ہیں اور بعض ہم میں سے ظالم ہیں پس جو کوئی اسلام لایا تو انہوں نے

تَحَرَّوْا رَشْدًا ۱۵ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ

طلب کی بھلائی اور جو ظالم ہیں پس وہ دوزخ کا

حَطَبًا ۱۶ وَآن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ

پانی ہیں اور وحی کی گائی میری طرف اگر یہ لوگ قائم رہتے راہ پر البتہ پلاتے ہم ان کو

مَاءً غَدَقًا ۱۷ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۱۸ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ

پانی وافر تاکہ ہم آزمائیں انکو اس میں اور جو اعراض کرتا ہے ذکر سے اپنے رب کے

يَسْلُكْهُ سَذَابًا صَعَدًا ۱۸ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا

داخل کریگا اسکو عذاب سخت میں اور یہ کہ مسجدیں اللہ کیلئے ہیں پس مت پکارو

مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۱۹ ۱۹ وَآتَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ

ساتھ اللہ کے کسی کو اور یہ کہ جب کھڑا ہو بندہ اللہ کا پکارتا ہے اس کو

كَادُ وَايَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۲۰ ۲۰ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا

نزدیک ہیں کہ ہوویں اس پر حلقہ حلقہ کہ پکارتا ہوں میں تو صرف اپنے رب کو اور نہیں

أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۲۱ ۲۱ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۲۲ ۲۲

شریک کرتا اسکے ساتھ کسی کو کہہ کہ یقیناً میں نہیں اختیار کرتا تمہارے لیے ضرر اور نہ بھلائی

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ

کہہ کہ یقیناً مجھ کو ہرگز نہ پناہ دے گا اللہ سے کوئی اور ہرگز نہ پاؤں گا میں سب سے اس کے

مُلْتَحَدًا ۲۳ ۲۳ لَا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ؕ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ

کوئی جائے پناہ مگر پہنچانا اللہ کی طرف سے اور اس کا پیغام اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ

وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۲۴ ۲۴ حَتَّىٰ

اور اسکے رسول کی تو یقیناً اس کیلئے آگ ہے دوزخ کی رہنے والے ہونگے اس میں ہمیشہ جہنم کی

إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَعُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا

جب وہ دیکھیں گے جو وہ وعدہ دیتے جاتے ہیں تو البتہ جان بیویں گے وہ کہ کون کمزور ہے بلحاظ مددگار کے

وَأَقْلَعَدًا ۲۵ ۲۵ قُلْ إِن آذَرْنِي آقَرِبْتُكَ مَا تُوَعَدُونَ أَمْ

اور کم ہے تعداد میں کہ نہیں میں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جو وہ وعدہ دیتے جاتے ہیں یا

يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۲۶ ۲۶ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ

کردے اس کے لیے رب میرا میعاد جانتے والا ہے غیب کا پس نہیں خبردار کرتا اپنے غیب پر

أَحَدًا ۲۷ ۲۷ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ

کسی کو مگر جس کو پسند کرتا ہے رسولوں سے پس یقیناً وہ لگا دیتا ہے اس کے

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۲۸ ۲۸ لِيَعْلَمَ أَن قَدِ ابْلَغُوا رِسَالَتِي

آگے اور اس کے پیچھے پہرہ تاکہ ظاہر کرے کہ یقیناً پہنچائے انہوں نے پیغام

رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۲۹ ۲۹

اپنے رب کے اور گہرا گیا اس کو جو ان کے پاس ہے اور محفوظ کر لیا ہر شے کو شمار میں

سُورَةُ الْمَزْمَلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ۲ قُمْ الْيَلَدِ إِلَّا قَلِيلًا ۳ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ

اے کپڑا اور ہنسنے والے کھڑا رہا کر رات کو مگر تھوڑا نصف اس کا یا کم کر دے

مِنْهُ قَلِيلًا ۴ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۵ إِنَّا

اس میں تھوڑا یا زیادہ کر اس پر اور واضح پڑھ قرآن کو آہستہ آہستہ یقیناً

سَنُلْقِيْكَ عَلَيْهِمْ قَوْلًا ثَقِيلًا ۶ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً

ہم ڈالیں گے تجھ پر بات بھاری یقیناً اٹھنا رات کا سخت تر ہے نرس کے لیے

وَأَقْوَمُ قَيْلًا ۷ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۸ وَإِذْ كُرِ

اور بہت درست کرنیوالا ہے بات کو، یقیناً تجھے دن میں کام بڑا ہوتا ہے اور یاد کر

سِمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۹ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

نام اپنے رب کا اور جھک جا اسکی طرف منتقل ہو کر رب ہے مشرق کا اور مغرب کا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۱۰ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

نہیں کوئی معبود بجز اسکے میں بنا اسی کو کارساز اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۱۱ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي

اور چھوڑ دے ان کو چھوڑ دینا اچھا اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں

النَّعْمَةِ وَمَهَلُكُمْ قَلِيلًا ۱۲ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۱۳

خوش حال کو اور جلت دے انکو تھوڑی سی یقیناً ہمارے پاس عبرت ناک سزائیں اور آگ ہے

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۱۴ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ

اور کھانا گلے میں اٹھنے والا اور عذاب دردناک جس دن کہ کانپنے لگی زمین

وَالْجِبَالُ وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً ﴿۱۵﴾ تَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ

اور پہاڑ اور پہاڑوں کے پہاڑ ایسے بھرپورے یقیناً ہم نے بھیجا تمہاری طرف

رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿۱۶﴾

رسول گواہی دینے والا تم پر جیسا کہ بھیجا ہم نے طرف فرعون کی رسول

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ

تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی پس پکڑا ہم نے اس کو پکڑنا سخت

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

پس کیونکر: بچو گے تم اگر تم کرو گے اس دن جو کر دیوے گا بچوں کو

شَيْبًا ﴿۱۸﴾ بِالسَّمَاءِ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿۱۹﴾ إِنَّ

بڑھے آسمان پھٹ جائیگا اس سے ہے اس کا وعدہ شدنی یعنی ہونی والا ہے یقیناً

هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۲۰﴾ إِنَّ رَبَّكَ

یہ نصیحت ہے پس جو کوئی چاہے اختیار کرے اپنے رب کی راہ بیشک رب تیرا

يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي الثَّيْلِ وَيُنْصِفُهُ دَوْلَتُهُ

جانتا ہے کہ تو کھڑا رہتا ہے نزدیک دوتہائی رات کے اور نصف اس کا اور دوتہائی آگے

وَمَا يَغْفِرُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ إِلَّا اللَّهُ يُقَدِّرُ الثَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اور ایک جماعت ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں اور اللہ انہار کرتا ہے رات اور دن کا

عَلِمَ أَنَّ لَنْ تَخْصُوهُ فَعَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ

جانا اس نے کہ ہرگز نہ نبھا سکو گے اسکو تو رجوع برحمت ہوا تم پر پس پڑھو جو میسر ہو

مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمًا أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ

قرآن سے جانا اس نے کہ البتہ ہوں گے تم میں سے بیمار اور دوسرے لوگ ہونگے

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ

جو سفر کریں گے زمین میں چاہتے ہوں گے فضل الہی اور دوسرے ہونگے

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَأَقِيمُوا

جو لڑتے ہوں گے راہ خدا میں پس پڑھو جو آسان ہو اس میں سے اور قائم کرو

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا

نماز کو اور دو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ کو قرض اچھا اور جو

تَقَدَّمُوا مَالًا نَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ

بکھراگے بھیجو تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی سے پاؤ گے اس کو حضور خدا کے کہ وہ بہتر ہے

وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ مَا تَدُونَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱﴾

اور بڑا ہے ثواب میں اور بخشش مانگو اللہ سے یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے

سُورَةُ الْمَدَّثَرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

شروع ساتھ نام اللہ رحمن رحیم کے

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿۲﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿۳﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿۴﴾ وَثِيَابَكَ

اے کپڑا اور دھنے والے کھڑا ہو پس ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو

فَطَهِّرْ ﴿۵﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿۶﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ﴿۷﴾ وَ

پس پاک کر اور پلیدی کو پس چھوڑ دے اور مت دے کسی کو زیادہ لینے کی نیت سے اور

لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿۸﴾ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿۹﴾ فَذَلِكَ

اپنے رب کے لیے پس صبر کر پس جب بجایا جائے گا بگل تو یہ

يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿۱۰﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿۱۱﴾

دن دن بھاری ہے کافروں پر نہیں آسان

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿۱۲﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿۱۳﴾

چھوڑ مجھ کو اور جسے پیدا کیا ہے میں نے اکیلا اور دیا میں نے اس کو مال بافراط

وَبَيْنَيْنِ شُؤدًا ﴿۱۴﴾ وَمَهْدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿۱۵﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ

اور بیٹے حاضر باش اور بچھایا میں نے اس کے لیے بچھونا پھر وہ طمع رکھتا ہے

أَنْ أَزِيدَ ۱۶ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۱۷ سَأَرْهُقُهُ

یہ کہ زیادہ دوں میں ہرگز نہیں یقیناً وہ ہے ہمارے احکام سے سرکش عنقریب مبتلا کرونگا

صَعُودًا ۱۸ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۱۹ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۲۰ ثُمَّ

پس اس کو سخت عذاب میں۔ یقیناً اس نے فکر کیا ہے اور اندازہ کیا پس مار ہو کیسا اندازہ کیا پھر

قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۲۱ ثُمَّ نَظَرَ ۲۲ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۲۳ ثُمَّ أَدْبَرَ

مار ہو کیسا اندازہ کیا پھر دیکھ لیا پھر تیوری چڑھا لیا اور منہ بگاڑ لیا پھر پیٹھ پھیر لی

وَاسْتَكْبَرَ ۲۴ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَىٰ ۲۵ إِنْ هَذَا إِلَّا

اور تکبر کیا پھر کہا نہیں یہ مگر جادو جو نقل کیا جاتا ہے نہیں یہ مگر

قَوْلُ الْبَشَرِ ۲۶ سَأُضِلُّهُ سَقَرًا ۲۷ وَمَا أَذْرُكَ مَا سَقَرًا ۲۸ لَا تُبْقِي

بات آدمی کی عنقریب داخل کروں گا میں اس کو دوزخ میں اور کیا جانے تو کیا ہے دوزخ نہیں باقی رکھتی

وَلَا تَذَرُهُ ۲۹ لَوَاحٍ لِّلْبَشَرِ ۳۰ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۳۱ وَمَا جَعَلْنَا

اور نہ چھوڑتی ہے مجلس بینہ والی چرسے کو اس پر انیس فرشتے ہیں اور نہیں بنائے ہم نے

أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۳۲ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

داروغے دوزخ کے مگر فرشتے اور نہیں مقرر کی ہم نے ان کی گنتی مگر فتنہ

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۳۳ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ

ان کیلئے جو حق پوچھ رہے تاکہ یقین کریں وہ جو دیئے گئے کتاب اور زیادہ ہوں وہ

الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَزْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

جو ایمان لائے ایمان میں اور نہ شک لائیں وہ جو دیئے گئے کتاب

وَالْمُؤْمِنُونَ ۳۴ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْهُدٌ

اور ایمان والے اور تاکہ کہیں وہ جن کے دلوں میں کینہ ہے اور

الْكٰفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا ۳۵ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ

کافر بھی کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے اسی طرح گمراہ ٹھہراتا ہے اللہ جو

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۳۶ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۳۷ وَمَا

چاہے اور ہدایت کرتا ہے جو چاہے اور نہیں جانتا کوئی لشکر تیرے رب کے بجز اس کے اور نہیں

هِيَ الْآذِكْرَى لِلْبَشَرِ ۳۳ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۳۴ وَالْيَلِيلِ إِذَا ذَبَرَ ۳۵ وَالصُّبْحِ

وہ مگر یاد دہانی آدمی کے لیے خبردار قسم ہے چاند کی اور رات کی جب بیٹھ بھیرے اور صبح کی

إِذَا اسْفَرَ ۳۵ إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبْرَى ۳۶ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۳۷ لِمَنْ

جب روشن ہو یقیناً وہ ایک بڑے واقعات میں سے ہے ڈرانوالی آدمی کے لیے اس کیلئے جو

شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَدَمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۳۸ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

چاہے تم میں سے یہ کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے ہر جی اس میں جو کمایا اس نے

رَهِيْنَةً ۳۹ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ۴۰ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَلُونَ ۴۱

گروہ ہے مگر داہنی طرف والے بہشتوں میں ہونگے پوچھتے ہوں گے

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۴۲ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۴۳ قَالَ لَوْ لَمْ نَكُ مِنَ

مجرموں سے کیا چیز نے گئی تم کو دوزخ میں کہیں گے کہ نہ تھے ہم

الْمُصَلِّيْنَ ۴۴ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمِسْكِيْنَ ۴۵ وَكُنَّا نَحْوُ

ناز پڑھتے اور نہ تھے ہم کھلاتے فقیروں کو اور تھے ہم بیسودہ اعزاض

مَعَ الْخَائِضِيْنَ ۴۶ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۴۷ حَتَّىٰ

کرتے ساتھ معترضوں کے اور تھے ہم جھٹلاتے یوم جزاء کو یہاں تک کہ

آتَيْنَا الْيَقِيْنَ ۴۸ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ۴۹ فَمَا

آئی ہم کو موت پس نہ فائدہ دے گی ان کو سفارش سفارشوں کی پس کیسے

لَهُمْ عَنِ التَّذٰۤخِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۵۰ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۵۱

انکو کہ اس نصیحت سے وہ منہ پھرتے ہیں گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکے ہوئے

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۵۲ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ

جو بھاگے ہوئے ہوتے ہیں شیر سے بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر ایک شخص ان میں سے کہ

يُؤْتِي صُحُفًا مُّنْشَرَةً ۵۳ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۵۴

دیئے جاویں صحیفے کھلے ہوئے بگڑ نہیں یوں بلکہ نہیں ڈرتے وہ آخرت سے

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ ۵۵ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۵۶ وَمَا يَذْكُرُونَ

ہرگز نہیں یوں یقیناً یہ نصیحت ہے پس جو کوئی چاہے یاد کرے اسکو اور نہیں یاد کرتے

إِنَّمَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٥﴾
مگر یہ کہ چاہے اللہ وہی لائق ہے ڈرنے کے اور لائق ہے بخشنے کے

سُورَةُ الْقِيَمَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴿٢﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٣﴾
میں قسم کھاتا ہوں دن قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس علامت کرنے والے کی

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَهُ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَى قَادِرِينَ
کیا لگتا ہے آدمی یہ کہ ہرگز نہ ہم اٹھا کر نیکے ہڈیاں اس کی بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں

عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٥﴾ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ
اس پر کہ درست کریں ہم پور پور اس کی بلکہ الادہ کرتا ہے آدمی تاکہ گناہ کرتا رہے

أَمَّا مَهْ ﴿٦﴾ يَسْأَلُ آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾
اپنے آگے پلوچھتا ہے کب ہوگا دن قیامت کا پس جس وقت کہ پتھر جاوینگے آنکھیں

وَحَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٩﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿١٠﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ
اور گرہن ہوگا چاند اور اکٹھا کیا جاوے گا سورج اور چاند کہے گا آدمی

يَوْمَئِذٍ آيِنَ الْمَفْرُءِ ﴿١١﴾ كَلَّا لَا وَدَرَآءَ ﴿١٢﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
اس دن کہاں ہے بھل گئے کی جگہ ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ تیرے رب کی طرف ہی اس دن ہے

بِالْمُسْتَقَرِّ ﴿١٣﴾ يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ
ٹھہرنا متنب کیا جاوے گا آدمی اس دن اس سے جو آگے بھیجا اور

أَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بِصِيرَةٌ ﴿١٥﴾ ذَلُّوا لِقَى
پچھے چھوڑا بلکہ آدمی اپنے نفس پر دلیل ہے خواہ پیش کرے

مَعَاذِ رَبِّهِ ۱۷ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَدَّ بِهِ ۱۸ إِنْ

اپنے عذر مت ہلا اس (قرآن) کے لیے اپنی زبان تاکہ تو جلدی کرے اس میں یقیناً

عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۱۸ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۱۹

ہمارے ذمہ ہے اس کا اکٹھا کرنا اور اس کا پڑھنا پس جب ہم پڑھیں اسکو تو پیروی کر کہ ہمارے پڑھنے کی

ثُمَّ رَاتَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۲۰ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۲۱ وَ

پھر یقیناً ہمارے ذمہ ہے اسکا بیان کرنا ہرگز نہیں یوں بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی (دنیا) کو اور

تَذُرُونَ الْآخِرَةَ ۲۲ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۲۳ إِلَىٰ رَبِّهَا

چھوڑتے ہو آخرت کو کتنے منہ اس دن تازہ ہونگے اپنے رب کو

نَاطِرَةٌ ۲۴ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ ۲۵ تَتَّظُنُّونَ أَن يَفْعَلَ بِهَا

دیکھنے والے اور کتنے منہ اس دن بڑے ہونگے گمان کرنے ہونگے ڈالی جائے ان پر

فَاقْرَأْ ۲۶ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۲۷ وَقِيلَ لَهَا مَن رَّبِّي ۲۸ وَوُطِنٌ

کو پڑھنے والی نصیحت۔ ہرگز نہیں جبکہ پہنچے گی جان ہنسلی تک اور کہا جائیگا کون ہے جھاڑنے پھونکنے والا اور جاننا

أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۲۹ وَالَّتَقَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ ۳۰ إِلَىٰ رَبِّكَ

اس نے کہ یہ ہے جدائی اور پٹ جانے کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے تیرے رب کی طرف ہے

يَوْمَئِذٍ لِّمَسَاقٍ ۳۱ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ۳۲ وَلَكِنْ كَذَّبَ

اس دن چلتا پس نہ تصدیق کی اس نے اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا

وَتَوَلَّىٰ ۳۳ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۳۴ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۳۵

اور نہ پھیرنا پھر گیا اپنی قوم کی طرف اگرتا ہوا افسوس تجھ پر پھر افسوس تجھ پر

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۳۶ أَبِحْسَبِ الْإِنْسَانِ أَن يُشْرَكَ

پھر افسوس تجھ پر پھر افسوس تجھ پر کیا گمان کرتا ہے آدمی کہ چھوڑا جاویگا

سُدًى ۳۷ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّيْنِي يَمِينِي ۳۸ ثُمَّ كَانَ

بے کار کیا نہ تھا وہ ایک لطف منی سے جو ڈالا گیا پھر تھا

عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۳۹ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ

لہو جابوا پھر پیدا کیا پھر تندرست کیا پھر بناٹے اس سے دو جوڑے

وَالْأُنثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ بِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ ﴿۳۱﴾

اور مادہ کیا نہیں یہ قادر اس پر کہ زندہ کرے مردوں کو

سُورَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

هَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا

ضرور آیا ہے آدمی پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا کچھ

مَذْكُورًا ۚ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۚ

قابل ذکر یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے ہوئے سے

نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ

کرم آزمانا چاہتے ہیں اسکو تو نبایا ہم نے اسکو سننے والا اور دیکھنے والا یقیناً ہم نے دکھائی اس کو راہ

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۚ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا

یا شکر کرنا والا جو ناپا ہے اور یا کفر کرنے والا یقیناً ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے زنجیریں

وَأَعْلًا ۚ وَسَجِيرًا ۚ إِنَّ الْآبِرَارَ يُشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ

اور طوق اور آگ یقیناً نیک لوگ پیوئیں گے پیالے کے ہے

مِزَاجُهَا كَافُورًا ۚ إِنَّا عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا

اس کی ٹون کافور کی چشمہ ہے کہ پیتے ہیں اس میں سے بندگان خدا لے جاتے ہیں اس کو

تَفْجِيرًا ۚ يُؤْفُونَ بِاللَّذرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ

پہر چیر کر پلورا کرتے ہیں منت کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اسکی مصیبت

مُسْتَطِيرًا ۚ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَشْكِينًا ۚ

پھیل جانے والی ہے اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر فقیروں کو اور

يَتِيمًا وَآسِيرًا ۱۰۱ إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ

یتیموں کو اور قیدیوں کو ہم تو کھلاتے ہیں تم کو صرف رضائے الہی کے لیے نہیں ہم چاہتے

مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۱۰۲ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا

تم سے بدلہ اور نہ شکر کرنا یقیناً ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کے اس دن سے

عَبُوسًا قَمَطَرِيْرًا ۱۰۳ فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ

کہہ رہا گامزن بنایا الہی تیسری چڑھا نیوالا پس بچا یا ان کو اللہ نے مصیبت اس دن سے اور

لَقَهُمْ نَصْرَةٌ وَسُرُورًا ۱۰۴ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً

طاہری ان کو تازگی اور خوشی اور بدلہ دیا ان کو اس کا جس پر انہوں نے صبر کیا بہشت

وَحَرِيرًا ۱۰۵ مُتَّكِعِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ

اور ریشمی کپڑے تکیر گائے ہوئے اس میں تختوں پر ہوں گے نہ دیکھیں گے

فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۱۰۶ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَ

اس میں دھوپ اور نہ جاڑا اور جھلکے ہوں گے ان پر ان کے سامنے اور

ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۱۰۷ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَّةٍ

کئے گئے ہیں اس کے بیوے نزدیک اور پھراتے جاتے ہیں ان پر برتن

مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۱۰۸ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ

چاندی اور آبخورے ہوں گے شیشے کے شیشے بھی چاندی کے

قَدَرُواهَا تَقْدِيرًا ۱۰۹ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا

بنایا ہے اسکو اندازہ کے مطابق اور پلائے جاویں گے اس میں پیالے کہ ہے ان کی طوئی

زَنْجَبِيلًا ۱۱۰ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۱۱۱ وَيَطُوفُ

سونٹھ کی چشمہ ہے اس میں کہ نام رکھا جاتا ہے سلسبیل اور پھر میں گے

عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا دَأَبْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے جب دیکھے گا تو ان کو تو گمان کر لگا انکو موتی

مَنْثُورًا ۱۱۲ وَإِذَا دَأَبْتِمْ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ۱۱۳

بکھرے ہوئے اور جب دیکھے گا تو وہاں پھر دیکھے گا تو نعمت اور بادشاہی بڑی

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَرِشْمٌ زَوْجُ حُلُوٍّ أَسَاوِرٌ

ہوں گے ان پر کپڑے باریک ریشم سبز اور دسیر ریشم کے اور پہنائے جاویں گے سنگین

مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقَمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۗ إِنَّ هَذَا

چاندی کے اور بلاوسے گا انکو ان کا رب شراب پاکیزہ یقیناً یہ

كَانَ لَكُمْ جَزَاءً ۚ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۗ إِنَّا نَحْنُ

ہے تمہارا بدلہ اور ہے سعی تمہاری قدر کی کچھ یقیناً ہم نے

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۗ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا

اتارا تجھ پر قرآن آہستہ آہستہ پس مبرک حکم اپنے رب کے لیے اور منت

تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ۗ وَإِذْ كُرِيَ لَكَ بُكْرَةٌ ۚ

کہا مان ان میں سے گنہگار یا کفر کرنیوالے کا اور یاد کر نام اپنے رب کا صبح اور

أَصِيلًا ۗ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۗ

شام اور اوقات شب میں سے ہیں سجدہ کر اس کے لیے اور تسبیح کر اسکی رات بڑی تک

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا

یقیناً یہ پسند کرتے ہیں جلدی (دُنیا) کو اور ڈال دیتے ہیں اپنے پس پشت دن

ثَقِيلًا ۗ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا

بھاری کو ہم نے پیدا کیا ان کو اور مضبوط بنائے جوڑ بندان کے اور جب چاہیں گے ہم

بَدَّلْنَا مَثَلَهُمْ تَبَدُّلًا ۗ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ

بدل ڈالیں گے مانند ان کے بدل ڈالنا یقیناً یہ نصیحت ہے جس جو کون

شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

چاہے لے اپنے رب کی طرف راہ اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ

اللہ یقیناً اللہ ہے جاننے والا حکمت والا داخل کرتا ہے جس کو چاہے

فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ

اپنی رحمت میں اور ظالم لوگ تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب دردناک

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۲ ۱ قَالِعِصْفِتِ عَصْفًا ۳ ۱ وَالنَّشْرِتِ

قسم ہے اس ہوا کی جو چلتی ہے نرمی سے پھرتیز ہواؤں کی جو خوب تیز ہوتی ہیں اور منتشر کر نیوالوں کی

نَشْرًا ۴ ۱ قَالْفِرْقَتِ فَرْقًا ۵ ۱ قَالْمَلْقِيَتِ ذِكْرًا ۶ ۱ عُدْرًا

بادل اٹھا کر پھر جدا کر نیوالیوں کی پھاڑ پھاڑ کر پھر ان کی جو پہنچا نیوالی ہیں ذکر الزام دینے کو

أَوْ نُذْرًا ۷ ۱ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۸ ۱ فَإِذَا النُّجُومُ

باد ڈرانے کو یقیناً جو تم وعدہ دیتے جاتے ہو البتہ ہونیوالا ہے پس جس وقت کہ ستارے

طُمِسَتْ ۹ ۱ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ ۱۰ ۱ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۱۱ ۱

ماند پڑ جاویں اور جس وقت آسمان کھولا جاوے اور جب پہاڑ اڑائے جاویں

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَتْ ۱۲ ۱ لِأَنَّ يَوْمَ أُجِّلَتْ ۱۳ ۱ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۱۴ ۱

اور جب کہ پیغمبر وقت مقررہ پر لائے جاویں کس دن کے لیے وعدہ دیتے گئے ہیں دن فیصلہ کے لیے

وَمَا أَذْرِكُ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۱۵ ۱ وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۶ ۱

اور کیا جانے تو کیا ہے دن فیصلہ کا؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے

أَلَمْ نُهْلِكِ الْآدَوِيْنَ ۱۷ ۱ ثُمَّ نُنْبِئُهُمُ الْآخِرِينَ ۱۸ ۱ كَذَلِكَ

کیا نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلوں کو پھر ان کے نیچے ہم بھیجتے ہیں دوسروں کو اسی طرح

نَفَعُلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۱۹ ۱ وَيَلُوكُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۲۰ ۱ أَلَمْ

کرتے ہیں ہم ساتھ گنہگاروں کے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا نہیں

نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۲۱ ۱ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۲۲ ۱

پیدا کیا تم کو پانی حقیر سے پھر کیا ہم نے اس کو ایک جگہ محفوظ میں

إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۳۳ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدْرُونَ ۳۴ وَيْلٌ

ایک وقت مقرر تک پھر اندازہ کیا ہم نے پس ہم نے اچھا انداز کیا خرابی ہے

يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۳۵ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۳۶ أَحْيَاءٌ

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا نہیں بنائی ہم نے زمین سیٹے والی زندوں

وَأَمْواتًا ۳۷ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ شِمَخٍ وَأَشْقَيْنُكُمْ مَاءً

اور مردوں کو اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ بلند اور پلایا ہم نے تم کو پانی

فَرَاتًا ۳۸ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۳۹ إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا

بجانبہ والا پیاس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے چلو اسکی طرف کہ

كُنْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ۴۰ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ

تھے تم جھے جھٹلاتے چلو طرف سایہ تین

شُعَبٍ ۴۱ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۴۲ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ

شاخوں والے کے نہ ٹھنڈا ہے اور نہ بچا نیوالا شعلے سے یقیناً وہ پھینکتی ہے چنگاریاں

كَالْقَصْرِ ۴۳ كَأَنَّهُ جُمَلَتْ صَفْرًا ۴۴ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۴۵

ماند محلوں کے گویا کہ وہ قطار ہے اونٹوں زرد کی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۴۶ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۴۷

یہ ہے دن فیصلہ کا کہ نہ بولیں گے وہ اور نہ اجازت دیجائیگی ان کو کہ عذر لاویں

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۴۸ هَذَا يَوْمُ الْفُضْلِ ۴۹ جَمَعْنُكُمْ

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ دن ہے فیصلہ کا اکٹھا کیا ہم نے تم کو

وَالْأَوْلِيَيْنِ ۵۰ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ۵۱ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

اور پہلوں کو پس اگر ہو تمہارے پاس کوئی تدبیر تو کرو مجھ سے خرابی ہے اس دن

لِلْمُكَذِّبِينَ ۵۲ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ۵۳ وَفَوَاكِهَ مِمَّا

جھٹلانے والوں کے لیے یقیناً پرہیزگار سیالوں اور چشموں میں ہیں اور ان میووں میں ہونگے جو

يَشْتَهُونَ ۵۴ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۵۵ إِنَّا

وہ چاہیں گے کھاؤ اور پیو مزے سے اکے بدے جو تھے تم کرتے یقیناً

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۵﴾ وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۶﴾

ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے

كُلُوا وَتَمَتُّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ

کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑا سا یقیناً تم مجرم ہو خرابی ہے اس دن

لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۸﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْكُوا أَلَا يَرْكَعُونَ ﴿۳۹﴾ وَيَلُوكَ

جھٹلانے والوں کے لیے اور جب کہا جاتا ہے ان کو رکوع کرو نہیں رکوع کرتے خرابی ہے

يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۰﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے پس کس بات پر بعد اس کے وہ ایمان لاویں گے۔



سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۲ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۳ الَّذِي هُمْ

کس کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں اس خبر بڑی کی بات کہ وہ

فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۴ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۵ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۶

جس میں اختلاف کرتے ہیں باز آئیں عقرب جانیں گے پھر باز آئیں جلدی جانیں گے

الْمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مَهْدًا ۷ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۸ وَخَلَقْنٰكُمْ

کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں اور پیدا کیا ہم نے تم کو

أَزْوَاجًا ۹ وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتًا ۱۰ وَجَعَلْنَا الْيَلَّ لِبَاسًا ۱۱

جوڑا اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سبب آرام کا اور بنایا ہم نے رات کو پردہ

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۱۲ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۱۳

اور بنایا ہم نے دن کو وقت معاش کا اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان سخت

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۱۴ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً

اور بنائے ہم نے چراغ روشن اور اتارا ہم نے پچھوڑنے والی بدیوں سے پانی بارش

ثَجًّا جَا ۱۵ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۱۶ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ۱۷

موسلا دھار کا تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعہ آماج اور بوٹیاں اور باغ گھنے

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۱۸ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ

یقیناً دن فیصلہ کا ہے وقت مقررہ جس دن پھونکا جاوے گا بگل

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۱۹ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۲۰ وَ

تو آؤ گے تم فوج در فوج اور کھولا جائے گا آسمان پھر ہو جاویں گے دروازے اور

سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿۲۱﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿۲۲﴾

چلائے جاویں گے پہاڑ تو ہوا دیگے مانند ریت کے یقیناً دوزخ ہے گھات میں

لِلطَّغْيِينِ كَيْفَ جُكُوتُنِي كَيْ رِيں گے اسیں صدیوں نہ بچھیں گے اسیں

بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿۲۳﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿۲۴﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ﴿۲۵﴾

ٹھنڈک اور نہ پینا مگر پانی گرم اور پیسپ بدل دیئے جاویں گے پورا پورا

إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿۲۸﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿۲۹﴾

یقیناً وہ تھے نہ امید رکھتے حساب کی اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو بے باکی سے

وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿۳۰﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا

اور ہر ایک چیز کو محفوظ کر لیا ہے ہم نے اسکو کھنکر پس پکھو پس ہرگز نہ زیادہ کریں گے ہم تم کو بجز

عَذَابًا ﴿۳۱﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿۳۲﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿۳۳﴾

عذاب کے یقیناً متقیوں کے لیے مرادیا ہے باغ اور انگور ہیں اور

كَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿۳۴﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿۳۵﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا

نوجوان ہم عمر عورتیں اور پیالے ہیں چھلکتے ہوئے نہ سنیں گے اسیں

لَغَوًّا وَلَا يَجِدُهَا ﴿۳۶﴾ جَزَاءً مِمَّنْ ذُكِّرُوا بِهَا ﴿۳۷﴾ رَبِّ

بیہودہ اور نہ روکد بدل تیرے رب سے انعام کافی رب ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ

آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے رحمن ہے نہ کر سکیں گے

مِنْهُ خِطَابًا ﴿۳۸﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۚ

اس سے کلام جس دن کھڑے ہو گئے روح اور فرشتے صف باندھ کر

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿۳۹﴾

نہ بول سکیں گے بجز اسکے جسے حکم دیوے رحمان اور کہے گا معقول بات

ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ لِي دَرْتَهُ مَا بَا ﴿۴۰﴾

یہ دن ہے برحق جس جو کوئی چاہے بناٹے پاس اپنے رب کے جگہ لوٹنے کی۔

إِنَّا نَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا

یقیناً ہم نے تم کو عذاب نزدیک سے جس دن دیکھ لے گا ہر مرد جو کچھ

قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ وَيَقُولُ الْكُفْرُ لَيْسَتْ بِي كُنْتُ تُرْبًا ۱۴۱

آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے اور کہے گا کافر اے کاش کہ ہوتا میں مٹی

سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۲ وَالنَّشِيطِ نَشْطًا ۳ وَالشَّيْخِ

قسم ہے انہی جو کھینچنے والے ہیں ڈوب کر اور قسم ہے انہی جو نشا و خاطر سے کھینچنے والے ہیں اور قسم ہے انہی جو تیرنے والے

سَبْحًا ۴ فَالسَّيْفِ سَبْقًا ۵ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۶ يَوْمَ

ہیں خوب پھر قسم ہے انہی جو سبقت لے جاتے ہیں اپنے ہم عمروں سے پھر قسم ہے انہی جو مدبر ہیں امور میں جس دن کہ

تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ ۷ تَتَّبِعُهَا الرَّاادِفَةُ ۸ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ

کاپنے گی کانپنے والی (یعنی زمین) پیچھے آویں گی پیچھے آنے والی کتنے دل اس دن

وَأَجْفَةٌ ۹ أَجْفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۱۰ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ

دھڑکنے والے ہونگے آنکھیں ان کی نیچی ہوں گی کتنے ہوں گے کیا ہم لوٹائے جاویں گے

فِي الْعَافِرَةِ ۱۱ إِذْ أَكْنَا عِظًا مَّا نَحْرَةً ۱۲ قَالُوا اتِّلْكَ إِذَا

پہلی حالت میں کیا جب ہم ہو جائیں گے ڈھیاں گلی ہوئی کتنے ہیں اس وقت

كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۱۳ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۱۴ فَإِذَا هُمْ

لوٹنا خسارہ ہے پس وہ تو ڈانٹ ہے ایک ہی بار تو دفعاً وہ

بِالسَّاهِرَةِ ۱۵ هَذَا تِلْكَ حَدِيثُ مُوسَى ۱۶ إِذْ نَادَاهُ

میدان میں ہونگے کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ کی جب پکارا اس کو

رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۴ إِذْ هَبَّ لِيُفْرِعُونَ

اُسکے رب نے میدان پاک میں طوی کے جا فرعون کی طرف یقیناً

إِنَّهُ طَغَى ۱۵ فَقُلْ هَذَا لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْحَمِي ۱۶ وَأَهْدِيكَ

اس نے سرکش کی پس کہہ کیا تجھے خواہش ہے اسکی کہ تو پاک ہو اور میں راہ دکھاؤں تجھ کو

إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَحْشِي ۱۷ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۱۸ فَكَذَّبَ

طرف تیرے رب کے پس تو ڈرے تو دکھائی اس کو نشان بڑی پس جھٹلایا اس نے

وَعَصَىٰ ۱۹ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۲۰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۲۱ فَقَالَ أَنَا

اور نافرمانی کی پھر پیچھے پھیری مخالف کوشش کرتے ہوئے پھر اکٹھا کیا تو پکارا پس کہا میں تمہارا

رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ ۲۲ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۲۳

رب ہوں سب سے بلند پس پکڑا اس کو اللہ نے عذاب آخرت سے اور دنیا میں

إِنِّي فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَىٰ ۲۴ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ حَلْقًا

یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے اس کیلئے جو ڈرتا ہے کیا تم بہت سخت ہو پیدائشی میں

أَمْ السَّمَاءُ ۲۵ بَنَاهَا ۲۶ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ۲۷ وَأَغْطَشَ

یا آسمان کہ بنایا اس کو اونچی کی اس کی بندی پھر ٹھیک ٹھاک کیا اس کو اور ڈھانک دیا

لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۲۸ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۲۹

اسکی رات کو اور نکالا اس کی دھوپ کو اور زمین کو بعد اس کے پیکھا یا اس کو

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَامًا وَمَرْْعَهَا ۳۰ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۳۱

نکالا اس میں سے پانی اس کا اور چارہ اس کا اور پہاڑ گاڑ دیا ان کو

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۳۲ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ ۳۳

سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چارہ والوں کے لیے پس جب آویگی گھمسان بڑی

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۳۴ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن

اس دن یاد کرے گا آدمی جو سعی کی تھی اور ظاہر کیا جاویگا دوزخ کو اس کے لیے جو

بَيَّرَىٰ ۳۵ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۳۶ وَأَشْرَأَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۳۷ فَإِنَّ الْجَحِيمَ

دیکھتا ہے پس جس نے سرکش کی اور مقدم کیا زندگی دنیاوی کو تو یقیناً دوزخ ہے

هِيَ الْمَادَى ﴿١٠﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ

ٹھکانا اس کا اور جو کوئی ڈرا کھڑا ہونے سے آگے رب اپنے کے اور روکا اپنے جی کو

عَنِ الْهَوَىٰ ﴿١١﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَادَى ﴿١٢﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ

خواہشوں سے پس یقیناً بہشت ہے اس کا ٹھکانا پلوچتے ہیں تجھ سے

السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا ﴿١٣﴾ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿١٤﴾ لِي

قیامت کی بابت کب ہے وقت اس کے قیام کا کس میں ہے تو اس کے ذکر سے تیرے

رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَىٰ ﴿١٦﴾ كَانَتْ لَهُمْ

رب کی طرف ہے انتہا اس کی تو تو صرف ڈرانے والا ہے اسکو جو ڈرتا ہے اس سے گویا کہ وہ

يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ﴿١٧﴾

جس دن دیکھیں گے اس کو نہیں رہے تھے وہ مگر ایک شام یا ایک اس کی صبح

سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

(پس پڑھنا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿٢﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٣﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ

نیوری چڑھان اور منموڑا یہ کہ آیا اس کے پاس اندھا اور کیا جانے تو شاید کہ وہ

يَزْعُمِي ﴿٤﴾ أَوَيْدَكَرَفْتَنْفَعَهُ الْزُّكْرَى ﴿٥﴾ أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَى ﴿٦﴾

پاک ہوتا یا نصیحت سنتا تو فائدہ دیتی اس کو نصیحت پس جو شخص کہ بے پرواہی کرتا ہے

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٧﴾ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْعُمِي ﴿٨﴾ وَأَمَّا مَنْ

تو تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور نہیں تجھ پر الزام یہ کہ وہ پاک نہ ہوئے اور پس جو کوئی آوے

جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٩﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿١٠﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١١﴾ كَلَّا

تیرے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے تو تو اس سے غفلت کرتا ہے ہرگز نہیں

اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۗ۱۳۱ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۗ۱۳۲ فِيْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۗ۱۳۳

نیسا یہ نصیحت ہے پس جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے صحیفوں عزت والوں سے

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۗ۱۳۴ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۗ۱۳۵ كِرَامٍ بَرَدَةٍ ۗ۱۳۶ قُتِلَ

جو بلند کئے گئے پاک کئے گئے ہاتھ میں کھنے والوں کے بزرگ نیکو کاروں کے مار ہو

الْاِنْسَانَ مَا اَكْفَرَهُ ۗ۱۳۷ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ۱۳۸ مِنْ نُّطْفَةٍ ۗ۱۳۹

آدمی پر کیا ہی ناشکر اپنے کس شے سے پیدا کیا ہے اس کو نطفے سے

خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۗ۱۴۰ ثُمَّ السَّيِّئِلَ يُسِّرُهُ ۗ۱۴۱ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبِرَهُ ۗ۱۴۲

پیدا کیا اسکو پھر اندازہ کیا اس کو پھر راہ آسان کی اس کی پھر موت دی اسکو پھر گاڑا اس کو

ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرُهُ ۗ۱۴۳ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ ۗ۱۴۴ فَلْيَنْظُرِ

پھر جب چاہے گا اٹھائے گا اسکو ہرگز نہیں ابھی پورا کیا اس نے جس کا حکم کیا گیا تھا اسکو پس دیکھے

الْاِنْسَانَ اِلَى طَعَامِهِ ۗ۱۴۵ اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۗ۱۴۶ ثُمَّ شَقَقْنَا

آدمی اپنے کھانے کی طرف یہ کر برسایا ہم نے پانی قاعدہ سے پھر پھاڑا ہم نے

الْاَرْضَ شَقًّا ۗ۱۴۷ فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۗ۱۴۸ وَعِنبًا وَقَضْبًا ۗ۱۴۹ وَ

زمین کو بقاعدہ پس اگائے ہم نے اس میں انانج اور انگور اور ترکاری اور

زَيْتُوْنَآ وَنَخْلًا ۗ۱۵۰ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۗ۱۵۱ وَفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۗ۱۵۲ مَّتَاعًا

زیتون اور کھجوریں اور باغ کھنے اور میوے اور چارہ فائدہ ہے

لَكُمْ وَّلَا نَعْمًا كُمْ ۗ۱۵۳ فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۗ۱۵۴ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ

تمہارے لیے اور تمہارے چارپایوں کیلئے پس جب آوے گی کان پھوڑنیوالی اس دن بھلے گا آدمی

مِنْ اَخِيهِ ۗ۱۵۵ وَاٰرَمِهِ ۗ۱۵۶ وَاصْحَابَتِهِ وَبَنِيهِ ۗ۱۵۷ لِكُلِّ

اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی جوڑو اور اپنے بیٹوں سے ہر

اَمْرٍ وَّمِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ ۗ۱۵۸ وَجُوهٌ يُّؤَمِّرُ

انسان کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہے جو کافی ہے کتنے مند اس دن

مُسْفِرَةٌ ۗ۱۵۹ ضَاكِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۗ۱۶۰ وَجُوهٌ يُّؤَمِّرُ عَلَيْهَا

روشن ہوں گے ہستے ہوئے ہشاش بشاش اور کتنے مند اس دن

غَبْرَةً ۳۱ تَرَهَقَهَا قَتْرَةً ۳۲ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجْرَةُ ۳۳

غبار آلود ہوئے، چڑھی ہوئی ہوگی ان پر سیاہی یہی ہیں کافر بدکار

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۲ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۳ وَإِذَا

جس وقت کہ سورج پیٹا جاوے اور جس وقت کہ تارے کدر ہو جاویں اور جس وقت

الْحَبَالُ سُيِّرَتْ ۴ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۵ وَإِذَا الْوُحُوشُ

پاڑ چلائے جاویں گے اور جو ہفت دس پینے کی گاہیں اوشیاں معطل ہوں گی اور جبکہ وحوش اٹنے

حُشِرَتْ ۶ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۷ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۸

کئے جاویں گے اور جبکہ دریا پیرے جاویں گے اور جس وقت جاہیں قسم قسم کی ملائی جاویں گی

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۹ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۱۰ وَإِذَا الصُّحُفُ

اور جس وقت زندہ درگور لڑکی پوچھی جاوے گی کہ کس گناہ پر وہ ماری گئی اور جب کہ کتابیں

نُشِرَتْ ۱۱ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۱۲ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۱۳

پھیلان جاویں گی اور جب آسمان کی کھال اتاری جاوے گی اور جب دوزخ بھڑکان جاوے گی

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفِغَتْ ۱۴ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۱۵ فَلَا

اور جب جنت نزدیک کی جاوے گی جان لے گا ہر جی جو کچھ حاضر کیا ہے اس نے پس

أَقْسَمُ بِالْخُنُوسِ ۱۶ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۱۷ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۱۸

میں قسم کھاتا ہوں پھر جاہنوالوں سیدھا چلنے والوں تم رہنے والوں کی اور رات کی جب چھا جائے

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۱۹ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۲۰ ذِي قُوَّةٍ

اور صبح کی جب بھلے یقیناً یہ قول رسول عزت والے کا ہے جو قوت والا

عَنْذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿۳۱﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿۳۲﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ

حضور عرش والے رتبہ والے کے ہے اطاعت کیا گیا اس جگہ امین بھی ہے اور نہیں صاحب تمہارا

بِمَجْنُونٍ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ رَاَهُ بِآلَا فُقِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾ وَمَا هُوَ عَلَى

دیوانہ اور البتہ دیکھا ہے اس نے اسکو افاق صاف میں اور نہیں وہ

الْغَيْبِ بَصِيرِينَ ﴿۳۵﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿۳۶﴾ فَآيُنَ

غیب بتانے میں بخیل اور نہیں یہ قول شیطان راندہ درگاہ کا پس کہاں

تَذُهِبُونَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ

تم جاتے ہو نہیں یہ مگر نصیحت جہانوں کے لیے اس کیلئے جو چاہے تم میں سے ہر

يَسْتَوْقِيمَ ﴿۳۹﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۰﴾

سیدھی راہ چلے اور نہیں کچھ چاہ سکتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ رب جہانوں کا

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ﴿۲﴾ وَاِذَا الْاَنْكُوَابُ اِنْتَثَرَتْ ﴿۳﴾ وَاِذَا

جبکہ آسمان بھٹ جاوے اور جبکہ تارے جھڑ جاویں گے اور جبکہ

الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿۴﴾ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿۵﴾ عَلِمْتَ نَفْسُ

دریا پیرے جاویں اور جب قبریں اکھاڑی جاویں جان لے گا ہر جی

مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿۶﴾ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ كَرَمٍ

جو کچھ آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اے انسان کس چیز نے فریب دیا تجھ کو تیرے رب کرم

الْكُرْهِمِ ﴿۷﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿۸﴾ فِي أَيِّ

والے کے بارے میں جس نے پیدا کیا تجھ کو پھر ٹھیک ٹھاک بنایا تجھ کو پھر اعتدال سے بنایا تجھ کو جس

صُورَةً مَّا شَاءَ دَكَّبَكَ ۙ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ۙ وَإِنَّ

صورت میں اچھا ترکیب دیا تجھکو ہرگز نہیں بلکہ جھٹلاتے ہو تم قیامت کو اور یقیناً

عَلَيْكُمْ لَحُوفِيْنَ ۙ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۙ

تم پارہ البتہ نگہبان ہیں بزرگ ہیں کھنے والے جانتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۙ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۙ

یقیناً نیکوکار البتہ نعمت میں ہیں اور یقیناً بدکار البتہ دوزخ میں ہیں

يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الذِّينِ ۙ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۙ وَمَا

داخل ہونگے اس میں جزا کے دن اور نہیں وہ اس سے غائب ہوںیوالے اور کس چیز

أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۙ ثُمَّ مَا أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۙ

نے معلوم کروایا تجھکو کیا ہے دن جزا کا پھر کیا جانے تو کیا ہے دن جزا کا

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۙ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۙ

جس دن نہ اختیار رکھے گا کوئی جی کسی جی کے لیے کچھ اور حکم اس دن خدا کے لیے ہے

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے جو رحمن اور رحیم ہے

وَيْدُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۙ الذِّينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

ہلاکت ہے کم دینے والوں کے لیے وہ کہ جب ناپ دیوں لوگوں سے

يَسْتَوْفُونَ ۙ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ ذَرُّوهُمُ يُخْسِرُونَ ۙ

پلورے لیں اور جب ناپ دیوں یا تول دیوں ان کو تو کم کر دیوں

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۙ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۙ يَوْمَ

کیا نہیں جانتے وہ لوگ یہ کہ وہ اُٹھائے جاویں گے ایک دن بڑے کے لیے جس دن

يَقَوْمُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي

کرمے ہوں گے لوگ رب العالمین کے حضور ہرگز نہیں یقیناً عمل نامہ بدکاروں کا البتہ

سَجِّينَ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴿٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿١٠﴾ وَيَلِدُ

تبدلیوں کے رجسٹر میں ہے اور کیا جانے تو کیا ہے سبجین دفتر ہے لکھا ہوا ہلاکت ہے

يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١٢﴾

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٣﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا

اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے نکل جانے والا گنہگار جب پڑھی جاوے اس پر ہماری آیتیں

قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا

کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی ہرگز نہیں بلکہ رنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر اس نے جو تھے

يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٦﴾

وہ کھاتے ہرگز نہیں یقیناً وہ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں ہوں گے

ثُمَّ أَنَّهُمْ لَمَّصُوا الْأَجِيمَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ

پھر بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ میں پھر کہا جاوے گا یہ ہے وہ کہ تھے تم

بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿١٨﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٩﴾ وَمَا

جس کو جھٹلاتے ہرگز نہیں یقیناً عمل نامہ نیکوں کا البتہ عالی مرتبہ لوگوں کے رجسٹر میں ہیں اور کیا

أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٢٠﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢١﴾ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ الْمَقْرَبُونَ ﴿٢٢﴾

جانے تو کیا ہے علیوں دفتر ہے لکھا ہوا حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٣﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٤﴾

یقیناً نیکوکار البتہ نعمت میں ہوں گے تختوں پر دیکھتے ہوں گے

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٥﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ

پہچانے گا تو ان کے چہروں میں تازگی نعمت کی پلائے جاوے گے

رَحِيْقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٦﴾ خَتْمُهُمْ فِي ذَلِكُمْ فَلْيَنصُرْنَا فِي

شہراب خالص ٹمڑکی ہوئی کہ مہر کرنے کی چیز اسکی مشک ہے اور اس میں پس رغبت کریں

الْمُتَنَافِسُونَ ﴿۲۸﴾ وَرِمَازُجَهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿۲۸﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ

رغبت کرنے والے اور اس کی طوفی تسیم سے ہے جو چشم ہے کہ پیتے ہو گئے

بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ

اس سے مقرب خدا کے یقیناً وہ جو گنہگار ہوئے تھے ان میں سے جو

أَمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿۳۰﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿۳۱﴾ وَإِذَا

ایمان لائے ہنستے ہیں اور جب گذرتے ہیں ان پر اشارہ کرتے تھے اور جب

انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿۳۲﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا

پھر جاتے ہیں اپنے لوگوں کی طرف پھرتے ہیں باتیں بناتے ہوئے اور دیکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿۳۴﴾

یقیناً یہ لوگ الٹے گمراہ ہیں اور نہیں بھیجے گئے ان پر نگہبان

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۵﴾ عَلَىٰ

پس آج وہ جو ایمان لاتے ہیں کافروں سے ہنستے ہیں

الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿۳۶﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۷﴾

تختوں پر دیکھتے ہیں کیا بدلہ دیتے جاتے ہیں کافروں کا جو وہ کرتے تھے

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

شروع ساتھ نام اللہ رحمن رحیم کے

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿۲﴾ وَإِذَا نَتَبَّرَتِ لَهَا وَحُقَّتْ ﴿۳﴾ وَإِذَا

جس وقت کہ آسمان پھٹ جاوے اور کان رکھے اپنے رب کیلئے اور اسی لائق ہے اور جب

الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿۴﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿۵﴾ وَإِذَا نَتَبَّتْ

زمین کشادہ کی جاوے اور اگلے جو اس میں ہے اور خالی ہو جاوے اور کان رکھے

لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ كَادٌ لَّيُؤْتِيَنَّكَ رَبُّكَ

اپنے رب کیلئے اور اسی لائق ہے اے آدمی بیشک تو مشقت کرنوالا ہے اپنے رب کیلئے

كَذٰهَا فَمَلَقِيْهِ ۗ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۗ فَسَوْفَ

خوب محنت کرے پس ملنے والا ہے اسکو۔ پس جو کوئی دیا جاوے گا اپنا عمل نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں تو البتہ

يُحٰسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۗ وَيُنْقَلِبُ اِلٰى اٰهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۗ وَاَمَّا

یابا جاوے گا حساب آسان اور آوے گا واپس اپنے لوگوں کی طرف خوش و خرم اور

اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ ۗ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۗ

لیکن جو کوئی دیا جاوے گا اپنا عمل نامہ اپنی پشت کی طرف سے تو عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو

وَيَضْلٰى سَعِيْرًا ۗ اِنَّهٗ كَانَ فِيْ اٰهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۗ اِنَّهٗ ظَنَّ

اور داخل ہوگا دوزخ میں یقیناً وہ تھا اپنے لوگوں میں خوش و خرم یقیناً اس نے گمان

اَنْ لَّنْ يَّحُوْرًا ۗ بَلٰۤى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۗ فَلَا اَقْسَمُ

کیا تھا کہ ہرگز زندہ پھر آئیگا کیوں نہیں یقیناً اس کا رب تھا اس کو دیکھنے والا پس میں قسم کھاتا ہوں

بِالشَّفَقِ ۗ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۗ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَّقَ ۗ لَتَرْكَبُنَّ

شفق کی اور رات کی اور جس کو اکٹھا کرتی ہے اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاوے البتہ تم سوار ہو گے

طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۗ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۗ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ

درج بدرج پس کیا ہے انکو نہیں وہ ایمان لائے اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر

الْقُرْاٰنَ لَا يَسْجُدُوْنَ ۗ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَكْفُرُوْنَ ۗ

قرآن نہیں سجدہ کرتے بلکہ وہ جو کافر ہوتے جھٹلاتے ہیں

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُوْنَ ۗ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۗ اِلَّا

اور اللہ خوب جانتا ہے اسکو جو وہ دل میں رکھتے ہیں پس بشارت دے انکو عذاب دردناک کی مگر

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۗ

وہ جو ایمان لائے اور کام کئے اچھے انکے لیے ہے ثواب بے انتہا۔

معاذتہ

التبت

۴۶



سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۲ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۳ وَشَاهِدٍ ۴

قسم ہے آسمان بُرجوں والے کی اور دن وعدہ دینے والے کی اور حاضر ہونے والے اور

مَشْهُودٍ ۵ قِتْلَاصْحَابِالْاُخْدُوْدِ ۶ النَّارِذَاتِالْوَقُوْدِ ۷

حاضر کئے گئے کی مارے گئے کھائیوں والے کہ آگ تھی بہت ایندھن والی جبکہ

هُمَعَلَيْهَاقُعُوْدٌ ۸ وَهُمْعَلٰی مَايَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُُوْدٌ ۹

وہ اس کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ اس پر جو وہ کرتے تھے مومنوں سے حاضر تھے

وَمَا نَقْمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۱۰

اور نہ عیب پکڑا تھا انہوں نے ان میں سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ غالب تعریف کئے گئے پر

الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِِيْدٌ ۱۱

وہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہر شے پر شاہد ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا

یقیناً جنہوں نے ایذا دی ایمان والوں اور ایمان والیوں کو پھر نہ توبہ کی

فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۱۲ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

پس ان کیلئے عذاب دوزخ کا ہے اور ان کیلئے عذاب جلنے کا ہے یقیناً وہ جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ذٰلِكَ

اور عمل کئے اچھے ان کے لیے باغ ہونگے جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں یہ ہے

الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۱۳ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُُوْا يُبْدُوْنَ

کامیابی بڑی یقیناً پکڑ تیرے رب کی اللہ سخت ہے یقیناً وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور

يُعِيدُ ۱۳ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۱۵ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۱۶ فَقَالَ

دوبارہ کرے گا اور وہی بخشنے والا دوستی کرنے والا عرش والا بزرگی والا ہے وہی کنیوالا ہے

لَمَّا يُرِيدُ ۱۷ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۱۸ فِرْعَوْنٌ وَثَمُودُ ۱۹

جو کچھ چاہے کیا آئے تیرے پاس بات شکروں فرعون اور ثمود کی

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۲۰ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ

بلکہ وہ جو کافر ہوئے تکذیب میں ہیں اور اللہ ان کو آگے پیچھے سے

مُحِيطٌ ۲۱ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۲۲ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۲۳

گھرنے والا ہے بلکہ وہ قرآن ہے بزرگ لوح محفوظ میں

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۳ النَّجْمُ

قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنیوالے کی اور کیا جانے تو کیا ہے رات کو آنے والا تارا ہے

الشَّاكِبِ ۴ إِنَّ هَلْ نَفْسٌ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۵ فَلْيَنْظُرِ

جگمگتا ہوا نہیں کوئی جی مگر اس پر ایک نگہبان ہے پس دیکھے

الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ۶ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۷ يَخْرُجُ مِنْ

آدمی کس سے وہ پیدا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے پانی اچھلنے والے سے نکلتا ہے

بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۸ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۹ يَوْمَ

پیٹھ اور چھاتیوں کے درمیان سے یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے جس دن

تُبْلَى السَّرَائِرُ ۱۰ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۱۱ وَالسَّمَاءِ

ظاہر کی جاہیں کی مخفی باتیں بس نہ ہوگی اس کے لیے کچھ قوت اور نہ مددگار قسم ہے آسمان

ذَاتِ الرَّجَمِ ۱۲ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْرِ ۱۳ إِنَّهُ لَقَوْلُ

بارش والے کی اور زمین پھٹنے والی کی بیشک یہ البتہ بات ہے

فَضْلٌ ۱۴ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۵ إِنَّهُمْ يَحِيدُونَ كَيْدًا ۱۶ وَ

فیصلہ کرنیوالی اور نہیں وہ بہودہ یقیناً وہ کرتے ہیں ایک تدبیر اور

أَكِيدُ كَيْدًا ۱۷ فَمَهْلِكُ الْكُفْرَيْنِ أَمْهَلُهُمْ رُودِيًا ۱۸

میں بھی کرتا ہوں ایک تدبیر پس مہلت دے کافروں کو مہلت دے ان کو ایک مدت تک

سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۲ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى ۳ وَالَّذِي

تسبیح کر نام اپنے رب کی جو بلند ہے جس نے پیدا کیا تم کو پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور جس نے

قَدَّرَ فَهَدَى ۴ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۵ فَجَعَلَهُ غُثَاءً

اندازہ کیا پھر راہ دکھائی اور جس نے نکالا چارہ پس کر دیا اس کو کوٹا کر کوٹ

أَحْوَى ۶ سَتَقَرُّنَّكَ فَلَا تَنْسَى ۷ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ

سیاہ ضرور بالفور ہم پڑھیں گے تجھ پر پس نہ تو بھولے گا مگر جو چاہے اللہ یقیناً وہ

يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۸ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۹ فَذِكْرٌ

جانتے ہے ظاہر کو اور اس کو بھی جو مخفی ہے اور ہم میسر کریں گے تجھ کو آسانی پس نصیحت کر

إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى ۱۰ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى ۱۱ وَ

اگر نفع کرے نصیحت کرنا ضرور نصیحت پڑے گا وہ جو ڈرتا ہے اور

يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۱۲ الَّذِي يَضِلُّ النَّارَ الْكُبْرَى ۱۳

ایک طرف رہے گا اسی سے بد بخت جو داخل ہوگا آگ بڑی میں

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿۱۳﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَىٰ ﴿۱۵﴾

پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ رہے گا یقیناً بامراد ہوا وہ جو پاک ہوا

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿۱۶﴾ بَلْ تُؤْشِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿۱۷﴾

اور یاد کیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی بلکہ تم مقدم کرتے ہو زندگی دنیاوی کو

وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿۱۸﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿۱۹﴾

حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی یقیناً یہ اللہ صحیفوں پہلوں میں ہے

صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿۲۰﴾

یعنی صحف ابراہیم اور موسیٰ میں

۱۴

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿۲﴾ دُجُوعًا يُؤْمَرُ بِهَا شَعَثَةٌ ﴿۳﴾

کیا آئی تیرے پاس بات ڈھانک لینے والی کتنے منہ اس دن ذہیل ہونے والے ہیں

عَامِلَةٌ تَأْتِي مِنَ الْغَيْبِ ﴿۴﴾ تَصَلِّي نَارًا كَأَمِيَّةٍ ﴿۵﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ

عمل کرنیوالے محنت کرنیوالے داخل ہونگے آگ جلتی میں پلانٹے جاویں گے چشمہ

أَنْبِيَةٍ ﴿۶﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ﴿۷﴾ لَا يُسْمِنُ وَ

کھولتے ہیں سے نہیں ان کے لیے کھانا مگر تھوہر (ناگ پھنی) کا جو نہ موٹا کرے اور

لَا يُغْنِي عَنْهُ جُوعٌ ﴿۸﴾ دُجُوعًا يُؤْمَرُ بِهَا عَمَةٌ ﴿۹﴾ لَسَعِيهَا

نہ کافی ہو بھوک کو کتنے منہ اس دن خوش و خرم ہوں گے اپنی سسی سے

رَاضِيَةً ﴿۱۰﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿۱۱﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿۱۲﴾ فِيهَا

راضی ہوں گے بہشت بریں میں نہ سنتے ہونگے اس میں بیوہ بات اس میں

عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿۱۳﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿۱۴﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿۱۵﴾

چشم ہے جاری اس میں تخت ہیں بلند اور آنجورے ہیں دھرے ہوئے

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿۱۶﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿۱۷﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ

اور ٹیکے ہیں قطار دار اور مندریں ہیں بچھائی ہوئی پس کیا نہیں وہ دیکھتے

إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۸﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۹﴾ وَإِلَى

اونٹوں کی طرف کس طرح وہ پیدا کئے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کیسے وہ بلند کیا گیا اور

الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿۲۰﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۱﴾

پہاڑوں کی طرف کیونکہ وہ گاڑے گئے اور زمین کی طرف کیسے وہ بچھائی گئی

فَذَكِّرْهُنَّ أَنْتَ مَذَكِّرٌ ﴿۲۲﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿۲۳﴾

پس نصیحت کر صرف تو تو نصیحت کرنا لائے نہیں تو ان پر داروغہ

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿۲۴﴾ فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿۲۵﴾

مگر جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا پس دے گا اللہ اسکو عذاب بڑا

إِنَّ إِلَيْنَا أِيًّا بِهُمْ ﴿۲۶﴾ ثَمَرَاتٍ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ﴿۲۷﴾

یقیناً ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا پھر یقیناً ہمارے ذمے ہے حساب ان کا

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالْفَجْرِ ﴿۲﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿۳﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿۴﴾ وَالْأَيْلِ

تسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی

إِذَا أَيْسَرَهُ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ ﴿۵﴾ أَلَمْ تَرَ

جب رواں ہو کیا اس میں قسم ہے عقلمندوں کے لیے کیا نہ دیکھا تو نے

كَيْفَ فَعَدَّ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٤﴾ اِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٥﴾ الَّتِي

کیا حال کیا تیرے رب نے عادی ارم ستونوں والے کا وہ جو

لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٦﴾ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا

نہیں بنایا گیا مانند اس کی شہروں میں اور تمود کا جو تراشتے تھے

الصَّخْرَ بِأَلْوَادٍ ﴿١٠﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ﴿١١﴾ الَّذِينَ

پتھروں کو وادی میں اور فرعون مینگوں والے کا یہ سب تھے جنہوں

طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٣﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٤﴾ فَصَبَّ

نے سرکشی کی شہروں میں پس بہت کیا انہوں نے اس میں فساد تو ڈالا

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاتِ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا

ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا یقیناً تیرا رب البتہ نگاہت میں ہے پس جو

الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ

انسان کرجب آزما تا ہے اس کا رب تو عزت دیتا ہے اس کو اور نعمت دیتا ہے اس کو پھر کہتا ہے

رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٧﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ

کرجب نے عزت دی مجھ کو اور جب آزما تا ہے اس کو اور تنگ کرتا ہے اس پر اس کا رزق

فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٨﴾ كَلَّا بَلْ لَا شُكْرَ لِمُونَ الْيَتِيمِ ﴿١٩﴾

تو کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کیا مجھ کو ہرگز نہیں تم عزت کرتے یتیم کی اور

لَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٩﴾ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثِ الْأَكْلًا

نہ ترغیب دیتے ہو کھانا کھلانے فقیر کے لیے اور تم کھاتے ہو میراث کو کھانا

لَمًّا ﴿٢٠﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢١﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ

پے درپے اور تم کرتے ہو مال سے محبت بہت ہرگز نہیں جب توڑی جاوے گی زمین

دَكًّا دَكًّا ﴿٢٢﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٣﴾ وَجِئْنَا

ریزہ ریزہ اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف باندھ کر اور لایا جاوے گا

يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۗ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ

اس دن دوزخ کو اس دن نصیحت پکڑے گا آدمی اور کہاں ہے اس کو

الذِّكْرَىٰ ۚ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدِّمْتُ لِحَيَاتِي ۗ فَيَوْمَئِذٍ

نصیحت پڑھنا کے گا اے کاش کہ میں پہلے بھیج لیتا اپنی زندگی کے لیے پس اس دن

لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۗ وَلَا يُوثِقُ وَثْقَاهُ أَحَدٌ ۗ

نہ عذاب دے گا اس کے عذاب سا کوئی اور نہ قید کرے گا اس کی قید جیسی کوئی اور

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۗ أَرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً

اے نفس آرام پھرنے والے لوٹ آ اپنے رب کی طرف خوش ہونیوالا

مَرْضِيَّةً ۗ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۗ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۗ

پسند کیا گیا پس داخل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۗ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۗ وَوَالِدِ

میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تو آرا ہوا ہے اس شہر میں اور قسم ہے بنانے والے

دَّمَاءٍ ۗ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۗ أَيْحَسِبُ أَنْ لَّنْ

کی اور جسکو جنا اللہ پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو محنت میں کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہ

يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۗ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۗ أَيْحَسِبُ

قائو پائے گا اس پر کوئی کتنا ہے خرچ کیا میں نے مال ڈھیروں ڈھیر کیا وہ گمان کرتا ہے

أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۗ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۗ وَلِسَانًا وَ

کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے کیا نہیں بنائیں ہم نے اس کی دو آنکھیں اور زبان اور

شَفَتَيْنِ ۗ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۗ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۗ وَ

دو ہونٹ اور دکھائیں ہم نے اس کو دو راہیں پس نہ بیٹھا گھاٹی میں اور

مَا أَذْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿۳﴾ فَكَ رَقَبَةٌ ﴿۴﴾ أَوْ أَطْعَمَ فِي يَوْمٍ

کیا جانے تو کیا ہے گھاٹ آزاد کرنا گردن کا یا کھانا کھلایا وقت

ذِي مَسْجَبَةٍ ﴿۵﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿۶﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿۷﴾

بھوک کے یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاک افتادہ کو

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا

پھر ہوا ان میں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو نصیحت

بِالْمَرْحَمَةِ ﴿۸﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿۹﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

کرتے ہیں رحم کی یہی ہیں داہنی طرف والے اور جو کافر ہوئے

بِأَيْتَانَاهُمَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿۱۰﴾ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿۱۱﴾

ہماری آیتوں کے وہ ہیں بدبخت ان پر آگ ہے دروازہ بند کی ہوئی

۱
۱۵

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿۲﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَلَّهَا ﴿۳﴾ وَالتَّهَارِ

قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور قسم ہے چاند کی جب پیچھے آوے اور دن کی

إِذَا جَلَّتْهَا ﴿۴﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿۵﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿۶﴾

جب ظاہر کرے اسکو اور رات کی جب ڈھانک لے اسکو اور آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا اس کو

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴿۷﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿۸﴾ فَأَلْهَمَهَا

اور زمین کی اور اس کی جس نے چھایا اسکو اور جان کی اور جس نے درست کیا اس کو پھر جنادی اس کو

فَجُودَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿۹﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿۱۰﴾ وَقَدْ

بیکاری اس کی اور پرہیزگاری اس کی یقیناً مراد کو پہنچا وہ جس نے پاک کیا اس (نفس) کو اور یقیناً

خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝

نامراد ہوا وہ جس نے گاڑ دیا اس کو جھٹلایا ثمود نے بوج اپنی سرکشی کے

إِذَا نُبِئَتْ آشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةٌ

جب اٹھا بد بخت ان کا تو کہا تھا ان کو خدا کے رسول نے (بچو) اونٹنی

اللَّهُ وَسُقِيهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوْهَا فَذَمَّ

خدا کی سے اور اونٹنی کے پانی سے تو انہوں نے جھٹلایا اسکو پھر پاؤں کاٹے اس کے پس ہلاک کر دیا ان کو

عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

ان کے رب نے بوج گناہ کے ان کے پس برابر کر دیا انکو اور نہیں ڈرتا اس کے پچھلے انجام سے

سُورَةُ الْيَلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

میں پڑھتا ہوں ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

قسم ہے رات کی جب ڈھانک لے اور دن کی جب روشن ہو اور اس کی جس نے پیدا کیا مرد

وَالْأُنثَى ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝

اور عورت کو یقیناً نہاری سعی البتہ مختلف ہے پس جس نے دیا (خدا کی راہ میں) اور برہیز گاری کی

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنِيْسِرُهُ لِيُسْرَى ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ

اور تصدیق کی اچھی بات کی تو ضرور ہم دینگے اس کو بہت آسانی اور لیکن جس نے بخل کیا

وَأَسْتَغْنَى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْعُسْرَى ۝ وَ

اور بے پروائی کی اور جھٹلایا اچھی بات کو تو ضرور دینگے ہم اس کو سختی اور

مَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۝ وَإِنَّ

نہ کام آئیگا اس کو اس کا مال جب وہ گر آیا جائے گا یقیناً ہمارے ذمہ ہے راہ دکھانا اور یقیناً

لَنَا لِآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۚ فَاذْرِكْكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝۱۵ لَا يَصُدُّهَا

ہمارے لیے ہے آخرت اور دنیا پس میں نے ڈرا یا تم کو آگ شعلہ مارنے والی سے نہ داخل ہوگا اس میں

إِلَّا الْأَشْقَىٰ ۝۱۶ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝۱۷ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ ۝۱۸

مگر وہ جو بڑا بد بخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور ضرور اٹک کیا جاوے گا اس سے بڑا بر بہر گار

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝۱۹ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

جو دیتا ہے اپنا مال پاک ہونے کو اور نہیں کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا

تُجْزَىٰ ۝۲۰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝۲۱ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝۲۲

بدل دیا جاوے مگر چاہنے رضا اپنے رب اعلیٰ شان والے کی اور البتہ ضرور وہ راضی ہوگا

سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

وَالضُّحَىٰ ۝۲ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝۳ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا

تسم ہے دن چڑھنے کی اور رات کی جب ڈھاٹک لے نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ

قَلَىٰ ۝۴ وَلَاخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝۵ وَلَسَوْفَ

نفرت کی اور البتہ بچھلی حالت بہتر ہے تیرے لیے پہلی حالت سے اور البتہ عنقریب

يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝۶ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا

دیگا تجھ کو تیرا رب پس تو راضی ہوگا کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم

فَأَدَّىٰ ۝۷ دَوَّجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝۸ وَوَجَدَكَ عَائِلًا

تو پناہ دی اور پایا تجھ کو اپنی محبت میں گم شدہ تو راہنمائی کی اور پایا تجھ کو فقیر

فَأَغْنَىٰ ۝۹ فَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَمَ ۝۱۰ وَأَمَّا السَّائِلَ

تو غنی کیا پس جو یتیم ہو پس مت سختی کر اور جو مانگنے والا ہو

فَلَا تَنْهَرُوا ۝۱۱ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۲

تو مت ڈانٹ اور جو نعمت ہے تیرے رب کی پس بیان کر

سُورَةُ الْمُنْشَرِّحِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

الْمُنْشَرِّحِ لَكَ صَدْرَكَ ۝۲ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝۳

کیا نہ کھول دیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ اور اتار رکھا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝۴ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝۵ فَإِنَّ

جس نے توڑی تھی پیٹھ تیری اور بلند کیا ہم نے تیرے لیے ذکر تیرا پس یقیناً

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۶ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۷ فَإِذَا

ساتھ سختی کے آسانی ہے یقیناً ساتھ سختی کے آسانی ہے پس جب

فَرَّغْتَ فَاَنْصَبْ ۝۸ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝۹

تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف پس رغبت کر

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝۲ وَطُورِ سِينِينَ ۝۳ وَهَٰذَا الْبَلَدِ

قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس شہر

الْأَمِينِ ﴿١﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٢﴾

امن والے کے البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو اچھی ترکیب میں

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

پھر پھیر دیا ہم نے اس کو رذیل سے رذیل بجز ان کے جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٤﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ

عمل کئے اچھے پس ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا پس کون تکذیب کرتا ہے تیری

بَعْدُ بِالرِّدِّينِ ﴿٨﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْخَكِمِينَ ﴿٩﴾

پچھے جڑا کے بارے میں کیا نہیں اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا سب فیصلہ کرنے والوں سے

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

پڑھ ساتھ نام اپنے رب کے جس نے پیدا کیا پیدا کیا آدمی کو جسے ہوش

عَلَقٍ ﴿٣﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٤﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٥﴾

لہو سے پڑھ اور رب تیرا کرم کرنے والا ہے جس نے سکھایا قلم کے ساتھ

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٧﴾ كَلَّاتٍ الْإِنْسَانَ لِيَطْغَىٰ ﴿٨﴾

سکھایا آدمی کو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ ہرگز نہیں یقیناً انسان البتہ سرکش کرتا ہے

أَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿٩﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي

اس سے کہ دیکھتا ہے اپنے تئیں غنی ہوا یقیناً تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے کیا دیکھتا تو نے اس کو جو

يَنْهَىٰ ﴿١٠﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١١﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

روکتا ہے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے کیا دیکھتا تو نے اگر ہوتا ہدایت پر

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۗ ﴿۳۳﴾ أَدَّيْتِ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۗ ﴿۳۴﴾ أَلَمْ

یا ترغیب دینا تقویٰ کی کیا دیکھا تو نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا کیا نہ

يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۗ ﴿۳۵﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهَ ۖ لَنَسْفَعًا

جانا اس نے یہ کہ اللہ دیکھتا ہے ہرگز نہیں اگر نہ باز رہے گا البتہ تھسیں گے ہم اسکو

بِالتَّاصِيَةِ ۗ ﴿۳۶﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۗ ﴿۳۷﴾ فَلْيَذُمَّ نَادِيَهُ ۗ ﴿۳۸﴾

پیشانی کے بالوں سے وہ پیشانی کہ جھوٹی ہے خطا کار پس بلاوے اپنی مجلس کو

سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ ۗ ﴿۳۹﴾ كَلَّا لَا تَطِعُهُ وَاشْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۗ ﴿۴۰﴾

ہم بلاویں گے فرشتے دوزخ کے ہرگز نہیں مت اطاعت کرو اس کی اور سجدہ کرو اور نزدیک ہو

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ ﴿۱﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ

یقیناً ہم نے اتارا اس کو شب قدر میں اور کیا جانے تو کیا ہے شب

الْقَدْرِ ۗ ﴿۲﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۗ ﴿۳﴾ تَنْزِيلُ

قدر شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے اترتے ہیں

الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ ﴿۴﴾

فرشتے اور روح اس میں باذن اپنے رب کے تمام امور لے کر

سَلَامٌ تَنْزِيلُهَا حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۗ ﴿۵﴾

سلامتی ہے یہ ہے طلوع فجر تک

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

میں پڑھنا ہوں ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب سے اور مشرک

مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۲ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا

باز رہنے والے یہاں تک کہ آوے انکے پاس دلیل یعنی رسول خدا کی طرف سے پڑھنا ہوا

صُحُفًا مَّطَهَّرَةً ۳ فِيهَا كُتِبَ قِيسَةٌ ۴ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ

صحیفے پاکیزہ اس میں ہیں کتابیں پاکیزہ اور نہ تفرق کیا انہوں نے جو

أَدُّوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۵ وَمَا أُمِرُوا

دیئے گئے کتاب مگر بعد اس کے کہ آئی انکے پاس دلیل ظاہر اور نہیں حکم کیے گئے

إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۶ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے لیے دین کو اخلاص سے اور قائم رکھیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۷ إِنَّ الَّذِينَ

نازکو اور دیں زکوٰۃ کو اور یہ ہے دین مضبوط یقیناً وہ جو

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي تَارِجِهِمْ خَلِدِينَ

کافر ہوئے اہل کتاب اور مشرک لوگوں میں سے دوزخ کی آگ میں ہونگے رہنے والے ہیں

فِيهَا ۸ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۹ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اس میں یہی ہیں بدتر از خلائق یقیناً جو ایمان لائے اور عمل کئے

الصَّالِحَاتِ ۱۰ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۱۱ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

اچھے یہی لوگ ہیں بہترین مخلوق ان کا بدلہ ان کے رب کے حضور سے

جَنَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

باغ ہمیشگی کے ہیں جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ ۝۱

راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے اپنے رب سے

سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝۲ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

جب ہلائی جاوے گی زمین اپنے بھونچال سے اور نکال ڈالے گی زمین

أَثْقَالَهَا ۝۳ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝۴ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ

اپنے بوجھ اور کہے گا آدمی کیا ہوا اس کو اس دن کہے گی زمین

أَحْبَابَهَا ۝۵ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

اپنی باتیں بوجہ اس کے کہ نیزے رہنے حکم بھیجا اس کو اس دن لوٹ آویں گے لوگ

أَسْتَأْتَاهُمْ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝۶ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

متفرق ہو کر تاکہ دکھلائے جاویں ان کے عمل پس جو کوئی کرے گا برابر ذرہ کے

خَيْرًا أَوْ شَرًّا أَوْ يَرَهُ ۝۷ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝۸

بھلائی دیکھے گا اس کو اور جو کوئی کرے گا برابر ذرہ کے برائی دیکھے گا اس کو



سُورَةُ الْعَدِيَّتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

وَالْعَدِيَّتِ صَبْحًا ۲ ۱۱ فَاَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۳ ۱۲ فَاَلْمُغِيْرِيَّتِ

تسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ماپ کر پھر آگ نکالنے والوں کی پتھر جھاڑ کر پھر چھاپ مارنے والوں کی

صَبْحًا ۳ ۱۳ فَاَثْرَنَ بِهٖ نَقْعًا ۴ ۱۴ فَوْسَطَنَ بِهٖ جَمْعًا ۵ ۱۵ اِنَّ

صبح کو پس اڑاتے ہیں اس سے غبار پھر وہ جاگتے ہیں اس سے جماعت میں یقیناً

اَلْدُّنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُودٌ ۶ ۱۶ وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشٰهِيْدٌ ۷ ۱۷ وَاِنَّهٗ

آدمی اپنے رب کا البتہ ناشکر ہے اور یقیناً وہ اس پر البتہ شاہد ہے اور یقیناً وہ

يٰۤاِحِبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۸ ۱۸ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۹ ۱۹

محبت مال میں البتہ سخت ہے پس کیا نہیں جانتا وہ جب اٹھائے جاویں گے جو قبروں میں ہیں

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۱۰ ۲۰ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهَمِّ يَوْمِئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۱۱ ۲۱

اور ظاہر کیا جاویگا جو سینوں میں ہے یقیناً ان کا رب ان سے اس دن البتہ باخبر ہے

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

الْقَارِعَةُ ۲ ۱۱ مَا الْقَارِعَةُ ۳ ۱۲ وَمَا اَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ ۴ ۱۳ يَوْمَ

ٹھوکنے والی کیا ہے ٹھوکنے والی اور کیا جانے تو کیا ہے ٹھوکنے والی جس دن

يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

ہو جاویں گے آدمی مانند مڈیوں پر اگندہ کے اور ہو جاویں گے پہاڑ

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ

مانند پشم دھنی ہوں گے لیکن وہ جو بھاری ہو وزن اس کا تو وہ

فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَاَمَّهُ

زندگی دل پسندیں ہے اور لیکن وہ جو ہلکا ہو وزن اس کا تو مال اس کی

هَٰوِيَةً ۝ وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝ نَارًا حَامِيَةً ۝

ہاویہ ہے اور کیا جانے تو کیا ہے وہ ہاویہ آگ ہے جلتی ہوئی

سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ

غافل کیا تم کو کثرتِ مال کی حرص نے یہاں تک کہ ملے تم قبروں سے ہرگز نہیں عنقریب

تَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ

تم جانو گے پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جانو گے ہرگز نہیں کا شے کہ جانو تم

عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝ لَتَرُوْنَ الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرُوْنَهَا عِيْنَ

علم یقینی البتہ تم دیکھو گے دوزخ کو پھر البتہ دیکھو گے اس کو دیکھنا

الْيَقِيْنِ ۝ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيْمَ ۝

یقینی پھر البتہ پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کی بابت



سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

وَالْعَصْرِ ۲ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ۳ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

تسم ہے زمانہ کی یقیناً آدمی البتہ خسارہ میں ہے مجزان کے جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۴ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ ۵ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۶

عمل کئے اچھے اور ایک دوسرے کو نسیحت کرتے ہیں حق کی اور ایک دوسرے کو نسیحت کرتے ہیں صبر کی

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۲ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۳

تباہی ہے ہر غیبت کرنیوالے عیب کرنیوالے کیلئے جس نے جمع کیا مال اور شمار کر رکھا اسکو

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۴ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۵

وہ سمجھتا ہے یہ کہ اس کا مال ہمیشہ رہیگا اسکے پاس ہرگز نہیں البتہ ڈالا جاوے گا حطہ میں اور

مَا أَذْرَكَ مَا الْحُطَمَةُ ۶ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۷ الَّتِي تَطَّلِعُ

کیا جانے تو کیا ہے حطہ آگ ہے اللہ کی سلکان ہونی جو کہ چڑھ جاتی ہے

عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۸ لَاتَهَا عَلَيْهِمْ مَوْصِدَةٌ ۹ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۱۰

دلوں پر یقیناً وہ ان پر دروازہ بند کی گئی ہے ستونوں طول طویل میں

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے جو رحمن اور رحیم ہے

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ ۲ اَلَمْ یَجْعَلْ

کیا نہ دیکھا تو نے کیا حال کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا نہ کر دیا

كَيْدَهُمْ فِی تَضْلِیْلِیْ ۳ وَاَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ۴

ان کے مکر کو اکارت اور بھیجے ان پر پرند جھنڈ کے جھنڈ

تَرْمِیْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیْلِیْ ۵ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ ۶

پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر لوں سے پس کر دیا ان کو مانند بھس کھائے ہوئے کے

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے جو رحمن اور رحیم ہے

اِلٰی یٰفِی قُرَیْشٍ ۲ اِلَیْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ ۳

اُلفت دلانے قریش کے لیے اُلفت دلانے کے لیے انکو سفر سردی اور گرمی میں

فَلِیَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ ۴ الَّذِیْ اَطَعَمَهُمْ مِّنْ

پس عبادت کریں رب اس گھر کی جس نے کھلایا ان کو

جُوْعٍ ۵ وَاَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۶

بھوک میں اور امن دیا ان کو خوف سے

سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ (جو) رحمن اور رحیم ہے

اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّیْنِ ۲ فذٰلِكَ الَّذِي يَدْعُ

کیا دیکھتا تو نے اس کو جو جھٹلاتا ہے جزائز کو پس یہ وہ شخص ہے کہ جو دھکے دیتا ہے

الْیَتِیْمَ ۳ وَلَا یَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِیْنِ ۴ فَوَيْلٌ

یتیم کو اور میں ترغیب دیتا طعام مسکین پر پس خرابی ہے

لِلْمُصَلِّیْنَ ۵ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۶

ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں

الَّذِیْنَ هُمْ مُرْآءُونَ ۷ وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۸

وہ جو دکھلاتے ہیں لوگوں کو اور روکتے ہیں تمام برتنے کی چیزوں کو

سُورَةُ الْكُوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ ۲ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ ۳

یقیناً ہم نے دیا تجھ کو کوثر پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور تڑپ کر

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۴

یقیناً تیرا دشمن ہی رہے گا بے نسل

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۲ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۳ وَلَا

کہ اے کافرو! تم نہیں عبادت کرتا اسکی جسکی تم عبادت کرتے ہو اور نہ

أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۴ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۵

تم عبادت کرتے ہو اسکی جسکی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کر نیوالا ہوں اسکی جسکی تم عبادت کرتے ہو

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۶ لَكُمْ دِينُكُمْ وَرَبِّي دِينَ ۷

اور نہ تم عبادت کر نیوالے ہو اسکی جسکی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن اور رحیم ہے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۲ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ

جب آویگی مدد خدا کی اور فتح اور دیکھے گا تو لوگوں کو داخل ہوتے ہیں

فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۳ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۴

دین الہی میں فوج در فوج تو تسبیح کر ساتھ حمد اپنے رب کی اور بخشش مانگ اس سے

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۵

یقیناً وہ ہے رجوع برحمت ہونیوالا

سُورَةُ اللّٰهَبِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۲ مَا اَغْنٰ عَنْهُ مَالُهُ

ہلاکہ ہوویں دونوں ہاتھ ابی لہب کے اور ہلاک ہوا وہ نہ کام آیا اس کے اس کا مال

وَمَا كَسَبَ ۳ سَيَصْلٰ نَارًا اِذَا تَ لَهَبٍ ۴ وَاَمْرَاتُهُ

اور جو کچھ اس نے کمایا عنقریب داخل ہوگا آگ شعلہ والی میں اور بیوی اس کی

حَمَالَةَ الْحَطْبِ ۵ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۶

اٹھائیواالی ہے کھڑیلوں کو اس کی گردن میں رسی ہے پلوسٹ کھجور کی

۱-۲۰

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۲ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۳ لَمْ يَلِدْ ۴ وَلَمْ

کہہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے احتیاج ہے نہیں جناس نے اور نہ

يُوْلَدْ ۵ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۶

وہ جناسیقا اور نہیں ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی

۱-۲۰



سُورَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۲ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۳ وَمِنْ شَرِّ

کہ پناہ مانگتا ہوں میں مالکِ مہج کی بُرائی سے اس کی جو اس نے پیدا کی اور شر سے اس کی جو

غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۴ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۵

اندھیرا کرنے والی ہے جب چھا جائے اور شر سے پھونکنے والیوں کی گمراہوں میں

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۶

اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے

سُورَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(میں پڑھتا ہوں) ساتھ نام اللہ کے (جو) رحمن (اور) رحیم ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۲ مَلِكِ النَّاسِ ۳ إِلَهِ النَّاسِ ۴

کہ پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی معبود کی لوگوں کے

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۵ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي

شر سے شیطان پیچھے ہٹ جانے والے کے جو دوسرے ڈالتا ہے

صُدُورِ النَّاسِ ۶ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۷

سینوں میں لوگوں کے جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے

دُعَاءِ خَتْمِ قُرْآنِ

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى

اے اللہ رحم کر مجھ پر قرآن کے ذریعہ اور بنا اسے میرے لیے رہنما اور نور اور ہدایت

وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ

اور رحمت رکھا موجب اے اللہ یاد کرا مجھے اس میں سے جو میں بھول گیا ہوں اور سکھا مجھے اس سے

مَا جِهَلْتُ وَأَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ أَنْعَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

جس سے میں لاعلم ہوں اور عطا کر مجھے اس کی تلاوت اوقات رات اور دن (میں)

وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً تَارِبَ الْعَالَمِينَ

اور بنا اسے میرے لیے حجت اے رب جہانوں (کے)



The Holy Quran Arabic Text with Urdu Translation
Translation by Hazrat Meer Mohammad Ishaque

Present Edition Published in India 2006

Published by
Nazarat Nashr-o-Ishaat, Qadian-140516
Dist. Gurdaspur, Punjab (INDIA)

Printed in India by:
Printwell, 146, Industrial Focal Point, Amritsar.

فهرست سورتهاى قرآن مجيد

نمبر شمار	سورة	صفحه	نمبر شمار	سورة	صفحه	نمبر شمار	سورة
۱	الفاتحة	۲	۲۵	الفرقان	۵۲۱	۴۴۹	الحجرت
۲	البقرة	۳	۲۶	الشعراء	۵۲۱	۴۵۲	ق
۳	أل عمران	۴۱	۲۷	التمل	۵۲۵	۴۵۷	الذريات
۴	النساء	۱۱۰	۲۸	القصص	۵۵۸	۴۶۲	الطور
۵	المائدة	۱۵۳	۲۹	العنكبوت	۵۷۲	۴۶۶	التجم
۶	الانعام	۱۸۲	۳۰	الزورم	۵۸۶	۴۷۰	القمر
۷	الاعران	۲۱۷	۳۱	لقمن	۵۹۵	۴۷۴	الرّحمن
۸	الانفال	۲۵۵	۳۲	السجدة	۶۰۱	۴۷۸	الواقعة
۹	التوبة	۲۷۰	۳۳	الاحزاب	۶۰۵	۴۸۲	انحديد
۱۰	يونس	۳۰۰	۳۴	سبا	۶۲۰	۴۹۰	المجادلة
۱۱	هؤود	۳۱۹	۳۵	فاطر	۶۳۰	۴۹۵	الحشر
۱۲	يوسف	۳۳۰	۳۶	يس	۶۳۸	۸۰۰	المُمتحنة
۱۳	الزعد	۳۵۹	۳۷	الضقت	۶۴۷	۸۰۳	الصف
۱۴	ابراهيم	۳۶۹	۳۸	ص	۶۵۷	۸۰۷	الجمعة
۱۵	الحجر	۳۷۸	۳۹	الزمر	۶۶۵	۸۰۹	المنفقون
۱۶	التحل	۳۸۶	۴۰	المؤمن	۶۷۸	۸۱۱	التغابن
۱۷	بنى اسرائيل	۴۰۸	۴۱	حَمَّ السجدة	۶۹۲	۸۱۳	الطلاق
۱۸	الكهف	۴۲۳	۴۲	الشورى	۷۰۱	۸۱۷	التحرير
۱۹	مريم	۴۳۱	۴۳	الزخرف	۷۱۰	۸۲۰	الملك
۲۰	طه	۴۵۱	۴۴	الدخان	۷۲۰	۸۲۳	القلم
۲۱	الانبياء	۴۶۶	۴۵	الجاثية	۷۲۳	۸۲۷	الحاقة
۲۲	الحج	۴۸۰	۴۶	الاحقاف	۷۳۰	۸۳۰	المعارج
۲۳	المؤمنون	۴۹۵	۴۷	محمد	۷۳۷	۸۳۲	نوح
۲۴	التور	۵۰۷	۴۸	الفتح	۷۴۳	۸۳۵	الجن

صفحة	سورة	نمبر شمار	صفحة	سورة	نمبر شمار	صفحة	سورة	نمبر شمار
۸۷۸	القارعة	۱۰۱	۸۶۵	الاعلى	۸۷	۸۳۸	المزمل	۷۳
۸۷۹	التكاثر	۱۰۲	۸۶۶	الغاشية	۸۸	۸۴۰	المدثر	۷۴
۸۸۰	العصر	۱۰۳	۸۶۷	الفجر	۸۹	۸۴۳	القيمة	۷۵
۸۸۰	الهمزة	۱۰۴	۸۶۹	البلد	۹۰	۸۴۵	الذهر	۷۶
۸۸۱	الفيل	۱۰۵	۸۷۰	الشمس	۹۱	۸۴۸	المرسلت	۷۷
۸۸۱	قريش	۱۰۶	۸۷۱	الليل	۹۲	۸۵۱	النبا	۷۸
۸۸۲	الماعون	۱۰۷	۸۷۲	الضحى	۹۳	۸۵۳	الذُحُح	۷۹
۸۸۲	الكوثر	۱۰۸	۸۷۳	المنشجر	۹۴	۸۵۵	عبس	۸۰
۸۸۳	الكافرون	۱۰۹	۸۷۳	التين	۹۵	۸۵۷	التكوير	۸۱
۸۸۳	النصر	۱۱۰	۸۷۴	العلق	۹۶	۸۵۸	الانفطار	۸۲
۸۸۴	التهب	۱۱۱	۸۷۵	القدر	۹۷	۸۵۹	المطففين	۸۳
۸۸۴	الاخلاص	۱۱۲	۸۷۶	البيّنة	۹۸	۸۶۱	الانشقاق	۸۴
۸۸۵	الفلق	۱۱۳	۸۷۷	الزلزال	۹۹	۸۶۳	البروج	۸۵
۸۸۵	الناس	۱۱۴	۸۷۸	الغديت	۱۰۰	۸۶۴	الطارق	۸۶

فہرست پارہ ہائے قرآن مجید

صفحة	پارہ	نمبر شمار	صفحة	پارہ	نمبر شمار	صفحة	پارہ	نمبر شمار
۵۸۲	اتل ما اوحى	۲۱	۲۹۲	يعتذرون	۱۱	۳	آل	۱
۶۱۲	ومن يقنت	۲۲	۳۲۱	وما من دآية	۱۲	۳۱	سيقول	۲
۶۴۱	ومالى	۲۳	۳۵۰	وما أبزئى	۱۳	۶۰	تلك الرسل	۳
۶۷۱	فمن اظلم	۲۴	۳۷۹	ربما	۱۴	۸۹	لن تنالوا	۴
۷۰۰	اليه يرد	۲۵	۴۰۸	سبخن الذى	۱۵	۱۱۸	والمحصنت	۵
۷۳۰	خم	۲۶	۴۳۷	قال الم	۱۶	۱۴۷	لا يحب الله	۶
۷۶۰	قال فما خطبكم	۲۷	۴۶۶	اقترب للناس	۱۷	۱۷۶	واذا سمعوا	۷
۷۹۰	قد سمع الله	۲۸	۴۹۵	قد افلح	۱۸	۲۰۵	ولو اتنا	۸
۸۲۰	تبرك الذى	۲۹	۵۲۴	وقال الذين	۱۹	۲۳۴	قال الملا	۹
۸۵۱	عم	۳۰	۵۵۳	امن خلق	۲۰	۲۶۳	واعلموا	۱۰